

کشف الباری  
عنا فی صحیح البخاری

کتاب ہستیان کتاب الخواتم کتاب الزقاق

شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان علیہ السلام  
مہتمم جامعہ فاروقیہ کراچی

مکتبہ فاروقیہ

شاہ فیصل کالونی کراچی

كتاب استيدان، كتاب الرقاق، كتاب الدعوات

# کشف الباریؑ

(کتاب الاستیذان)

افادات

شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان

ترتیب و تحقیق

ابن الحسن عباسی

1432ھ / 2011ء

جملہ حقوق بحق مکتبہ فاروقیہ کراچی پاکستان محفوظ ہیں  
اس کتاب کا کوئی بھی حصہ مکتبہ فاروقیہ سے تحریری اجازت کے بغیر نہیں  
شائع نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس قسم کا کوئی اقدام کیا گیا تو قانونی کارروائی کا  
حق محفوظ ہے۔

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة

**لمکتبۃ الفاروقیہ کراچی، پاکستان**

وہم حظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنسيق الكتاب كاملاً أو  
مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو  
برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Exclusive Rights by

**Maktabah Farooqia Khi-Pak.**

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

مطبوعات مکتبہ فاروقیہ کراچی 75230 پاکستان

نزد جامعہ فاروقیہ، شاہ فیصل کالونی نمبر 4

کراچی 75230، پاکستان

فون: 021-4575763

m\_farooqia@hotmail.com

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### عرض مرتب

صحیح بخاری جلد ثانی سے کشف الباری کی چھٹی جلد آپ کے سامنے ہے، یہ جلد کتاب الاستذنان، کتاب الدعوات اور کتاب الرقاق کی تشریح پر مشتمل ہے، کتاب الاستذنان میں ۵۳ ابواب، کتاب الدعوات میں ۶۹ ابواب اور کتاب الرقاق میں ۵۳ ابواب ہیں، اس طرح اس جلد میں کل ۱۷۵ ابواب کی شرح آگئی ہے۔

اس چھٹی جلد میں تراجم ابواب اور احادیث کی تشریح و تحقیق کے سلسلے میں، وہی اسلوب اور نچ اختیار کیا گیا ہے جو سابقہ پانچ جلدوں میں تھا، پہلی بار جو حدیث آئی ہے، صحاح ستہ سے اس کی تخریج کر دی گئی ہے، اسی طرح رجال بخاری میں سے جس راوی کا پہلی بار ذکر آیا، اس کا تعارف اور ترجمہ لکھنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔

مختلف مسائل اور مباحث میں احادیث اور عربی عبارتوں کے اردو ترجمے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور ان سب میں زبان کی سلاست اور روانی کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کے درس حدیث کی یہ وہ امتیازی خصوصیت ہے جو طالبان علوم نبوت کا دامن دل کھینچ کھینچ لیتی ہے!

کتاب الدعوات کے شروع میں ”دعا اور اس کے آداب“ کے عنوان سے اور کتاب الرقاق کے شروع میں ”کتب زہد و رقاق پر ایک نظر“ کے عنوان سے اس ناکارہ نے بطور مقدمہ و تمہید دو تحقیقی مضمون بھی لکھے.....



ہمارے ہاں درس میں اس حصے کو روروی میں گزار دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بہت سی احادیث، انتہائی تشریح طلب بھی ہیں اور انسانی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کے لئے غیر معمولی طور پر موثر بھی! حقیقت یہ ہے کہ احادیث نبویہ کا یہی وہ درخشاں ذخیرہ ہے جو دل کی ظلمتوں کو ختم کر کے



اسے ایمان اور اعمال کے جلوؤں سے منور کر دیتا ہے!..... چونکہ ان ابواب کی یہ احادیث ایک عام آدمی کے مطالعے کے لئے بھی انتہائی مفید اور موثر ہیں اس لئے بطور خاص کتاب الدعوات اور کتاب الرقاق کی تمام احادیث کے اردو ترجمے کا اہتمام کیا گیا ہے، اگرچہ وہ کسی باب کے اندر مکر رہی کیوں نہ آئی ہو!

☆☆☆

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم کی براہ راست شفقت وہ قندیل ہے جس کی روشنی میں اس ناکارہ کا قلم دھیرے دھیرے اس عظیم الشان تحقیقی اور علمی کام کی تکمیل کے لئے محو سفر ہے، قارئین سے حضرت کی صحت اور درازی عمر کے لئے خصوصی دعا کی درخواست ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، اس ناکارہ کو بخاری جلد ثانی کی بقیہ جلدیں جلد از جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

شعبہ تصنیف کے لئے نئی اور جدید کتابوں کی فراہمی اور رفقائے تصنیف کے لئے سہولتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے صاحبزادے، حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب بڑے فکر مند اور کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش اور فکر مندی کو بار آور فرمائے۔

کتاب کی ترتیب و تحقیق کے مختلف مراحل میں میرے کئی مخلص ساتھیوں نے تعاون کیا، مولانا نور الرحمن، مولانا نور العین، مفتی عصمت اللہ سنز رخیل، مفتی عبدالغنی اور مولانا ساجد صاحب نے حوالوں کی تخریج وغیرہ میں ہاتھ بٹایا، عرفان نور مغل صاحب نے کمپوزنگ میں محنت کی۔

قارئین سے اس سلسلے میں تعاون کرنے والے تمام حضرات کے لئے دعاؤں کی درخواست ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین.

ابن الحسن عباسی

صفحہ ۱۴۲۹ء

## کتاب الاستئذان

### باب: بدء الاسلام

- ۳۳ ..... ترجمۃ الباب کا مقصد
- ۳۴ ..... ”خلق اللہ آدم علی صورته“ کی تشریح
- ۳۷ ..... سلام امت محمدیہ کی خصوصیت
- ۳۹ ..... علیکم السلام کہنے کا حکم
- ۳۹ ..... ومغفرته ورضوانہ کے اضافے کا حکم
- ۴۱ ..... سلام اور اس کے جواب سے متعلق مزید احکام
- ۴۳ ..... استئذان کا طریقہ و حکم
- ۴۷ ..... تعلیقات کو آیات استئذان کے بعد ذکر کرنے کا مقصد
- ۴۹ ..... حدیث باب سے مستفاد چند احکام
- ۴۹ ..... اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کا حکم

### باب: السلام اسم من أسماء اللہ تعالیٰ

- ۵۲ ..... سلام، اسمائے حسنیٰ میں سے ہے
- ۵۳ ..... حضرت گنگوہیؒ کی توجیہ

### باب: تسلیم القلیل علی الکثیر

- ۵۵ ..... ترجمۃ الباب کا مقصد

### باب: إلقاء السلام

- ۵۷ ..... سلام کو عام کرنے کا بیان
- ۵۷ ..... ترجمۃ الباب کا مقصد

### باب: السلام للمعرفة وغير المعرفة

- ۵۹ ..... سلام سے متعلق چند امور

## باب: آية الحجاب

۶۵ ..... پردہ کے مراتب

۶۵ ..... امام بخاری کا مقصد

## باب: زنا الجوارح دون الفرج

۶۹ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

## باب: التسليم والاستئذان ثلاثاً

۷۲ ..... تین بار اجازت لینے کا طریقہ

۷۲ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۷۴ ..... نندہ

## باب: إذا دُعي الرجل ف جاء هل يستأذن

۷۷ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

## باب: من رد فقال: عليك السلام

۷۹ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

## باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام

۸۱ ..... غائب کا سلام اور اس کے جواب کا بیان

۸۱ ..... ترجمہ الباب کی غرض

## باب: التسليم في مجلس فيه أخطأ من المسلمين والمشركين

۸۳ ..... مسلمانوں اور کفار کی مخلوط مجلس پر سلام کا حکم

## باب: من لم يسلم على من اترف ذنباً، ولم يرد سلامه

۸۳ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۸۴ ..... فاسق اور مبتدع پر سلام کرنے کا حکم

۸۵ ..... شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کی رائے

## باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام

۸۶ ..... ذمیوں کو سلام کا جواب کس طرح دیا جائے

۸۸ ..... ترجمہ الباب کی غرض

باب: من نظر فی کتاب من یحذر عنی المسلمین لیستین امرہ

۸۷ ..... مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لئے کسی کا خط پڑھنے کا حکم

۸۸ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

باب: کیف یکتب الكتاب إلى أهل الكتاب

۹۱ ..... اہل کتاب کو خط لکھنے کا طریقہ

۹۱ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

باب: بمن یدأ فی الكتاب

۹۲ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

باب: قول النبی ﷺ: قوموا إلى سیدکم

۹۳ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۹۴ ..... قیام کی مختلف صورتیں اور ان کا حکم

۹۵ ..... قیام تعظیمی کے حکم میں اختلاف

۹۸ ..... قال أبو عبد الله أفهمني بعض أصحابي کی وضاحت

باب: المصافحة

۹۹ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۱۰۰ ..... مصافحہ کا حکم اور طریقہ

۱۰۱ ..... ایک غلط رواج

باب: الأخذ باليدین

۱۰۲ ..... دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا بیان

۱۰۲ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۱۰۳ ..... وهو بین ظہرانینا کی تشریح

باب: المعانقة، وقول الرجل: کیف أصبحت؟

۱۰۶ ..... معانقہ کا حکم

باب: من أجاب بلیک وسعدیک

۱۱۰ ..... بلیک اور سعدیک کی لغوی تحقیق

۱۱۳ ..... ترجمہ الباب کا مقصد



## باب: لایقیم الرجل الرجل من مجلسه

۱۱۳ ..... کسی کو اپنی جگہ سے اٹھانے کا حکم

## باب: إذا قس لكم تفسحوا في المجلس فالتسحوا

۱۱۴ ..... مجلس میں کشاوتی پیدا کرنے کا بیان

۱۱۴ ..... ترجمۃ الباب کا مقصد

## باب: من قام من مجلسه أو بيته

۱۱۶ ..... ترجمۃ الباب کا مقصد

## باب: الاحتباء باليد، وهو القرصاء

۱۱۸ ..... گھٹ مار کر بیٹھنے کا حکم

## باب: من اتكا بين يدي أصحابه

۱۱۸ ..... ترجمۃ الباب کی غرض

## باب: من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد

۱۱۹ ..... ضرورت کی وجہ سے تیز چلنے کا حکم

۱۱۹ ..... ترجمۃ الباب کا مقصد

## باب: السرير

۱۲۰ ..... ترجمۃ الباب کی غرض

## باب: من ألقى له وسادة

۱۲۲ ..... ترجمۃ الباب کا مقصد

۱۲۲ ..... فائدہ

## باب: القائلة بعد الجمعة

۱۲۴ ..... قیلولہ کی فضیلت

## باب: القائلة في المسجد

۱۲۶ ..... مسجد میں سونے کا حکم

## باب: من زار قوماً فقال عندهم

۱۲۷ ..... ترجمۃ الباب کا مقصد

۱۲۸ ..... أخذت من عرقه وشعره كما مطلب

## باب: الجلوس کیفما تيسر

۱۳۰ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

باب: من ناجی بین یدی الناس.....

۱۳۳ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۱۳۳ ..... شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کی رائے

باب: الاستلقاء

۱۳۴ ..... تکرار ترجمہ کا وہم اور اس کا دفعیہ

باب: لا یحتاجی اثنان دون الثالث

۱۳۶ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۱۳۷ ..... آیات کریمہ کی ترجمہ الباب سے مناسبت

باب: حفظ السر

۱۳۸ ..... رازداری کا بیان

۱۳۸ ..... ترجمہ الباب کی غرض

باب: طول التجوی

۱۴۱ ..... سرگوشی کا بیان

۱۴۱ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

باب: لا تترك النار في البيت عند النوم

۱۴۳ ..... فویقہ کا مصداق اور وجہ تسمیہ

۱۴۳ ..... فائدہ

باب: غلق الأبواب باللیل

۱۴۳ ..... رات کو دروازے بند کرنے کا بیان

باب: الختان بعد الكبر ونتف الإبط

۱۴۵ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۱۴۵ ..... ختنے کا حکم

۱۴۵ ..... ونتف الإبط کی وضاحت

۱۳۵ ..... اختتن ابراہیم بعد ثمانین سنہ

۱۳۷ ..... ختنہ کرنے کی عمر

۱۳۷ ..... باب کی کتاب الاستیذان سے مناسبت

باب: کل لہو باطل إذا شغله عن طاعہ اللہ

۱۳۸ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۱۳۹ ..... حدیث کی باب اور باب کی کتاب سے مناسبت

باب: ماجاء فی البناء

۱۳۹ ..... ترجمہ الباب کی غرض

۱۵۰ ..... بے فائدہ بلند و بالا تعمیرات کی مذمت

## کتاب الدعوات

۱۵۷ ..... دعا اور اس کے آداب

۱۷۱ ..... کتاب الاستیذان کے ساتھ مناسبت

۱۷۱ ..... دعا کی اہمیت و فضیلت

۱۷۳ ..... آیت کریمہ میں دعا کا مصداق

۱۷۳ ..... قبولیت دعا کے معنی

باب: لكل نبي دعوة مستجابة

۱۷۵ ..... حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص دعا

۱۷۵ ..... ایک اشکال اور اس کا جواب

باب أفضل الاستغفر

۱۷۶ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۱۷۷ ..... چار مرض، ایک علاج

۱۷۸ ..... سید الاستغفار اور اس کی فضیلت

۱۷۸ ..... ان کلمات کو سید الاستغفار کہنے کی وجہ

۱۷۹ ..... استغفار کی برکات

۱۸۰ ..... عہد اور وعدہ کا مصداق

باب: استغفار النبی ﷺ فی الیوم واللیلۃ

۱۸۱ ..... ترجمہ الباب کی غرض

۱۸۱ ..... ایک اشکال اور اس کا جواب

باب: التوبۃ

۱۸۱ ..... استغفار و توبہ کے ابواب شروع میں ذکر کرنے کی وجہ

۱۸۲ ..... ”توبہ نصح“ کی تفسیر

۱۸۵ ..... حدیث سے مستنبط آداب

۱۸۶ ..... حدیث کے مختلف طرق اور ان میں اختلاف

باب: الضجع علی الشق الایمن

۱۸۸ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۱۸۸ ..... دائیں پہلو پر سونے کے فوائد

باب: إذا بات طاهراً

۱۸۹ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۱۹۰ ..... باب کی کتاب سے مناسبت

۱۹۰ ..... ایک اشکال اور اس کا جواب

۱۹۱ ..... ماثور دعاؤں میں روایت بالمعنی کا حکم

۱۹۲ ..... سونے کی تین سنتیں

۱۹۲ ..... سونے کا ایک اور ادب

باب: ما یقول إذا نام

۱۹۳ ..... سونے کی دعا

باب: وضع الید الیمنی تحت الخد الیمنی

۱۹۳ ..... لیٹنے کا مسنون طریقہ

باب: النوم علی الشق الایمن

۱۹۵ ..... ترجمہ الباب کا مقصد



## باب: الدعاء إذا اتبه بالليل

- ۱۹۷ ..... رات کو جاگنے کی دعا
- ۱۹۸ ..... بعض الفاظ کی تشریح
- ۱۹۸ ..... جہات ستہ و اعضاء کے لئے نور کی دعا مانگنے کی وجہ
- ۲۰۰ ..... تابوت کی تشریح
- ۲۰۲ ..... ایک ایک عضو کے لئے نور کی دعا مانگنے کا مطلب

## باب: التَّيْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ عِنْدَ الْمَنَامِ

- ۲۰۳ ..... سونے کے وقت تسبیح کی فضیلت
- ۲۰۵ ..... حضرت علیؓ کی تسبیح پر مواظبت

## باب: التَّعَوُّذُ وَالْقِرَاءَةُ عِنْدَ النَّوْمِ

- ۲۰۶ ..... سونے کے وقت کے دیگر اوراد

## باب- بلا ترجمہ

- ۲۰۷ ..... سونے کے ایک اور ادب کا بیان
- ۲۰۹ ..... تہہ بند کے اندرونی حصے سے بستر جھاڑنے کی حکمت
- ۲۱۰ ..... فائدہ

## باب: الدعاء نصف الليل

- ۲۱۲ ..... ترجمہ الباب کا مقصد
- ۲۱۲ ..... آسمان دنیا کی طرف نزول رب کا مطلب

## باب: الدعاء عند الخلاء

- ۲۱۳ ..... ”نجیث“ اور ”خبائث“ کی تشریح

## باب: ما يقول إذا أصبح

- ۲۱۴ ..... سید الاستغفار
- ۲۱۵ ..... سونے اور جاگنے کے وقت کی دعا
- ۲۱۵ ..... سید الاستغفار پڑھنے کا وقت

## باب: الدعاء في الصلوة

- ۲۱۵ ..... نماز میں پڑھی جانے والی دعا

۲۱۶ ..... دعا کی حسن ترتیب کا بیان

۲۱۷ ..... آیت کریمہ میں دعا کا مصداق

۲۱۸ ..... ترجمہ الباب سے احادیث کی مناسبت

#### باب: الدعاء بعد الصلوة

۲۱۸ ..... نماز کے بعد کی دعا

۲۲۰ ..... فرض نماز کے بعد دعا کا حکم

۲۲۲ ..... بیت اجتماعی کے ساتھ دعا بعد الفرائض کا حکم

#### باب: قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾

۲۲۲ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۲۲۲ ..... صرف دوسرے کے لئے دعا مانگنا

#### باب: ما یکرہ من الشجع فی الدعاء

۲۲۷ ..... دعائیں قافیہ آرائی کا حکم

#### باب: لیعزم المسألة، فإنه لا مکرہ له

۲۲۸ ..... دعا کے ایک اور ادب کا بیان

۲۲۹ ..... علامہ تورپشٹی رحمہ اللہ کی رائے

#### باب: یستجاب للعبد ما لم یعبئ

۲۳۳ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۲۳۵ ..... دعائیں اکتاہٹ قبولیت سے مانع ہے

#### باب: رفع الأیدی فی الدعاء

۲۳۲ ..... دعائیں رفع یدین کا ثبوت

۲۳۳ ..... حدیث استقاء اور احادیث باب کے درمیان وجہ تطبیق

۲۳۵ ..... رفع یدین کی حد

#### باب: الدعاء غیر مستقبل القبلة

۲۳۶ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

#### باب: الدعاء مستقبل القبلة

۲۳۶ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

## باب: دعوة النبي ﷺ لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله

۲۳۷ ..... حضرت انسؓ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اس کی قبولیت

## باب: الدعاء عند الكرب

۲۳۹ ..... مصیبت کے وقت کی خاص دعا

۲۳۹ ..... سند سے متعلق کچھ کلام

۲۴۰ ..... دعائے کرب کی فضیلت

۲۴۰ ..... پریشانی کے وقت کی دیگر ماثور دعائیں

## باب: التعوذ من جھد البلاء

۲۴۲ ..... ”جهد البلاء“ کی تشریح

۲۴۲ ..... بعض الفاظ حدیث کی تشریح

## باب: دعاء النبي ﷺ: ”اللهم الرفیق الاعلیٰ“

۲۴۳ ..... باب کی ماقبل سے مناسبت

## باب: الدعاء بالموت والحياة

۲۴۵ ..... ترجمہ الباب کی غرض

## باب الدعاء للصبيان

۲۴۵ ..... یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی فضیلت

۲۵۰ ..... باطنی بیماریوں کے علاج کا ایک اصول

## باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم

۲۵۱ ..... صلاة کے لغوی و اصطلاحی معنی

۲۵۳ ..... درود شریف کا حکم

۲۵۳ ..... درود شریف کے فضائل و برکات

۲۵۶ ..... درود شریف لکھنے کی فضیلت

۲۵۷ ..... جمعہ کے دن درود کی فضیلت

۲۵۷ ..... ترجمہ الباب کی وضاحت

## باب هل يصلی على غیر النبي

۲۶۲ ..... غیر نبی پر درود بھیجنے کا حکم

باب: قول النبی ﷺ: من آذیہ فاجعلہ لہ زکاةً ورحمةً

۲۶۳ ..... فایما مؤمن سبتہ ..... کا مطلب

باب: التعوذ من غلبة الرجال

۲۶۸ ..... بعض الفاظ حدیث کی تشریح

۲۶۹ ..... ایک لطیف نکتہ

۲۶۹ ..... مذکورہ دعا کی بابت علامہ کرمانی کی رائے

باب: التعوذ من عذاب القبر

۲۶۹ ..... منکرین عذاب قبر پر حجیت

۲۷۰ ..... پانچ چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم

باب: التعوذ من فتنة المحيا والممات

۲۷۲ ..... فتنہ محیا و ممات کا مطلب

باب: التعوذ من المائم والمغرم

۲۷۲ ..... ”مائم“ اور ”مغرم“ کے معنی

۲۷۳ ..... فتنہ غنی کے ساتھ شرک لفظ ذکر کرنے کی حکمت

۲۷۳ ..... ”ماء“ کے بعد ”ثلج“ اور ”برد“ کے ذکر کرنے کی حکمت

۲۷۵ ..... ایک اشکال اور اس کا جواب

باب: الاستعاذة من الجبن والكسل

۲۷۶ ..... بزدلی اور سستی سے پناہ مانگنے کا بیان

باب: التعوذ من البخل

۲۷۶ ..... بخل سے پناہ مانگنے کا بیان

باب: التعوذ من أرذل العمر

۲۷۷ ..... زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگنے کا بیان

۲۷۷ ..... ”ارذل عمر“ کا مصداق

باب: الدعاء برفع الوباء والوجع

۲۷۸ ..... وباء اور وجع کا مطلب



- ۲۸۰ ..... حدیث میں مذکور واقعہ سے متعلق محدثین کا اختلاف
- ۲۸۰ ..... حدیث کی ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت
- باب: الاستعاذۃ من أرذل العمر، ومن فتنۃ الدنیا، وفتنۃ النار
- ۲۸۱ ..... ترجمہ الباب کے مکرر ہونے کے شبہ کا ازالہ
- ۲۸۲ ..... مغرم اور ماتم کی تحقیق
- باب: الاستعاذۃ من فتنۃ لغنی
- ۲۸۳ ..... والداری کے فتنہ سے پناہ مانگنے کا بیان
- ۲۸۳ ..... فتنہ غنی کا مطلب
- باب: الصعود من فتنۃ الفقر
- ۲۸۴ ..... فتنہ فقر کا مطلب
- باب: الدعاء بکثرة المال والولد مع البرکة
- ۲۸۵ ..... کثرت مال واولاد بغیر برکت کے فتنہ ہے
- باب: الدعاء عند الاستخارة
- ۲۸۶ ..... استخارہ کے لغوی وشرعی معنی
- ۲۸۷ ..... استخارہ کی اہمیت وفضیلت
- ۲۸۸ ..... عبدالرحمن بن ابی الموالم
- ۲۸۹ ..... استخارہ کن امور میں جائز ہے؟
- ۲۸۹ ..... طریقہ استخارہ
- ۲۹۰ ..... ایک اشکال اور اس کا جواب
- ۲۹۱ ..... ویسٹی حاجتہ کے معنی
- باب الدعاء عند الوضوء
- ۲۹۱ ..... ترجمہ الباب کی غرض
- باب الدعاء للمتزوج
- ۲۹۵ ..... شادی کرنے والے کے لئے دعا کا بیان
- باب مايقول إذا أتى أهلا
- ۲۹۷ ..... مباشرت کی دعاء

## باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا

۲۹۸ ..... ایک جامع قرآنی دعا

## باب تکریر الدعاء

۳۰۰ ..... بار بار دعا کرنا مستحب ہے

## باب الدعاء علی المشرکین

۳۰۰ ..... مشرکین کے لئے بددعا کرنا

## باب الدعاء للمشرکین

۳۰۲ ..... مشرکین کے لئے دعا کرنا

۳۰۵ ..... ترجمۃ الباب کی غرض

## باب قول النبی اللہم اغفر لی

۳۰۵ ..... ایک اشکال اور اس کا جواب

۳۰۶ ..... عبدالملک بن صباح

۳۰۸ ..... حدیث باب کے تین طرق

## باب الدعاء فی الساعة التي فی يوم الجمعة

۳۰۸ ..... جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی

## باب قول النبی يستجاب لنا فی اليهود

۳۰۹ ..... یہود سے متعلق دعا کی قبولیت

## باب التامین

۳۱۰ ..... لفظ آمین کی تحقیق

## باب فضل التهلیل

۳۱۱ ..... لا الہ الا اللہ کی فضیلت

۳۱۲ ..... حدیث کے مختلف طرق کی فضیلت

## باب: فضل التسبیح

۳۱۶ ..... تسبیح کے معنی

۳۱۷ ..... تسبیح افضل ہے یا تہلیل؟

## باب: فضل ذکر اللہ عزوجل

- ذکر کی فضیلت ..... ۳۱۸
- ذکر کی بہترین صورت ..... ۳۱۸
- ذکر کی سات قسمیں ..... ۳۱۸
- صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے الفاظ کا فرق ..... ۳۲۰

## باب: قول لا حول ولا قوة إلا باللہ

- ”لا حول ولا قوة إلا باللہ“ کی فضیلت ..... ۳۲۳

## باب: اللہ مائة اسم غیر واحدہ

- اسمائے حسنی سے متعلق چند باتیں ..... ۳۲۳
- اسمائے حسنی تو قیفی ہیں ..... ۳۲۳
- اسمائے حسنی کی تعداد ..... ۳۲۶
- نانوے کے عدد کی حکمت ..... ۳۲۷
- نانوے اسمائے حسنی ..... ۳۲۸
- اسم اعظم ..... ۳۲۹
- اسمائے حسنی سے متعلق مولانا محمد منظور نعمانی کی تحقیق ..... ۳۳۲

## باب: الموعدة ساعة بعد ساعة

- ترجمہ الباب کی وضاحت ..... ۳۳۰
- باب کی کتاب سے مناسبت ..... ۳۳۱

## کتاب الرقاق

- مقدمہ: زہد و رقاق کی کتب پر ایک نظر ..... ۳۳۳
- باب: ماجاء في الصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة
- ترجمہ الباب کی غرض ..... ۳۵۳
- صحت اور فراغت کی قدر کی جائے ..... ۳۵۳

## باب: مثل الدنيا في الآخرة

- ۳۵۵ ..... دنیا بمقابلہ آخرت.....
- ۳۵۷ ..... دنیوی زندگی کی بے ثباتی.....
- ۳۵۷ ..... آیت کریمہ میں مذکور بعض الفاظ کی تشریح.....
- ۳۵۸ ..... دنیا، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں.....
- ۳۵۸ ..... حدیث کے دو مطلب.....

## باب: قول النبی ﷺ: "کن فی دنیا کانک غریب أو عا بر سیل"

- ۳۶۰ ..... ابو منذر طفاوی.....
- ۳۶۱ ..... دنیا میں مسافر بن کر جئے.....
- ۳۶۱ ..... "وخذ من صحتک لمرضک" کا مطلب.....
- ۳۶۲ ..... پانچ چیزوں کو غنیمت جانئے.....

## باب: فی الأمل وطولہ

- ۳۶۳ ..... ترجمہ الباب کی غرض.....
- ۳۶۳ ..... ترجمہ الباب کی آیات کریمہ کی تفسیر.....
- ۳۶۳ ..... دنیوی زندگی کی حقیقت.....
- ۳۶۷ ..... لمبی امیدوں کی پرفریبی.....
- ۳۶۸ ..... نقشے کے ذریعے دنیا کی حقیقت کی مثال.....

## باب: من بلغ ستین سنة، فقد أعدل الله إليه في العمر

- ۳۷۰ ..... طویل العمری..... اتمام حجت ہے.....
- ۳۷۰ ..... آیت کریمہ کی تفسیر.....
- ۳۷۱ ..... آیت کریمہ میں "نذیر" کا مصداق.....
- ۳۷۲ ..... فائدہ.....
- ۳۷۳ ..... امام شعبہ کی ایک خصوصیت.....

## باب: العمل الذي يُتقى به وجه الله

- ۳۷۳ ..... اللہ کی خوش نودی والے عمل کی فضیلت.....



- ۳۷۵ ..... سند میں واقع ”اُحد بنی سالم“ کی تحقیق  
 ۳۷۶ ..... بعض الفاظ حدیث کی تشریح

باب: ما یحذر من زهرة الدنيا والتنافس فیها

- ۳۷۷ ..... ترجمہ الباب کی غرض  
 ۳۷۸ ..... ”ما الفقر أخشى علیکم“ میں ”الفقر“ کی اعرابی حیثیت  
 ۳۸۳ ..... فراوانی دولت کب نعمت ہے؟  
 ۳۸۴ ..... موٹاپا..... ایک ناقابل رشک صفت  
 ۳۸۵ ..... عبد ان اور عبیدہ

باب: قول اللہ تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا...﴾

- ۳۸۶ ..... آیت کریمہ کی تفسیر اور ”غرور“ کا مطلب

باب: ذهاب الصالحین

- ۳۸۸ ..... ترجمہ الباب کی وضاحت

باب: ما یبقى من فتنۃ المال

- ۳۸۹ ..... ترجمہ الباب کا مقصد  
 ۳۸۹ ..... قطیفہ اور تحمیمہ کا مطلب  
 ۳۹۰ ..... ”لا یملاً جوف ابن آدم إلا التراب“ کا مطلب  
 ۳۹۳ ..... فائدہ..... تعلیقات کی بابت امام بخاریؒ کا منہج

باب: قول النبی ﷺ: هذا المال خضرة حلوة

- ۳۹۴ ..... ﴿زین للناس حب الشهوات من النساء...﴾ کی تفسیر  
 ۳۹۶ ..... حضرت عمر فاروقؓ کے ایک قول کی تشریح

باب: ما قدم من ماله فہولہ

- ۳۹۸ ..... اصل مال وہ ہے جو ذخیرہ آخرت کر دیا جائے

باب: المکثرون ہم المقلون.....

- ۳۹۹ ..... آیات کریمہ کا مطلب اور باب سے مناسبت  
 ۴۰۲ ..... سند کی وضاحت

- ۴۰۲ ..... ایک اعتراض اور اس کا جواب
- ۴۰۳ ..... ”أبو صالح عن أبي الدرداء“ کی حدیث سے متعلق امام بخاریؒ کی رائے
- ۴۰۵ ..... عطاء بن یسار کی روایت کے بارے میں امام بخاریؒ کی رائے
- ۴۰۵ ..... نسخوں کا فرق
- ۴۰۷ ..... حافظ ابن حجرؒ کا امام بخاریؒ پر نقد
- باب: قول النبی ﷺ: ”ما یسرّنی أنّ عندی مثل أحد هذا ذہبا“
- ۴۰۹ ..... بعض الفاظ حدیث کی تشریح
- باب: الغنی غنی النفس
- ۴۱۰ ..... اصل مال داری..... دل کی مال داری
- ۴۱۰ ..... سورة المؤمنون کی آیات کی تفسیر
- ۴۱۲ ..... آیات کریمہ کی حدیث باب سے مناسبت
- باب: فصل الفقر
- ۴۱۲ ..... سند کی وضاحت
- ۴۱۵ ..... لفظ خوان کی تفسیر
- ۴۱۶ ..... معاش کے اعتبار سے مومن کی تین حالتیں
- ۴۱۸ ..... فقر افضل ہے یا مال داری؟
- باب: کیف کان عیش النبی ﷺ
- ۴۲۰ ..... ترجمۃ الباب کا مقصد
- ۴۲۳ ..... حدیثی ابو نعیم من نصف هذا الحدیث کی وضاحت
- ۴۲۳ ..... کان یقول: اللہ الذی لا إله إلا هو کی وضاحت
- باب: القصد والمداومة علی العمل
- ۴۲۸ ..... ترجمۃ الباب کی وضاحت
- ۴۲۹ ..... بعض الفاظ کی تشریح
- ۴۳۱ ..... کان عملہ دیمۃ کا مطلب
- ۴۳۳ ..... محمد بن زید قان

- ۴۳۳ ..... سند سے متعلق کچھ کلام
- ۴۳۴ ..... ایک اشکال اور اس کے جوابات
- ۴۳۵ ..... باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت

### باب: الرجاء مع الخوف

- ۴۳۶ ..... ترجمۃ الباب کا مقصد
- ۴۳۷ ..... ایمان کے خوف اور رجاء کے درمیان میں ہونے کا مطلب
- ۴۳۷ ..... حضرت مدنی کی رائے
- ۴۳۸ ..... ترجمۃ الباب سے آیت کریمہ کی مناسبت
- ۴۳۹ ..... ترجمۃ الباب سے حدیث کی مناسبت

### باب: الصبر عن محارم اللہ

- ۴۴۰ ..... صبر کے تین معنی
- ۴۴۲ ..... حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت
- ۴۴۲ ..... صبر سے متعلق بزرگوں کے چند اقوال
- ۴۴۳ ..... قرآن کریم کی آیات میں وارد صبر کے معانی
- ۴۴۴ ..... وقت مناسب کا انتظار کرنا
- ۴۴۶ ..... بے قرار نہ ہونا
- ۴۴۷ ..... مشکلات کو خاطر میں نہ لانا
- ۴۴۸ ..... درگزر کرنا
- ۴۵۰ ..... ثابت قدمی
- ۴۵۵ ..... ضبط نفس
- ۴۵۶ ..... ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا
- ۴۵۹ ..... صبر کے فضائل اور انعامات
- ۴۶۱ ..... فتح مشکلات کی کنجی..... صبر اور دعا

### باب: ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ

- ۴۶۳ ..... توکل کے لغوی و اصطلاحی معنی

- ۴۶۳ ..... حافظ ابن حجرؒ کی رائے  
 ۴۶۳ ..... سید سلیمان ندویؒ کی رائے  
 ۴۶۵ ..... حضرت ربیع بن خثیمؒ

## باب: مایکرہ من قیل وقال

- ۴۶۶ ..... ”قیل وقال“ کی تحقیق  
 ۴۶۸ ..... رجل ثالث کا مصداق

## باب: حفظ اللسان

- ۴۶۸ ..... حفاظتِ زبان کی اہمیت  
 ۴۶۹ ..... ”مایلفظ من قول إلا لیدیہ رقیب عتید“ کی تفسیر  
 ۴۶۹ ..... ”مایین لحيہ“ اور ”مایین رجليہ“ کا مطلب  
 ۴۷۱ ..... ”جائزہ.....“ کی اعرابی حیثیت  
 ۴۷۲ ..... ”أبعد ما بین المشرق“ سے متعلق ایک اشکال اور اس کا جواب  
 ۴۷۳ ..... یہوی بہا فی جہنم کا مطلب  
 ۴۷۴ ..... حدیث باب کا مطلب

## باب: البكاء من خشية الله

- ۴۷۶ ..... اللہ کی یاد میں رونے کی فضیلت  
 ۴۷۶ ..... اللہ کو تہائی میں یاد کرنے کی صورتیں  
 ۴۷۸ ..... ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟  
 ۴۷۸ ..... ذکر کی افضل صورت

## باب: الخوف من الله

- ۴۷۹ ..... بعض الفاظ حدیث کی تشریح  
 ۴۸۱ ..... فما تلافاه أن رحمه الله..... کا مطلب  
 ۴۸۲ ..... بعض الفاظ حدیث کا مطلب  
 ۴۸۲ ..... ایک اشکال اور اس کے جوابات

## باب: الانتها عن المعاصي

- ۴۸۵ ..... ”إني أنا النذير العريان“ کی وضاحت

- ۴۸۵ ..... بعض الفاظ حدیث کی تحقیق
- ۴۸۶ ..... علامہ طیبی کا قول
- ۴۸۸ ..... علامہ طیبی کے کلام کا حاصل
- ۴۸۹ ..... ”المسلم من سلم.....“ میں المسلم کا مصداق
- ۴۸۹ ..... علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے
- ۴۹۱ ..... ایک شبہ اور اس کا دفعیہ
- ۴۹۱ ..... غیر مسلموں کو ایذا پہنچانے کا حکم
- ۴۹۲ ..... تقدیم لسان کی وجہ
- ۴۹۵ ..... ”المہاجر من ہجر.....“ کی تشریح
- ۴۹۶ ..... ہجرت کا حکم
- باب: قول النبی ﷺ: ”لو تعلمون ما أعلم لضحکم قليلاً.....“

- ۴۹۷ ..... علامہ ابن بطلال کا کلام

#### باب: حجبت النار بالشہوات

- ۴۹۸ ..... جہنم اور خواہشات نفسانی

#### باب: الجنة أقرب إلی أحدکم من شراک نعلہ

- ۴۹۹ ..... جنت..... ایک قدم کے فاصلے پر
- ۵۰۰ ..... ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت

#### باب: لينظر إلی من هو أسفلُ منه، ولا ينظر إلی من هو فوقه

- ۵۰۱ ..... ایک ایمان افروز اصول
- ۵۰۲ ..... حدیث باب میں ودیعت رکھی گئی بہترین خصلتیں

#### باب: من ہم بحسنة أو بسینة

- ۵۰۳ ..... قصد و ارادہ کے پانچ مراحل
- ۵۰۳ ..... قابل مواخذہ صورت سے متعلق اہل علم کا اختلاف
- ۵۰۳ ..... راجح اور مختار مسلک
- ۵۰۶ ..... تعارض روایات اور اس کا حل

۴۰۸ ..... علامہ شبیر احمد عثمانی کی رائے

۴۰۹ ..... عزم کی دو قسمیں

باب: ما یُتقی من محقرات الذنوب

۵۱۰ ..... گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے

باب: الأعمال بالخواتیم، وما یخاف منها

۵۱۱ ..... اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے

باب: الغزلة راحة من خلط السوء

۵۱۳ ..... ترجمہ الباب کی وضاحت اور عرض بخاری

۵۱۳ ..... خلوت نشینی کے فوائد

۵۱۴ ..... خلوت افضل ہے یا اختلاط

۵۱۵ ..... سند کی وضاحت

۵۱۶ ..... بعض الفاظ حدیث کی وضاحت

۵۱۹ ..... دین بچانے کی خاطر عزلت نشینی کا حکم

باب: رفع الأمانة

۵۱۹ ..... ترجمہ الباب کا مقصد

۵۲۰ ..... ”إذا وُسد الأمر إلى غیر أهله.....“ کی تشریح

۵۲۳ ..... امانت سے کیا مراد ہے؟

۵۲۳ ..... علامہ شبیر احمد عثمانی کی رائے

۵۲۵ ..... ”ینام الرجل، فتقبض الأمانة من قلبه“ کی تشریح

۵۲۶ ..... ”فیظل أثرها مثل أثر الوکت“ کا مطلب

۵۲۶ ..... ”تم ینام النومة..... مثل المجل“ کا مطلب

۵۲۶ ..... ”کجمر دحرجته علی رجلک.....“ کی تحقیق

۵۲۷ ..... حدیث میں مذکور تمثیل کی وضاحت

۵۲۷ ..... پہلا مطلب

۵۲۹ ..... دوسرا مطلب

- ۵۳۰ ..... ”ولقد أتى عليّ زمان.....“ کی تشریح
- ۵۳۱ ..... ”لئن كان مسلما رده عليّ الإسلام.....“ کی تشریح
- ۵۳۱ ..... ”فأما اليوم فما كنت أباع.....“ کی تشریح
- ۵۳۲ ..... بعض راویان حدیث کا تعارف
- ۵۳۳ ..... کالابل المائة اور ارحلة کی تحقیق
- ۵۳۳ ..... حدیث شریف کے دو مطلب
- ۵۳۳ ..... ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت

### باب: الرياء والسمعة

- ۵۳۵ ..... ریا کی تعریف
- ۵۳۶ ..... ریا کی مختلف صورتوں کا حکم
- ۵۳۸ ..... یہ صورت ریا کاری کی نہیں
- ۵۳۹ ..... امام غزالیؒ کے نزدیک ریا کی قسمیں
- ۵۴۱ ..... حدیث کے مختلف مطالب
- ۵۴۳ ..... شارحین بخاری کا محادثہ
- ۵۴۳ ..... فائدہ..... جناب نام کے پانچ صحابہ کرامؓ

### باب: من جاهد نفسه في طاعة الله

- ۵۴۵ ..... اللہ تعالیٰ کی طاعت میں مجاہدہ کرنے کی فضیلت
- ۵۴۶ ..... اہل مجاہدہ کی دس خصلتیں
- ۵۴۸ ..... حدیث باب کی ایک خصوصیت
- ۵۴۸ ..... ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت
- ۵۴۹ ..... ”ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل“ کی تحقیق
- ۵۴۹ ..... ”ليك وسعديك“ کی تحقیق

### باب: التواضع

- ۵۵۰ ..... تواضع کے معنی
- ۵۵۱ ..... حدیث باب کے دو طرق

- ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ..... ۵۵۲
- ”من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب“ کی تشریح ..... ۵۵۳
- علامہ انور شاہ کشمیری کا ایک لطیف نکتے کی طرف اشارہ ..... ۵۵۴
- ”وما تقرب إلى عبدي بشيء.....“ کی تشریح ..... ۵۵۴
- ”ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل.....“ کی تشریح ..... ۵۵۵
- حدیث باب کے مختلف مطالب ..... ۵۵۶
- ”وما ترددت عن شيء أنا فاعله.....“ کی تشریح ..... ۵۵۷
- ”بكره الموت وأنا أكره مساءته.....“ کی تشریح ..... ۵۵۸
- حدیث باب پر اعتراض اور اس کا جواب ..... ۵۵۹
- حافظ ذہبی کی رائے ..... ۵۵۹
- حافظ ابن حجر کا حافظ ذہبی پر نقد ..... ۵۶۰
- علامہ انور شاہ کشمیری کا حافظ ذہبی پر نقد ..... ۵۶۱
- ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت ..... ۵۶۲
- باب: قول النبي ﷺ: بعثت أنا والساعة كهاتين
- قرب قیامت کا بیان ..... ۵۶۵
- بعثت أنا والساعة كهاتين ..... کی اعرابی تحقیق ..... ۵۶۵
- حدیث کے دو مطلب ..... ۵۶۶
- باب: طلوع الشمس من مغربها
- ”باب“ سے متعلق نسخوں کا اختلاف ..... ۵۶۸
- حضرت شیخ الحدیث کی رائے ..... ۵۶۸
- بعض الفاظ حدیث کی تشریح ..... ۵۷۰
- فائدہ ..... قرب قیامت کی بڑی نشانی کا ظہور ..... ۵۷۰
- باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه
- ترجمۃ الباب کی وضاحت ..... ۵۷۱
- دو الگ الگ چیزیں ..... موت اور اللہ کی ملاقات ..... ۵۷۳



- ۵۷۳ ..... سند سے متعلق کچھ کلام
- ۵۷۴ ..... ایک اشکال اور اس کا جواب
- ۵۷۶ ..... حدیث کی باب کے ساتھ مناسبت

### باب: سكرات الموت

- ۵۷۶ ..... موت کی سختی اور شدت کا بیان
- ۵۷۷ ..... رکوہ اور علیہ کے معنی
- ۵۷۷ ..... موت کی سختیاں
- ۵۸۱ ..... حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت

### باب: نفع الصور

- ۵۸۲ ..... بروز قیامت نفع صور کا بیان
- ۵۸۲ ..... نفعات کی تعداد اور اہل علم کا اختلاف
- ۵۸۳ ..... جمہور اور محققین کی رائے
- ۵۸۳ ..... بعض الفاظ حدیث کی تشریح

### باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة

- ۵۸۷ ..... ترجمہ الباب کا مقصد
- ۵۸۸ ..... ارض محشر کون سی اور کیسی ہوگی؟
- ۵۸۸ ..... اختلاف روایات اور ان میں تطبیق کی صورت
- ۵۹۱ ..... مولانا شمس الحق افغانی صاحب کی تحقیق
- ۵۹۳ ..... کما یکفأ أحدکم خبزته فی السفر کا مطلب
- ۵۹۳ ..... حدیث شریف کے دو مطلب
- ۵۹۶ ..... الفاظ حدیث کی تشریح

### باب: کیف الحشر

- ۵۹۸ ..... حشر کے معنی اور قسمیں
- ۵۹۹ ..... حدیث باب میں وارد حشر کا مصداق
- ۵۹۹ ..... اختلاف علماء اور اس کے دلائل

- تعارض روایات اور اس کا حل ..... ۶۰۴
- باب قول اللہ عزوجل: ﴿إِن زلزلة الساعة شيء عظيم﴾
- آیت کریمہ میں وارد زلزله کا مصداق اور علماء کے اقوال ..... ۶۰۹
- حدیث کی ترجمہ الباب سے مطابقت ..... ۶۱۱
- باب قول اللہ تعالیٰ: الا یظن أولئک انہم مبعوثون
- میدان محشر کی تختیاں ..... ۶۱۲
- باب القصاص يوم القيامة
- ترجمہ الباب کی وضاحت ..... ۶۱۳
- روزِ قیامت کے مختلف نام ..... ۶۱۴
- قیامت کے دن پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ ..... ۶۱۶
- باب من نوقش الحساب عذب
- قیامت کے دن مناقشہ حساب ..... ۶۱۸
- اتقوا النار ولو بشق تمرۃ کے دو مطلب ..... ۶۱۲
- باب: یدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب
- جنت میں ستر ہزار کا بغیر حساب داخلہ ..... ۶۲۲
- سبقك بها عكاشه کا مطلب ..... ۶۲۳
- باب: صفة الجنة والنار
- ترجمہ الباب کے الفاظ کی وضاحت ..... ۶۲۷
- شفاعت کی قسمیں ..... ۶۳۳
- باب: الصراط جسر جهنم
- پل صراط ..... ۶۳۵
- سند کی وضاحت ..... ۶۵۱
- الفاظ حدیث کی تشریح ..... ۶۵۲
- مسئلہ صفات متشابہات باری تعالیٰ ..... ۶۵۳
- اہل سنت کا مسلک ..... ۶۵۳

- ۶۵۵ ..... علامہ ابن ہمام کی تحقیق  
 ۶۵۷ ..... رائج اور محتاط مسلک  
 ۶۵۸ ..... مسلک محتاط کی وجوہ ترجیح  
 ۶۵۹ ..... صفات تشابہات سے متعلق چند اہم باتیں  
 ۶۶۰ ..... سلفی حضرات کا تشدد اور غلو  
 ۶۶۲ ..... حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی رائے

### باب: فی الحوض

- ۶۶۳ ..... حوض کا مفہوم  
 ۶۶۳ ..... حوض کوثر کا ثبوت  
 ۶۶۳ ..... حوض صراط سے پہلے ہو گا یا بعد میں  
 ۶۶۵ ..... ایک اشکال اور اس کا جواب  
 ۶۶۶ ..... ترجمۃ الباب کی وضاحت  
 ۶۷۶ ..... فلا أراه یخلص منهم إلا مثل حمل النعم کا مطلب  
 ۶۷۶ ..... ترجمۃ الباب سے مناسبت  
 ۶۷۹ ..... ابن ابی عدی  
 ۶۷۹ ..... مستورد بن شداد

## ایک وضاحت

اس تقریر میں ہم نے صحیح بخاری کا جو نسخہ متن کے طور پر اختیار کیا ہے، اس پر ڈاکٹر مصطفیٰ دیب البغانے تحقیق کام کیا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ دیب نے احادیث پر نمبر لگانے کے ساتھ ساتھ احادیث کے مواضع متکررہ کی نشاندہی کا بھی التزام کیا ہے۔ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں نمبروں سے اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس نمبر پر حدیث آرہی ہے، اگر حدیث گزری ہے تو نمبر سے پہلے [ر] لگا دیتے ہیں، یعنی اس نمبر کی طرف رجوع کیا جائے۔



٨٢ - كتاب الاستئذان

كشف الباري  
عن أبي بصير الجعفي

## ۸۲ - کتاب الاستئذان

(الأحادیث : ۵۸۷۳-۵۹۴۴)

کتاب الاستئذان ۵۳..... ابواب اور ۸۵..... احادیث مرفوعہ پر مشتمل ہے، جن میں بارہ احادیث معلق ہیں اور باقی ۷۳..... احادیث موصول ہیں، ان میں ۶۵..... احادیث مکرر ہیں یعنی صحیح بخاری میں وہ حدیثیں کتاب الاستئذان میں یا اس سے پہلے امام نے مکرر ذکر فرمائی ہیں اور بیس احادیث غیر مکرر ہیں، ان میں پانچ احادیث کے سوا سب متفق علیہ ہیں، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ان کی تخریج کی ہے..... کتاب الاستئذان میں حضرات صحابہ اور تابعین وغیرہ کے سات آثار بھی امام نے ذکر فرمائے ہیں۔

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### ۸۲ - کتاب الاستئذان

#### ۱ - باب : بَدْءِ السَّلَامِ .

کتاب الاستئذان اور کتاب الأدب کے درمیان مناسبت

امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الأدب کے بعد کتاب الاستئذان کو ذکر فرمایا، دونوں کے درمیان مناسبت ظاہر ہے، کسی کے پاس جا کر اس سے اندر داخل ہونے کی اجازت لینا استئذان کہلاتا ہے اور یہ بھی آداب معاشرت میں سے ایک اہم اسلامی ادب ہے، لیکن اس کے احکام میں چونکہ تفصیل ہے اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے لیے مستقل کتاب کا عنوان قائم کیا۔

استئذان کے معنی ہیں: طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن (۱) یعنی جو جگہ انسان کی ملک نہ ہو وہاں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کو استئذان کہتے ہیں۔

#### ترجمۃ الباب کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں سب سے پہلا ترجمۃ الباب ”باب بدء السلام“ کے الفاظ سے قائم کیا ہے۔ بَدْءُ (باء کے فتح اور دال کے سکون کے ساتھ) ابتداء کے معنی میں ہے (۲) اس باب میں امام

(۱) فتح الباری: ۳/۱۱، إرشاد الساوي: ۲۲۸/۱۳، عمدة القاري: ۲۲۹/۲۲

(۲) فتح الباری: ۳/۱۱، إرشاد الساري: ۲۲۸/۱۳، عمدة القاري: ۲۲۹/۲۲

نے سلام کی ابتداء کا واقعہ بیان کیا ہے۔

استئذان کے متصل سلام ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو شخص سلام نہ کرے اسے داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے (۳) اس کی تفصیل آگے باب میں آرہی ہے۔

۵۸۷۳ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ( خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا ، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ : أَذْهَبُ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ ، نَفَرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، جُلُوسٌ ، فَاسْتَمِعَ مَا يُحْيَوْنَكَ ، فَأَنهَا نَحِيَّتَكَ وَتَحِيَّةَ ذُرِّيَّتِكَ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَرَأَاهُ : وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يُنْقِصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ . ( ر : ۳۱۴۸ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ان کی لمبائی ساٹھ گز تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو کہا کہ جاؤ اور بیٹھے ہوئے ملائکہ کی اس جماعت کو سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا، تو انہوں نے جا کر ”السلام علیکم“ کہا، فرشتوں نے کہا ”السلام علیک ورحمۃ اللہ“ فرشتوں نے جواب میں ”ورحمۃ اللہ“ کا اضافہ کیا چنانچہ ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لوگوں کے قد میں کمی ہونے لگی جواب تک جاری ہے۔

”خلق اللہ آدم علی صورته“ کی تشریح

خلق اللہ آدم علی صورته، طولہ ستون ذراعاً:

اس جملے کی تشریح میں حضرات محدثین کے مختلف اقوال ہیں:

① ایک قول یہ ہے کہ ”علی صورته“ میں ضمیر لفظ آدم کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ

جل شانہ نے حضرت آدم کو ابتدائے آفرینش ہی سے انھی کی صورت اور شکل پر بنایا اور دوسرے انسانوں کی طرح ان کی تخلیق ان تدریجی مراحل پر نہیں ہوئی کہ جن میں ایک انسان پہلے نطفہ، پھر مضغہ، پھر جنین، پھر طفل، پھر صبی اور پھر جوان ہو کر خلقت کے مراحل طے کرتا ہے، بلکہ وہ ابتداء میں ہی تمام اعضاء و جوارح اور کامل شکل و صورت کے ساتھ ساتھ گزردہ کے پورے انسان بنائے گئے تھے۔ (۴)

شرح صحیح بخاری علامہ ابن بطلال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں دہریہ کے عقیدے پر رد ہے کہ انسان کی خلقت روز اول ہی سے نطفہ، مضغہ کے تدریجی مراحل طے کرتی ہے، انسان نطفہ اور نطفہ انسان کی پیداوار ہے، اس حدیث میں صراحت آگئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت نطفے سے نہیں ہوئی بلکہ وہ مٹی سے ابتدا ہی میں اپنی اصل صورت پر پیدا کیے گئے تھے۔ (۵)

② دوسرا قول یہ ہے کہ ”علی صورتہ“ میں ضمیر لفظ ”اللہ“ کی طرف راجع ہے اور ”صورة“ سے صفت مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صفت پر پیدا کیا، یعنی ان کو ان صفات کے ساتھ موصوف کیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو اور جھلک ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوی، عالم، قادر، مرید، متکلم، سمیع اور بصیر بنایا۔ (۶)

③ تیسرا قول یہ ہے کہ ضمیر لفظ ”اللہ“ کی طرف راجع ہے اور ”صورة“ سے صفت نہیں بلکہ صورت و ہیئت ہی مراد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت تشریف و تکریم کے لیے ہے۔ (۷) جیسا کہ ”روح اللہ“ اور ”بیت اللہ“ میں روح اور بیت کی اضافت شرف اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کی وجاہت و لطافت اور حسن و خوب صورتی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ

(۴) فتح الباری: ۳/۱۱، إرشاد الساری: ۲۲۸/۱۳، عمدة القاری: ۲۲۹/۲۲

(۵) شرح صحیح البخاری لابن بطلال: ۶/۹، عمدة القاری: ۲۲۹/۲۲

(۶) إرشاد الساری: ۲۲۹/۱۳، فتح الباری: ۴/۱۱، شرح صحیح البخاری لابن بطلال: ۷/۹، عمدة

القاری: ۲۲۹/۲۲

(۷) إرشاد الساری: ۲۲۹/۹، مرقاة المفاتیح، کتاب الدیات، باب ما لا یضمن من الجنایات: ۸۵/۷، عمدة

القاری: ۲۲۹/۲۲



تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لطیف و جمیل صورت پر پیدا کیا جو اسرار و لطائف پر مشتمل ہے اور جس کو اس نے اپنی قدرتِ کاملہ کے ذریعہ اپنے پاس سے عطا کیا۔ (۸)

فاستمع ما یحیونک؛ فإنها تحیتک وتحیة ذریعتک:

یعنی آپ سلام کرنے کے بعد سنیں کہ وہ کس طرح جواب میں تحیہ پیش کرتے ہیں، وہی آپ کا اور آپ کی امت کا تحیہ ہوگا، ابو ذر کی روایت میں ”یحییونک“ ہے، یعنی وہ کیسے جواب دیتے ہیں (۹)۔

### طولہ ستون ذراعاً:

یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی ان کی تخلیق کے وقت ساٹھ ذراع تھی۔

ذراع سے کیا مراد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذراع یا موجودہ لوگوں کا ذراع؟

زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ موجودہ لوگوں کا ذراع مراد ہے (۱)، حضرت آدم علیہ السلام کا ذراع مراد نہیں (۲)۔ اور مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد لمبائی میں آج کے دور کے لوگوں کے ساٹھ ذراع کے بقدر تھا، یعنی ساٹھ گز تھا، کیونکہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا ذراع مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا ذراع ان کے قد کے صرف ساٹھویں حصہ کے برابر تھا، جو ان کے قد کی لمبائی اور تناسبِ اعضاء کے اعتبار سے بالکل بے جوڑ معلوم ہوتا ہوگا۔ کیونکہ ذراع عموماً انسان کے رُبع اور چوتھائی حصے کے برابر ہوتا ہے اور مناسب اور خوبصورت بھی اسی وقت لگتا ہے جب وہ اس کے رُبع کے بقدر ہو، ساٹھ گز لمبے انسان کے صرف ایک گز کے ہاتھ ٹھیک اسی طرح بے جوڑ معلوم ہوں گے جیسے آج کے دور کے چھ فٹ کے انسان کا چار انچ کا ہاتھ نامناسب

(۸) إرشاد الساری: ۲۲۹/۱۳، شرح صحیح البخاری لابن بطلال: ۸/۹، مرقاة المفاتیح، کتاب الدیات، باب

ما لا یضمن من الجنایات: ۹۷/۷

(۹) إرشاد الساری: ۲۲۹/۱۳، فتح الباری: ۴/۱۱، عمدة القاری: ۲۲۹/۲۲

(۲۰۱) عمدة القاری: ۲۸۷/۱۵، فتح الباری: ۴۴۲/۶، تحفة الباری: ۵۶/۴، الأبواب والترجم للکاندولوی:

۲۱۲/۱، مرقاة شرح مشکاة: ۷۳۰/۹

معلوم ہوگا، اس لئے ذراع سے اس دور کے عام لوگوں کا ذراع مراد ہے (۳)۔

## سلام امت محمدیہ کی خصوصیت

”ذریۃ“ سے حضرت آدم علیہ السلام کی عام ذریت مراد نہیں، بلکہ صرف امت محمدیہ کی مسلمان ذریت

مراد ہے۔ (۱۰)

وجہ یہ ہے کہ دوسری کئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ”سلام“ کی مشروعیت امت محمدیہ کی

خصوصیت ہے۔

چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ ”الأدب المفرد“ میں اور ابن ماجہ نے ”سنن“ میں حضرت عائشہؓ سے مرفوع

روایت نقل کی ہے جس میں ہے ”ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدوکم علی السلام

والتأمین“ (۱۱) یعنی یہودی جس طرح سلام اور آمین کہنے پر تم سے حسد کرتے ہیں، کسی اور چیز پر۔ اس طرح

حسد نہیں کرتے۔

اسی طرح حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک طویل مرفوع روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی

ہے، اس میں ہے ”فکننت أول من جاء بتحية الإسلام“ (۱۲) یعنی سب سے پہلے مجھے سلام کا تحفہ دیا گیا۔

نبیہتی نے ”شعب الإیمان“ میں حضرت ابوامامہؓ سے مرفوع روایت نقل کی، اس میں ہے ”جعل اللہ

(۳) حوالہ جات بالا، مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: مظاہر حق جدید (رقم الحدیث: ۵۷۳۶)

(۱۰) إرشاد الساری: ۲۲۹/۱۳، فتح الباری: ۵/۱۱

(۱۱) أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد)، باب فضل السلام، رقم الحديث:

۴۴۹/۲، ۹۸۸، وأخرجه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين، رقم الحديث:

۲۷۸/۱: ۸۵۶

(۱۲) أخرجه مسلم، بتغيير في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه، رقم الحديث:

۱۹۲۱/۴، ۲۴۷۳

السلام تحيةً لأمتنا، وأماناً لأهل ذمتنا“ (۱۳) یعنی سلام ہماری امت کے لیے تحفہ اور اہل ذمہ کے لیے امان ہے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت عمران بن حصینؓ کی ایک روایت میں ہے ”کننا نقول في الجاهلية: أنعم بك عيناً، وأنعم صباحاً، فلما جاء الإسلام، نهيناعن ذلك“ (۱۴) یعنی ہم زمانہ جاہلیت میں ”أنعم بك عيناً“ تمہارے ذریعہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ”أنعم صباحاً“ تمہاری صبح اچھی ہو (صبح بخیر) کے الفاظ کہا کرتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد ہمیں اس سے روکا گیا۔

مقاتل بن حیان کی روایت میں ہے ”كانوا في الجاهلية يقولون: حيت مساءً، حيت صباحاً، فغير الله ذلك بالسلام“۔ (۱۵) (یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ ”حيت مساءً اور حيت صباحاً“ کے الفاظ بطور تحیہ کہا کرتے تھے جس کے معنی ہیں تم صبح و شام زندہ و آباد رہو، اللہ نے اسے سلام سے بدل دیا۔) فقال: السلام عليكم:

حضرت آدم علیہ السلام سے ”سَلِّمْ“ کہا گیا تھا، ”السلام عليكم“ کے الفاظ یا تو انھوں نے امر کے صیغے سے از خود سمجھ لیے اور یا اللہ جل شانہ نے بذریعہ الہام یہ الفاظ انھیں سکھا دیئے۔ (۱۶)

”السلام عليكم“ الف لام کے ساتھ بہتر اور افضل ہے، اگر کوئی بغیر الف لام کے ”سلام عليكم“ کہے تو بھی صحیح ہے (۱۷)، قرآن کریم میں ہے ﴿فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة﴾ (۱۸) ایک اور آیت میں ہے ﴿سلام على نوح في العالمين﴾ (۱۹) ان دونوں آیات میں سلام بغیر الف لام کے ہے۔

(۱۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في مقارنة ومودة أهل الدين، رقم الحديث: ۸۷۹۸، ۶/۴۳۶

(۱۴) أخرجه أبو داود في الأدب، باب في الرجل يقول: أنعم الله بك عيناً، رقم الحديث: ۵۲۲۷

(۱۵) فتح الباري: ۱۱/۵

(۱۶) فتح الباري: ۱۱/۵

(۱۷) فتح الباري: ۱۱/۵، إرشاد الساري: ۱۳/۲۳۰

(۱۸) سورة الأنعام، الآية: ۵۴

(۱۹) سورة الضف، الآية: ۷۹

## علیکم السلام کہنے کا حکم

اگر کوئی شخص ”علیکم السلام“ کہے تو راجح قول کے مطابق یہ بھی سلام کا صیغہ ہے اور اس سے سلام ادا ہو جائے گا، البتہ قاضی عیاض اور امام غزالی نے اس کو مکروہ کہا ہے (۲۰) لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ”والمختار لایکرہ، ویجب الجواب؛ لأنه سلام“۔ (۲۱) یعنی ”قول مختاریہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اس لیے کہ یہ سلام ہے“۔

سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں ابو جری جابر بن سلیم الہجیمی سے روایت ہے ”أتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت: علیک السلام، یرسول اللہ! قال: لاتقل علیک السلام؛ فإن علیک السلام تحیة الموتی“۔ (۲۲) یعنی ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ”علیک السلام، یرسول اللہ!“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”علیک السلام“ مت کہو، کیونکہ ”علیک السلام“ مردوں کا تحیہ ہے“۔ اس روایت سے ”علیک السلام“ کی کراہت معلوم ہوتی ہے۔

فقالوا: السلام علیک ورحمة اللہ، فزادوه: ورحمة اللہ:

یعنی فرشتوں نے جواب میں ”ورحمة اللہ“ کا اضافہ کیا، بہ اضافہ کرنا بالاتفاق مستحب ہے، اگر سلام کرنے والے نے ”ورحمة اللہ“ کہا تو جواب میں ”وبرکاتہ“ کا اضافہ مستحب ہے۔

## ومغفرته ورضوانه کے اضافے کا حکم

”وبرکاتہ“ کے بعد سلام اور اس کے جواب میں ”ومغفرته“ ”ورضوانه“ کا اضافہ مشروع ہے یا

نہیں؟ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں:

(۲۰) إرشاد الساری: ۲۳۰/۱۳، فتح الباری: ۵/۱۱

(۲۱) فتح الباری: ۵/۱۱، شرح مسلم للنووی کتاب السلام: ۲/۲۱۲

(۲۲) أخرجه أبو داؤد فی أبواب السلام، باب کراهیة أن یقول: علیک السلام: ۳۵۱/۲، والترمذی فی أبواب

الاستیذان والآداب، باب ماجاء فی کراهیة أن یقول: علیک السلام مبتدئاً: ۱۰۱/۲

امام مالک رحمہ اللہ نے ”موطأ“ میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے، اس میں ہے ”انتھی السلام إلى البركة“ یعنی ”وبرکاتہ“ پر سلام مکمل ہو جاتا ہے۔ (۲۳)

لیکن حضرت انسؓ، حضرت ابن عمرؓ اور حضرت زید بن ارقمؓ سے ایسی روایات منقول ہیں جن میں ”وبرکاتہ“ کے بعد اضافہ منقول ہے۔ (۲۴)

یہ روایات اگرچہ ضعیف ہیں، تاہم سب کو ملانے سے ”وبرکاتہ“ کے بعد اضافہ کی مشروعیت ثابت ہو جاتی ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وهذه الأحاديث الضعيفة، إذا انضمت قروي ما اجتمعت عليه من

مشروعية الزيادة على ”وبرکاتہ“۔ (۲۵)

یہاں روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ”السلام علیکم“ کہا اور فرشتوں نے جواب میں ”السلام علیک...“ کہا، اس سے معلوم ہوا کہ سلام کے جواب میں وہی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں جو سلام کے لیے خاص ہے، گشمینی کی روایت میں ”وعلیک السلام“ ہے۔ (۲۶)

جواب میں اگر کسی نے صرف ”وعلیکم“ کہہ دیا تو بھی کافی ہے، البتہ ”علیکم“ بغیر واؤ کے کہا تو

جواب کے لیے کافی نہیں۔ (۲۷)

(۲۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب السلام، باب العمل في السلام، رقم الحديث: ۹۵۹/۲، ۲۰، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في رد السلام، رقم الحديث: ۵۱۰/۶، ۹۰۹۶.

(۲۴) فتح الباري: ۷/۱۱، ”عن يحيى بن سعيد، أن رجلاً سلم على عبد الله بن عمر، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، والعاديات والرائحات، فقال له عبد الله بن عمر: وعليك ألفاً، ثم كأنه كره ذلك، أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب السلام: ۹۶۶/۲.

”عن زيد بن أرقم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم علينا نرددنا عليه السلام قلنا: وعليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته“ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، فصل في كيفية السلام وكيفية الرد، رقم الحديث: ۸۸۸۱ (۴۵۶/۶).

(۲۵) فتح الباري: ۷/۱۱.

(۲۶) فتح الباري: ۶/۱۱، إرشاد الساري: ۲۳۰/۱۳، عمدة القاري: ۲۳۰/۲.

(۲۷) شرح صحيح مسلم للنووي: كتاب السلام: ۲۰۲/۲.

## سلام اور اس کے جواب سے متعلق مزید احکام

سلام کرنا مسنون اور جواب دینا واجب علی الکفایہ ہے، جماعت میں سے کسی ایک نے جواب دیدیا تو

سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ (۲۸)

سلام کرنے اور اس کا جواب دینے میں ضروری ہے کہ اس قدر آواز کے ساتھ ہو کہ ساتھ والا سن سکے،

اس سے آہستہ اگر کہا ہے تو وہ شرعاً کافی نہیں ہے۔ (۲۹)

سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، اگر اس میں تاخیر کر دی گئی تو گناہ گار ہوگا۔ (۳۰)

غائب کا سلام اگر کوئی پہنچا رہا ہے تو اس کے جواب میں ”وعلیک وعلیہ السلام“ کے الفاظ کہنے

چاہئیں (۳۱)۔

## فلم یزل الخلق ینقص حتی الان:

یہاں ”حتی“ بمعنی ”إلی“ اور مطلب یہ ہے کہ ساٹھ ذراع سے انسان کی قامت آہستہ آہستہ پست

ہوتی گئی، اور تقریباً چھ فٹ تک آ کر رہ گئی، نقص اور کمی کا یہ سلسلہ ہر صدی میں جاری رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پر آ کر رک گیا (۱)۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس مقام میں ایک اشکال ہے جس کا صحیح جواب اب تک مجھ

(۲۸) شرح صحیح مسلم للنووی: کتاب السلام: ۲/۲۱۲، فتاویٰ ہندیہ، کتاب الکراہیہ، الباب التاسع:

۳۲۵/۵، ردالمحتار، فصل فی البیع: ۵/۲۹۳

(۲۹) شرح مسلم للنووی، کتاب السلام: ۲/۲۱۳، ردالمحتار: ۵/۲۹۳، فتاویٰ ہندیہ، کتاب الکراہیہ:

۳۲۶/۵

(۳۰) ردالمحتار، فصل فی البیع: ۵/۲۹۳

(۳۱) ردالمحتار، فصل فی البیع: ۵/۲۹۴

(۱) فتح الباری: ۶/۴۴۳، عمدۃ القاری: ۱۵/۲۸۷، تحفۃ الباری: ۴/۵۶، مرقاة: ۹/۷۳۰

سے نہیں بنا۔ وہ یہ کہ نقص کا یہ سلسلہ جو ہر صدی میں تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قوم ثمود تک، اس میں کوئی خاص کمی نہیں، اس لئے کہ قوم ثمود کے جو آثار ملے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کمی نہایت کم ہوئی ہے، وہ لوگ نہایت بلند قد و قامت کے مالک تھے اور قوم ثمود کے بعد آج تک انسانی قامت میں جو کمی آئی ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ قوم ثمود اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہت فاصلہ ہے۔ جب کہ قوم ثمود سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک فاصلہ نسبتاً کم ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ویشکل علیٰ هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السانفة، ديار ثمود؛ فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق، ولا شك أن عهدهم قديم، وأن الزمان الذي بينهم وبين آدام دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة.“

”ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال“.

اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ حدیث میں ”نقص“ کا ذکر مطلق ہے، زمانے کے کسی مخصوص مقدار اور کسی خاص تناسب سے نقص کا ذکر نہیں، لہذا اگر قوم ثمود تک نقص زیادہ نہیں بعد میں زیادہ ہو تو اشکال کی بات نہیں۔

## ۲ - باب :

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ » / النور: ۲۷ - ۲۹ .

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ ؟ قَالَ : أَصْرَفَ بَصَرِكَ عَنْهُنَّ ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ » / النور: ۳۰ . قَالَ قَتَادَةُ : عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ . « وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ » / النور: ۳۱ .

«خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ» / غافر: ۱۹ / : مِنَ النَّظْرِ إِلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ .  
 وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فِي النَّظْرِ إِلَى الْبَيْتِ لَمْ تَحْضُرْ مِنَ النَّسَاءِ : لَا يَصْلُحُ النَّظْرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ ،  
 مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظْرُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً .  
 وَكَرِهَ عَطَاءُ النَّظْرَ إِلَى الْجَوَارِيِ الَّتِي يُتَعَنُّ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ .

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں سب سے پہلے سورۃ نور کی تین آیات ذکر فرمائی ہیں جن کا

ترجمہ ہے:

”اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو کرو،  
 جب تک کہ اجازت حاصل نہ کر لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے  
 بہتر ہے تاکہ تم فصیحت حاصل کر لو پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں نہ جاؤ جب  
 تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے اور اگر تم کو جواب ملے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آیا کرو، یہی  
 بات تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔“

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یعنی خاص اپنے ہی رہنے کا جو گھر ہو اُس کے سوا کسی دوسرے کے رہنے کے گھر  
 میں یونہی بے خبر نہ گھس جائے، کیا جانے وہ کس حال میں ہو اور اُس وقت کسی کا اندر آنا پسند  
 کرتا ہے یا نہیں۔ لہذا اندر جانے سے پہلے آواز دیکر اجازت حاصل کر لے اور سب سے  
 بہتر آواز سلام کی ہے، حدیث میں ہے کہ تین مرتبہ سلام کر لے اور اجازت داخل ہونے کی  
 لے۔ اگر تین بار سلام کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ فی الحقیقت یہ  
 ایسی حکیمانہ تعلیم ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو صاحب خانہ اور ملاقاتی دونوں کے حق  
 میں بہتر ہے۔ مگر افسوس آج مسلمان ان مفید ہدایات کو ترک کرتے جاتے ہیں جن کو  
 دوسری قومیں اُن ہی سے سیکھ کر ترقی کر رہی ہیں“ (۳۱ ☆)۔



## استیذان کا طریقہ و حکم

سورۃ نور کی ان آیات کریمہ میں استیذان کا طریقہ اور حکم نسبتاً تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان جب کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا چاہے تو وہ اجازت طلب کرے اور اجازت ملنے کے بعد پھر وہ داخل ہو۔

اجازت طلب کرنے کی کیفیت میں تھوڑا سا اختلاف ہے:

① بعض علماء کے نزدیک استیذان کی صحیح صورت یہ ہے کہ اولاً اجازت طلب کی جائے اور اجازت

ملنے کے بعد سلام کیا جائے یعنی استیذان سلام پر مقدم ہے۔ (۳۲)

یہ حضرات ایک تو قرآن کریم کی ذکر کردہ آیت سے استدلال کرتے ہیں، جس میں ہے ﴿یا ایہا الذین آمنوا لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا﴾... اس آیت میں ”تستأنسوا“ کا ترجمہ حضرات مفسرین نے ”تستأذنوا“ سے کیا ہے (۳۳) مطلب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دو کام کرنے چاہئیں ایک استیناس یعنی استیذان اور دوم سلام... ایت میں استیذان کو سلام پر مقدم کیا ہے۔

دوسرے یہ حضرات، حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جسے ابن ماجہ نے اپنی ”سنن“ میں نقل کیا ہے، اس میں ہے ”قلنا: یا رسول اللہ، هذا السلام، فما الاستیذان؟ قال: یتکلم الرجل بتسیحۃ وتکبیرۃ، یتنحیح ویؤذن أهل البيت“ (۳۴) یعنی ”یا رسول اللہ! یہ تو سلام ہوا، استیذان کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسے آدمی کو تسبیح و تکبیر کہہ کر اور کھنکار کر گھر والوں کو اپنی آمد کی خبر دینی چاہیے“... اس میں ہے کہ سلام سے پہلے تسبیح وغیرہ پڑھ لینا، کھنکارنا استیذان ہے۔

② لیکن جمہور علماء کے نزدیک استیذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سلام کو استیذان پر مقدم کیا جائے،

(۳۲) تکملة فتح الملہم: ۴/۲۲۹، شرح صحیح مسلم للنووی: ۲/۲۱۰، لامع الدراری: ۱۰/۴۸

(۳۳) سورۃ النور آیۃ ۲۷، تفسیر القرطبی: ۱۲/۲۱۳، روح المعانی: ۱۰/۱۳۳، ابن کثیر: ۳/۲۷۸

(۳۴) الحدیث أخرجه ابن ماجہ فی سننہ فی کتاب الأدب باب الاستیذان: ۲۶۳

یعنی پہلے سلام کر کے پھر گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی جائے (۳۵)۔ مثلاً پہلے کہا جائے ”السلام علیکم“ اس کے بعد کہا جائے ”کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟“

یہ حضرات ایک تو سنن ابی داؤد میں حضرت ربیع کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، نبی عامر کے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی اور کہا ”أَلَسَّح“ (کیا میں داخل ہو سکتا ہوں)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا ”أَخْرَجْ إِلَى هَذَا، فَعَلِمَهُ الْاِسْتِئْذَانَ، فَقَالَ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيكُمْ، أَدْخَلَ“ یعنی نکل کر اس آدمی کو استئذان کا طریقہ بتلاؤ اور کہو کہ وہ یہ کہہ کر اجازت طلب کر لے ”السلام علیکم“ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟“ وہ صاحب یہ ہدایت سن رہے تھے، چنانچہ انھوں نے کہا ”السلام علیکم، أَدْخَلَ“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اجازت دیدی۔ (۳۶)

ابن ابی بقیہ رحمہ اللہ نے بھی ”شعب الایمان“ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اس میں ہے ”لَا تَأْذِنُوا الْمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ“۔ (۳۷) یعنی ”جو سلام سے ابتداء نہ کرے اس کو اجازت مت دو“۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ”الأدب المفرد“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے۔ (۳۸)

ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام، استئذان پر مقدم ہے، جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید کی آیت کا، اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ وہاں واؤ مطلق جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں، جیسا کہ اصول فقہ میں قاعدہ مشہور ہے۔ (۳۹)

(۳۵) دیکھیے تکملة فتح المهلم: ۴/۲۲۹، شرح مسلم للنووي: ۲/۲۱۰، لامع الدراري: ۱۰/۴۸

(۳۶) الحدیث أخرجه ابو داؤد في كتاب الأدب باب الاستئذان: ۲/۳۴۷

(۳۷) الحدیث أخرجه الإمام البيهقي في ”شعب الإيمان“ باب في مقاربة و مادة أهل الدين، رقم الحدیث:

۸۸۱۶-۴۴۱/۶

(۳۸) الحدیث أخرجه الامام البخاري في ”الأدب المفرد“ مع شرحه: فضل الله الصمد، ۲/۵۰۵

(۳۹) كشف الأسرار: ۲/۱۰۹

اور حضرت ابوایوب الصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے (۴۰) اس لیے ذکر کردہ ان روایات کے مقابلے میں قابل حجت نہیں۔

بہر حال جمہور علماء کے نزدیک اجازت طلب کرنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے سلام کیا جائے، اس کے بعد اپنا نام بتلا کر اجازت طلب کی جائے، ہاں ایسے مقامات، مکانات اور جگہیں جہاں کھلے عام ہر شخص کو آنے کی اجازت ہو، مثلاً مسافر خانے، ہسپتال وغیرہ تو وہاں استیذان کا مذکورہ حکم لاگو نہیں ہوگا، آیت کریمہ میں ”بیوتا غیر مسکونة“ سے ایسے ہی مقامات مراد ہیں (۴۱)۔

وقال سعید بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن  
قال: اصرف بصرک عنهن۔

سعید بن ابی الحسن، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بھائی ہیں، انھوں نے اپنے بھائی حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ عجمی خواتین اپنا سینہ اور سر کھلا رکھتی ہیں؟ حضرت بصری نے فرمایا آپ اپنی نظر ان سے بچائے رکھیں اور دلیل میں انھوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْنَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ﴾ پیش کی، اس آیت میں مؤمنین کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

”قول اللہ عزوجل“ ترکیب میں مرفوع بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں یہ مبتدا محذوف کے لیے خبر ہوگا اور ”اقرأ“ فعل امر کے لیے مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ (۴۲)

کشمیہنی کے علاوہ دوسرے نسخوں میں ”وقول اللہ“ واؤ کے ساتھ ہے، اس صورت میں یہ آیت مستقل ترجمہ الباب کی حیثیت سے ہوگی، حضرت حسن بصری کے قول کا حصہ نہیں ہوگی (۴۳)۔

وقال قتادة: عمالا يحل لهم

(۴۰) فتح الباری: ۹/۱۱، قال الحافظ: وأخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف من حديث أبي أيوب۔

(۴۱) عمدة القاري: ۲۳۱/۲۲، إرشاد الساري: ۲۳۲/۱۳، تفصیل کے لیے دیکھیے: تفسیر القرطبي:

۲۲۱/۱۲، وروح المعاني: ۱۳۷/۱۰

(۴۲) عمدة القاري: ۲۳۱/۲۲

(۴۳) عمدة القاري: ۲۳۱/۲۲، فتح الباري: ۱۰/۱۱

﴿و یحفظوا فروجہم﴾ کی تفسیر حضرت قتادہ نے کی ہے کہ وہ مومنین اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان چیزوں سے جو ان کے لیے جائز نہیں۔ ابن ابی حاتم نے قتادہ کی اس تعلیق کو موصولاً نقل کیا ہے۔ (۴۴)

سورۃ عافر میں ہے ﴿یعلم خائنة الأعین﴾ خائنة الأعین نظرة کی صفت ہے (۴۵) اور اس سے ممنوع چیزوں کی طرف دیکھنا مراد ہے، یعنی جن چیزوں کی طرف دیکھنا شرعاً جائز نہیں، ان کی طرف نگاہ اٹھانا ”خائنة الأعین“ (نظروں کی خیانت) ہے۔

وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحض من النساء: لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهي النظر إليه، وإن كانت صغيرة.

امام محمد بن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کو کم عمری یا کبیر السن ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، ان کی طرف نظر شہوت سے دیکھنا جائز نہیں۔

اس تعلیق کو کس نے موصولاً نقل کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہو سکا (۴۶)۔

وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعم بمكة إلا أن يريد أن يشتري  
حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ مکہ میں فروخت کی جانے والی باندیوں کی طرف دیکھنے کو مکروہ کہتے تھے، البتہ جو شخص خریدنا چاہتا، اسے اس حکم سے مستثنیٰ سمجھتے۔  
ابن ابی شیبہ نے عطاء کی اس تعلیق کو موصولاً نقل کیا ہے (۴۷)۔

تعلیقات کو آیات استیذان کے بعد ذکر کرنے کا مقصد

حضرت حسن بصری، حضرت امام زہری اور عطاء کی ان تعلیقات کو آیات استیذان کے بعد ذکر کرنے

(۴۴) عمدة القاري: ۲۲/۲۳۱، فتح الباري: ۱۱/۱۰

(۴۵) روح المعاني، سورة غافر: ۱۳/۵۹، عمدة القاري: ۲۲/۲۳۱

(۴۶) تعلیق التعلیق میں بھی أماقول الزهري... کے بعد علامة الحذف ہے: ۵/۱۲۰

(۴۷) عمدة القاري: ۲۲/۲۳۲

میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ استئذان کی مشروعیت کی غرض وغایت یہ ہے کہ بغیر اجازت داخل ہونے کی صورت میں گھر والا جن چیزوں کی طرف کسی کے دیکھنے کو پسند نہیں کرتا، ان کو دیکھنے سے بچایا جائے، اور ان میں سب سے خطرناک امر اجنبی خواتین کو دیکھنا ہے، چنانچہ شارحین بخاری لکھتے ہیں:

”وجه ذکر المؤلف هذا عقب ذكر الآيات الثلاث المذكورة الإشارة

إلى أن أصل مشروعية الاستئذان الاحتراز من وقع النظر إلى مالا يريد

صاحب المنزل إليه، لودخل بلا إذن، وأعظم ذلك النظر إلى النساء

الأجنبيات“ (۲۸)

۵۸۷۴ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ رَاحِلَتِهِ ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَنَعَمٍ وَضِيئَةٌ تَسْتَفِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا ، فَالْتَمَتِ النَّبِيُّ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَأَخْلَفَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ بِذِقَنِ الْفَضْلِ ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ ، أَذْرَكَتِ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : (نَعَمْ) . [ ر : ۱۴۴۲ ]

یہ روایت کتاب الحج میں گزر چکی ہے، اس میں حضرت فضل بن عباسؓ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے بیٹھے تھے، ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی جو بڑی خوب صورت تھی، حضرت فضل اسے دیکھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت فضل اسے مسلسل دیکھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بیچھے کی طرف لے جا کر فضل کی ٹھوڑی پکڑ کر اس عورت کی طرف سے ان کا منہ پھیرا۔

عَجْزُ رَاحِلَتِهِ : عَجْزُ (عین کے فتح اور جیم کے ضمہ کے ساتھ) سواری کا پچھلا حصہ۔

## حدیث باب سے مستفاد چند احکام

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

① ایک یہ کہ حالت احرام میں عورتوں کے لیے چہرے کا اس طرح پردہ نہیں کہ کپڑا چہرے کے ساتھ مل جائے۔ (۳۹) ہاں اگر کپڑے کو چہرے سے الگ کر کے اس طرح لٹکایا جائے کہ چہرہ لوگوں سے مستور بھی رہے اور کپڑا بھی چہرے سے مس نہ ہو تو یہ جائز ہے بلکہ اسی میں احتیاط ہے۔ (۵۰)

## اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کا حکم

② دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اجنبی عورت کی طرف تکلی باندھ کر دیکھنا جائز نہیں، حضرت فضل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھنے سے روکا۔

حضرات حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک اجنبی عورت کی طرف دیکھنا مطلقاً ناجائز اور حرام ہے چاہے فتنہ کا خوف ہو یا نہ ہو۔ (۵۱)

(۴۹) فتح الباری: ۳/۴۰۶، (کتاب الحج، باب ما یلبس المحرم من الثیاب والأردیة والأزر) عمدة الناری:  
۱۶۶/۹ (کتاب الحج باب ما یلبس المحرم من الثیاب والأردیة والأزر)۔ ردالمحتار، کتاب الحج، فصل  
فی الإحرام، مطلب فیما یحرم بالإحرام وما لا یحرم: ۲/۱۷۶۔ وبدائع الصنائع، کتاب الحج، فصل: وأما  
بیان ما یحظره الإحرام وما لا یحظره: ۲/۱۸۶

(۵۰) فتح الباری: ۳/۴۰۶، کتاب الحج، باب ما یلبس المحرم من الثیاب، والأردیة، والأزر.

(۵۱) المغنی لابن قدامة: ۷/۷۸، مانصه: "فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غیر سبب، فإنه محرم إلى  
جمیعها فی ظاهر کلام أحمد، وأما مذهب الشوافع: فمانتله النووي فی المنهاج مانصه: "ویحرم نظر فحل  
بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية، وكذا وجهها وكفها عند خوف فتنة، وكذا عند الأمن على الصحيح"  
(وانظر تكملة الفتح: ۴/۲۶۸، والفتاوی الهندیة: ۵/۳۲۹۔ مانصه: وأما النظر إلى الأجنبية فنقول: یجوز  
النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف فی ظاهر الرواية وأما المالکیة، فمذهبهم ما ذكره  
الخرشي فی حاشيته على مختصر الخلیل: ۱/۳۴۷: "وعورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنهما حتى  
دلایها؟ وقصتها، ماعد الوجه والكفین ظاهرهما وباطنهما فیجوز النظر لهما بلالدة ولا خشية فتنة من  
غیر عذر، ولو شابة،"

حضرات حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اجنبی عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز ہے، بشرطیکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ (۵۲)

فتنہ کا اگر اندیشہ ہے تو پھر دیکھنا بالاتفاق ناجائز ہے اور چونکہ غالب احوال میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے متاخرین حنفیہ نے بھی مطلقاً عدم جواز کا فتویٰ دیدیا ہے۔ (۵۳)

(۵۲) وفي الدر المختار: ۲۶۱/۵، فحل النظر مقيد بعدم الشهوة، والأفحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابه، وانظر أحكام القرآن للحضاص: ۵۴۶/۳. سورة الأحزاب.

(۵۳) ذیل میں چند اردو فتاویٰ سے اس مسئلہ سے متعلق عبارتیں نقل کی جاتی ہیں:

① مفتی اعظم ہند، حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”پردے اور حجاب کے حکم کا مدار خوف فتنہ پر ہے اور ظاہر ہے کہ چہرے پر نظر پڑنا فتنہ کے بارے میں زیادہ موثر ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے مومنہ حرہ (آزاد مسلمان عورت) کے لیے اجانب کے سامنے کشف وجہ کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اشارات ودلالات نصوص سے پردہ یعنی ستر وجہ کی ہی تائید ہے اور یہی احوط و اسلم ہے۔ پس برقع اوڑھ کر نکلنا اوفق بالشرع والحکمت ہے۔“ (کفایت المفتی: ۳۹۲/۵، کتاب الحجاب)

② اور ایک۔ ہے حجاب یعنی تمام اجنبی مردوں سے پردہ جو صرف عورتوں پر لازم ہے، مردوں پر نہیں۔ اس میں ہر سے پاؤں تک بشمول چہرہ سارا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ (فتاویٰ حقانیہ: ۳۸۵/۲)

③ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں: ”احادیث و آیات و روایات فقہیہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے حکم اصلی احتجاب و استتار بجمیع اعضائہا و اركانہا ثابت ہے۔ البتہ جہاں ضرورت شدیدہ ہو یا بسبب کبر سن کے مطلق احتمال فتنہ و اشتہا کا باقی نہیں، وہاں وجہ و کفین کا کشف جائز ہے، اور یہی مطلب ہے ان کے ستر نہ ہونے کا۔“ (امداد الفتاویٰ: ۱۸۱/۳)

صاحب احسن الفتاویٰ لکھتے ہیں:

④ پردہ۔ کے ثبوت میں اس وقت چند امور بالاختصار بیان کیے جاتے ہیں:

(۱) عورت کو بلا ضرورت برقع میں بھی باہر نکلنا حرام ہے۔

(۲) کسی اہم ضرورت کے لیے پردہ میں باہر نکلنا جائز ہے۔ بشرطیکہ برقع وغیرہ مزین نہ ہو۔ کسی قسم کی خوشبو نہ لگائی ہو۔ کلام اور چال دلکش نہ ہو، فتنہ کا احتمال نہ ہو۔

(۳) بلا پردہ باہر نکلنا اور غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا بلا ضرورت شدیدہ حرام ہے۔ (احسن الفتاویٰ: ۲۲۹/۹)

⑤ مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی لکھتے ہیں: ”معلوم ہوا کہ عورتوں کو اصالۃ گھروں میں رہنے کا حکم ہے۔ اگر کسی حاجت کے لیے مجبوراً نکلیں تو چہرہ اور سر چھپا کر نکلیں، راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کی مقدار کھولنے کی گنجائش ہے۔“ (فتاویٰ محمودیہ: ۳۰/۱۲)

اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: ”اجنبی سے چہرہ کا چھپانا بلا اندیشہ فساد بھی علاوہ مواقع مستثنیٰ کے ہر حال میں ضروری

ہے۔“ (فتاویٰ محمودیہ: ۱۹۹/۵)

ہاں ضرورت کے مواقع اس سے مستثنیٰ ہیں، مثلاً ڈاکٹر کے پاس علاج کے وقت یا قاضی کے پاس گواہی کے وقت اگر ضرورت ہو تو کشف وجہ کی گنجائش ہے، لأن الضرورة تبيح المنحظورة (۵۴) یعنی ”ضرورت کی وجہ سے ممنوع چیزیں جائز ہو جاتی ہیں“۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے آیات استیذان کے بعد، غصہ بصر کی آیات اور روایات کو ذکر کیا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ استیذان کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ نظر ممنوعہ کا ارتکاب نہ ہو جائے چونکہ اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں اور گھر میں خواتین اکثر بے پردہ ہوتی ہیں، اس لیے اگر اجازت طلب کیے بغیر کوئی داخل ہوگا تو نظروں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔

۵۸۷۵ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : (إِنَّا كُنَّا وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ) . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بَدَأَ نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، فَقَالَ : (فَإِذَا أَيْتُمُ إِلَّا الْمَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ) . قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : (غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْأَذَى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ) .

[ر : ۲۳۳۳]

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہمارے لیے تو ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے راستوں کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا بیٹھنا ہی ضروری ہے تو راستے کو اس کا حق دے دیا کرو، لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ! راستے کا کیا حق ہے، آپ نے فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دہ امور سے رکتنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکتنا۔

حدیث کی مناسبت ترجمہ الباب سے ظاہر ہے۔



## ۳- باب : السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى .

«وَإِذَا حَيَّمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا» /النساء: ۸۶/ .

۵۸۷۶ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى ميكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : (إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ ، وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدَ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ .

[ر : ۷۹۷]

لفظ ”السلام“ اللہ کے اسمائے حسنی میں سے ہے، اس کے معنی سلامتی کے ہیں، یہاں اس سے ”ذوالسلامة“ مراد ہے، یعنی اللہ جل شانہ نقص وعیوب سے سالم اور منزہ ہیں۔ (۵۵) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن دمیق العید سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”السلام یطلق بإزاء معان: منها: السلامة، ومنها: التحية، ومنها أنه

اسم من أسماء الله تعالى، وقد يأتي بمعنى السلامة محضاً، وقد يأتي بمعنى

التحية محضاً، وقد يأتي متردداً بين المعنيين، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ

أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ﴾ فإنه يحتمل التحية والسلامة“۔ (۵۶)

یعنی سلام کا اطلاق کئی معانی پر ہوتا ہے: سلامتی، تحیہ اور اللہ کے نام کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے، کبھی

(۵۵) عمدة القاري: ۲۳۳/۲۲، فتح الباري: ۱۵/۱۱، إرشاد الساري: ۲۳۵/۱۳، لسان العرب، فصل السين

المهملة: ۲۹۰/۱۲، وتاج العروس، باب الميم، فصل السين: ۳۳۸/۸

(۵۶) فتح الباري: ۱۸/۱۱، عمدة القاري: ۲۳۳/۲۲

یہ محض سالم ہونے کے معنی میں آتا ہے اور کبھی محض تہیجہ کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی اس میں دونوں معنوں کا احتمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت میں ہے ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقِيَ الْيُكْمَ السَّلَامَ﴾ یہاں ”سلام“ تہیجہ اور سلامتی دونوں معنوں کا احتمال رکھتا ہے۔

وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے اشارہ کیا کہ تہیجہ کا جو عام حکم دیا گیا ہے، اس سے لفظ ”سلام“ مراد ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آیت کریمہ میں ”تَحِيَّةٌ“ سے سلام مراد ہے۔ (۵۷) البتہ ابن التین نے بعض مالکی علماء سے نقل کیا ہے کہ ”تَحِيَّةٌ“ سے ہدیہ مراد ہے۔ (۵۸) علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے حنفیہ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے (۵۹) لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی اور فرمایا ”نسبة هذا إلى الحنفية غير صحيحة“ (۶۰) یعنی ”حنفیہ کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے“ تاہم علامہ بھاص نے احکام القرآن میں اس کو ہدیہ پر ہی محمول کیا ہے۔ (۶۱)

حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کرتے ہوئے ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ کے الفاظ کہے تو جواب دینے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ”وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ“ اضافہ کے ساتھ جواب دے، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة۔ (۶۲)

(۵۷) عمدة القاري: ۲۲/۲۳۳

(۵۸) عمدة القاري: ۲۲/۲۳۳، فتح الباري: ۱۱/۱۶

(۵۹) سورة النساء/ ۸۶، تفسير القرطبي: ۵/۲۹۸ (سورة النساء)، عمدة القاري: ۲۲/۲۳۳، فتح الباري: ۱۱/۱۶

(۶۰) عمدة القاري: ۲۲/۲۳۳

(۶۱) أحكام القرآن للجصاص: ۲/۳۰۷ سورة النساء/ ۸۶، علامہ بھاص نے ”هدية“ کی تصریح تو نہیں کی ہے البتہ اسی آیت سے وہ ”رجوع في الهبة“ پر استدلال کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ استدلال ٹب درست ہوگا جب تہیجہ کو ہدیہ قرار دیا جائے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ”فإِذَا حَمَلْنَا قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ.....﴾ عَلَى حَقِيقَةِ أَفَادِ أَنْ مِنْ مَلِكٍ غَيْرِهِ شَيْئاً بِغَيْرِ بَدَلٍ فَلَهُ الرَّجُوعُ فِيهِ مَالِمٌ يُثَبُّ مِنْهُ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا فَيَمْنُ وَهَبٍ لَغَيْرِ ذِي رَحْمٍ أَنْ لَهُ الرَّجُوعُ فِيهَا مَالِمٌ يُثَبُّ مِنْهَا“.

(۶۲) تفسير ابن كثير: ۱/۵۳۱، عمدة القاري: ۲۲/۲۳۳

## حضرت گنگوہیؒ کی توجیہ:

مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے لامع الدراری میں ترجمۃ الباب میں آیت کریمہ ذکر کرنے کی ایک اور وجہ لکھی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”ولعل الوجه في إيراد الآية في هذا الباب أن المأمور به من التحية مافيه حسن، سواء كان الحسن قليلا أو كثيرا كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿بِأَحْسَنِ مِنْهَا﴾ فإن صيغة التفضيل مشعرة بزيادة الحسن في هذا الرد، فكان دليلا على أصل الحسن في التحية، وليس في قولهم: السلام على الله حسن، لانقلاب المعنى، فلم يكن قائله آتيا بالمأمور به لأن المأمور به إنما يتأدى إذا تضمن الحسن ولو أقل مما في ردها“ (۶۳)

یعنی ”اس باب میں اس آیت کو لانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مامور بہ وہ تہیہ ہے جس میں حسن و خوبصورتی ہو، خواہ وہ حسن و خوبی تھوڑی ہو یا زیادہ۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿بِأَحْسَنِ مِنْهَا﴾ سے یہی مفہوم ہوتا ہے، اس میں ”أحسن“ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جو جواب میں زیادتی حسن پر دلالت کرتا ہے تو یہ آیت تہیہ میں اصل حسن و خوبی پر دلیل ہوئی اور ”السلام على الله“ کہنے میں کوئی حسن نہیں ہے، کیونکہ معنی بدل گئے ہیں تو اس کا کہنے والا مامور بہ پر عمل کرنے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ مامور بہ اس وقت اداء ہوتا ہے جب وہ حسن و خوبی کو متضمن ہو، اگرچہ وہ اس حسن سے کم تر ہو جو اس کے جواب میں ہے۔“

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے ”الابواب والترجم“ میں اس توجیہ کو لطیف اور قوی قرار دیا

ہے۔ (۶۴)

حدیث باب کتاب الصلاة میں گزر چکی ہے (۶۵) اس میں ہے إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، قرآن کریم

میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں یہ نلفظ آیا ہے، سورۃ حشر میں ہے ﴿أَسْمَلِكُ الْقُدُوسِ السَّلَامِ الْمُؤْمِنِ

المهيمن﴾۔

(۶۳) لامع الدراری: ۱۰/۴۹، ۵۰

(۶۴) الأبواب والترجم لصحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء الله: ص ۲۱

(۶۵) الصحيح للبخاري، كتاب الصلاة، باب التشهد في الآخرة، رقم الحديث: ۸۳۱

امام بخاری رحمہ اللہ نے ”الأدب المفرد“ میں حضرت انسؓ سے سند حسن کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے، اس میں ہے ”السلام من أسماء الله وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم“۔ (۶۶) یعنی ”سلام، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھا، لہذا اسے آپس میں پھیلاؤ“۔ حضرت ابن عباسؓ سے بھی ایک روایت موقوفاً منقول ہے، اس میں ہے ”السلام اسم الله، وهو تحية أهل الجنة“۔ (۶۷) یعنی ”سلام، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ جنت والوں کا تحیہ ہے“۔

#### ۴- باب : تَسْلِيمُ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ .

۵۸۷۷ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ( يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ) . [ ۵۸۷۸ - ۵۸۸۰ ]

#### ترجمہ الباب کا مقصد

یہاں سے آگے چار بابوں میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ سلام کس کو کرنا چاہیے، چنانچہ باب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے پر، گزرنے والا، بیٹھے ہوئے پر اور کم لوگ، زیادہ لوگوں پر سلام کریں۔

(۶۶) الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد) باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل، رقم الحديث: ۹۸۹:

(۴۴۹/۲)

(۶۷) شعب الإيمان للبيهقي، فصل في سلام من دخل بيته أو بيتاً ليس فيه أحد، رقم الحديث: ۸۸۳۵: (۴۴۶/۶) (۵۸۷۷) الحديث، أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الاستئذان، باب يسلم الراكب على الماشي (رقم الحديث: ۵۸۷۸)، وكذا باب يسلم الصغير على الكبير، (رقم الحديث: ۵۸۸۰) وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير: ۱۷۰۳/۴ (رقم الحديث: ۲۱۶۰) وأخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان، باب ماجاء في تسليم الراكب على الماشي: ۶۲/۵ (رقم الحديث: ۲۷۰۴) وأخرجه أبو داود في أبواب الاستئذان، باب من ألقى بالسلام؟: ۳۵۱/۴ (رقم الحديث: ۵۱۹۸)

”یسلم“ اگرچہ مضارع کا صیغہ ہے اور خبر ہے لیکن امر کے معنی میں ہے، چنانچہ مسند احمد کی روایت میں ”یسلم“ صیغہ امر کے ساتھ بھی وارد ہے۔ (۶۸)

### ۵۔ باب : يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي .

۵۸۷۸ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ : أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) . [ر : ۵۸۷۷]

سواری پر سوار شخص پیدل چلنے والے پر سلام کرے، سلام دراصل تواضع کی بھی علامت ہے اور سواری کی حالت تواضع کی زیادہ محتاج ہے کیونکہ سواری کی وجہ سے دل میں تکبر آسکتا ہے۔ (۶۹)

### ۶۔ باب : يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ .

۵۸۷۹ : حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ : أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ ، وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : (يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) . [ر : ۵۸۷۷]

چلنے والا، بیٹھے ہوئے شخص پر سلام کہے گا، گویا سلام کرنا ماشی یعنی چلنے والے کا وظیفہ ہے۔ اگر چلنے والے زیادہ ہوں اور بیٹھے والے کم ہوں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مشی کے اعتبار سے سلام ماشی کو کرنا چاہیے لیکن قلت کی حیثیت کو دیکھا جائے تو سلام قاعد کو کرنا چاہیے؟ اس کا جواب علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں دونوں برابر ہیں، جو بھی ابتداءً بالسلام کرے گا، وہی بہتر ہوگا۔ (۷۰)

(۶۸) مسند الإمام أحمد بن حنبل، مرویات، أبي هريرة رضي الله عنه: ۳۱۴/۲

(۶۹) إرشاد الساري: ۳/۲۸، فتح الباري، باب يسلم الصغير على الكبير: ۱۱/۱۸

(۷۰) شرح الكرماني: ۲۲/۷۸، إرشاد الساري: ۱۳/۲۳۸، ۲۳۹

اس میں اتنی بات ملحوظ رہے کہ کسی جماعت پر سلام کیا گیا تو پوری جماعت کا جواب دینا ضروری نہیں، جماعت میں سے کسی ایک نے بھی جواب دیدیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ (۷۱)

### ۷- باب : يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ .

۵۸۸۰ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ) . [ ر : ۵۸۷۷ ]

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ سلام کا یہ ادب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹا بڑے پر سلام کرے۔ گویا سلام میں چھوٹے کو ابتداء کرنی چاہیے۔

### ۸- باب : إِفْشَاءُ السَّلَامِ .

۵۸۸۱ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مِقْرَانَ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِنْبِرَاقِ الْمُقْسِمِ . وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، وَنَهَى عَنِ تَحْمِيقِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ رُكُوبِ الْمِيَاثِرِ ، وَعَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، وَالذَّبْيَاجِ ، وَالْقَسِيِّ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ . [ ر : ۱۱۸۲ ]

### ترجمہ الباب کا مقصد

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سلام پھیلانے کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حدیث باب اس سے پہلے کئی مقامات پر گزر چکی ہے (۷۲) اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۷۱) فتح الباری: ۱۱/۱۷

(۷۲) الحدیث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الأمر باتِّباع الجنائز، رقم الحديث:

۱۲۳۹، أخرجه أيضاً في كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، رقم =

جن سات چیزوں کا حکم دیا، ان میں ایک سلام کا افتاء بھی ہے۔

سلام باہمی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور اسلامی معاشرے کا ایک یگانہ وصف ہے، سلام کی فضیلت

پر کئی احادیث وارد ہیں۔ (۷۳)

### ۹- باب : السَّلَامُ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ .

۵۸۸۲ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : ( تَطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ، وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ ) . [ ر : ۱۲ ]

۵۸۸۳ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، يَلْتَقِيَانِ : فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ) . وَذَكَرَ سُفْيَانُ : أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . [ ر : ۵۷۲۷ ]

= الحدیث: ۵۱۷۵، وأخرجه في كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، رقم الحديث: ۵۶۳۵، وأيضاً أخرجه في كتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض: رقم الحديث: ۵۶۴۹، وفي كتاب اللباس، باب الميثرة الحمراء، رقم الحديث: ۵۸۴۹، وباب خواتيم الذهب، رقم الحديث: ۵۸۶۳، وفي كتاب الأدب، باب تسميت العطاس إذا حمد الله، رقم الحديث: ۶۳۲۲، وفي كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، رقم الحديث: ۲۴۴۵، وفي كتاب اللباس، باب لبس القسي، رقم الحديث: ۵۸۳۸.

(۷۳) ان میں سے یہاں چند نقل کی جاتی ہیں:

① عن عمران بن حصين قال كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل، فقال: السلام عليكم، فردّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عشر، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فردّ رسول الله وقال: عشرون، ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردّ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لثلوث (شعب الإيمان للبيهقي: ۶/ ۴۵۴، باب في موادة ومقاربة أهل الدين).

② وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، (صحيح البخاري: ۹/ ۱)، كتاب الإيمان، باب إفتاء السلام من الإسلام فوق رقم الحديث: ۲۸) =

## سلام سے متعلق چند امور

سلام سے متعلق یہ چند امور ملحوظ رہیں:

① آنے والے اگر زیادہ ہیں تو ان میں سے کسی ایک نے سلام کیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے

گا، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے، یہی حکم جواب دینے والوں کا بھی ہے۔ (۷۴)

② سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب ہے، علامہ ابن عبدالبر نے اس پر اجماع نقل کیا

ہے (۷۵) اور یہ وہ سنت ہے جس کا اجر واجب سے زیادہ ہے۔

③ سلام کرنے کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ سلام کرنے والے اور جواب دینے والے کی آواز سنائی دے،

④ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة

حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمرٍ إذا أنتم فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم،

(الجامع الصحيح للترمذي: ۵/۵۲، كتاب الاستيذان، باب ما جاء في إفشاء السلام، رقم الحديث: ۲۶۸۸)

④ عن مالك قال أخبرنا إسحاق أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه

إلى السوق، قال: وإذا غدونا إلى السوق لم يمرَّ عبد الله بن عمر على سقّاطٍ، ولا صاحب بيع ولا مسكين،

ولا أحدٍ إلا سلم عليه، قال الطفيل بن أبي بن كعب: فجئت عبد الله بن عمر يوماً فاستبجني إلى السوق

قال: فقلت ماتصنع في السوق، ولا تقف على البيع، ولا تسأل عن السلع ولا تساوم بها، ولا تجلس في

مجلس السوق، اجلس بناههنا تحدث فقال عبد الله بن عمر: يا أبا بطن (وكان الطفيل ذا بطن) إنما نغذو

إلى السوق لأجل السلام، نسلم على من لقينا (الموطأ للإمام محمد: ۳۸۴، ۳۸۵ باب رد السلام)

⑤ عن عبد الله قال: إنَّ السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم (الأدب المفرد مع

فضل الله الصمد): ۲/۴۸۷.

⑥ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سرَّكم أن يخرج الغل من

صدوركم فأفشوا السلام بينكم، (أحكام القرآن للجصاص: ۳/۴۵۳، سورة النور/۲۷)۔

(۷۴) شرح مسلم للنووي، كتاب الاستيذان: ۲/۲۱۲

(۷۵) شرح مسلم للنووي، كتاب الاستيذان: ۲/۲۱۲، ورد المختار، كتاب الحظر والإباحة: ۵/۲۹۳



آواز کے بغیر صرف ہاتھ یا سر ہلا دینے سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوگی (۷۶)۔... اسی طرح جواب فوراً دینا واجب ہے، اگر فوراً جواب نہیں دیا اور دوسرے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد جواب دیا گیا تو واجب ادا نہیں ہوا۔ (۷۷)

④ کافر پر سلام کرنا جائز نہیں، اگر کسی کافر نے مسلمان پر سلام کیا تو جواب میں صرف ”وعلیکم“ کہا جائے ”وعلیکم السلام“ مکمل نہ کہا جائے۔ (۷۸)

جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ کافر اور ذمی پر سلام نہ کیا جائے، بعض علماء کے نزدیک ذمیوں پر سلام کرنا جائز ہے۔ (۷۹)

⑤ مرد، کسی اجنبی عورت پر سلام نہ کہے، اسی طرح عورت اجنبی مرد کو سلام نہ کرے (۸۰) بعض فاسقوں پر بھی سلام سے احتراز کرنے کے متعلق فقہاء نے تصریح کی ہے، مثلاً شرابی یا آوارہ شخص کو سلام نہ کرنا بہتر ہے۔ (۸۱) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لا تسلموا علی شربة الخمر (۸۲) بچوں پر سلام کرنا جائز ہے کیونکہ اس طرح ان کی تربیت ہوگی، ہاں اگر کوئی بچہ مراہق ہے اور سلام سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر ترک سلام کرنا چاہیے۔ (۸۳)

(۷۶) شرح مسلم للنووي، کتاب الاستیذان: ۲/۲۱۳، ردالمحتار، کتاب الحظروالإباحة: ۵/۲۹۳، فتح الباري: ۱۱/۱۶

(۷۷) ردالمحتار، کتاب الحظروالإباحة: ۵/۲۹۳، شرح مسلم للنووي، کتاب الاستیذان: ۲/۲۱۳، فتح الباري: ۱۱/۱۶

(۷۸) ردالمحتار، کتاب الحظروالإباحة: ۵/۲۹۲، شرح مسلم للنووي، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرذ عليهم: ۲/۲۱۳

(۷۹) ردالمحتار، کتاب الحظروالإباحة: ۵/۲۹۲

(۸۰) ردالمحتار، کتاب الحظروالإباحة: ۵/۲۶۱، شرح مسلم للنووي، باب استحباب السلام علی الصبيان: ۲/۲۱۵، مرقاة شرح مشکاة، کتاب الأدب: ۹/۵۰

(۸۱) ردالمحتار، کتاب الحظروالإباحة: ۵/۲۹۴

(۸۲) الأدب المفرد (مع فضل اللہ الصمد): ۲/۴۷۲

(۸۳) عمدة القاري: ۲۲/۲۴۳، فتح الباري، کتاب الاستیذان، باب التسليم علی الصبيان: ۱۱/۳۹

⑥ بعض صورتوں میں سلام کا حکم لاگو نہیں ہوتا، مثلاً کوئی کھانا کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے یا بیت الخلاء اور غسل خانے میں ہے، یا سو رہا ہے یا نماز میں مصروف ہے یا مطالعہ میں مشغول ہے تو ان صورتوں میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ (۸۴)

ہاں اگر کوئی کھانے پر بیٹھا ہے لیکن لقمہ ابھی منہ میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں سلام کیا جاسکتا ہے۔ (۸۵)  
 امام کے اندر اگر تہہ بند جسم پر ہے تو اس پر سلام کیا جاسکتا ہے لیکن تہہ بند کے بغیر ہے تو پھر سلام کرنا جائز نہیں۔ (۸۶)

⑦ سلام یقیناً باہمی محبت و مودت کا ذریعہ و وسیلہ ہے، خاص کر اس وقت جب سلام دل کی گہرائیوں سے کیا جائے اور اس کے معنی کی طرف دھیان رہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں مہرے شر اور ہر قسم کے شر سے سالم و محفوظ رہیں اور اللہ کی سلامتی آپ کی شامل حال رہے، جب اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ سلام کیا جائے گا تو اس کی برکتیں سامنے آئیں گی۔ (۸۷)

(۸۴) ردالمحتار، کتاب الحظر والإباحة: ۲۹۵/۵، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ: ۴۵۶/۱

(۸۵) ردالمحتار، کتاب الحظر والإباحة: ۲۹۵/۵، ردالمحتار، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة

وما یکرہ: ۴۵۶/۱

چنانچہ علامہ ابن عابدین نے اشعار کے اندر جن لوگوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، ان کا ذکر کیا ہے:

”رد السلام واجب إلا علی	من فی الصلاة أو بأکل شغلاً
أو شرب أو قراءة أو أدعیة	أو ذکر أو فی خطبة أو تلیة
أو فی قضاء حاجة الإنسان	أو فی إقامة أو الأذان
أو سلم الطفل أو السكران	أو شابة یخشى بها أفتان
أو فاسق أو ناعس أو نائم	أو حالة الجماع أو ندائکم
أو کان فی الحمام أو مجنوناً	فواحد من بعدها، عشرون

(ردالمحتار، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیها: ۴۵۷/۱)

(۸۶) عمدة القاری: ۲۳۶/۲۲

(۸۷) عمدة القاری: ۲۳۶/۲۲، فتح الباری، کتاب الصلاة، باب التشهد فی الآخرة: ۳۱۲/۲، شرح مسلم

للنووی: ۲۱۳/۲

③ ٹیلی فون وغیرہ پر جب گھنٹی بجتی ہے تو لوگ ریسپور اٹھا کر ”ہیلو“ کہتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں، صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ”ہیلو“ کے بجائے ”السلام علیکم“ کہا جائے۔

④ سلام کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے سے جان پہچان ہو، سلام اسلامی معاشرے کا ایک عام نتیجہ ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ ہیں ”إن من أشرط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين وأن لا يسلم إلا على من يعرف“ (۸۸) یعنی ”قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا اور اس میں اس نے دو رکعتیں تک نہیں پڑھی ہوں گی اور یہ کہ وہ صرف شناخت والے پر سلام کہے گا“۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے ”إن من أشرط الساعة السلام للمعرفة“ (۸۹) یعنی ”قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ جان پہچان والے پر سلام کیا جائے گا“۔

چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں باب ”السلام للمعرفة وغير المعرفة“ اسی سلسلے میں قائم فرمایا ہے جس میں انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے، اس میں ہے ”... تقرأ السلام على من عرفت، وعلى من لم تعرف“۔

### ۱۰- باب : آية الْحِجَابِ .

٥٨٨٥/٥٨٨٤ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو وَهَبٍ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرٍ سِنِينَ ، مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ ، فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرًا حَيَاتِهِ ، وَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسَ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أَنْزَلَ ، وَقَدْ كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرِزْبِ ابْنَةِ جَحْشٍ ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا ،

(۸۸) شعب الإيمان للبيهقي، باب في مقاربة وموادة أهل الدين: ۶/۴۳۱، (رقم الحديث: ۸۷۷۸)، فتح

التاری: ۱۱/۲۵، عمدة القاري: ۲۲/۲۳۷

(۸۹) فتح الباري: ۱۱/۲۵، عمدة القاري: ۲۲/۲۳۷

وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَطَالُوا الْمَكْثَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَخْرَجَ وَخَرَجَتْ مَعَهُ كَثِيرٌ يَخْرُجُوا ، فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَشَبَتْ مَعَهُ ، حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ ، ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ خَرَجُوا ، فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَمَرَّقُوا ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَعَتْ مَعَهُ ، حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ ، فَظَنَّ أَنَّ قَدْ خَرَجُوا ، فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ ، فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فَأَنْزَلَ آيَةَ الْحِجَابِ ، فَضَرَبَ بِيَدِي وَيَنَّهُ سِتْرًا .

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ احزاب کی آیتِ حجاب کی شان نزول والی روایت ذکر

کی ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے وقت دس سال کا تھا، میں آپ کی خدمت میں دس سال تک رہا، میں پردہ کے حکم کے متعلق لوگوں سے زیادہ واقف ہوں جب وہ نازل ہوا، ابی بن کعب (جیسے قاری قرآن) مجھ سے اس کے متعلق پوچھتے تھے، آیت حجاب سب سے پہلے جس وقت آپ نے زینت بنت جحش کے ساتھ زفاف کیا تھا، اس وقت نازل ہوئی، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنے تھے، آپ نے لوگوں کی دعوت کی، اکثر لوگ دعوت کھا کر چلے گئے، لیکن کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے اور بہت دیر تک ٹھہرے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور باہر نکل گئے، تاکہ یہ لوگ چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے دروازے کی چوکھٹ تک پہنچے، پھر آپ کو خیال آیا کہ لوگ چلے گئے ہوں گے تو آپ واپس ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا یہاں تک کہ حضرت زینب کے مکان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گئے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے، میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا، یہاں تک کہ حجرہ عائشہ کی چوکھٹ کے پاس پہنچے، پھر آپ نے خیال کیا کہ لوگ چلے گئے ہوں گے پھر آپ لوٹے، میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا تو دیکھا کہ لوگ چلے گئے تھے، تب آیت حجاب (پردہ کی آیت) نازل ہوئی تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا۔

(۵۸۸۵) : حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ : قَالَ أَبِي : حَدَّثَنَا أَبُو مِجَلَزٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ ، دَخَلَ الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مِنْ قَوْمٍ وَقَعَدَ بَقِيَّةَ الْقَوْمِ ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ ، فَأَذَا الْقَوْمَ جُلُوسٌ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ . الْآيَةَ .

قال أبو عبد الله : فيه من الفقه : أنه لم يستأذنيهم حين قام وخرج ، وفيه : أنه تبيها للقيام وهو يريد أن يقوموا . [ر : ٤٥١٣]

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا تو لوگوں نے آ کر کھانا کھایا اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو آپ نے یوں ظاہر کیا کہ گویا اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن لوگ نہ اٹھے، جب آپ نے یہ صورت حال دیکھی تو اٹھ گئے، جب آپ اٹھے تو ان میں کچھ لوگ تو چلے گئے لیکن کچھ لوگ بیٹھے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس جانا چاہا لیکن دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ اٹھے اور چلے گئے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی (کہ لوگ چلے گئے ہیں) آپ تشریف لائے اور اندر داخل ہوئے، میں بھی اندر جانے لگا کہ آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے آیتِ حجاب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ نازل فرمائی۔

سورۃ احزاب کی یہ آیت حکم حجاب کے متعلق سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت ہے، یہ آیت سن تین ہجری یا پانچ ہجری کو نازل ہوئی ہے۔ (۱) حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے پانچ ہجری کے قول کو ترجیح دی ہے۔ (۲)

قرآن کریم میں پردہ نسواں سے متعلق سات آیتیں نازل ہوئی ہیں، چار سورۃ احزاب میں اور تین

(۱) الإصابة في تمييز الصحابة، حرف الزاي، القسم الأول: ۳/۴، ترجمة زينب بنت جحش، و الاستيعاب لابن عبد البر (على هامش الإصابة): ۳/۴، ترجمة زينب بنت جحش، والأدب المفرد (مع فضل الله الصمد)، باب كيف نزلت آية الحجاب: ۲/۴۹۵

(۲) التفسير للحافظ بن كثير رحمه الله: ۳/۵۰۳، (سورة الأحزاب)

سورہ نور میں ہیں۔ (۳)

## پردہ کے مراتب

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ”احکام القرآن“ میں پردہ کے تین مراتب لکھے ہیں:

① حجاب الأشخاص بالبیوت... یعنی گھروں میں رہا جائے اور عورتیں بلا ضرورت باہر نہ نکلیں،

قرآن کریم کی آیت ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾... میں اس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ (۴)

② حجاب بالبرقع... ضرورت کے مواقع پر کوئی عورت باہر نکلے تو وہ سر سے پاؤں تک برقع یا لمبی

چادر میں مستور ہو اور جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ (۵)

③ تیسرا درجہ یہ ہے کہ سر سے پیر تک سارا بدن مستور ہو، مگر چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہوں، جن حضرات

نے سورہ نور کی آیت ﴿إِلَّا مَظْهَرُ مِنْهَا﴾ کی تفسیر چہرے اور ہتھیلیوں سے کی ہے ان کے نزدیک وجہ اور کفین

عورت نہیں، حضرات حنفیہ کا اصل مسلک یہی ہے، جیسا کہ پہلے نقل کیا جا چکا ہے، بشرطیکہ خوفِ فتنہ اور لذت

حاصل کرنے کا قصد نہ ہو اور چونکہ غالب احوال میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے متاخرین حنفیہ نے مطلقاً عدم

جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ (۶)

## امام بخاری کا مقصد

حضرات شراح کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد آیت حجاب کا شان نزول

بیان کرنا ہے۔ (۷) شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وجہ یہ ہے کہ امام بخاری

(۳) سورۃ احزاب میں آیت نمبر: ۳۳، ۵۳، ۵۵، ۵۹ اور سورۃ نور میں آیت نمبر: ۳۰، ۳۱ اور ۶۰ نازل ہوئی ہیں۔

(۴) احکام القرآن: ۴۵۴/۳، سورۃ الاحزاب

(۵) احکام القرآن: ۴۵۸/۳، سورۃ الاحزاب

(۶) احکام القرآن: ۴۶۰/۳، سورۃ الاحزاب

(۷) الأبواب والتراجم، باب آية الحجاب: ۱۲۲/۲

آیتِ حجاب کا مصداق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ (۸)

چونکہ استیذان کے ابواب چل رہے ہیں اور استیذان کا ایک مقصد اور مصلحت بے پردگی سے بچنا بھی

ہے، اس لیے پردہ اور حجاب کی آیت پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا۔ (۹)

۵۸۸۶ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ  
أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوَّجَ النَّبِيَّ ﷺ ،  
قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَحْجُبْ نِسَاءَكَ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَفْعَلْ ،  
وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَخْرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ،  
وَكَانَتْ أَمْرًا طَوِيلَةً ، فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ ، فَقَالَ : عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ ،  
حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ ، قَالَتْ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ . [ ر : ۱۴۶ ]

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت عمرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ میں رکھیے، حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، رفع حاجت کے لیے رات ہی کو نکلتی تھیں، چنانچہ حضرت سودہ بنت زمعہ باہر نکل کر گئیں، وہ ایک دراز قد خاتون تھیں، حضرت عمرؓ اس وقت ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ ”اے سودہ! میں نے تمہیں پہچان لیا“..... صرف اس شوق میں ایسا کہا کہ حجاب کا حکم نازل ہو، حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتِ حجاب نازل فرمائی۔

قال أبو عبد الله: فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج...

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیتِ حجاب کی شان نزول والی حدیث سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ میزبان کو باہر جانے اور مجلس سے کھڑے ہونے میں مہمانوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں جیسا کہ حضور ﷺ بغیر اجازت کے باہر گئے اور دوم یہ کہ مہمانوں کو اپنے کسی عمل اور حرکت سے جانے کے لیے اشارہ دیدینا جائز ہے، جیسا کہ حضور ﷺ کھڑے ہو کر باہر گئے لیکن مقصود مہمانوں کو تنبیہ کرنا تھا کہ وہ چلے جائیں، امام

بخاری کا یہ قول ابو ذر اور ابوالوقت کے نسخوں کے علاوہ باقی نسخوں میں نہیں ہے۔ (۱۰)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا یہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے کیونکہ امام نے آگے اس پر مستقل باب قائم کیا ہے۔

باب کے اندر امام بخاری نے آیت حجاب کی شان نزول کے طور پر حضرت زینب اور حضرت سودہ دونوں کے واقعات ذکر کیے، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اس طرح کہ پہلے حضرت سودہ کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد حضرت زینب کے ویسے کا واقعہ پیش آیا۔ (۱۱)

### ۱۱۔ باب : الأستئذان من أجل البصر .

۵۸۸۷ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ مَا هُنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أَطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِذْرَى يَحْكُ بِهٖ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : (لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُ ، لَطَعَنْتُ بِهٖ فِي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الأَسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصْرِ) . [ ر : ۵۵۸۰ ]

یعنی استیذان کا حکم نظر پڑ جانے کی وجہ سے ہے، مقصد یہ ہے کہ اجازت طلب کیے بغیر اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہوگا تو گھر کی خواتین پر نظر پڑ سکتی ہے، اس حکمت کی بناء پر استیذان کا حکم مشروع کیا گیا ہے۔  
روایت میں ہے کہ ایک شخص نے سوراخ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمروں میں سے کسی ایک حجرے میں جھانک کر دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سر کھلانے کا آلہ تھا جس سے آپ اپنا سر کھجلا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو جھانک کر دیکھے گا تو میں اسے تری آنکھ میں مارتا، اجازت لینے کا حکم تو دیکھنے ہی کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے۔

مِذْرَى : سر کھلانے کے آلے کو کہتے ہیں، یہ روایت کتاب اللباس میں باب الاغتسال کے تحت گزر چکی ہے۔

(۱۰) إرشاد الساري: ۲۴۴/۱۳، فتح الباري: ۲۷/۱۱، عمدة القاري: ۲۳۸/۲۲

(۱۱) فتح الباري: ۲۸/۱۱، إرشاد الساري: ۲۴۴/۱۳، ۲۴۵



۵۸۸۸ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَشْقَصٍ ، أَوْ : بِمَشَاقِصَ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتَلُ الرَّجُلُ لِيَطْعَنَهُ . [ ۶۵۰۴ ، ۶۴۹۴ ]

باب کی اس دوسری روایت میں حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں جھانک کر دیکھا، حضور ﷺ تیر کا پھل لے کر کھڑے ہو گئے، وہ منظر مری نگاہوں کے سامنے ہے کہ حضور ﷺ اس آدمی کو وہ پھل مارنے کے لیے تلاش کر رہے تھے۔

مشقص (میم کے کسرہ، شین کے سکون اور قاف کے فتح کے ساتھ) نصل السهم کو کہتے ہیں یعنی تیر کا پھل۔

يختل الرجل : يأتيه من حيث لا يشعر : آدمی کے پاس ایسی جہت سے آنا جہاں اس کا خیال نہ ہو۔ ليطعنه : طعن کے ایک معنی نیزہ اور دھاری دھار چیز مارنے کے بھی آتے ہیں، یہاں یہی معنی مراد ہیں۔

## ۱۲ - باب : زَنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ .

۵۸۸۹ : حَدَّثَنِي الْحَمِيدِيُّ : حَدَّثَنَا سَعْيَانُ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمْ أَرَّ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ .  
وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ : (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّوْنِ ، أَذْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَرَزْنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ ، وَزَنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ) . [ ۶۲۳۸ ]

(۵۸۸۸) الحدیث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الذیات، باب من أخذ حقه، وأوقعت ذون السلطان (رقم الحدیث: ۶۸۸۹)، وفي باب من أطلع في بیت قوم ففقراً عينه، فلاذية له (رقم الحدیث: ۶۹۰۰)، وأخرجه مسلم في كتاب الأداب، باب تحريم النظر في بیت غیره (رقم الحدیث: ۲۱۵۷)، وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان: ۳۴۳/۴ (رقم الحدیث: ۵۱۷۱)، وأخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان، باب من اطلع في دار قوم بغیر إذنه (رقم الحدیث: ۲۷۰۸)

(۵۸۸۹) الحدیث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب القدر: ۹/۹ باب: (وحرام على قرية أهلكتها أنهم لا يرجعون) [ الأنبياء: ۹۵ ] (رقم الحدیث: ۶۶۱۲)، وأخرجه مسلم في كتاب القدر، باب: قدر على ابن آدم حظّه من الزنا وغيره (رقم الحدیث: ۶۲۴۳)، وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب ما يومر به من غض =

## ترجمہ الباب کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ شرم گاہ کے علاوہ دوسرے اعضاء جسم سے بھی زنا کا ارتکاب ہو سکتا ہے، البتہ اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، مثلاً شہوت کے ساتھ دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، شہوت کی باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، شہوت کے ساتھ بوسہ لینا ہونٹوں کا زنا ہے، شہوت کے ساتھ پکڑنا ہاتھوں کا زنا ہے، زنا کے قصد سے چلنا پاؤں کا زنا ہے۔ چنانچہ ابن جریر کی ایک روایت میں ہے ”زنا العينين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي“ (۱۲)

باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے، وہ اولاً حضرت ابن عباسؓ سے موقوفاً نقل کی اور یہ ناقص ہے، اس کے بعد معمر کے طریق سے اس کو مرفوعاً نقل کیا اور وہ کامل ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: ”ما رأيت شيئاً أشبه باللمم من قول أبي هريرة...“ حضرت ابن عباسؓ اصل میں قرآن کریم کی آیت میں واقع لفظ ”اللمم“ کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، آیت کریمہ میں ہے ﴿الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم﴾..... (۱۳) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا ایک قول جس قدر ”لمم“ کے مشابہہ اور موافق ہے، اس طرح کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی یعنی حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنی ایک روایت میں جو چیزیں بیان کی ہیں، مجھے وہی چیزیں ”لمم“ کا مصداق معلوم ہوتی ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے زنا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اسے ضرور ملے گا، چنانچہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے اور نفس خواہش اور تمنا کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

لمم نفسانی خواہشات اور چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں (۱۴) مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ”فیض الباری“ میں فرماتے ہیں:

= البصر: ۲/۲۴۷ (رقم الحدیث: ۲۱۵۳)

(۱۲) إرشاد الساري: ۱۳/۲۴۷

(۱۳) سورة النجم، آیت / ۳۲

(۱۴) إرشاد الساري: ۱۳/۲۴۶، عمدة القاري: ۲۲/۲۴۰، فتح الباري: ۱۱/۶۱۶

یرید ابن عباس أن یستفید من حدیث أبی ہریرۃ هذا: تفسیر قولہ تعالیٰ: ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾ "فجعل دواعی الزنا، وما یقع من الرجل فی سلسلۃ الزنا من المعاصی کلها صفائر ولمماء، فإن غشی الزنا تحسب کلها من الزنا، وتنقلب کبائر، وإلا فہی صفائر تصلح أن تغفرلہ، ویعفی عنہا، فاستفاد منہ بعضهم تعریف الصغیرۃ، وقال: إن المعاصی علی نحوین: منها ماتقع تمہیداً، ومنها ماتكون مقصداً، فاللتی تقع فی السلسلۃ، وتكون وسیلۃ لتحصیل منتہاها: ہی الصفائر، وذلك المنتہی هو الکبیرۃ، قلت: ولا بد فیہ من تنبیہ، وهو أن السمع والبصر والنظر قد تصیر مقصودۃ أیضاً، وذلك حین یعجز عن المنتہی، أعنی الزنا، فیرضی بتلك الأمور، ویجعلها مقصودۃ لحظ نفسہ، وحينئذ لاریب فی كونها کبیرۃ، نعم! إن أتى بہا فی سلسلۃ الزنا ثم امتنع عنہ مخافۃ ربہ جلّ وعلا، فینزل امتناعہ عن الزنا منزلة التوبۃ، ویرجی لہ أن تغفرلہ تلك السلسلۃ بأسرها، إذا أتبعها بحسنۃ، فإن الحسنات یذهبن السيئات... (۱۵)

یعنی "حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے چند باتیں مستنبط کرنا چاہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے قول: ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾ کی تفسیر، چنانچہ انہوں نے اسباب زنا اور زنا کے سلسلہ میں آدمی جن گناہوں میں واقع ہوتا ہے، ان سب کو صفائر اور "لمم" قرار دیا ہے۔ پس اگر وہ شخص زنا میں پڑ گیا تو یہ سب گناہ زنا شمار ہوں گے اور پلٹ کر کبائر ہو جائیں گے۔ ورنہ تو یہ صفائر ہی رہیں گے، جن کی معافی و مغفرت ہو سکتی ہے۔ بعض حضرات نے اس سے صغیرہ گناہ کی تعریف بھی مستنبط کی ہے، چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ معاصی دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو تمہید کے طور پر ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو مقصد ہوتے ہیں۔ پس جو گناہ اپنے منتہی کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں وہ صفائر ہیں اور وہ منتہی کبیرہ ہے۔ لیکن اس میں ایک تنبیہ ضروری ہے اور وہ یہ کہ کان، آنکھ اور نظر بھی کبھی مقصود

بن جاتے ہیں اور یہ اس وقت جب آدمی منتہی یعنی زنا سے عاجز آجائے تو وہ انہی امور پر آمادہ اور قانع ہو جاتا ہے اور اپنے حظ نفس کے لیے انہی کو مقصود بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کے کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں اگر اس نے یہ گناہ زنا کے لیے کیے پھر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ گناہ سے رک گیا تو اس کا زنا سے رکنا توبہ کے قائم مقام ہو جائے گا اور رحمت خداوندی سے امید ہے کہ یہ تمام ذرائع اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے، چونکہ خداوند قدوس کے خوف کی بدولت زنا سے باز رہنا توبہ کے قائم مقام ہے، اور توبہ نیکی ہے اور نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔“

والفرج یصدق ذلك كله ويكذبه

یعنی آنکھ کا زنا دیکھنا اور زبان کا زنا بات کرنا ہے۔ نفس خواہش و تمنا کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے یعنی اگر وہ واقعتاً زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو شرم گاہ کی طرف سے اس تمنا اور خواہش کی تصدیق ہو جاتی ہے اور اگر وہ مبتلا نہ ہو تو اس کی تکذیب ہو جاتی ہے۔ (۱۶)

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے اس کے ایک اور معنی بھی بیان کیے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”معنی تصدیق الفرج وتكذيبه أن الفرج إن كان يتأثر بزننا العين كالقابلة، ويزنا اليد كاللمس ونحوهما بأن يحصل في الفرج شبيء من الحس والحركة والانتشار، تكون هذه الأمور أي: زنى الجوارح المذكور في الحديث في حكم الزنا، وإن لم يتأثر الفرج، ولم ينتشر الآلة، فلا تكون هذه الأمور في حكم الزنا بل أدنى منه جريمة“ واللہ أعلم. (۱۷)

یعنی ”شرم گاہ کی جانب سے تصدیق و تکذیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرم گاہ اگر آنکھ کے زنا مثلاً دیکھنے سے یا ہاتھ کے زنا مثلاً چھونے وغیرہ سے متاثر ہوئی، بائیں طور کہ شرم گاہ میں حرکت و انتشار وغیرہ محسوس ہوا تو یہ تمام امور یعنی حدیث میں مذکور جوارح کا زنا، زنا کے حکم میں ہوگا اور اگر شرم گاہ متاثر نہ ہوئی اور آلہ منتشر نہ ہوا تو یہ امور زنا کے حکم میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اس سے کم تر جرم و گناہ ہوں گے۔“

(۱۶) لامع الدراري: ۵۲/۱۰، فتح الباري: ۶۱۶/۱۱

(۱۷) الأبواب والتراجم: ۱۲۲/۲، کتاب الاستیذان، باب زنى الجوارح دون الفرج اور لامع الدراري: ۵۲/۱۰ پر بھی یہ عبارت معمولی سے تغیر کے ساتھ موجود ہے۔

## ۱۳ - باب : التَّسْلِيمِ وَالْإِسْتِذَانِ ثَلَاثًا .

۵۸۹۰ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنْثَرِ : حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ ثَلَاثًا ، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا . [ ر : ۹۴ ]

۵۸۹۱ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ : كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَدْعُورٌ ، فَقَالَ : أَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ : مَا مَعَكَ ؟ قُلْتُ : أَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( إِذَا أَسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ) . فَقَالَ : وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيْتَهُ ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ فَقَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ : وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ .

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَيْرَةَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ : بِهَذَا . [ ر : ۱۹۵۶ ]

## ترجمہ الباب کا مقصد

استیذان اور سلام تین مرتبہ مشروع ہیں، سلام سے مراد سلام استیذان ہے، عام سلام ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اس میں تکرار نہیں ہوتا، ہاں اگر مجمع بڑا ہے اور ایک بار سب کو سلام پہنچانا مشکل ہے تو ایسی صورت میں مکرر سلام کیا جاسکتا ہے، اسی طرح اگر مخاطب نے سلام سنا نہیں تو بھی اسے سنانے کے لیے دوبارہ سلام کیا جاسکتا ہے۔ (۱۸) باب کی پہلی حدیث کتاب العلم میں باب من أعاد الحدیث ثلاثاً لیفہم کے تحت گزر چکی ہے۔ (۱۹)

باب کی دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس

(۱۸) فتح الباری : ۳۲/۱۱ ، إرشاد الساری : ۲۴۸/۱۳

(۱۹) صحیح البخاری ، کتاب العلم ، باب من أعاد الحدیث ثلاثاً لیفہم عنہ ، رقم الحدیث : ۹۴

میں بیٹھا تھا کہ ابوموسیٰ اشعریؓ آئے، وہ خوف زدہ تھے، کہنے لگے میں نے حضرت فاروق اعظم سے تین مرتبہ اجازت طلب کی، انھوں نے اجازت نہیں دی تو میں واپس ہوا، انھوں نے پوچھا تمہیں اندر آنے سے کس نے روکا، میں نے کہا میں نے تین مرتبہ اجازت طلب کی، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، اس لیے میں واپس ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”إذا استأذن أحدكم ثلاثاً، فلم يؤذن له، فليرجع“۔ یعنی ”تم میں سے کوئی شخص اگر تین بار اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ دی گئی تو وہ واپس ہو جائے“۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا، واللہ! تمہیں اس پر گواہ پیش کرنا ہوگا، ابوموسیٰ نے پوچھا تم میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے، حضرت ابی بن کعبؓ نے کہا کہ بخدا! تیری گواہی کے لیے قوم کا کس شخص کھڑا ہوگا، حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سب سے کم سن تھا، میں ابوموسیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا اور حضرت عمرؓ کو بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔

فقال: واللہ، لتقیمن علیہ بینة:

صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے ”وإلا أوجعتك“ (۲۰) اور کبیر بن الأشج کی روایت میں ہے ”فواللہ، لا وجعن ظهرك وبطنك، أولئأتیني بمن يشهد لك علی هذا“ (۲۱) (یعنی گواہ پیش کر دیں ورنہ آپ کو سزا دیتا ہوں)۔

فأخبرت عمر أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك:

حضرت فاروق اعظمؓ کی خدمت میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے لیے گواہی دینے والے حضرت ابوسعید خدریؓ تھے جو اس وقت سب سے زیادہ کم سن تھے۔

مسلم شریف میں حضرت ابوبردہؓ کی ایک روایت ہے کہ یہ گواہی حضرت ابی بن کعبؓ نے دی تھی۔ (۲۲) لیکن ان دونوں میں یوں تطبیق ہو سکتی ہے کہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی گواہی کے بعد حضرت ابی بن کعبؓ نے بھی گواہی دی ہو۔ (۲۳)

(۲۰) صحیح مسلم، کتاب الآداب، باب الاستیذان: ۲/۲۱۰

(۲۱) صحیح مسلم، کتاب الآداب، باب الاستیذان: ۲/۲۱۱

(۲۲) صحیح مسلم، کتاب الآداب، باب الاستیذان: ۲/۲۱۱

(۲۳) فتح الباری: ۱۱/۳۴

وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة، حدثني يزيد عن بسر، سمعت أبا سعيد بهذا۔  
 او پر روایتِ موصولہ میں عنعنہ ہے، ”بسر عن أبي سعيد“ ہے، اس تعلق میں سماع کی تصریح ہے، اس تصریح  
 کی وجہ سے امام بخاری نے یہ تعلق یہاں ذکر فرمائی (۲۳) ابو نعیم نے اس تعلق کو موصولاً نقل کیا ہے۔ (۲۵)  
 حضرت فاروق اعظمؓ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے گواہ پیش کرنے کے لیے کہا، حالانکہ وہ ایک  
 عادل اور ثقہ صحابی تھے، اس کی وجہ ایک روایت میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے ”أما إنني لم أتهمك،  
 ولكنني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم“ (۲۶)  
 اور موطاً کی روایت میں ہے ”فقال عمر لأبي موسى: أما إنني لم أتهمك، ولكنني خشيت أن  
 يتقوّل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم“ (۲۷) یعنی ”میں نے تمہیں متہم نہیں سمجھا،  
 (آپ کے صدق و سچائی میں مجھے شک نہیں) البتہ میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کا  
 افتراء نہ کریں۔“

اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صاحب منزل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ کسی کام میں  
 مشغول ہے تو سلام استیذان کا جواب نہ دے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بسا اوقات کسی بڑے عالم اور بڑے  
 آدمی کو ایک مسئلہ اور حکم معلوم نہیں ہوتا اور چھوٹے کو معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو یہ حکم معلوم  
 نہیں تھا۔ (۲۸)

فائدہ

یہاں باب کی پہلی حدیث میں ایک راوی عبد اللہ بن شہنی ہیں جو مختلف فیہ ہیں، عجلی نے ان کی توثیق کی

(۲۴) عمدة القاري: ۲۲/۲۴۲، فتح الباري: ۱۱/۳۴، إرشاد الساري: ۱۳/۲۴۹

(۲۵) عمدة القاري: ۲۲/۲۴۲، فتح الباري: ۱۱/۳۴، إرشاد الساري: ۱۳/۲۴۹

(۲۶) شرح صحيح البخاري لابن بطال: ۹/۲۵

(۲۷) الموطأ للإمام مالك: ۲/۹۶۳، كتاب الاستيذان

(۲۸) فتح الباري: كتاب الاستيذان: ۱۱/۳۷

ہے۔ (۲۹) جب کہ ابو زرعا اور ابن معین نے انھیں ”بشیر“ کہا ہے (۳۰)، امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا  
لیس بالقوی، (۳۱) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الہدی الساری میں ان کا ذرا کیا ہے۔ (۳۲)  
ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ ان روایات میں غلطی کرتے ہیں جو  
انھوں نے اپنے چچا ثمامہ بن عبد اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے نقل کی ہوں، ثمامہ سے ان کی روایات صحیح  
ہیں (۳۳) اور یہاں بخاری کی روایت ثمامہ سے ہے۔

#### ۱۴ - باب : إِذَا ذُهِبَ الرَّجُلُ فَبَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ .

قَالَ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (هُوَ إِذْنُهُ) .  
۵۸۹۲ : حَدَّثَنَا أَبُو نَعْمٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ :  
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ : أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  
ﷺ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ ، فَقَالَ : (أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَلْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَأَذْعُهُمْ إِلَيَّ) . قَالَ : فَأَتَيْتُهُمْ  
فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَقْبَلُوا فَأَسْتَأْذَنُوا ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا . [۶۰۸۷]

(۲۹) تہذیب التہذیب: ۳۸۸/۵، الترجمة: ۶۵۹، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل: ۲۱۴  
(۳۰) إرشاد الساری: ۲۴۷/۱۳، مکر تہذیب التہذیب: ۳۸۸/۵ اور تعلیقات الرفع والتکمیل لعبد الفتاح أبي  
غده: ۲۱۴ میں لیس بشیر، کا قول صرف ابن معین کی طرف منسوب ہے اگرچہ ارشاد الساری میں ابن معین اور ابو زرعا  
دونوں کی طرف نسبت کی گئی ہے، البتہ ”صالح“ کہنے میں ابو زرعا ابن معین کے ساتھ ہیں۔  
(۳۱) تہذیب التہذیب: ۳۸۸/۵، الترجمة: ۶۵۹، تہذیب الکمال: ۲۷/۱۷، الرفع والتکمیل فی الجرح  
والتعدیل: ۲۱۴، الترجمة: ۵۳۲۱  
(۳۲) ہدی الساری مقدمہ فتح الباری: ۴۱۶، الفصل التاسع نیز تہذیب التہذیب: ۳۸۸/۵ میں بھی ابن معین  
اور ابو زرعا کی توثیق منقول ہے۔

(۳۳) إرشاد الساری: ۲۴۷/۱۳، اور امام بخاری بھی عبد اللہ بن العثمی کی ان روایتوں سے استدلال کرتے ہیں جو انھوں  
نے ثمامہ سے نقل کی ہو، چنانچہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: ”قلت: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة  
فعنده عنه أحاديث“ (ہدی الساری مقدمہ فتح الباری: ۴۱۶)

(۵۸۹۲) الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم =



## ترجمۃ الباب کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ کسی نے کسی شخص کو مدعو کیا ہے اور وہ آ گیا تو کیا اسے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی؟ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث مرفوعہ نقل کی کہ ہو اذنہ یعنی نئے سرے سے اجازت کی ضرورت نہیں، دعوت دینا اور بلانا ہی اجازت ہے۔ یہ تعلق امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام ابوداؤد نے سنن میں موصولاً نقل کی ہے۔ (۳۳)

حدیث باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اہل صفہ کو بلاؤ، چنانچہ انھوں نے بلایا، وہ آئے اور اجازت طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیدی۔

اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے تعلق میں ”ہو اذنہ“ کہا گیا تھا کہ دعوت دینا اجازت ہے اور یہاں حدیث میں اجازت طلب کی گئی ہے بظاہر دونوں میں تعارض ہے۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

”وَأَجِيب: بَأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِطَوْلِ الْعَهْدِ وَقِصْرِهِ فَإِنَّ طَالَ الْعَهْدَ بَيْنَ الطَّلَبِ وَالْمَجِيبِ

احتجاج إلى استئذان الإذن، وإلا فلا... والاستئذان على كل حال أحوط“۔ (۳۵)

یعنی ”اس کا جواب یہ ہے کہ استیذان کا حکم وقت کے طویل اور کم ہونے کے اعتبار سے مختلف ہے، اگر دعوت دینے اور حاضر ہونے کے درمیان وقت طویل ہو تو نئے سرے سے اجازت لینا پڑے گی ورنہ تو نہیں..... احتیاط اسی میں ہے کہ ہر حال میں اجازت طلب کی جائے“۔

## ۱۵ - باب : التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبِيَّانِ .

۵۸۹۳ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ النَّبَّيْ ، عَنْ أَنَسِ

= وَأَصْحَابِهِ، وَتَخْلِيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا (رقم الحديث: ۶۰۸۷): ۲۳۷۰/۵ وكذا أخرجه الترمذي في كتاب الزهد والنسائي في الرقاق

(۳۴) الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد): ۵۱۱/۲، رقم الحديث: ۱۰۷۶، باب دعاء الرجل إذنه، وسنن

أبي داود: ۳۴۹/۲، كتاب الأدب، باب في الرجل يدعي أن يكون ذلك إذنه

(۳۵) إرشاد الساري: ۲۵۰/۱۳

(۵۸۹۳) الحديث أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان عن أنس ابن مالك: ==

ابن مالک رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبِيَّانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا ، وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقَعْلُهُ .  
جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ بچوں پر سلام کرنا جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، ہاں اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ سلام کرنے سے خوف فتنہ ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔

### ۱۶ - باب : تَسْلِيمِ الرَّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ ، وَالنِّسَاءِ عَلَى الرَّجَالِ .

۵۸۹۴ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ قَالَ :  
كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قُلْتُ : وَلِمَ ؟ قَالَ : كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ ، تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ - قَالَ ابْنُ  
مَسْلَمَةَ : نَحَلِي بِالْمَدِينَةِ - فَتَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السَّلْقِ ، فَتَطْرَحُهُ فِي قَدِيرٍ ، وَتُكْرِمُ حَبَاتٍ مِنْ  
شَعِيرٍ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ أَنْصَرَفْنَا ، وَنَسَلَّمُ عَلَيْهَا فَتَقْدَمُهُ إِلَيْنَا ، فَتَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ  
وَلَا تَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ . [ ر : ۸۹۶ ]

۵۸۹۵ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَقَابِلٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ  
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ( يَا عَائِشَةُ هَذَا  
جَبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ) . قَالَتْ : قُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، تَرَى مَا لَا تَرَى ،  
تُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ .

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ . وَقَالَ يُونُسُ وَاللُّعْمَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : وَبَرَكَاتُهُ . [ ر : ۳۰۴۵ ]

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ مرد عورتوں پر اور عورت مردوں پر سلام کر سکتی ہے، بشرطیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری اس ترجمہ سے اس روایت کی تردید کرنا چاہتے ہیں جس میں مردوں کے عورتوں پر اور عورتوں کے مردوں پر سلام کو مکروہ کہا ہے۔

اسماء بنت یزید کی روایت میں اس کی تصریح ہے جس میں ہے ”مرّ علینا النبی صلی اللہ علیہ

= ۱۷۰۸/۴ (رقم الحدیث: ۲۱۶۸)، وكذا أخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان، باب ماجاء في التسليم  
على الصبيان: ۵۷/۵ (رقم الحدیث: ۲۶۹۶) وأخرجه في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة، باب  
التسليم على الصبيان وما زحتهم: ۹۰/۶ (رقم الحدیث: ۱۰۱۶۲) وأخرجه أبو داود في كتاب الاستئذان،  
باب في السلام على الصبيان: ۳۵۲/۴ (رقم الحدیث: ۵۲۰۲)

وسلم في نسوة فسلم علينا“ یعنی ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ہم خواتین پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر سلام کیا“۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کی تحسین کی ہے۔ (۳۶) لیکن چونکہ یہ روایت امام بخاری کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے اسے ذکر نہیں کیا۔

حضرات حنفیہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک غیر محرم اجنبی جوان عورت پر سلام کرنا جائز نہیں، اسی طرح بوڑھی مشہاۃ پر بھی سلام کرنا درست نہیں، ہاں کوئی بوڑھی عورت غیر مشہاۃ ہے تو اس پر سلام کیا جاسکتا ہے۔ (۳۷)

باب کی دوسری روایت میں حضرت جبریل علیہ السلام کا حضرت عائشہ پر سلام کا ذکر ہے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”وقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية، وحينئذ فتحصل المطابقة بين الترجمة والحديث، ويزول الإشكال“ (۳۸) یعنی ”حضرت جبریل علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، یوں ترجمہ اور حدیث میں مطابقت حاصل ہو جاتی ہے اور اشکال ختم ہو جاتا ہے۔“

باب کے آخر میں معمر کی متابعت کو امام بخاری نے کتاب الرقاق میں، یونس کی تعلیق کو مناقب میں موصولاً نقل کیا ہے، نعمان بن راشد کی تعلیق کو طبرانی نے موصولاً نقل کیا ہے۔ (۳۹)

۱۷ - باب : إِذَا قَالَ : مَنْ ذَا ؟ فَقَالَ : أَنَا .

۵۸۹۶ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دِينِ كَانَ عَلَى أَبِي ، فَدَقَقْتُ الْبَابَ ، فَقَالَ : (مَنْ ذَا) . فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ : (أَنَا أَنَا) . كَأَنَّهُ كَرِهَهَا .

(۳۶) الجامع للترمذی، کتاب الأدب: ۹۹/۲، باب ماجاء في التسليم على النساء

(۳۷) أوجز المسالك: ۱۰۵/۱۵، جامع السلام، العمل في السلام، وشرح صحيح مسلم للنووي: ۲/۲۱۵،

کتاب السلام، باب استحباب السلام على الضبيان

(۳۸) إرشاد الساري: ۲۵۲/۱۳

(۳۹) إرشاد الساري: ۲۵۲/۱۳، عمدة القاري: ۲۲/۲۴۲، فتح الباري: ۱۱/۴۱

روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟  
 ۳ نے کہا ”میں“۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں میں“ گویا کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا۔  
 چنانچہ ادب یہی ہے کہ استیذان کے وقت اپنا نام بتایا جائے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں اسی ادب کو بیان کیا ہے۔

### ۱۸ - باب : مَنْ رَدَّ لِقَالَ : عَلَيْكَ السَّلَامُ .

قَالَ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (هُوَ إِذْنُهُ) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (رَدَّ لِللَّائِكَةِ عَلَى آدَمَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) . [ر : ۵۸۷۳]  
 ۵۸۹۷ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا عُمَيْرُ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقَبْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) . فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ : (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، فَاَرْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) . فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ فِي الْآخِرَةِ : عَلَّمَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا) . وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ : (حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا) .

حَدَّثَنَا أَبُو بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ عُمَيْرِ اللَّهِ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا) . [ر : ۷۲۴]

### ترجمة الباب کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس ترجمہ الباب سے مقصد یہ ہے کہ سلام کا جواب دیتے ہوئے ”عَلَيْكَ

السلام “بھی کہہ سکتے ہیں اور ”السلام علیک“ بھی کہہ سکتے ہیں، لفظ ”علی“ کو مقدم بھی کر سکتے ہیں اور مؤخر بھی اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ واؤ کے بغیر جواب دے سکتے ہیں، مفرد کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ (۱)

افضل یہی ہے کہ جواب میں ”وعلیک السلام“ صیغہ جمع کے ساتھ جواب دیا جائے، اگرچہ مخاطب ایک ہو۔ (۲)

وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته

یہ حدیث ابھی موصولاً گذر چکی ہے، اس میں ”علیہ“ جار مجرور ”السلام“ پر مقدم ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ردالملائكة علی آدم: السلام علیک ورحمة الله - یعنی ”ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جواب میں کہا تھا: السلام علیک ورحمة اللہ“۔ اس میں ”السلام“ مقدم ہے، یہ تعلق بھی کتاب الاستیذان کے شروع میں موصولاً گذر چکی ہے۔

حدیث باب میں ”وعلیک السلام“ کے الفاظ آئے ہیں، اس میں بھی ”علیک“ مقدم ہے، یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں تفصیل کے ساتھ گذر چکی ہے۔ (۳)

ابو اسامہ کی تعلق کتاب الایمان والنذور میں موصولاً ذکر کی گئی ہے۔ (۴)

(۱) عمدة القاري: ۲۴۵/۲۲، إرشاد الساري: ۲۵۴/۱۳، فتح الباري: ۴۴/۱۱

(۲) وفی ردالمحتار: ۲۹۳/۵، والأفضل للمسلم أن يقول: السلام علیکم ورحمة الله وبركاته والمجيب كذلك یرد، وإرشاد الساري: ۲۵۶/۱۳، وكما أخرج البخاري من طريق معاوية بن قرة قال: قال لي أبي: يائني إذا مرّ بك الرّجل فقال: السلام علیکم، فلا تقل وعلیک، كأنك تخضّه بذلك وحدة ولكن قل: السلام علیکم، الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد): ۴۸۵/۲، ۴۸۶ (رقم الحديث: ۱۰۳۷)، باب كيف رُدّ السلام۔

(۳) صحيح البخاري: ۱/۱۶۷، كتاب الصلوة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوة كلّها في

الحضر والسفر، رقم الحديث: ۷۵۷

(۴) صحيح البخاري، كتاب الايمان والنذور، باب إذا حنت ناسياً في الايمان، رقم الحديث: ۶۶۶۷

## ۱۹ - باب : إِذَا قَالَ : فَلَانَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ .

۵۸۹۸ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ  
ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا : (إِنَّ جَبْرِيلَ  
يُقْرِئُكَ السَّلَامَ) . قَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . [ر : ۳۰۴۵]

## ترجمہ الباب کی غرض

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ شاید اختلاف روایات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی بعینہ یہی ترجمہ قائم کیا (۵) اور اس کے تحت دو حدیثیں ذکر کیں، ایک حدیث جو معنی تمیم کے ایک شخص سے مروی ہے۔ جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے اور ان سے میرے دادا نے یہ حدیث بیان کی کہ میرے والد نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ انہیں سلام کہہ آؤ۔ ”فأنته، فقلت: إن أبي يقريتك السلام، فقال: عليك وعلى أبيك السلام“ یعنی ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد آپ کو سلام کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عليك وعلى أبيك السلام“ اس کے بعد امام ابو داؤد نے مذکورہ حدیث عائشہؓ ذکر کی ہے، اس میں صرف ”وعليه السلام“ ہے، مبلغ پر یعنی سلام پہنچانے والے پر سلام نہیں۔ (۶)

مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں طریقوں سے جواب دینا جائز ہے۔ (۷) امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد بھی شاید اسی طرف اشارہ کرنا ہے کہ روایتوں میں دونوں طریقے وارد ہیں۔ (۸) امام

(۵) سنن أبي داود: ۴/۳۵۸، كتاب الأدب، باب في الرجل يقول: فلان يقريتك السلام.

(۶) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرجل يقول: فلان يقريتك السلام: ۴/۳۵۹ (رقم الحدت:

(۷) بذل المجهود، باب في الرجل يقول للرجل فلان يقريتك السلام فكيف يرد؟: ۲۰/۱۷۱

(۸) فتح الباري: ۱۱/۳۸

نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فی هذا الحديث مشروعية إرسال السلام، ويجب على الرسول تبليغه؛ لأنه أمانة، وتعقب بأنه بالودیعة أشبه، والتحقيق: أن الرسول إن التزمه أشبه بالأمانة وإلا فودیعة، والودائع إذالم تقبل لم يلزمه شيء“ (۹)

یعنی ”اس حدیث میں سلام بھیجنے کی مشروعیت کا ذکر ہے اور قاصد پر اس کا پہنچانا واجب ہے کیونکہ یہ امانت ہے، بعض نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ودیعت کے زیادہ مشابہ ہے۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ قاصد نے اگر اس کا التزام کیا تو وہ امانت کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوگا ورنہ تو ودیعت ہوگا اور ودائع کا حکم یہ ہے کہ اگر انہیں قبول نہ کیا گیا تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔“

۲۰ - باب : التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ .

۵۸۹۹ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا ، عَلَيْهِ إِكْفٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَهُوَ يُعَوِّدُ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَقَعَةِ بَدْرٍ ، حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودِ ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي آدِنِ سُلُوكٌ ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةٌ الدَّابَّةِ ، حَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَنْفَةَ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا تُعْبَرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي آدِنِ سُلُوكٌ : أَيُّهَا الْمَرْءُ ، لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا ، فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا ، وَأَرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْضُصْ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو رَوَاحَةَ : أَغَشَيْنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَابَعُوا ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ ، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ ، فَقَالَ : (أَيُّ سَعْدُ ، أَلَمْ تَسْمَعْ

ما قَالَ أَبُو حُبَابٍ - يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي - قَالَ كَذًا وَكَذًا . قَالَ : أَعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَصْفَحْ ، فَإِنَّهُ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ ، وَلَقَدْ اضْطَلَّحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يَتَوَجَّهُوا ، فَيُعْصِبُوهُ بِالْعِصَابَةِ ، فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ . [ ر : ۲۸۲۵ ]

### مسلمانوں اور کفار کی مخلوط مجلس پر سلام کا حکم

کسی ایسی مجلس سے گزر ہو، جہاں مسلمان اور کافروں ہوں، وہاں سلام کر لینا چاہیے، امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ جب کسی ایسی مجلس سے گزر ہو تو سلام تو علی العموم کر لینا چاہیے اور قصد مسلمانوں کا کرنا چاہیے۔ (۱۰) ابن العربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی حکم ایسی مجلس کا ہے جس میں اہل سنت و اہل بدعت ہوں، عادل و ظالم ہوں، نیک و فاجر ہوں، تو سلام عام کرنا چاہیے لیکن ارادہ نیک لوگوں کا کرنا چاہیے۔ (۱۱)

حدیث باب میں ہے حتی مرفی مجلس فیہ أخلاط من المسلمین والمشرکین عبدة الأوثان والیہود... فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایسی مجلس پر ہوا، جس میں مسلمانوں کے علاوہ بت پرست اور یہودی بھی تھے..... تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سلام کیا“۔

۲۱- باب : مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيَّ مِنْ أَقْرَبِ ذَنْبًا ، وَلَمْ يُوَدِّ سَلَامَهُ ، حَتَّى تَتَبَّنَ تَوْبَتَهُ ، وَإِلَى مَتَى تَتَبَّنَ تَوْبَةُ الْعَاصِي .

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : لَا تُسَلِّمُوا عَلَيَّ شَرَبَةَ الْخَمْرِ .

(۱۰) فتح الباري: ۱۱/۴۷، والأبواب والتراجم، كتاب الاستيذان، باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من

المسلمين والمشرکين: ۱۲۳/۲

(۱۱) فتح الباري: ۱۱/۴۷، شرح سنن الترمذي للإمام أبي بكر ابن العربي المالكي: ۱۰/۱۷۳، أبواب

الاستيذان، باب ماجاء في السلام قبل الكلام.



۵۹۰۰ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عَفِيلِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ نَبِيِّكَ ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا ، وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ عَلَيْهِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي : هَلْ حَرَكْتُ شَفْتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا ؟ حَتَّى كَمَلْتُ خَمْسُونَ لَيْلَةً ، وَأَذَّنَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ . [ ر : ۲۶۰۶ ]

### ترجمہ الباب کا مقصد

ترجمہ الباب کے دو جزء ہیں :

① پہلا جزء ہے کہ فاسق اور گناہ کرنے والے پر سلام نہیں کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام نے اس مسئلہ کے حکم میں اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے (۱۲)۔

### فاسق اور مبتدع پر سلام کرنے کا حکم

چنانچہ جمہور علماء کے نزدیک فاسق اور مبتدعین پر سلام نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر اس کی طرف سے سلام نہ کرنے کی صورت میں نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام کی گنجائش ہے (۱۳) امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ (۱۴)

ابن العربی نے اس پر اتنا اضافہ کیا کہ ایسی صورت میں سلام کرتے ہوئے یہ نیت کی جائے کہ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، تو گویا ”السلام علیکم“ کے معنی ہیں ”اللہ رقیب علیکم“ (۱۵) لیکن بعض علماء کے نزدیک فاسق اور مبتدع پر سلام کرنا جائز ہے، ابن وہب نے فرمایا کہ کافر پر بھی

(۱۲) فتح الباری: ۴۸/۱۱

(۱۳) فتح الباری: ۴۸/۱۱، إرشاد الساری: ۲۶۰/۱۳، عمدة القاری: ۲۴۷/۲۲

(۱۴) شرح صحیح مسلم للنووی: ۲/۲۱۴، کتاب السلام، باب النهی عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وکيف يُرد عليهم

(۱۵) شرح الإمام أبي بكر ابن العربي المالکی للترمذی: ۱۷۴/۱۰، أبواب الاستیذان

سلام کیا جاسکتا ہے۔ (۱۶)

درمختار میں ہے کہ فاسق پر سلام کرنا مکروہ ہے، بشرطیکہ وہ اپنے فسق کا اعلان کرنے والا ہو، لیکن اگر کوئی شخص فاسق معلن نہیں تو پھر سلام بلا کراہت جائز ہے۔ (۱۷)

ترجمۃ الباب کا دوسرا جزء ہے إلی متی تتبین توبۃ العاصی یعنی گناہ کرنے والے کی توبہ کی صحت کب تک معلوم ہوگی، یعنی ایسے قرآن کے لیے کتنی مدت درکار ہے جس میں اس کی توبہ کی صحت معلوم ہو سکے، اس میں ایک سال، چھ ماہ اور پچاس دن کا عرصہ ذکر کیا گیا ہے کہ اتنی مدت میں اس کی حالت واضح ہو جاتی ہے۔ (۱۸)

ابن بطل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی مدت متعین نہیں کی جاسکتی۔ (۱۹)

حافظ ابن حجر اور علامہ عینی وغیرہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں دو جزء ذکر کیے ہیں، ایک سلام اور اس کا جواب، دوم صحت توبہ کی مدت۔

### شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کی رائے

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فقہائے حنفیہ کی کتابوں کی تفصیلات کو اگر دیکھا جائے تو دو کے بجائے ترجمۃ الباب تین اجزاء پر مشتمل ہے، ایک سلام، دوم اس کا جواب اور سوم صحت توبہ کی مدت، سلام اور جواب دونوں الگ الگ حکم رکھتے ہیں، جہاں سلام کرنا شرعاً جائز نہیں، وہاں جواب بھی مشروع نہیں، البتہ فاسق نے اگر سلام کیا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ (۲۰) صاحب البحر الرائق نے اس کی

(۱۶) فتح الباری: ۴۸/۱۱، عمدۃ القاری: ۲۴۷/۲۲

(۱۷) رد المحتار: ۲۹۴/۵

(۱۸) فتح الباری: ۴۸/۱۱، الأبواب والتراجم، کتاب الاستئذان، باب من لم یسلم علی من اقترف ذنبا ولم

یرد سلامه حتی تتبین توبته: ۱۲۳/۲

(۱۹) شرح صحیح البخاری لابن بطل: ۳۶/۹

(۲۰) الأبواب والتراجم، کتاب الاستئذان، باب من لم یسلم علی من اقترف ذنبا ولم یرد سلامه حتی تتبین

توبته: ۱۲۳/۲

طرف اشارہ کیا ہے۔ (۲۱)

وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر

شربة: شراب کی جمع ہے، حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شراب پینے والوں پر سلام نہ کرو، اس اثر کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ”الأدب المفرد“ میں موصولاً نقل کیا ہے۔ (۲۲)

اس کے بعد باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ترک سلام و کلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ معصیت کی وجہ سے ترک سلام کیا جاسکتا ہے۔

۲۲ - باب : كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ .

۵۹۰۱ : حَدَّثَنَا أَبُو النِّمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ : عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَهْلًا يَا عَائِشَةُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ) . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (فَقَدْ قُلْتُ : وَعَلَيْكُمْ) . [ ر : ۲۷۷۷ ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا السام علیک (یعنی تم پر لعنت ہو)۔ میں نے اس کو سمجھ لیا تو کہا علیکم السام واللعنة (تمہی پر ہلاکت اور لعنت ہو) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ٹھہرو! اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!

(۲۱) ثم اعلم أنه يكره السلام على المصلي، والقارئ، والجالس للقضاء، أو البحث في الفقه، أو التخلي، ولو سلم عليهم لا يجب عليهم الرد لأنه في غير محلهم، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها: البحر الرائق: ۹/۲، وقال في رد المحتار: وينبغي وجوب الرد على الفاسق؛ لأن كراهة السلام عليه للزجر، فلا تنافي الوجوب عليه، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۵۷/۱

(۲۲) الأدب المفرد مع فضل الله الصمد: ۴۷۲/۲، باب لا يسلم على فاسق، البتة الأدب المفرد میں ”شربة الخمر“ کے بجائے ”شرب الخمر“ ہے۔

کیا آپ نے نہیں سنا جو ان لوگوں نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے بھی تو  
”وعلیکم“ کہا۔

۵۹۰۲ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ ، فَإِنَّمَا يَقُولُ  
أَحَدُهُمُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ ، فَقُلْ : وَعَنْتِكَ) . [۶۵۲۹]

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب  
یہود تم کو سلام کریں اور ان میں سے کوئی شخص ”السالم عليك“ کہے تو تم ”وعليكم“ کہو۔

۵۹۰۳ : حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا عُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ :  
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ  
فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ) .

(۵۹۰۲) الحدیث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب استئابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إذا عرَّض  
الذمى وغيره بسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُصرِّح نحو قوله: السَّامُ عَلَيْكَ (رقم الحديث: ۶۹۲۸)  
وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (رقم  
الحديث: ۲۱۶۳)، وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذمة (رقم الحديث:  
۵۲۰۶)، وأخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان، باب ماجاء في التسليم على أهل الذمة (رقم الحديث:  
۲۷۰۱)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب رد السلام على أهل الذمة (رقم الحديث: ۳۶۹۸)

(۵۹۰۳) الحدیث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب استئابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إذا عرَّض  
الذمى وغيره بسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُصرِّح نحو قوله: السَّامُ عَلَيْكَ (رقم الحديث: ۶۹۲۶)،  
وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (رقم  
الحديث: ۲۱۶۳)، وفي رواية أبي داود: ”إن أصحاب النبي - ﷺ - قالوا للنبي ﷺ: ”إن أهل الكتاب  
يسلمون علينا، فكيف نُردُّ عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم“ كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذمة (رقم  
الحديث: ۵۲۰۶)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب رد السلام على أهل الذمة (رقم الحديث:  
۳۶۹۷)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو اہل کتاب سلام کریں تو تم ”وعلیک“ کہو۔

## ترجمہ الباب کی غرض

ذمیوں نے اگر سلام کیا تو انہیں کیسے جواب دیا جائے گا؟ ”کیف یرد...“ کہہ کر، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سلام کا جواب دینا ممنوع نہیں، البتہ جواب کی کیفیت اس میں مختلف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک انہیں پورا جواب دینا فرض ہے، حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ من سلم علیک فرؤدہ، ولو کان مجوسیًا۔ یعنی ”جو سلام کرے اس کا جواب دے دیا کرو، اگرچہ وہ مجوسی ہو“۔ قتادہ اور شعبی کا یہی مسلک ہے۔ (۲۳)

جمہور علماء کے نزدیک ان کے سلام کے جواب میں صرف ”وعلیکم...“ کہا جائے گا، ”سلام“ کے ساتھ جواب نہیں دیا جائے گا۔ (۲۴)

درمختار میں ہے ”ولو سلم یهودی أو نصرانی أو مجوسی علی مسلم فلا بأس بالرد ولكن لا یزید علی قوله: ”وعلیک“ (۲۵) یعنی ”اگر کسی یہودی، نصرانی، یا مجوسی نے مسلمانوں پر سلام کیا تو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ جواب میں صرف ”وعلیک“ کہا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں“۔ باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے، اس کی مناسبت باب سے ظاہر ہے۔

۲۳- باب : مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابٍ مِنْ يُحَذِّرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَيْسَتِيْنَ أُمَّهُ .

۵۹۰۴ : حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بُهْلُوْلٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ

(۲۳) فتح الباری: ۱۱/۵۰، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۴۸

(۲۴) شرح صحیح مسلم للنسروی: ۲/۲۱۳، کتاب السلام، باب النهی عن البداء أهل الكتاب، بالسلام

وکیف یرد علیہم، وفتح الباری: ۱۱/۳۰

(۲۵) درمختار: ۵/۲۹۲

عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْثَدَةَ الْعَنَوِيَّ ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ ، فَقَالَ : ( أَنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ ، فَإِنَّ بِهَا أَمْرًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ) . قَالَ : فَأَذْرَكُنَا تَسِيرٌ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : قُلْنَا : أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكَ ؟ قَالَتْ : مَا مَعِيَ كِتَابٌ ، فَأَتَيْنَاهَا بِهَا ، فَأَبْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا ، قَالَ صَاحِبَايَ : مَا نَرَى كِتَابًا ، قَالَ : قُلْتُ : لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَالَّذِي يُخْلَفُ بِهِ ، لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لِأَجْرَدَنَّكَ . قَالَ : فَلَمَّا رَأَتْ أَلْبَدَّ مِنِّي أَهَوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْرَتِهَا ، وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ ، فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ ، قَالَ : فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : ( مَا حَمَلَك يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَنَعْتَ ) . قَالَ : مَا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ بِدَّ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي ، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلَّا وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : ( صَدَقَ ، فَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا ) . قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، فَدَعَنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : ( يَا عُمَرُ ، وَمَا يُدْرِيكَ ، لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ، فَقَدْ وَجَّهْتُ لَكُمْ الْجَنَّةَ ) . قَالَ : فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . [ ر : ۲۸۴۵ ]

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر بن عوام اور ابو مرثد عنوی کو بھیجا اور ہم میں سے ہر ایک گھوڑے پر سوار تھا اور حکم دیا کہ ”روضہ خاخ“ جاؤ، وہاں ایک مشرک عورت ہے، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتعہ کا خط ہے جو مشرکین کے نام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اونٹ پر جاتے ہوئے اس جگہ پالیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم نے کہا وہ خط جو تیرے پاس ہے کہاں ہے؟ اس نے کہا: میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے پالان وغیرہ کی تلاش لی لیکن وہ خط ہمیں نہیں ملا۔ میرے دونوں ساتھیوں نے بھی یہی کہا کہ خط نہیں ہے۔ پھر میں

نے کہا میں جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے خط نکال دو ورنہ تجھے ننگا کر دوں گا، جب اس نے ہماری سختی دیکھی تو اس چادر میں سے جس کا تہ بند بنا رکھا تھا، خط نکال کر دے دیا، ہم لوگ وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا: حاطب! تو نے ایسا کیوں کیا؟ حاطب نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں بدلا نہیں ہوں (یعنی مرتد نہیں ہوا) میں نے چاہا کہ ان پر احسان کروں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کا دفاع اور نگرانی کریں اور دوسرے صحابہ کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کی نگرانی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: حاطب نے ٹھیک کہا، اب اسے کچھ نہ کہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا: اے عمر! تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے اہل بدر کے متعلق اطلاع دی ہے کہ جو چاہو کرو، تمہارے لئے جنت واجب ہوگئی۔ راوی کا بیان ہے کہ عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔

### ترجمہ الباب کا مقصد

بغیر اجازت کے کسی کا خط پڑھنا جائز نہیں، امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے، اس میں ہے ”من نظر فی کتاب أخیه بغیر إذنه، فإنما ینظر فی النار“، یعنی ”جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط کو دیکھا تو گویا وہ آگ کو دیکھ رہا ہے۔“ (۲۶) امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ عدم اجازت کا یہ حکم اس وقت ہے جب وہ خط مسلمانوں کے لیے مضر اور نقصان دہ نہ ہو، اگر کوئی مشکوک خط ہے یا کسی متہم آدمی کا خط ہے تو اسے کھول کر بغیر اجازت کے پڑھا جاسکتا ہے، چنانچہ سنن ابی داؤد کی حدیث کے متعلق علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا ”إنما هو فی حق من لم یکن

متھماً علی المسلمین، وأما من كان متھماً فلاحرمة له...“ (۲۷) بغیر اجازت کے کسی کا خط پڑھنا گوعام حالات میں صحیح نہیں لیکن مشکوک خط میں چونکہ زیادہ خطرے اور فساد کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے۔

حدیث باب کے اندر حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے خط کا واقعہ ذکر کیا ہے جو کتاب التفسیر میں سورۃ ممتحنہ کے تحت گذر چکا ہے اور کتاب المغازی میں باب فضل من شہد بدر کے تحت بھی یہ حدیث گذر چکی ہے، وہیں کشف الباری میں اس کی تفصیل آچکی ہے۔ (۲۸)

#### ۲۴ - باب : كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ .

۵۹۰۵ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ ، فَأَتَوْهُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ ، فَأَذَا فِيهِ : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَا بَعْدُ) . [ ر : ۷ ]

#### ترجمہ الباب کا مقصد

اہل کتاب کو کیسے خط لکھا جائے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر حدیث ہرقل ذکر کر کے بتلا دیا کہ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

والأوجه عندي أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى هذا، بأن

يكتب إليهم: "السلام على من اتبع الهدى" لابلفظه المعروف: بلفظ

الخطاب: "السلام عليكم" (۲۹)

(۲۷) إرشاد الساري: ۲۶۵/۱۳

(۲۸) كشف الباري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا: ۱۲۹، ۱۳۶

(۲۹) الأبواب والتراجم، كتاب الاستيذان، باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب: ۱۲۳/۲



یعنی ”میرے نزدیک زیادہ مناسب یہ ہے کہ امام بخاریؒ اس ترجمہ سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اہل کتاب کو خط لکھتے وقت یوں سلام لکھنا چاہیے: ”السلام علی من اتبع الهدی“۔ معروف لفظ یعنی لفظ خطاب ”السلام علیکم“ نہیں لکھنا چاہیے۔“

حدیث ہرقل اور اس سے اخذ شدہ فوائد و آداب کی مکمل تفصیل کشف الباری، جلد اول میں گذر چکی ہے۔ (۳۰)

## ۲۵- باب : بِمَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ .

۵۹۰۶ : وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَخَذَ خَشَبَةً فَتَفَرَّهَا ، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ .  
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (نَجَرَ خَشَبَةً ، فَجَعَلَ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةً : مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ) . [ ر : ۱۴۲۷ ]

## ترجمہ الباب کا مقصد

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے خط لکھنے کے ایک اور ادب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خط کی ابتدا میں کس کا نام لکھا جائے، خط لکھنے والے کا یا مکتوب الیہ کا؟ عام حالات میں تو مناسب یہ ہے کہ کاتب اپنا نام پہلے لکھے اور اس کے بعد مکتوب الیہ کا نام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں آپ کا اسم مبارک پہلے ہوتا تھا، سنن ابی داؤد میں حضرت علاء حضرمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے تو اپنا نام پہلے لکھتے (۳۱) چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اس لیے اتباع سنت میں وہ بھی ایسا ہی کرتے۔

مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کو خط لکھ رہا ہے، مثلاً مرید اپنے

(۳۰) کشف الباری: باب کیف کان بدء الوحي: ۱/۵۵۵

(۳۱) سنن ابی داؤد، کتاب الأدب، باب فیمن یبدأ بنفسه فی الكتاب: ۴/۳۳۵، (رقم الحدیث: ۵۱۳۴)

شیخ کو یا شاگرد اپنے استاذ کو تو ایسی صورت میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کاتب اپنا نام مکتوب الیہ کے بعد لکھے (۳۲) امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ (۳۳)

امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنی شرط کے مطابق چونکہ کوئی حدیث نہیں مل سکی، اس لیے لیٹ کی تعلیق یہاں ذکر کی جس میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے لکڑی کو اندر سے خالی کر کے اس میں ہزار دینار رکھے اور اپنے ساتھی کو خط لکھا من فلان إلی فلان... اس خط میں کاتب کا نام مقدم تھا۔

یہ اگرچہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ماقبل شریعتوں کے غیر منسوخ واقعات سے بھی استدلال کر لیتے ہیں۔ (۳۴)

لیٹ کی یہ تعلیق امام بخاری رحمہ اللہ نے ”الأدب المفرد“ میں موصولاً نقل کی ہے۔ (۳۵)

۲۶ - باب : قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : (قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ) .

۵۹۰۷ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِ فَجَاءَ ، فَقَالَ : (قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، أَوْ قَالَ : خَيْرِكُمْ) . فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : (هُؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ) . قَالَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَتُسَيِّ ذَرَارِيُّهُمْ ، فَقَالَ : (لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ) .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ : (إِلَى حُكْمِكَ) . [ ر : ۲۸۷۸ ]

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل قریظہ سعد کے حکم پر اترے (یعنی کہا کہ

(۳۲) بذل المجہود، کتاب الأدب، باب کیف یکتب الی الذمی: ۷۱/۲۰

(۳۳) شرح مسلم للنووی: باب کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ہر قل ملک الشام یدعوہ الی الإسلام:

(۳۴) فتح الباری: ۴۸/۱۱

(۳۵) الأدب المفرد مع فضل اللہ الصمد: ۵۴۵/۲، باب بمن یبدأ فی الکتاب: (رقم الحدیث: ۱۱۲۸)

سعد کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا) تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سعد کو بلا بھیجا، وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ (راوی کو شک ہے کہ آپ نے قوموا الی سیدکم فرمایا یا قوموا الی خیرکم) سعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے فیصلے پر راضی ہو گئے ہیں۔ سعد نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں سے جنگ کرنے والے قتل کر دیئے جائیں اور ان کی اولاد قید کر لی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ ابو عبد اللہ (بخاری) کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض ساتھیوں نے بواسطہ ابوالولید ابوسعید کا قول (بجائے نزلوا علی حکمک کے) نزلوا الی حکمک نقل کیا ہے۔

### ترجمۃ الباب کا مقصد

علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وغرضه من هذه الترجمة بيان حکم قیام القاعد للداخل،

ولکن لم یجزم بالحکم لمکان الاختلاف فیہ“ (۳۶)۔

اس ترجمہ کا مقصد داخل ہونے والے کے لیے بیٹھنے والے کے کھڑے ہونا کا حکم

بیان کرنا ہے، مگر چونکہ اس میں اختلاف ہے اس لیے امام بخاری نے اس پر جزم نہیں کیا۔

### قیام کی مختلف صورتیں اور ان کا حکم

کسی کے لیے قیام کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں اکثر صورتیں متفق علیہ ہیں اور ان کا حکم واضح ہے، سردار بیٹھا ہے اور حاضرین تعظیم و تکریم میں مسلسل کھڑے ہیں، یہ صورت بالاتفاق ناجائز ہے، یا آنے والے کے دل میں تکبر و بڑائی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، یہ صورت بھی بالاتفاق ناجائز ہے، آنے

(۳۶) عمدۃ القاری، الأبواب والتراجم: کتاب الاستیذان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قوموا الی

والے کے دل میں تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے قیام مکروہ ہے، کسی کی آمد پر خوشی کی وجہ سے استقبال کے لیے کھڑا ہونا بالاتفاق مستحب ہے، مبارکباد دینے کے لیے کھڑا ہونا بھی مستحب ہے۔ کسی مصیبت زدہ کو تسلی دینے کے لیے کھڑا ہونا بھی بالاتفاق مستحب ہے۔ ان تمام صورتوں کے حکم میں اختلاف نہیں (۳۷)۔

## قیام تعظیمی کے حکم میں اختلاف

صرف ایک صورت قیام تعظیمی کے حکم میں اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ آنے والے کے اکرام میں کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور آنے والے کے دل میں نہ اپنے لیے اس قیام تعظیمی کی خواہش ہے اور نہ تمنا، اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ جائز ہے لیکن یہ اجازت دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ ایک یہ کہ جس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے دل میں یہ طلب نہ ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ کھڑے ہونے والے کے دل میں اس قیام کا داعیہ ہو، اگر دل میں اس کے اکرام کا داعیہ نہیں، محض ریاء اور تملق کی بناء پر کھڑا ہو رہا ہے تو جائز نہیں۔ (۳۸)

بعض حضرات اس قیام کو ناجائز کہتے ہیں اور وہ مندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔

طبرانی میں حضرت انسؓ کی حدیث ہے ”إنما هلك من كان قبلکم؛ فإنهم عظموا ملو کہم بأن قاموا، وهم قعود“ (۳۹) یعنی ”تم سے پہلے لوگ صرف اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے بادشاہوں کی اس طرح تعظیم کرتے تھے کہ لوگ کھڑے رہتے اور بادشاہ بیٹھے رہتے۔“

سنن ابی داؤد میں حضرت معاویہؓ کی حدیث ہے ”سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ”من أحب أن یمثل له الرجال فلیتبعوا مقعده من النار“ (۴۰) یعنی ”میں نے رسول اللہ صلی

(۳۷) فتح الباری: ۵۲/۱۱، عمدۃ القاری: ۲۰۲/۲۲

(۳۸) کشف الباری، کتاب المعازی، باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الأحزاب رمخرجه إلی بنی

قریظۃ ومحاصرته إیاهم: ۳۰۵

(۳۹) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب الأدب، باب ماجاء فی القیام: ۴۰/۸

(۴۰) سنن ابی داؤد، کتاب الأدب، باب فی قیام الرجل للرجل: ۴/۳۵۸، (رقم الحدیث: ۵۲۲۹)

اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کا خواہاں ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔“

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ”خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم متوكئاً على عصا فقمنا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض“ (۴۱) یعنی ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصا کے سہارے ہماری طرف باہر نکلے تو ہم آپ کے لئے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کھڑے مت ہو اور جو طرح عجی ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔“

لیکن جمہور کہتے ہیں کہ ان احادیث سے قیام تعظیمی کی جواز والی صورت مراد نہیں، دوسری صورتیں مراد ہیں، حدیث باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے قوموا الی سیدکم اس سے صاف جواز معلوم ہوتا ہے۔

مانعین اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیام کا یہ حکم تعظیم و اکرام کے لیے نہیں تھا بلکہ اعانت کے لیے تھا، چونکہ حضرت سعد بن معاذ زخمی تھے تو انہیں سواری سے اترنے میں مدد دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم دیا۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عائشہ کی حدیث میں اس کی صراحت ہے، اس میں ہے ”قوموا الی سیدکم فأنزلوه“ (۴۲) علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وعن أبي الوليد بن رشد: أن القيام يكون على أربعة أوجه:

محظور لمن يريد أن يقام له تكبراً وتعظيماً على القائمین له، ومكروه لمن لا يتكبر، ولا يتعاضم، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجابرة، وجائز على سبيل الاحترام والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجابرة، ومندوب لمن

(۴۱) وفي معناه روى مسلم في ”صحيحه“: إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا: ۳۰۹/۱ (رقم الحديث: ۴۱۳)، وأبو داود، في كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل:

۳۵۸/۴ (رقم الحديث: ۵۲۳۰)

(۴۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۱۴۲/۶

قدم من سفره فرحاً بقدمه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنّته بحصولها، أو مصيبة فيعزيه بسببها، أولحاكم في محل ولايته، كما دلّ عليه قصة سعد فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكماً في بني قريظة، فرآه مقبلاً، قال: ”قوموا إلى سيدكم“ وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه، فأما اتخاذه دَيْدَنًا فمن شعار العجم؛ وقد جاء في السنن أنه لم يكن أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لايقومون له، لما يعلمون من كراهيته لذلك“-(۴۳)

یعنی ”ابوالولید بن رشد کہتے ہیں کہ قیام چار طرح کا ہوتا ہے:

۱- ممنوع: وہ متکبر شخص جو یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔

اس کے لیے کھڑا ہونا ممنوع ہے۔

۲- مکروہ: وہ شخص جو متکبر تو نہیں ہے البتہ اسے یہ خدشہ ہو کہ اس سے اس کے دل

میں بڑائی وغیرہ کی برائی پیدا ہو جائے گی تو اس کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے، نیز یہ اس وقت

بھی مکروہ ہے جب متکبرین کے ساتھ مشابہت کا اندیشہ ہو۔

۳- جائز: جو شخص تعظیم و اکرام کا خواہاں نہ ہو، نیز متکبرین کے ساتھ مشابہت کا

اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔

۴- مندوب: جیسے کوئی شخص سفر سے آئے تو اس کے آنے کی خوشی میں کھڑا ہونا

تا کہ اسے سلام کیا جائے یا جس کو کوئی نئی نعمت حاصل ہوگئی ہو تو اس کے حصول پر اسے

مبارکباد دینے کے لیے کھڑا ہونا، یا کسی مصیبت و آفت پر تعزیت کرنے کے لیے کھڑا ہونا یا

حاکم کے لیے اس کے محل ولایت میں کھڑا ہونا..... یہ مندوب ہے، جیسا کہ حضرت سعدؓ

کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنی قریظہ میں حاکم مقرر

کیا اور بلایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھا تو فرمایا: ”اپنے سردار کے

لیے کھڑے ہو جاؤ“ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صرف اس لیے کیا تاکہ ان کی حاکمیت نافذ ہو جائے۔ رہا اس کو عادت اور طور طریقہ بنا لینا تو یہ عجمیوں کا شعار ہے۔ سنن کی حدیث ہے کہ صحابہ کرامؓ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو صحابہ کرامؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہ ہوتے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے۔“

اس مسئلے کی کچھ تفصیل کتاب المغازی میں غزوہ بنی قریظہ کے تحت بھی گزر چکی ہے۔ (۴۴)

قال أبو عبد الله : أفهمني بعض أصحابي :

یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے، علامہ کربائی فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ابوالولید سے ”علی حکمک“ کے الفاظ سنے ہیں، جب کہ میرے بعض شیوخ نے انہی سے ”الی حکمک“ کے الفاظ نقل کیے ہیں، یعنی انہوں نے ”علی“ حرف استعلاء کی جگہ ”الی“ استعمال کیا ہے (☆۴۴)۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: ”بعض أصحابی“ سے یا تو امام محمد بن سعد مراد ہیں جنہوں نے اپنی ”طبقات“ میں یہ حدیث ابوالولید سے اسی سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔ اور یا اس سے مراد ”ابن ضریس“ ہیں (۴۵)۔

۲۷ - باب : المصافحة .

وقال ابن مسعود : علمني النبي ﷺ التشهد ، وكنت بين كفيه . [ ر : ۵۹۱۰ ]

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا اور

میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔

(۴۴) کشف الباری، کتاب المغازی، باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الأحزاب ومخرجه إلی بنی قریظہ

ومحاصرته إناهم، ص ۲۹۶

(۴۴) شرح الکرمانی: ۹۸/۲۲

(۴۵) فتح الباری: ۶۰/۱۱

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَهُرُّونِي حَتَّى صَافَحَنِي وَهَتَّأَنِي . [ ر : ۴۱۵۶ ]

اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، طلحہ بن عبید جلدی سے اٹھ کر میری طرف آئے، یہاں تک کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔

۵۹۰۸ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنْسِ : أَكَانَتْ الْمَصَافِحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قتادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس (رضی اللہ عنہ) سے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ کا رواج تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔

۵۹۰۹ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي وَهَبٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيُّوَةُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ : سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . [ ر : ۳۴۹۱ ]

ابو عقیل زہرہ بن معبد روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا عبدالرحمن بن ہشام سے سنا انہوں نے کہا کہ (ایک مرتبہ) ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔

### ترجمہ الباب کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں مصافحہ کی مشروعیت کو بیان کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے ”تمام تحیتکم بینکم المصافحة“ یعنی



”تمہارے تجزیہ کا مکملہ مصافحہ ہے۔“ (۴۶)

امام بخاری رحمہ اللہ نے ”الأدب المفرد“ میں سند صحیح کے ساتھ حضرت انسؓ کی مرفوع حدیث بیان کی ہے ”قد أقبل أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة“ (۴۷) یعنی ”اہل یمن آئے اور سب سے پہلے مصافحہ انھوں نے ہی کیا۔“

امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی حضرت انسؓ کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ! الرجل يلقي أخاه أينحني له؟ قال: لا، قال: فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم!“ (۴۸) یعنی ”یا رسول اللہ! اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کے لیے جھکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں!“

سنن ابی داؤد میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے ”ما من مسلمين يلتقيان، فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا“ (۴۹) یعنی ”دو مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔“

## مصافحہ کا حکم اور طریقہ

ان احادیث کی بناء پر امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مصافحہ کے سنت ہونے پر اجماع ہے۔ (۵۰)

(۴۶) الحدیث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الاستیذان، باب ماجاء في المصافحة: ۷۴/۵، رقم

الحدیث: ۲۷۳۱

(۴۷) الأدب المفرد (مع فضل اللہ الصمد) باب المصافحة: ۴۳۲/۲، رقم الحدیث: ۹۶۷

(۴۸) جامع الترمذی، كتاب الاستیذان، باب ماجاء في المصافحة: ۷۵/۵، رقم الحدیث: ۲۷۲۸

(۴۹) سنن أبی داؤد، كتاب الأدب، باب في المصافحة: ۳۵۴/۴، رقم الحدیث: ۵۲۱۲

(۵۰) اعلم! أنها سنة مجمعة عليها عند التلاقي، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: ۳۹۲/۵

امام مالک رحمہ اللہ سے کراہت کا قول منقول ہے لیکن انہوں نے بعد میں اس سے رجوع کر لیا تھا۔ (۵۱)  
 مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ”فیض الباری“ میں فرمایا کہ مصافحہ کا عام طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں  
 ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے تاہم اگر کسی نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ (۵۲)  
 مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے ”الکوکب الدرّی“ میں فرمایا کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے بھی ثابت ہے  
 اور دونوں ہاتھوں سے بھی ثابت ہے لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چونکہ فریگیوں کا شعار بن چکا ہے، اس لیے  
 واجب التّرك ہے۔ (۵۳)

### ایک غلط رواج

آج کل بعض غیر مقلدین ایک ہاتھ سے مصافحہ کو سنت قرار دیتے ہیں اور باب میں ذکر کردہ حضرت  
 عبد اللہ بن مسعودؓ کے قول سے استدلال کرتے ہیں ”علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد  
 وكفي بين كفيه“ یعنی ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اور میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں  
 کے درمیان تھا“۔

مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ نے ایک غیر مقلد سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور اس نے ایک ہاتھ  
 سے، اور استدلال میں ”وکفی بین کفیه“ پیش کیا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ  
 آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ پھر سنت پر کس نے عمل کیا؟ میں نے یا آپ نے؟  
 کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں ہاتھ ملائے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر عمل کرنا سنت کہلاتی  
 ہے، تب وہ لا جواب ہو کر خاموش ہوا۔ (۵۴)

(۵۱) فتح الباری: ۱۱/۵۵، الکوکب الدرّی، کتاب الاستیذان، باب فی المصافحة: ۳/۳۹۳، والمدونة الكبرى

(۵۲) فیض الباری، کتاب الاستیذان، باب المصافحة: ۴/۱۱۱

(۵۳) الکوکب الدرّی، کتاب الاستیذان، باب فی المصافحة: ۳/۳۹۲، لامع الدرّی، کتاب الاستیذان،

باب المصافحة: ۱۰/۵۶

(۵۴) تذکرة الخلیل، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ: ص ۲۹۸

پھر ”وکفی بین کفیه“ سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک ہی ہاتھ ملا یا ہو، کیونکہ بظاہر ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ملائے ہوں اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک ہاتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بھی بظاہر دونوں ہاتھ ہی ملائے تھے لیکن ایک ہاتھ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے درمیان ڈھکا ہوا تھا، اس لیے اس کا ذکر کیا، دوسرا ہاتھ درمیان میں نہیں، بلکہ اوپر تھا۔ بہر حال ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا مستحب و مسنون ہے، البتہ اجنبی عورت اور ایسے امر دلوں کوں سے مصافحہ کرنا درست نہیں جہاں فتنے کا اندیشہ ہو۔ (۵۵)

باب کے ساتھ دوسری حدیث کی مناسبت بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں:

”وجه إدخال هذا الحديث في المصافحة: أن الأخذ باليد يستلزم التلقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالباً“۔ (۵۶) یعنی ”اس حدیث کو مصافحہ میں داخل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ پکڑنا عموماً ایک ہاتھ کی ہتھیلی کے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ ملنے کو مستلزم ہوتا ہے“۔

۲۸ - باب : الأَخْذُ بِالْيَدَيْنِ

وَصَافِحَ حَمَادُ بْنُ زَيْدِ ابْنِ الْمُبَارَكِ يَدَيْهِ .

۵۹۱۰ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَخْبَرَةَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَكُنِّي بَيْنَ كَفَيْهِ ، التَّشَهُدُ ، كَمَا يُعَلَّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) . وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِنَا ، فَلَمَّا قَبِضَ قُلْنَا : السَّلَامُ - يَعْنِي - عَلَى النَّبِيِّ ﷺ . [ر : ۷۹۷]

ترجمہ الباب کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جاسکتا ہے، باب کے اندر دو

(۵۵) ویستثنی من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن، فتح الباری: ۲۵/۱۱

(۵۶) فتح الباری: ۲۶، ۲۵/۱۱

روایتیں ذکر فرمائی ہیں، پہلی روایت میں ہے کہ حماد بن زید نے حضرت عبداللہ بن المبارک کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور دوسری روایت وہی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ والی ہے۔

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سابقہ ترجمہ الباب اور اس ترجمہ الباب میں تکرار کا وہم نہیں ہونا چاہیے، دونوں ترجموں کا مقصد الگ الگ ہے، پہلے ترجمہ الباب کا مقصد مصافحہ کی مشروعیت کو بیان کرنا ہے اور اس ترجمہ الباب سے مصافحے کی کیفیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ (۵۷)

وصافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ:

غنجار نے ”تاریخ بخاری“ میں اسے اسحاق بن احمد بن خلف کے طریق سے موصولاً ذکر کیا ہے (۱)۔

وہو بین ظہرانینا:

علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وأصله: ظہرینا: بالثنية، أي: ظهري المتقدم والمتأخر، أي: بيننا، فزيد الألف والنون للتأكيد۔ (۵۸) یعنی: ”ظہرانینا“ اصل میں ظہرینا تھا۔ جو کہ ظہر کا ثنیہ ہے۔ یعنی اگلے اور پچھلے شخص کی پیٹھ کے درمیان، یعنی ہمارے درمیان۔ پھر تاکید کی غرض سے (راء کے بعد) الف ونون کا اضافہ کر دیا گیا تو ظہرانینا ہو گیا۔

فلما قبض، قلنا: السلام، یعنی: على النبي صلى الله عليه وسلم:

یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ہم ”السلام عليك أيها النبي“ پڑھا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو پھر ہم نے ”السلام یعنی: على النبي صلى الله عليه وسلم۔“ السلام عليك أيها النبي“ کے بجائے ”السلام على النبي“ پڑھنے لگے یہ تشریح امام بخاری رحمہ اللہ نے کی، یہ بات صرف اس روایت میں ہے باقی روایات میں نہیں۔ (۵۹)

(۵۷) الأبواب والتراجم، کتاب الاستیذان، باب الأخذ بالیدین وصافح حماد: ۱۲۴/۲

(۱) (فتح الباری: ۶۷/۱۱)

(۵۸) عمدة القاري: ۲۰۴، ۲۰۳/۲۲

(۵۹) عمدة القاري: ۲۰۴/۲۲

## ۲۹- باب : المعانقة ، وقول الرجل كيف أصبحت .

۵۹۱۱ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَلِيًّا - بَعِي - ابْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا عَبْسَةُ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَبَا حَسَنِ ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِتًا ، فَأَخَذَ يَدِيهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : أَلَا تَرَاهُ ، أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثِ عَشْرَةِ نَجْوَ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَيُتَوَفَّى فِي وَجَعِهِ ، وَإِنِّي لَأَعْرِفُ فِي وَجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ ، فَأَذْهَبُ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ : فِيمَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ ، فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمْرِنَاهُ فَأَوْصِي بِنَا ، قَالَ عَلِيٌّ : وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَنَعْتَاهَا لَا يُعْطِيَاهَا النَّاسُ أَبَدًا ، وَإِنِّي لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَدًا . [ ر : ٤١٨٢ ]

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ علی یعنی ابوطالب کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے آئے۔

اور احمد بن صالح کی روایت میں ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ کے مرض الموت میں جا کر واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا: ابوالحسن! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت صبح کو کیسی رہی؟ انہوں نے کہا: الحمد للہ اچھے ہیں۔ عباس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا تم نہیں دیکھتے ہو، خدا کی قسم تین دن کے بعد تم ڈنڈے کے غلام ہو جاؤ گے، میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مرض میں وفات پا جائیں گے، میں بنی عبدالمطلب کے چہرے سے ان کی موت کے آثار پہچان لیتا ہوں، اس لئے میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو تا کہ ہم آپ سے پوچھ لیں کہ خلافت کس خاندان میں ہوگی، اگر ہمارے خاندان میں ہوگی تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ہمارے لئے وصیت کیجئے۔ حضرت علی نے کہا کہ خدا کی قسم! اگر ہم نے آپ سے

پوچھا اور آپ نے منع کر دیا تو پھر لوگ ہمیں کبھی نہ دیں گے، میں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی سوال نہ کروں گا۔

ترجمہ الباب کے دو جزء ہیں، پہلا جزء المعانقة ہے اور دوسرا جزء ”کیف أصبحت“ ہے۔

① امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر جو حدیث ذکر فرمائی ہے، اس کا بظاہر معانقة سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس میں معانقة کا کوئی ذکر ہے۔

بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں یہ مستقل ترجمہ الباب تھا، امام بخاری رحمہ اللہ اس کے تحت وہ حدیث ذکر کرنا چاہ رہے تھے جس میں حضرت حسن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معانقے کا تذکرہ ہے، یہ حدیث امام بخاری نے کتاب البیوع میں باب ما ذکر فی الأسواق کے تحت اور کتاب اللباس میں باب السخاب للصبیان کے تحت ذکر کر چکے ہیں (۶۰) امام بخاری نے اس حدیث کے لیے بیاض چھوڑا تھا، کاتب نے بیاض ختم کر کے دونوں ترجموں المعانقة اور کیف أصبحت کو ملا دیا۔ (۶۱)

بعض شارحین نے یہ بھی لکھا کہ امام بخاری کسی جدید سند سے حضرت حسن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معانقے کا ذکر نقل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ امام عموماً ایک سند کا اعادہ نہیں کرتے لیکن انھیں کوئی نئی سند نہیں ملی، اس لیے بیاض چھوڑ دیا تھا۔ (۶۲)

مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے معانقة کو حدیث باب سے بطریق مقایسہ ثابت کیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”الجزء ان من الترجمة يتوقف إثباتهما على نوع مقایسة؛ فإن

المعانقة غاية في المواجهة، وأثر يترتب على المخالفة، فإذا جازت

المواجهة وكانت الخلة باعثة عليها، لربما أدت إلى المعانقة“ (۶۳)

(۶۰) (رقم الحدیث: ۲۱۲۲)، (رقم الحدیث: ۵۸۸۴)

(۶۱) الأبواب والتراجم، کتاب الاستیذان، باب المعانقة وقول الرجل: کیف أصبحت؟ ۲/۲۴؛

(۶۲) الأبواب والتراجم، کتاب الاستیذان، باب المعانقة وقول الرجل: کیف أصبحت؟ ۲/۲۴؛

(۶۳) لامع الدراري، کتاب الاستیذان، باب المعانقة وقول الرجل: کیف أصبحت؟ ۱۰/۵۸

یعنی ”ترجمہ کے دونوں اجزاء کا اثبات ایک نوع کے قیاس پر موقوف ہے۔ اس طور پر کہ معانقہ انتہائی درجہ کا چہرہ کے ساتھ استقبال کرنا ہے اور مواجہہ ایک اثر ہے جو باہمی دوستی پر مرتب ہوتا ہے۔ پس جب مواجہہ جائز ہے اور دوستی اس پر باعث ہے تو یہ بسا اوقات معانقہ کی طرف لے جانے والا ہوگا۔“

بہر حال امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود معانقہ کا حکم بیان کرنا ہے۔

### معانقہ کا حکم

جمہور علماء کے نزدیک معانقہ جائز ہے، البتہ امام مالک رحمہ اللہ سے کراہت کا قول منقول ہے۔ ابن عساکر نے ”تاریخ دمشق“ میں ایک قصہ نقل کیا ہے کہ سفیان بن عیینہ امام مالک کے پاس آئے، سلام کیا تو امام مالک نے فرمایا: لولا أنها بدعة، لعانقتک تو سفیان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار سے معانقہ کیا تھا، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ ان کی خصوصیت تھی، سفیان نے کہا خصوصیت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے تو امام مالک رحمہ اللہ خاموش ہو گئے۔ (۶۳)

قاضی عیاض نے کہا امام مالک کی خاموشی، تسلیم کرنے کی دلیل ہے۔ (۶۵)

ہدایہ میں معانقہ کو مکروہ لکھا ہے لیکن یہ اس صورت پر محمول ہے جب ایک کپڑے میں دو آدمی معانقہ کریں (۶۶) ایک روایت میں ہے ”نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المکامعة وہی المعانقہ“ (۶۷) یعنی ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکامعہ یعنی معانقہ سے منع فرمایا ہے۔“ یہ حدیث بھی اسی صورت پر محمول ہے۔

(۶۴) شرح صحیح البخاری لابن بطلال، کتاب الاستیذان، باب المعانقہ وقول الرجل: کیف أصبحت؟

۴۸/۹، فتح الباری: ۷۰/۱۱

(۶۵) الأبواب والتراجم: کتاب الاستیذان، باب المعانقہ وقول الرجل: کیف أصبحت؟ ۱۲۴/۲

(۶۶) الهدایہ، کتاب الکراہیہ: ۴/۶۵، الأبواب والتراجم، کتاب الاستیذان، باب المعانقہ وقول الرجل:

کیف أصبحت؟ ۱۲۴/۲

(۶۷) الدرایۃ فی تخریج أحادیث الهدایہ: ص ۲۲۲

علامہ ابن عابدینؒ نے معانقہ کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے۔ (۶۸)

ترجمہ الباب کا دوسرا جزء ہے کیف أصبحت، روایت باب میں ”کیف أصبح“ صیغہ غائب کے ساتھ ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ لامع الدراری میں فرماتے ہیں:

”وأما قولهم: أصبحت، فإن السؤال لما ثبت عن حال الغائب، كان سؤاله عن حال الحاضر المخاطب أظهر في الجواز، وأيضاً، فإن السؤال عن حاله صلى الله عليه وسلم كان يتضمن المسألة عن حال أهل البيت بأسرهم، ومنهم: على رضي الله عنه، وهو المخاطب في هذا الكلام فثبت بالسؤال عن حاله عليه الصلاة والسلام جواز المسألة عن حال المخاطب، وإن كانت دلالته عليه تضمينية“ (۶۹)

یعنی ”رباعرب کا یہ قول ”أصبحت“ توجب حال غائب کے متعلق سوال ثابت ہو چکا تو حاضر مخاطب کے متعلق اس کا سوال جواز کے بارے میں ظاہر تر ہوگا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے بارے میں سوال تمام اہل بیت کے حال کی بابت سوال کو متضمن ہے، جن میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو اس کلام میں قائل کے مخاطب ہیں، پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے بارے میں سوال سے یہ ثابت ہوا کہ مخاطب کے حال کی بابت سوال کرنا جائز ہے، اگرچہ یہ دلالت تفسیمی ہے۔“

معانقہ کے بارے میں حضرت انسؓ کی ایک حدیث بھی طبرانی میں ہے، اس میں ہے ”كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا“ (۷۰) یعنی ”حضرات صحابہ کرامؓ جب ایک دوسرے سے ملتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر سے آتے تو معانقہ کرتے۔“

(۶۸) ردالمختار، کتاب الحظر والإباحة: باب الاستبراء وغيره: ۲۶۹/۵

(۶۹) لامع الدراری، کتاب الاستیذان، باب المعانقہ وقول الرجل: کیف أصبحت؟: ۵۹/۱۰

(۷۰) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب الأدب، باب المصافحة والسلام ونحو ذلك: ۳۶/۸



اسی طرح حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر انہیں گلے لگایا۔ (۷۱)  
ابو اہیشم بن التیہان سے بھی معانقہ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ ملے تو آپ نے انہیں گلے لگایا۔ (۷۲)

حدیث باب، کتاب المغازی میں باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت گذر چکی ہے۔ (۷۳)

### ۳۰- باب : مَنْ أَجَابَ بِلَيْتِكَ وَسَعَدَيْكَ .

۵۹۱۲ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : ( يَا مُعَاذُ ) . قُلْتُ : لَيْتِكَ وَسَعَدَيْكَ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا : ( هَلْ تَذْرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ) . قُلْتُ : لَا ، قَالَ : ( حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ) . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ : ( يَا مُعَاذُ ) . قُلْتُ : لَيْتِكَ وَسَعَدَيْكَ ، قَالَ : ( هَلْ تَذْرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ : أَنْ لَا يُعَدِّبَهُمْ ) .

حَدَّثَنَا هُدَيْبَةُ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ : بِهَذَا . [ ر : ۲۷۰۱ ]

حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا: اے معاذ! میں نے کہا: لیتک وسعدیک، پھر اسی طرح آپ نے تین بار فرمایا (پھر فرمایا) کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ (اس کا حق یہ ہے کہ) اس کی عبادت کرے اور اس کا کسی کو شریک نہ بنائے، پھر تھوڑی دیر چلے اور فرمایا:

(۷۱) إرشاد الساري: ۲۷۳/۱۳، فتح الباري: ۶۲/۱۱

(۷۲) فتح الباري: ۷۲/۱۱، شرح صحيح البخاري لابن بطال، كتاب الاستیذان، باب المعانقة وقول الرجل:

كيف أصبحت؟: ۴۹/۹

(۷۳) كشف الباري، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ص: ۶۸، رقم الحديث:

اے معاذ! میں نے کہا: لیبیک وسعدیک۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے جب کہ بندے اس کو کر لیں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے گا۔

۵۹۱۳ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنَا وَاللَّهِ أَبُو ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ : كُنْتُ أُمْنِيَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً ، اسْتَمَبَلْنَا أَحَدًا ، فَقَالَ : ( يَا أَبَا ذَرٍّ ، مَا أَحَبُّ أَنْ أُحْدَا لِي ذَهَبًا ، يَا بَنِي عَلِيٍّ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا ، عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْضُدُّهُ لِيَدَيْنِ ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ) . وَأَرَانَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ( يَا أَبَا ذَرٍّ ) . قُلْتُ : لَيْبِكَ وَسَعْدِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( الْاَكْثَرُونَ هُمُ الْاَقْلُونَ ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ) . ثُمَّ قَالَ لِي : ( مَكَانَكَ لَا تَبْرَحَ يَا أَبَا ذَرٍّ حَتَّى أَرْجِعَ ) . فَأَنْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا ، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَرِضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : ( لَا تَبْرَحَ ) . فَمَكَثْتُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَمِعْتُ صَوْتًا ، خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَرِضَ لَكَ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقَمِنْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( ذَاكَ جِبْرِيلُ ، أَنَا نِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ : ( وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ) . قُلْتُ لِرَزِيدٍ : إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لِحَدِيثِهِ أَبُو ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ . قَالَ الْأَعْمَشُ : وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ . وَقَالَ أَبُو شَهَابٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ : ( يَمُكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ) . [ ر : ۲۲۵۸ ]

زیدین وہب فرماتے ہیں: خدا کی قسم، ابوذر (رضی اللہ عنہ) نے ”ربذة“ میں ہمیں بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کے وقت حرہ سے گزر رہا تھا ہمارے سامنے احد کی پہاڑی آئی تو آپ نے فرمایا کہ اے ابوذر! مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے پاس احد کے برابر سونا ہو اور مجھ پر ایک رات یا تین راتیں گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے قرض کے علاوہ ایک دینار بھی ہو مگر یہ کہ اس کو اللہ کے بندوں پر اس طرح اور اس طرح خرچ کروں اور اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا: اے ابوذر! میں نے کہا: لیبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا: (دنیا میں) زیادہ مال والے (آخرت میں) تنگ دست ہوں گے مگر جو لوگ اس

طرح اور اس طرح خرچ کریں پھر مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر! تم اس جگہ ٹھہرے رہو جب تک میں نہ آؤں تم اسی جگہ رہو چنانچہ آپ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ میری نظر سے اوجھل ہو گئے، میں نے ایک آواز سنی مجھے خوف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، اس لئے میں نے چلنا چاہا پھر مجھے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول یاد آیا کہ یہیں ٹھہرے رہو چنانچہ میں رک گیا (جب آپ تشریف لائے تو) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے ایک آواز سنی، اس لئے مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو (میں نے آنا چاہا) پھر مجھے آپ کا حکم یاد آیا کہ یہیں ٹھہرے رہو چنانچہ میں ٹھہرا رہا۔

آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور وہ مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے، آپ نے فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے، راوی کا بیان ہے میں نے زید سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ابوالدرداء تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھ سے ابو ذر نے ریزہ میں بیان کیا۔ اعمش نے کہا مجھ سے ابوصالح نے انہوں نے ابوالدرداء سے اسی طرح کی حدیث نقل کی اور ابوشہاب نے اعمش سے ”یسکت عندی فوق ثلاث“ کے الفاظ نقل کئے ہیں۔

لبیک اور سعید کی لغوی تحقیق علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”أی: هذا باب في بيان من أجاب لمن يسأله بقوله: لبیک،

ومعناه: أنا مقيم على طاعتك، من قولهم: لب فلان بالمكان: إذا أقام

به، وقيل: معناه إجابة بعد إجابة، وهذا من المصادر التي حذف فعلها،

لكونه وقع مثني، وذلك يوجب حذف فعله قياساً؛ لأنهم لماتنوه

صار كأنهم ذكروه مرتين، فكأنه قال: لِبَالِئًا، ولا يستعمل إلا مضافاً، ومعنى لبيك: الدوام والملازمة، فكأنه إذا قال: لبيك، قال: أدوم على طاعتك، وأقيمها مرة بعد أخرى، أي: شأني الإقامة والملازمة. وأما سعديك، فمعناه في العبادة: أنا متبع أمرك غير مخالف لك فأسعدني على متابعتك إسعاداً بعد إسعادٍ، وأما في إجابة المخلوق، فمعناه: أسعدك إسعاداً بعد إسعاد، أي: مرة بعد أخرى“ (۷۴)

یعنی ”یہ باب اس شخص کے بیان میں ہے جو کسی کے طلب کرنے پر جواب میں ”لیک“ کہے، اس کے معنی ہیں: میں تمہاری طاعت پر قائم اور برقرار ہوں۔ یہ ”لب فلان بالمكان“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کسی جگہ مقیم ہونا۔ بعض نے اس کے معنی ”إجابة بعد إجابة“ کے ساتھ کیے ہیں، یعنی میں مسلسل تمہاری پکار سن رہا ہوں۔ یہ ان مصادر میں سے ہے جن کا فعل اس لیے حذف کیا گیا ہے کہ وہ تثنیہ واقع ہوئے ہیں، اور مصدر کا تثنیہ واقع ہونا قیاساً حذف فعل کو واجب کرتا ہے۔ کیونکہ عرب نے جب اس کو تثنیہ بنایا تو گویا انھوں نے اسے دوبارہ ذکر کیا تو گویا انھوں نے یوں کہا: ”لِبَالِئًا“۔ اور یہ لفظ صرف مضاف ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور ”لیک“ کے معنی میں دوام و ملازمت ہے۔ گویا ”لیک“ کہہ کر قاتل نے یوں کہا میں تیری اطاعت میں مسلسل رہوں گا اور اسے بار بار قائم کروں گا۔ یعنی میری حالت اقامت و ملازمت ہے۔ رہا ”سعدیک“ تو عبادت کے باب میں اس کے معنی ہیں ”اے اللہ! میں تیرا حکم مانوں گا اور تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ پس تو مجھے اپنی اتباع پر بار بار سعادت مند فرما۔ اور اجابت مخلوق میں اس کے معنی ہیں کہ میں تجھے بار بار خوش کروں گا۔“

## ترجمہ الباب کا مقصد

ترجمہ الباب کا مقصد بتاتے ہوئے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ولعل الغرض منه الرد لما حكى عن مالك من كراهة ذلك، كما في ”الشرح الكبير“ وأولّه بأن مراده استعمال تلبية الحج، لا مطلق لبيك، وترجم الإمام أبو داود في سننه على هذا المعنى بقوله: باب الرجل ينادي الرجل، فيقول: لبيك“ (۷۵)

یعنی ترجمہ الباب کا مقصد امام مالکؒ پر رد ہو سکتا ہے، جن سے ان الفاظ کے کہنے کی کراہت منقول ہے جیسا کہ ”الشرح الكبير“ میں ہے۔ صاحب شرح کبیر نے امام مالک کے اس قول کی یہ تاویل کی ہے کہ ان کی مراد مطلقاً لبيک نہیں ہے، بلکہ حج کے تلبیہ کا استعمال ہے۔ امام ابو داؤدؒ نے ”سنن“ میں اس معنی پر ان الفاظ کے ساتھ ترجمہ الباب قائم کیا ہے: باب الرجل ينادي الرجل، فيقول: لبيك - یعنی ”یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایک شخص دوسرے کو پکارے تو دوسرا جواب میں ”لبيك“ کہے۔“

باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، ان دونوں میں ”لبيك وسعديك“ کے الفاظ ہیں، پہلی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر حضرت معاذ بن جبلؓ نے اور دوسری روایت میں حضرت ابو ذرؓ نے یہ الفاظ کہے ہیں۔

باب کی دوسری روایت کتاب الجنائز اور کتاب اللباس وغیرہ میں گزر چکی ہے۔ (۷۶)

قال الأعمش: وحدّثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال أبو شهاب عن

(۷۵) الأبواب والتراجم، كتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك: ۱۲۳/۲، وسنن أبي داود،

كتاب الأدب، باب في الرجل ينادي الرجل فيقول: لبيك: ۳۵۹/۴

(۷۶) كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب أداء الديون، رقم الحديث: (۲۳۸۸)

الأعمش: يمكث عندي فوق ثلاث:

امام بخاریؒ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اعمش نے یہ حدیث ابوصالح عن ابی الدرداء کے طریق سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔ جب کہ ابوشہاب نے ”أعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر“ کے طریق سے اسے نقل کیا ہے، مگر اس میں حدیث الباب کے الفاظ ”يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار“ کی بجائے یہ الفاظ ہیں: ”يمكث عندي فوق ثلاث“ جب کہ باقی حدیث ایک جیسی ہے، البتہ حدیث باب کے اخیر میں اعمش اور ابوذر کے درمیان سوال و جواب کا جو تبادلہ ہوا ہے، وہ اس میں نہیں ہے (۷۷)۔

۳۱- باب : لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ .

۵۹۱۴ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ( لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ) .  
[ر : ۸۶۹]

کسی کو اپنی جگہ سے اٹھانے کا حکم

کوئی آدمی پہلے سے اگر کسی جگہ بیٹھ چکا ہے تو اس کو اس کی جگہ سے اٹھانا درست نہیں، ”لا یقیم“ اگرچہ مضارع کا صیغہ بصورت خبر ہے لیکن معنوی اعتبار سے یہ نہی ہے (۷۷☆) بعض روایتوں میں ”لا یقیم“ صیغہ نہی کے ساتھ بھی وارد ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ”لا یقیمن“ نہی بانون

(۷۷) فتح الباری: ۷۴/۱۱

(۵۹۱۴) الحدیث أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح (رقم الحدیث: ۲۱۷۷)، وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه (رقم الحدیث: ۲۷۴۹، ۲۷۵۰)، وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه (رقم الحدیث: ۴۸۲۸)

(۷۷☆) وهو خبر معناه النهي، عمدة القاري: ۲۲/۲۵۶، فتح الباری: ۱۱/۷۳

تاکید ہے۔ (۷۸)

یہ نبی بعض علماء کے نزدیک تحریم کے لیے اور بعض کے نزدیک تزییہ کے لیے ہے۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی بظاہر تحریم کے لیے آتی ہے اور دلیل کے بغیر اس کو کسی اور معنی کے لیے نہیں لے سکتے۔ (۷۹)

حدیث کے الفاظ اگرچہ عام ہیں تاہم عموم مراد نہیں بلکہ حدیث میں بیان کردہ حکم ان مجالس سے متعلق ہیں جو ہر ایک کے لیے عام اور مباح ہوتی ہیں جیسے مسجد، پارک وغیرہ، اگر کوئی جگہ کسی کی ملکیت ہے تو ظاہر ہے وہاں اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنا جائز نہیں۔ (۸۰)

۳۲- باب : «إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا لِلَّهِ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا». الآية / المجادلة : ۱۱ / .

۵۹۱۵ : حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَمَجْلِسِ فِيهِ آخِرٌ ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا . وَكَانَ أَبُو عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلِسَ مَكَانَهُ . [ ر : ۸۶۹ ]

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھادیا جائے اور اس کی جگہ دوسرا آدمی بیٹھ جائے تاہم گنجائش نکالا کرو اور کشادگی پیدا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے پھر اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے۔

### ترجمہ الباب کا مقصد

کرمانی کے نسخے کے علاوہ باقی نسخوں میں ”المجلس“ مفرد ہے، کرمانی کے نسخے میں

(۷۸) صحیح مسلم، کتاب السلام، باب تحریم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه : ۴/ ۱۷۱۴،

رقم الحدیث : ۲۱۷۷

(۷۹) إرشاد الساري : ۲۷۶/۱۳

(۸۰) إرشاد الساري : ۲۷۶/۱۳

”المجالس“ صیغہ جمع کے ساتھ ہے، آیت کریمہ میں دونوں قرأتیں ہیں، عاصم کی قرأت جمع کی ہے۔ (۸۱)  
 مجلس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی مراد لی گئی ہے لیکن یہ آپ کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں  
 بلکہ ہر مجلس طاعت اس سے مراد ہو سکتی ہے اور اس میں یہ ادب بیان کیا گیا ہے کہ مجلس سے کسی کو اٹھانے کے  
 بجائے، اس میں سمٹ کر کشادگی پیدا کی جائے۔ (۸۲)

حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ اس سے مجالسِ قتال مراد ہیں، شہادت کے  
 شوق میں حضرات صحابہ قتال کی صفِ اول میں جگہ پانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جایا  
 کرتے تھے، اس کے بارے میں اس آیت کے اندر حکم بیان کیا گیا ہے۔ (۸۳)

يفسح الله لكم أي: توسعوا يوسع الله عليكم منازلكم في الجنة... (۸۴)  
 اللہ تمہارے لئے کشادگی کرے گا یعنی تم کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے جنت کے گھروں میں  
 کشادگی پیدا کرے گا۔

روایتِ باب کے آخر میں حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں ہے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی  
 شخص اپنی مجلس سے اٹھے اور دوسرا آدمی آ کر اس کی جگہ پر قبضہ کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”إذا قام  
 أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به“ (۸۵) یعنی ”اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے  
 کھڑا ہو گیا پھر وہ اپنی جگہ لوٹ آیا تو وہ اس جگہ کا زیادہ حق دار ہے۔“

(۸۱) صحيح البخاري بشرح الكرماني، كتاب الاستيذان، باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس:

۱۰۴/۲۲، إرشاد الساري: ۲۷۶/۱۳

(۸۲) وذهب الجمهور إلى أنها عامة في كل مجلس من مجالس الخير، فتح الباري: ۷۴/۱۱

(۸۳) إرشاد الساري: ۲۷۷/۱۳

(۸۴) عمدة القاري: ۲۰۷/۲۲

(۸۵) أخرجه مسلم في كتاب السلام: باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به: ۱۷۱۵/۴۰، رقم

الحديث: ۲۱۷۹، وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب إذا قام من مجلسه ثم رجع: ۲۶۴/۴، رقم

الحديث: ۴۸۵۳



حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے، اس میں ہے ”جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام له رجل عن مجلسه، فذهب ليجلس، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم“ (۸۶) یعنی ”ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ایک شخص اس کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جس پر وہ اس کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔“

حاصل یہ کہ ایک شخص جب پہلے کسی جگہ بیٹھ گیا اور کسی عارض کی وجہ سے وہ اٹھ گیا تو اس کا حق جلوس زائل نہیں ہوگا، دوسرے شخص کو اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ (۸۷)

یہی حکم اس صورت کا بھی ہے جب کوئی عالم یا مفتی مسجد وغیرہ میں درس دیتا ہو اور اس کی جگہ متعین ہو تو اس متعین جگہ پر درس کے وقت دوسرے شخص کو نہیں بیٹھنا چاہیے، بعضوں نے عدم جلوس کے اس حکم کو واجب کہا ہے لیکن جمہور کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ (۸۸)

۳۳- باب : مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ ، أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ .

۵۹۱۶ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ : سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مِجَلَزٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا النَّاسَ ، طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ : فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَبَنِي ثَلَاثَةَ ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَأَنْطَلَقُوا ، قَالَ : فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا ، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَرْنَحِي الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا» .

[ر : ۴۵۱۳]

(۸۶) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه: ۲۵۸/۴، رقم الحديث:

۴۸۲۸

(۸۷) فصار كأنه ملك منفعه فلا يراحمه غيره عليه، فتح الباري: ۷۵/۱۱

(۸۸) فتح الباري: ۷۵/۱۱

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو لوگوں کی دعوت کی، کھانا کھا کر وہ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے یہ ظاہر کیا کہ گویا کھڑا ہونا چاہیے، لیکن لوگ کھڑے نہیں ہوئے جب آپ نے یہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے اور تین آدمی رہ گئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ بھی اٹھے اور چلے گئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ چلے گئے ہیں یہ سن کر آپ آئے۔ یہاں تک کہ گھر میں داخل ہوئے، میں بھی داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ..... اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے.....) إن ذلك كان عند الله عظيما. تک۔

### ترجمۃ الباب کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس ترجمۃ الباب سے یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان زیادہ دیر تک ٹھہرنے لگے جو میزبان کے لیے باعث اذیت ہو تو میزبان اپنے عمل کے کسی بھی انداز سے اس کو جانے کا پیغام دے سکتا ہے اور یہ تنبیہ کرنا ”اکرام ضعیف“ کے خلاف نہیں۔ (۸۹)

وجہ اس کی یہ ہے کہ مہمان کو میزبان کی رعایت سے اسی قدر ٹھہرنا چاہیے جس سے اس کو تکلیف و اذیت نہ پہنچتی ہو، اگر مہمان اس کی رعایت نہیں کرتا تو میزبان بھی اس کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر اسے جانے کی تنبیہ کر سکتا ہے۔ (۹۰)

(۵۹۱۷) الحدیث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، والحدیث من إفراده، عمدة القاري: ۲۲/۲۵۹

(۸۹) الأبواب والتراجم: كتاب الاستیذان، باب من قام من مجلسه أوبیته: ۲/۱۲۴

(۹۰) فتح الباري: ۱۱/۷۶

## ۳۴- باب : الإحتیاء بالید ، وهو القرفصاء .

۵۹۱۷ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْنَاءُ الْكَعْبَةَ ، مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا .

احتیاء گوٹ مار کر بیٹھنے کو کہتے ہیں، جس کی تفصیل کشف الباری، کتاب اللباس میں باب اشتمال الصماء کے تحت گزر چکی ہے۔ (۹۱)  
قرفصاء ہاتھ سے گوٹ مار کر بیٹھنے کو کہتے ہیں، جب کہ احتیاء عام ہے، چاہے ہاتھ سے ہو یا چادر وغیرہ سے ہو۔ (۹۲)

## ۳۵- باب : مَنْ أَتَاكَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ .

قَالَ حَبَّابٌ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً ، قُلْتُ : أَلَا تَدْعُو اللَّهَ ، فَقَعَدَ . [ر : ۳۴۱۶]

حضرت حباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ چادر کا تکیہ بنا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا: کیا آپ اللہ سے دعا نہیں فرمائیں گے؟ (یہ سن کر) آپ بیٹھ گئے۔

۵۹۱۸ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ) . قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا بِشْرُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ مَتَكِنًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ : (أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ) . فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ . [ر : ۲۵۱۱]

عبدالرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ

(۹۱). کشف الباری، کتاب اللباس، باب اشتمال الصماء، ص ۱۸۲

(۹۲) الأبواب والتراجم: کتاب الاستیذان، باب الإحتیاء بالید، وهو القرفصاء: ۱۲۴/۲

تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتلا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی۔  
مسدد نے بواسطہ بشر اسی طرح حدیث بیان کی کہ آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ: سن لو! جھوٹ سے بچو، اور اس کو بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے (دل میں) کہا کہ کاش! آپ خاموش ہو جائیں۔

### ترجمہ الباب کی غرض

”اتکاء“ کے معنی اضطجاع یعنی لیٹنے کے بھی آتے ہیں اور مشہور معنی ٹیک لگانے کے ہیں (۱)۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اصحاب کی مجلس میں ٹیک لگاتا، یا پہلو کے بل لیٹتا ہے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے (۲)۔

حدیث باب کو امام بخاری رحمہ اللہ نے دو طریق سے ذکر کیا، دوسرے طریق میں تصریح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے اور بڑے گناہوں کا ذکر کر رہے تھے، لیکن ”قول الزور“ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔

۳۶ - باب : مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ .

۵۹۱۹ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ : أَنَّ عُمَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ . [ ر : ۸۱۳ ]

### ترجمہ الباب کا مقصد

کسی ضرورت کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنی عام چال سے ہٹ کر تیز رفتاری کے ساتھ جائے تو یہ وقار کے

(۱) فتح الباری: ۸۰/۱۱، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۵۹، تحفۃ الباری: ۶/۱۵۷، إرشاد الساری: ۱۳/۲۷۹

(۲) قال المهلب: إنه يجوز للعالم والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة جلسائه لاستراحة أولم في بعض

أعضائه. إرشاد الساری: ۱۳/۲۸۰

خلاف نہیں، جیسا کہ حدیث باب میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور تیزی کے ساتھ گھر چلے گئے، کتاب الصلاة اور کتاب الزکاة کی روایات میں تصریح ہے کہ صدقہ کا کچھ مال گھر میں رہ گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ گئے کہ کہیں وہ رات تک رہ نہ جائے (۳)۔

یہ معمول کی رفتار سے ہٹ کر تیزی کے ساتھ چلنے کی بات ہے، باقی عام رفتار تیز ہونی چاہیے یا آہستہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تیز چلا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، تیز چال تکبر سے دوری اور ضرورت جلد پوری کرنے کا ذریعہ ہے (۴)۔

### ۳۷ - باب : السَّرِيرِ .

۵۹۲۰ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَسَطَ السَّرِيرِ ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبِيلَةِ ، تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَاسْتَقْبَلَهُ ، فَأَنْسَلُ أَنْسِلًا . [ر : ۴۸۶]

### ترجمہ الباب کی غرض

سریر چارپائی اور تخت کو کہتے ہیں، ترجمہ الباب کا مقصد یہ ہے کہ تخت وغیرہ استعمال کرنا زہد کے خلاف نہیں (۵)، حدیث باب میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تخت کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں لیٹی ہوئی ہوتی، اگر مجھے کوئی ضرورت ہوتی تو میں ناپسند کرتی کہ اٹھ کر آپ کے سامنے آؤں، اس لیے میں آہستہ سے (لیٹے لیٹے ہی) سرک جاتی تھی۔

### ۳۸ - باب : مَنْ أَلْفِيَ لَهُ وَسَادَةً .

۵۹۲۱ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ . وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي ، فَدَخَلَ عَلَيَّ ،

(۳) صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها: ۳۰۲، رقم الحدیث: ۱۴۳۰

(۴) فتح الباری: ۸۱/۱۱، إرشاد الساری: ۲۸۱/۱۳، عمدة القاری: ۲۶۰/۲۲

(۵) التراجم، کتاب الاستئذان، باب السریر: ۱۲۵/۲

فَأَلْقَيْتُ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتْ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ لِي : ( أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( خَمْسًا ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( سَبْعًا ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( تِسْعًا ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( إِحْدَى عَشْرَةَ ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ ، شَطْرَ الدَّهْرِ : صِيَامُ يَوْمٍ ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ ) . [ ر : ۱۰۷۹ ]

ابو قلابہ، ابو الخلیج سے روایت کرتے ہیں کہ میں تیرے والد زید کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن العاص (رضی اللہ عنہما) کے پاس گیا انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میرے روزے کا تذکرہ ہوا تو آپ میرے پاس تشریف لائے میں نے آپ کے سامنے ایک تکیہ ڈال دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان تھا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تجھ کو مہینے میں تین روزے کافی نہیں ہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! (مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا تو پانچ؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! (مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا تو سات؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! (مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے)۔ آپ نے فرمایا تو نو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! (مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے) آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزوں سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں اس طور پر کہ برابر ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے۔

۵۹۲۲ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا بَرِيدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ : أَنَّهُ قَدِيمَ الشَّامِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيْسًا ، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السَّرِّ الَّذِي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، يَعْنِي حَدِيْقَةَ ، أَلَيْسَ فِيكُمْ ، أَوْ كَانَ فِيكُمْ ، الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ

رَسُولِهِ ﷺ مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَعْنِي عَمَّارًا ، أَوْ لَيْسَ فَيْكُمْ صَاحِبُ السَّوَاكِ وَالْوَسَادِ ، يَعْنِي  
 أَبْنَ مَسْعُودٍ ، كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ : «وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَشَى» . قَالَ : «وَالذِّكْرُ وَالْأُنْثَى» .  
 فَقَالَ : مَا زَالَ هَوْلًا حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونَنِي ، وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . [ ر : ۳۱۱۳ ]

ابراہیم، علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شام پہنچے تو ایک مسجد میں آئے اور دعا کی یا اللہ! مجھے  
 کوئی ہم نشین عطا کر۔ پھر ابوالدرداء کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟  
 انہوں نے کہا کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ علقمہ نے کہا کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جو اس راز کا جاننے والا  
 ہے جسے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یعنی خدیفہ۔ کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے یا یہ کہا کیا تم میں وہ شخص  
 نہیں تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان سے پناہ دی  
 ہے یعنی عمار اور کیا تم میں تکیہ اور مسواک والے یعنی ابن مسعود نہیں ہیں۔ عبد اللہ ”واللیل إذا  
 بغشی“ کس طرح پڑھتے تھے؟ کہا ”والذکر والأنثی“ پڑھتے تھے۔ ابوالدرداء نے کہا لوگ مجھے  
 شک میں ڈالتے تھے، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے۔

### ترجمہ الباب کا مقصد

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی کو تکیہ دینے کا ذکر کیا ہے، ایک حدیث میں تین چیزوں کے  
 بارے میں آیا ہے کہ وہ اگر پیش کی جائیں تو رو نہیں کرنی چاہئیں، ان تین میں تکیہ بھی ہے (۶)۔  
 باب کی پہلی روایت میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت  
 میں تکیہ پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اضعاً زمین پر بیٹھے اور تکیہ دونوں کے درمیان رہا، آپ نے ان سے پوچھا  
 کہ مہینہ میں تین دن کے روزے آپ کے لیے کافی نہیں ہیں؟ قلت: یا رسول اللہ! ..... حضرت عبد اللہ بن

(۶) رواہ الترمذی فی الشمائل، باب ماجاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولفظہ: ثلث لاترد:

الوسائد، والذہن، والطیب، واللبن (ص ۱۴)

عمر نے کہا یا رسول اللہ! آگے جملہ محذوف ہے یعنی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، حضور نے فرمایا  
 ”خَمْسًا“ یعنی صُمَّ خَمْسًا پانچ دن روزہ رکھیں.....

آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لا صوم فوق صوم داود، شَطْرَ الدَّهْرِ، صِيَامُ يَوْمٍ،  
 وَإِفْطَارُ يَوْمٍ“ یعنی صوم داودی سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں، نصف زمانہ روزہ رکھا جائے، اس طرح کہ ایک دن  
 روزہ ہو اور ایک دن افطار۔

شَطْرَ الدَّهْرِ منصوب علی الاختصاص ہے اور صیام یوم منصوب علی الاختصاص بھی ہو سکتا ہے اور  
 ”هو“ محذوف کے لیے خبر بھی بن سکتا ہے، اس صورت میں یہ مرفوع ہوگا (۷)۔

دوسری حدیث مناقب میں گذر چکی ہے (۸)، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ہے  
 کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک اور تکیہ وغیرہ سنبھالا کرتے تھے، اسی جملے کی مناسبت سے یہ حدیث یہاں  
 ذکر کی ہے۔

## فائدہ

باب کی دونوں حدیثوں میں امام بخاری نے دو دوسندیں ذکر کی ہیں۔ جو نکتہ سے خالی نہیں۔ پہلی  
 حدیث میں امام بخاری نے جو دوسندیں ذکر کی ہیں، ان میں پہلی سند میں ان کے اور خالد بن عبداللہ طحان کے  
 درمیان ایک راوی اسحاق بن شاہین کا واسطہ ہے۔ جب کہ دوسری سند میں دو دو واسطے ہیں، ایک عبداللہ بن محمد کا  
 اور دوسرا عمرو بن عون کا۔ گویا دوسری سند ایک واسطے کے بڑھ جانے کی وجہ سے نازل ہے۔ چونکہ سند عالی جس  
 میں اسحاق بن شاہین مذکور ہیں، کے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کتاب الصلوٰۃ میں گزر چکی ہے اس لئے یہاں سند  
 نازل جس میں عمرو بن عون مذکور ہیں، کے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی گئی۔ اور سند نازل کے لانے میں یہی

(۷) إرشاد الساري: ۲۸۲/۱۳، عمدة القاري: ۲۶۲/۲۲

(۸) صحيح البخاري، كتاب السنن، باب من ألقى له وسادة/ ۱۳۴۱، رقم الحديث: ۶۲۷۸



تکتہ ہے تاکہ محض ایک ہی سند کے ساتھ اور ایک ہی طریقہ پر حدیث کا اعادہ لازم نہ آئے۔ چند مقامات کے علاوہ باقی پوری صحیح میں امام بخاریؒ کا یہی طریقہ کار ہے (۹)۔

دوسری حدیث کے شروع میں بھی امام بخاریؒ نے دو سندیں ذکر کی ہیں، پہلی سند میں ان کے اور شعبہ کے درمیان دو راویوں یحییٰ بن جعفر بیکندی اور یزید بن ہارون کا واسطہ ہے۔ جب کہ دوسری سند میں واسطہ ایک ہے یعنی ابوالولید کا۔ گویا پہلی سند نازل ہوئی۔ شاید دو سندیں لاکر امام بخاریؒ اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتے ہوں کہ اس کی ایک سند نازل ہے اور ایک عالی۔

نیز ایک تکتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی سند میں شعبہ سے روایت کرنے والے راوی یزید نے عنعنہ کیا ہے جب کہ دوسری سند میں شعبہ سے روایت کرنے والے راوی ابوالولید کی تحدیث کی تصریح ہے۔

### ۳۹ - باب : الْقَائِلَةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

۵۹۲۳ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ . [ ر : ۸۹۶ ]

### قیلولہ کی فضیلت

قائلہ اور قیلولہ دو پہر کے وقت آرام کرنے کو کہتے ہیں (☆۹)..... امام ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ ہیں ”استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلوله على قيام الليل“ (۱۰)۔ یعنی ”دن کے روزے کے لیے سحری کے کھانے سے اور تہجد کے لیے قیلولہ سے مدد لیا کرو“۔

اسی طرح طبرانی نے حضرت انسؓ کی ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، اس میں ہے ”قیلوا؛ فلان

(۹) فتح الباری: ۸۲/۱۱

(☆۹) تحفة الباری: ۶/۱۵۸، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۶۳، فتح الباری: ۱۱/۸۳، إرشاد الساری: ۱۳/۲۸۳

(۱۰) سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب ماجاء فی السحور: ۱/۵۴۰، رقم الحدیث: ۱۶۹۳

الشیاطین لاتقیل“ (۱۱)۔ یعنی ’قیلولہ کیا کرو، کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کیا کرتے‘۔

حضرت خوات بن جبر سے بھی ایک روایت موقوفاً مروی ہے انھوں نے فرمایا ”نوم اول النهار حرق، وأوسطه خلق، وآخره حرق“ (۱۲)۔ یعنی ”دن کے ابتدائی حصہ میں نیند آگ ہے، درمیانی حصہ میں موافق فطرت ہے اور آخری حصہ میں حماقت ہے“۔

#### ۴۰۔ باب : الْقَائِلَةُ فِي الْمَسْجِدِ .

۵۹۲۴ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : مَا كَانَ لِعَلِيٍّ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ أَبِي تَرَابٍ ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا ، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ : (أَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ) . فَقَالَتْ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ ، فَنَاضَيْتَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ : (أَنْظُرْ أَيْنَ هُوَ) . فَجَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ : (قُمْ أَبَا تُرَابٍ ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ) . [ر : ۴۳۰]

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ”ابو تراب“ سے زیادہ پسند کوئی نام نہ تھا اور جب اس نام سے پکارے جاتے تو بہت خوش ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کے گھر تشریف لائے، حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کو گھر نہ پایا تو پوچھا کہ تمہارا چچا زاد بھائی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) نے فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی، اس لئے وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے اور میرے یہاں قیلولہ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے فرمایا کہ دیکھو وہ کہاں ہے؟ اس شخص نے

(۱۱) أحكام القرآن: ۲۳/۱۳، ومجمع الزوائد، كتاب الأدب، باب القيلولة: ۱۱۲/۸، قال الهيثمي: فيه

كثير بن مروان وهو كذاب.

(۱۲) المستدرک للحاکم، کتاب الأدب، أدب العطاس: ۲۹۳/۴، وفي تنزیه الشریعة المرفوعة للکتانی:

۱۹۸/۲، النوم أول النهار حرق، والنوم في وسط النهار خلق، والنوم بعد المغرب يقطع الرزق.

واپس آ کر کہا، یا رسول اللہ! وہ مسجد میں لیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس وقت وہ لیٹے ہوئے تھے اور چادر ان کے پہلو سے سرک گئی تھی اس لئے مٹی ان کے جسم سے لگ گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مٹی ان کے جسم سے پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ اٹھ اے ابوتراب! اٹھ اے ابوتراب!۔

### مسجد میں سونے کا حکم

مسجد میں سونا جائز ہے یا نہیں، اس میں تفصیل ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً جائز ہے (۱۳)۔

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مسافر کے لیے جائز ہے اور مقامی شخص کے لیے نہیں (۱۴)۔

امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک بھی امام مالک کی طرح ہے (۱۵)۔

حضرات حنفیہ کے نزدیک مختلف اور مسافر کے لیے جائز ہے اور عام لوگوں کے لیے مکروہ (۱۶)۔

حدیث باب سے جواز معلوم ہو رہا ہے، حنفیہ کی طرف سے یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ حضرت علی رضی

اللہ عنہ نے ممکن ہے اعتکاف کی نیت کی ہو۔

مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؑ دونوں کے لیے مسجد کے

بعض احکام خاص تھے، مثلاً وہ دونوں جنبی حالت میں مسجد سے گزر سکتے تھے لیکن دوسرے لوگوں کے لیے اس کی

اجازت نہیں تھی، اس کا حاصل یہ ہے کہ مسجد کے اندر حضرت علیؑ کا یہ سونا ان کی خصوصیت ہے، عام امت کے لیے

اس سے استدلال کرنا درست نہیں (۱۷)۔

(۱۳) عمدة القاري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد: ۱۹۸/۴

(۱۴) فتح الباري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد: ۶۹۳/۱

(۱۵) عمدة القاري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال: ۱۹۸/۴

(۱۶) ردالمحتار، مطلب في الغرس في المسجد: ۴۸۹/۱

(۱۷) فيض الباري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال: ۴۹/۲

## ۴۱ - باب : مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ .

۵۹۲۵ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطْعًا ، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطْعِ ، قَالَ : فَأِذَا نَامَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ ، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُلْكِ ، قَالَ : فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ ، أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّلْكِ ، قَالَ : فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ .

## ترجمہ الباب کا مقصد

علامہ سندھی رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ﴿إِذَا دَعَيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ (۱۸) اگرچہ بظاہر مطلق ہے کہ کھانا کھانے کے بعد چلا جانا چاہیے لیکن معنوی اعتبار سے یہ مقید ہے اور نکلنے کا یہ حکم صرف اس صورت میں ہے جب کوئی داعی نہ ہو (۱۹)، لیکن اگر گھر میں رہنے کی ضرورت ہے اور گھر والوں کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہے تو ایسی صورت ”فانتشروا“ کے حکم سے مستثنیٰ ہے (۲۰)۔

باب کی پہلی حدیث حضرت انسؓ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیمؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھایا کرتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قیلولہ فرماتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو وہ آپ کا پسینہ اور بال لے کر ایک شیشی میں جمع کر لیتیں، پھر اس کو خوشبو میں جمع کرتیں۔ راوی کا بیان ہے، جب حضرت انسؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے وصیت کی کہ اس خوشبو میں سے میرے حنوط

(۵۹۲۵) أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم ، والتبرك به : ٤ / ١٥١٥ ،

رقم الحديث : ٢٣٣١ ، ٢٣٣٢

(۱۸) سورة الأحزاب : ٥٣

(۱۹) حاشية صحيح البخاري للسندی : ٢ / ٩٢٩

(۲۰) روح المعاني ، المجلد الثاني عشر ، الجزء الأول : ٧٠

میں ملا دینا، چنانچہ ان کے حنوط میں وہ ملائی گئی۔

نَطْع (نون کے کسرہ اور طاء کے فتح کے ساتھ) چمڑے کے دسترخوان اور پچھونے کو کہتے ہیں۔

سُك: (سین کے ضمہ کے ساتھ) علامہ ابن اثیر النہایۃ میں لکھتے ہیں: ”ہو طیب معروف یضاف

إلی غیرہ من الطیب، ویستعمل“ (۲۱) یعنی سبک ایک معروف خوشبو ہے جو کسی اور چیز کے ساتھ ملا کر

استعمال کی جاتی ہے، علامہ پٹنی نے اس کا ترجمہ ”دھاگے“ سے بھی کیا ہے (۲۲)۔

حَنُوط (حاء کے فتح کے ساتھ) میت کو جو خوشبو، تھمیز و تکفین کے وقت لگائی جاتی ہے، اس کو حنوط کہتے

ہیں (۲۳)۔

### أَخَذْتُ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ:

اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام سلیمؓ سوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلو لے کے

موقعہ پر پسینہ اور بال دونوں کو جمع کرتیں..... حالانکہ حقیقت اس طرح نہیں، سوتے ہوئے صرف پسینہ مبارک جمع

کرتیں، بال مبارک ان کے پاس پہلے سے موجود تھے، چنانچہ امام ابن سعد نے حضرت انسؓ کی ایک روایت سند

صحیح کے ساتھ نقل کی ہے، اس میں تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منیٰ میں بال حلق کرائے تو

حضرت ابوطالبؓ نے وہ محفوظ کیے اور حضرت ام سلیمؓ کے پاس لائے (۲۴)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال انھوں

نے ایک شیشی کے اندر رکھے اور پسینہ مبارک بھی اس شیشی میں جمع کیا اور اسے ایک سفوف نما خوشبو کے ساتھ

ملا یا..... علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سبک یعنی سفوف والی خوشبو کے ساتھ پسینہ مبارک کو اسی لیے ملایا کہ کہیں

وہ خشک ہو کر ختم نہ ہو جائے (۲۵)۔

(۲۱) النہایۃ لابن اثیر: ۲/۳۸۴، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۶۴

(۲۲) مجمع بحار الأنوار: ۳/۹۳

(۲۳) عمدۃ القاری: ۲۲/۲۶۴

(۲۴) طبقات ابن سعد، أبو طلحہ: ۳/۵۰۶، ۵۰۵

(۲۵) عمدۃ القاری: ۲۲/۲۶۴

اس حدیث سے تبرک بآثار الصالحین کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

۵۹۲۶ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ ، يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فُتَطْعِمُهُ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ يَوْمًا فَاطْعَمَتْهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرِضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَرَكْبُونَ نَجَبَ هَذَا الْبَحْرِ ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِيرَةِ ، أَوْ قَالَ : مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ ) . يَشْكُ إِسْحَاقُ . فَقُلْتُ : أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعَا ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرِضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَرَكْبُونَ نَجَبَ هَذَا الْبَحْرِ ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِيرَةِ ، أَوْ : مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ ) . فَقُلْتُ : أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : ( أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ ) . فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِبَتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ ، فَهَلَكَتْ . [ ر : ۲۶۳۶ ]

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قباء کی طرف تشریف لے جاتے تو ام حرام بنت ملحان (رضی اللہ عنہا) کے گھر جاتے وہ آپ کو کھانا کھلاتیں، ام حرام (رضی اللہ عنہا) عبادہ بن صامت (رضی اللہ عنہ) کی بیوی تھیں، ایک دن آپ تشریف لائے تو ام حرام نے آپ کو کھانا کھلایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں سو گئے پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، ام حرام نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے میرے سامنے اس طرح پیش کئے گئے کہ دریا کے وسط میں بادشاہ کی طرح وہ اپنے تخت پر سوار ہیں (راوی کو شک ہے کہ ملوکاً علی الأسرۃ یا مثل الملوک علی الأسرۃ فرمایا) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے، چنانچہ آپ نے دعا فرمائی۔ پھر آپ سر رکھ کر سو گئے اور ہنستے ہوئے اٹھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے

غازی میرے سامنے پیش کئے گئے جو اس دریا کے بیچ میں سوار ہیں، بادشاہوں کی طرح تخت پر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، آپ نے فرمایا کہ تو پہلوں میں سے ہے۔ چنانچہ ام حرام امیر معاویہ کے زمانے میں دریا میں سوار ہوئیں، جب دریا سے نکلیں تو جانور پر سواری سے گر پڑیں اور وفات پا گئیں۔

یہ حدیث کتاب الجہاد میں گذر چکی ہے (۲۶)۔ تَبَّحَ هَذَا الْبَحْرُ: تَبَّحَ پشت اور ظہر کے معنی میں ہے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وفي الحديث جواز ركوب البحر الملح ومشروعية القائلة..... وفيه علم من  
أعلام نبوته، وهو الإخبار بما سيقع، فوق كما قال (۲۷)۔

یعنی ”اس حدیث سے کھارے سمندر میں سفر کرنے کا جواز اور قیلولہ کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے..... نیز اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں سے ایک دلیل و علامت بھی ہے اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانہ میں وقوع پذیر ہونے والے ایک واقعہ کی خبر دی جو بعد میں بالکل اسی طرح وقوع پذیر ہوا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی تھی“۔

#### ۴۲ - باب : الْجُلُوسُ كَيْفَمَا تَبَسَّرَ .

۵۹۲۷ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : اِسْتِمَالِ الصَّمَاءِ ، وَالْأَخْبِيَاءِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةَ . تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . [ر : ۳۶۰]

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو قسم کے لباس اور دو قسم کی بیع سے منع فرمایا ہے، (یعنی) اشتمال صماء اور ایک ہی کپڑے میں اس

(۲۶) كشف الباري، كتاب الجهاد، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء: ۷۱

(۲۷) إرشاد الساري: ۲۸۷/۱۳

طرح گوٹ مار کر بیٹھنے سے کہ شرمگاہ پر کچھ بھی نہ ہو اور ملامتہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔

### ترجمہ الباب کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان جس طرح چاہے، اپنی سہولت کے مطابق بیٹھ سکتا ہے، اس کے تحت جو حدیثِ امام نے ذکر کی ہے، اس کے ساتھ مطابقت بیان کرتے ہوئے علامہ قسطلانی لکھتے ہیں:

”ومطابقة الحديث لما ترجم من حيث إنه خص النهي بحالتين،  
فیفهم منه أن ماعداهما ليس منهيًا عنه؛ لأن الأصل عدم النهي، فالأصل  
الجواز“ (۲۸)۔

یعنی ”حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  
نے حدیث میں نبی کو دو حالتوں کے ساتھ خاص فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے علاوہ  
باقی حالتیں ممنوع نہیں ہیں، کیونکہ عدم نہی اور جواز اصل ہے۔“

علامہ سندھی نے اس مطابقت پر اعتراض کیا اور فرمایا کہ حدیث میں لباس کا ذکر ہے، بیٹھنے کا  
نہیں (۲۹)۔

ابن بطلال نے شرح بخاری میں ابن طاؤس سے تربعا یعنی چوکور بیٹھنے کو مکروہ نقل کیا ہے (۳۰)۔  
لیکن امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ  
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع شمس تک اپنی جگہ پر تربعا تشریف فرما ہوتے (۳۱)۔  
تابعہ معمر، و محمد بن ابی حفص و عبد اللہ بن بدیل عن الزہری:  
یعنی سفیان بن عیینہ کی متابعت ان تین راویوں نے کی ہے، معمر بن راشد کی متابعت کو امام بخاری نے

(۲۸) إرشاد الساري: ۲۸۸/۱۳

(۲۹) حاشية صحيح البخاري: ۹۳۰/۲

(۳۰) شرح صحيح البخاري لابن بطلال: ۵۹/۹

(۳۱) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرجل يجلس متربعا: ۲۶۳/۴، رقم الحديث: ۴۸۵۰



کتاب البیوع میں، محمد کی متابعت کو ابن عدی نے اور عبد اللہ کی متابعت کو امام ذہلی نے موصولاً نقل کیا ہے (۳۲)۔

۴۳ - باب : مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ ، وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ .

۵۹۲۸ : حَدَّثَنَا مُوسَى ، عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ : حَدَّثَنَا فِرَاسٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيعًا ، لَمْ تَعْدِرْ مِنَّا وَاحِدَةً ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَمْشِي ، وَلَا وَاللَّهِ مَا نَخْفَى مِثْلَهَا مِنْ مِثْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَأَاهَا رَحَّبَ وَقَالَ : ( مَرْحَبًا بِابْنَتِي ) . ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ سَارَّهَا ، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا ، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ ، فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ : حَصَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالسَّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتَهَا : عَمَّ سَارَّكَ ؟ قَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأُفْئِئِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِرَّهُ ، فَلَمَّا تُوِّفِي ، قُلْتُ لَهَا : عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِمَا لِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتَنِي ، قَالَتْ : أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ ، فَأَخْبَرْتَنِي ، قَالَتْ : أَمَّا حِينَ سَارَّرْتَنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّهُ أَخْبَرْتَنِي : أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً . ( وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ أَقْتَرَبَ ، فَأَتَنِي اللَّهُ وَأَصْبِرِي ، فَإِنِّي نِعَمَ السَّلْفُ أَنَا لَكَ ) . قَالَتْ : فَبَكَتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّرْتَنِي الثَّانِيَةَ ، قَالَ : ( يَا فَاطِمَةُ ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ) .

[ ر : ۳۴۲۶ ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم سب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے پاس جمع تھیں، ہم میں سے کوئی غائب نہ تھی۔ حضرت فاطمہ چلتی ہوئی آئیں اور ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چال سے بہت زیادہ مشابہ تھی، آپ نے ان کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ خوب آئیں، پھر اپنے دائیں یا بائیں ان کو بٹھلایا پھر ان سے چپکے سے بات کی تو وہ زور سے رونے لگیں، جب حضور نے ان کو غمگین ہوتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ چپکے سے بات کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم میں سے

صرف تم سے خاص راز کی بات فرمائی پھر بھی تم روتی ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کیا بات کہی؟ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کرتی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ اس حق کے عوض جو میرا تم پر ہے، تم مجھے وہ بات بتادو۔ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) نے کہا کہ ہاں اب بتادوں گی چنانچہ انہوں نے بتلاتے ہوئے کہا کہ پہلی دفعہ چپکے سے جو بات آپ نے فرمائی (وہ یہ تھی) کہ آپ نے مجھ سے بیان کیا کہ جبریل ہر سال قرآن کا ایک دفعہ دور کرتے تھے اور اس سال دو دفعہ دور کیا، اب موت مجھے قریب نظر آرہی ہے اس لئے اللہ سے ڈرو اور صبر کرو میں تمہارے لئے اچھا آگے جانے والا ہوں چنانچہ میں رونے لگی جیسا کہ آپ نے دیکھا، جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو دوسری بار آپ نے چپکے سے فرمایا کہ اے فاطمہ! کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ مومنین کی عورتوں کی سردار ہو جائے یا یہ فرمایا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہو جائے۔

### ترجمۃ الباب کا مقصد

ترجمۃ الباب کے دو جزء ہیں، پہلے جزء کا حاصل یہ ہے کہ تین سے زیادہ آدمیوں کی جماعت ہو تو اس میں کسی کے ساتھ سرگوشی کرنا جائز ہے، حدیث میں جو ممانعت آئی ہے، وہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب صرف تین آدمی ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں اگر دو آدمی سرگوشی کریں گے تو تیسرے کو شک ہوگا لیکن آدمیوں کی کثرت کی صورت میں اس کا جواز ہے کیونکہ کثرت کی صورت میں، دو کی سرگوشی کسی کے لیے عموماً باعثِ شک نہیں ہوتی۔

ترجمۃ الباب کے دوسرے جزء سے امام کا مقصد یہ ہے کہ راز افشاء کرنے میں اگر کوئی نقصان نہیں، تو اسے صاحبِ راز کے مرنے کے بعد افشاء کر سکتے ہیں۔ اکثر شراح بخاری نے ترجمۃ الباب کا یہ مقصد بیان کیا ہے (۳۳)۔

## شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کی رائے

لیکن شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک پہلے جزء کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں کسی ایک شخص کے ساتھ اگر سرگوشی کی جائے تو یہ مجلس اور لوگوں کے آداب و اکرام کے خلاف نہیں (۳۳)۔ کیونکہ عام شراح نے جو غرض ترجمہ بیان کی ہے، اس پر دو تین باب آگے امام بخاری نے مستقل ترجمہ الباب ”باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة، فلا بأس بالمسارّة والمُناجاة“ قائم کیا ہے اگر اس ترجمہ الباب کا بھی وہی مقصد لیا جائے جس پر آگے مستقل باب آ رہا ہے تو تکرار لازم آئے گا (۳۵)۔

### ۴۴ - باب : الاستئقاء .

۵۹۲۹ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا ، وَأَضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . [ ر : ٤٦٣ ]

حدیث کی مناسبت باب کے ساتھ واضح ہے۔

## تکرار ترجمہ کا وہم اور اس کا دفعیہ

بعینہ یہی ترجمہ اور حدیث کتاب اللباس میں بھی گزر چکی ہے (۳۶)، بظاہر تکرار ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا:

وعندي يمكن أن يقال في وجه الفرق بينهما: أن المصنف ذكره

سابقاً لمناسبة اللباس؛ لاحتمال الكشف في هذه الصورة، وههنا ذكره لبيان

(۳۴) الأبواب والتراجم، كتاب الاستئذان، باب: من ناجى بين يدي الناس: ۱۲۵

(۳۵) إرشاد الساري: ۶۹۳/۱۳، فتح الباري: ۹۹/۱۱، عمدة القاري: ۲۶۸/۱۲

(۳۶) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الاستئقاء ووضع الرجل على الأخرى: ۱۲۷۱، رقم الحديث:

الجواز؛ لورود النهي عنه.....، ويمكن أيضا أن يقال: إن المقصود في الترجمة السابقة هو الجزء الثاني من الترجمة، وهو وضع الرجل على الأخرى والمقصود ههنا نفس الاستلقاء، (۳۷)۔

یعنی ”میرے نزدیک دونوں میں اس طرح فرق بیان کیا جاسکتا ہے کہ امام بخاری نے پہلے اسے ”کتاب اللباس“ کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا ہے، کیونکہ استلقاء کی صورت ہی میں کشف عورت کا احتمال ہوتا ہے۔ جب کہ یہاں استلقاء کے جواز کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا ہے کیونکہ اس کے متعلق نہیں وارد ہوئی ہے..... اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سابقہ ترجمہ میں ترجمہ کا جزء ثانی مقصود تھا یعنی ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھنا، جب کہ یہاں نفس استلقاء کا بیان مقصود ہے۔“

#### ۴۵ - باب : لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّلَاثِ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوا بِالْأَيْمَنِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالْقَوَىٰ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ . إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ /المجادلة: ۹ ، ۱۰ / .  
وَقَوْلُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ /المجادلة: ۱۲ ، ۱۳ / .

۵۹۳۰ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ . وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ،

(۳۷) الأبواب والتراجم، كتاب الاستئذان، باب: الاستلقاء: ۱۲۵/۲

(۵۹۳۰) أخرجه مسلم في السلام، باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه: ۱۷۱۷/۴ (رقم

الحديث: ۲۱۸۳)، وأبو داود في الأدب، باب في التناجى: ۲۶۳/۴ (رقم الحديث: ۴۸۵۱)، وابن ماجه في

الأدب باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث: ۱۲۴۱/۲ (رقم الحديث: ۳۷۷۵)، وأخرجه الترمذي في كتاب

الأدب، باب ماجاء: لا يتناجى اثنان دون الثالث (رقم الحديث: ۲۸۲۵)

فَلَا يَتَنَجَّجِي أَتْنَانِ دُونَ الثَّلَاثِ .

### ترجمہ الباب کا مقصد

اس باب میں ایک ادب بیان کیا گیا ہے کہ اگر تین آدمی کسی مجلس میں ہیں تو ان میں دو آدمیوں کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی سورہ مجادلہ کی دو آیتیں نقل فرمائی ہیں، پہلی آیت کریمہ نمبر نو ہے، جس کا ترجمہ ہے:

”اے ایمان والو! جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، نیکی اور تقویٰ کی سرگوشی کرو“

یعنی سچے مسلمانوں کو منافقین کی خوشے بچنا چاہیے، ان کی سرگوشیاں اور مشورے ظلم وعدوان اور اللہ و رسول کی نافرمانی کے لیے نہیں، بلکہ نیکی تقویٰ اور معقول باتوں کی اشاعت کے لیے ہونے چاہئیں۔

دوسری آیت کریمہ نمبر گیارہ ہے، جس میں مؤمنین کو حکم دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ دیا کریں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”منافق بے فائدہ باتیں حضور سے کان میں کرتے تاکہ لوگوں میں اپنی بڑائی جتائیں اور بعض مسلمان غیر مبہم باتوں کی سرگوشی کر کے اتنا وقت لے لیتے تھے کہ دوسروں کو حضور سے مستفید ہونے کا موقع نہ ملتا تھا، یا کسی وقت آپ خلوت چاہتے تو اس میں بھی تنگی ہوتی تھی لیکن مروت و اخلاق کے سبب کسی کو منع نہ فرماتے، اس وقت یہ حکم ہوا کہ جو قدرت والا آدمی حضور سے سرگوشی کرنا چاہے، وہ اس سے پہلے کچھ خیرات کر کے آیا کرے، اس میں کئی فائدے ہیں، غریبوں کی خدمت، صدقہ کرنے والے کے نفس کا تزکیہ، مخلص و منافق کی تمیز، سرگوشی کرنے والوں کی تقلیل وغیر ذلک۔ ہاں جس کے پاس خیرات کرنے کو کچھ نہ ہو، اس سے یہ قید معاف ہے۔ جب یہ حکم اترا تو منافقین نے مارے بخل کے وہ عادت چھوڑ دی اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ زیادہ سرگوشیاں کرنا اللہ کو پسند نہیں، اس لیے یہ قید لگائی گئی ہے، آخر یہ حکم اگلی آیت سے منسوخ فرمادیا“ (۳۸)

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت پر صرف حضرت علیؑ نے عمل کیا تھا (۳۹)

### دونوں آیات کی ترجمۃ الباب سے مناسبت

پہلی دو آیتوں کی ترجمۃ الباب سے مناسبت اکثر شراح نے لکھی ہے اور وہ یہ کہ تیسرے شخص کی موجودگی میں دو آدمیوں کی آپس میں سرگوشی جائز نہیں، ہاں تین سے اگر زائد ہوں تو پھر جائز ہے، لیکن جواز اس وقت ہے جب وہ سرگوشی گناہ، ظلم اور اللہ اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل نہ ہو۔

اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تین آدمیوں کی موجودگی میں دو کی سرگوشی گناہ ہے، جس سے آیت کریمہ میں منع کیا گیا ہے۔

البتہ ترجمۃ الباب میں ذکر کردہ تیسری آیت کی مناسبت حضرات شراح نے بیان نہیں کی ہے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے یہ مناسبت بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

”ومناسبة الآيتين بالترجمة خفية، إلا أن يقال: إن تناجی اثنتين إذا كان سبباً لمساءة الثالث، كان ذلك تناجياً بالإثم والعدوان، وهو منهي عنه، فكان إيراد الآية تغميماً لها حتى يدخل فيه تلك الجزئية، وأن التناجی لا بد وأن يكون على حسب قواعده المقررة وآدابه المعلومة، دل عليه الآية الثانية؛ فإن خصوص تقديم الصدقة، وإن كان منسوخاً، غير أن ما تضمنته هذه الآية من كون النجوى على حسب الآداب غير منسوخ، سواء كان النجوى بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو غيره“ (۴۰)۔

(۳۹) الجامع لأحكام القرآن: ۳۰۲/۱۷، والتفسير الكبير: ۲۷۱/۲۹، وروح المعاني، المحلد الرابع عشر،

الجزء الثاني: ۳۱

(۴۰) لامع الدراري، كتاب الاستئذان، باب: لايتناجى اثنان.....: ۶۱/۱۰، الأبواب والتراجم، كتاب

الاستئذان، باب: لايتناجى اثنان دون الثالث: ۱۲۵/۲

یعنی ”دونوں آیتوں کی ترجمہ الباب سے مناسبت میں کچھ خفا ہے، البتہ یوں مناسبت پیدا کی جاسکتی ہے کہ دو آدمیوں کی سرگوشی اگر تیسرے کی دل آزاری کا سبب ہو تو یہ گناہ اور عدوان کی سرگوشی ہوگی جس سے آیت کریمہ میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ تو آیت کے ذکر کرنے کا مقصد اس ممنوعہ صورت کو شامل کرنے کے لیے ہے، تاکہ یہ مخصوص جزئیہ (تیسرے کی موجودگی میں دو کی سرگوشی) بھی اس میں داخل ہو جائے اور دوسرے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ سرگوشی اس کے مقرر کردہ ضابطوں اور معروف آداب کے ساتھ ہونی چاہیے، اس مقصد پر دوسری آیت دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے کی نص اگرچہ منسوخ ہے، مگر آیت کا یہ مضمون کہ سرگوشی آداب کے مطابق ہونی چاہیے، منسوخ نہیں ہے۔ خواہ سرگوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ۔“

#### ۶۶ - باب : حِفْظِ السِّرِّ .

۵۹۳۱ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : أَسْرَأَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ سِرًّا ، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ ، وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي أُمُّ سَلِيمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ .

#### ترجمہ الباب کی غرض

راز کا افشاء جائز نہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ابی شیبہ نے نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة“ (۴۱)۔ یعنی ”کسی شخص نے اگر کوئی بات کہی اور بات کرتے وقت اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو وہ بات امانت ہے۔“

اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں ایک مرسل روایت ہے ”إنما يتجالس المتجالس بالأمانة“

(۵۹۳۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: من فضائل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه:

۱۹۲۸/۴ (رقم الحديث: ۲۴۸۲)

(۴۱) إرشاد الساري: ۲۹۲/۱۳، فتح الباري: ۹۹/۱۱

فلا یحل لأحد أن یفشی علی صاحبہ ما یکره“ (۴۲)۔ یعنی ”دوہم جلیس امانت کی رعایت کے ساتھ بیٹھا کریں، پس کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کی ایسی بات کا افشاء کرے جس کا افشاء اسے بُرا لگے۔“

روایت باب حضرت انسؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے راز کی ایک بات کہی جو میں نے کسی کو نہیں بتلائی ہے۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، اس میں دیر لگ گئی، جب میں گھر آیا تو میری والدہ ام سلیم نے مجھ سے تاخیر کی وجہ پوچھی، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا، انھوں نے کہا، کیا کام تھا، میں نے کہا، وہ راز ہے، انھوں نے کہا کہ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتلائیں (۴۳)۔

بعض حضرات نے کہا کہ یہ راز شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق تھا، علم و عمل سے متعلق کوئی بات نہ تھی، ورنہ حضرت انسؓ اسے کیسے چھپاتے (۴۴)۔

راز افشاء کرنا اس وقت ناجائز ہے جب اس کے افشاء کرنے میں صاحب راز یا کسی اور شخص کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو (۴۵)۔

#### ۴۷ - باب : إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالمَسَارَّةِ وَالمُنَاجَاةِ .

۵۹۳۲ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ

(۴۲) فتح الباري: ۹۹/۱۱

(۴۳) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه:

۴/۱۹۲۹، رقم الحديث: ۲۴۸۲

(۴۴) فتح الباري: ۹۹/۱۱، عمدة القاري: ۲۶۸/۲۲

(۴۵) فتح الباري: ۹۹/۱۱، عمدة القاري: ۲۶۸/۲۲، شرح صحيح البخاري لابن بطال: ۶۴/۹

(۵۹۳۲) أخرجه مسلم في السلام، باب: تحريم مناجاة الاثني دون الثالث بغير رضاه: ۴/۱۷۱۸ (رقم =



اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَحْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ، أَجَلٌ أَنْ يُحْزِنَهُ ) .

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تین آدمی ہو تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں، جب تک کہ بہت سے آدمی نہ ہوں، اس لئے کہ یہ اسے رنجیدہ کرے گا۔

۵۹۳۳ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قِسْمَةً ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : إِنَّ هَذِهِ لِقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ ، قُلْتُ : أَمَا وَاللَّهِ لَا تَبِينَنَّ النَّبِيُّ ﷺ ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلَأٍ فَسَارَرْتُهُ ، فَغَضِبَ حَتَّى أَحْمَرَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ( رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ، أَوْذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ) . [ ر : ۲۹۸۱ ]

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن کچھ مال تقسیم کیا تو ایک انصاری نے کہا کہ یہ وہ تقسیم ہے جس سے خدا کی خوشنودی پیش نظر نہیں ہے۔ میں نے کہا بخدا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا (اور آپ سے بیان کروں گا) چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ جماعت کے ساتھ تھے، میں نے چپکے سے آپ سے بات کی تو آپ غصہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ پر خدا کی رحمت ہو، ان کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ جب مجلس میں آدمی، تین سے زیادہ ہوں تو دو آدمیوں کی آپس کی سرگوشی جائز ہے، باب کے اندر ذکر کردہ دونوں حدیثوں کی مناسبت ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے۔

باب کی پہلی حدیث میں ”أُخْلَ.....“ مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور یہ اپنے مابعد ”أَنْ“

= الحدیث : (۲۱۸۴)، وأبوداؤد فی الأدب، باب فی التناجی (رقم الحدیث : ۴۸۵۱)، والترمذی فی الأدب،

باب ماجاء: لا یتناجی اثنان دون الثالث (رقم الحدیث : ۲۸۲۵)، وابن ماجہ فی کتاب الأدب، باب:

لا یتناجی اثنان دون الثالث (رقم الحدیث : ۳۷۷۵)

يُخْرِزُهُ“ کی طرف مضاف ہے۔

#### ۴۸ - باب : طول النَّجْوَى .

وَقَوْلُهُ : «وَإِذْ هُمْ نَجْوَى» /الإسراء: ۴۷/ : مَصْدَرٌ مِنْ نَجَيْتُ ، فَوَصَفَهُمْ بِهَا ، وَالْمَعْنَى : يَتَنَاجَوْنَ .

۵۹۳۴ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَنَّهُ قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَرَجُلٌ يُتَاجَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَمَا زَالَ يُتَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . [ر : ۶۱۶]

#### ترجمہ الباب کا مقصد

ترجمہ الباب کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے وقت لمبی سرگوشی بھی کی جاسکتی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ مجادلہ میں ہے ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾ نجوی مصدر ہے، مصدر کا حمل ذات پر مبالغۃ ہو سکتا ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ آپس میں بکثرت سرگوشیاں کرتے ہیں۔

روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل سرگوشی کی۔ شراح نے لکھا ہے کہ اس آدمی کا نام معلوم نہیں ہو سکا (۳۶)۔

#### ۴۹ - باب : لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ .

۵۹۳۵ : حَدَّثَنَا أَبُو نَعْمَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو عِيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (لَا تُتْرَكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ) .

(۴۶) فتح الباري في الأذان، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة: ۱۶۳/۲  
 (۵۹۳۵) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء (رقم الحديث: ۲۰۱۵)، وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب: في إطفاء النار بالليل: ۳۶۳/۴ (رقم الحديث: ۵۲۴۶)، وأخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب ماجاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام: ۲۶۳/۴ (رقم الحديث: ۱۸۱۳)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب إطفاء النار عند المبيت (رقم الحديث: ۳۷۶۹)

سالم اپنے والد سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ رہنے دو۔

۵۹۳۶ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَخْرَقَ بَيْتَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَحَدَّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ : (إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّكُمْ ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ) .

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک گھر، رات کو گھروالوں سمیت جل گیا، ان لوگوں کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لئے جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو۔

۵۹۳۷ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ كَثِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (خَمَرُوا الْآيَةَ ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ ، فَإِنَّ الْفُوسَةَ رَبِّمَا جَرَّتِ الْفِتْيَلَةَ فَأَخْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ) . [ر : ۳۱۰۶]

اس باب کے اندر بتلایا گیا ہے کہ سوتے ہوئے گھر میں آگ نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ بسا اوقات وہ پھیل جاتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ باب کے اندر دوسری حدیث میں ہے کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، ابن العربی نے شرح ترمذی میں فرمایا ”معنی کون النار عدو لنا أنها تنافي أبداننا وأموالنا منافاة العدو، وإن كانت لنا بها منفعة لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة“ یعنی آگ میں اگرچہ فائدہ بھی ہے لیکن براہ راست چونکہ وہ آدمی کے مال اور بدن کو جلا دیتی ہے، اس لیے اس پر دشمن کا اطلاق کیا گیا (۴۷)۔

باب کی تیسری حدیث میں ہے (سونے سے پہلے) برتن ڈھانک لیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو،

(۵۹۳۶) الحدیث أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء..... (رقم الحدیث:

۲۱۰۶)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب إطفاء النار عند المبيت: ۱۲۳۹/۲ (رقم الحدیث:

چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ بسا اوقات چوبہا متی کو کھینچ کر لے جاتا ہے اور گھر والوں کو جلا دیتا ہے۔  
أجیفوا: بند کرو۔

### فویسقہ کا مصداق اور وجہ تسمیہ

فُویسِقَہ سے چوبہا مراد ہے، طحاوی کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ چوہے کو فویسقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انھوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگ رہے تھے، چوہے نے آ کر بتی کھینچی تاکہ گھر کو جلا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اسے قتل کر دیا اور اس کے مارنے کو محرم، غیر محرم سب کے لیے جائز قرار دیا (۴۸)۔

### فائدہ

آگ کے اندر اللہ جل شانہ نے حرکت، حرارت، خشکی، لطافت اور روشنی پانچ اوصاف جمع کیے ہیں، حرکت کی وجہ سے وہ ابالتی، حرارت سے گرم کرتی، خشکی سے کھاتی، لطافت سے جسم کے اندر داخل ہوتی اور روشنی سے آس پاس کو روشن کرتی ہے، یہ انسان کے لیے مفید بھی ہے اور مضر بھی (۴۹)۔

### ۵۰۔ باب : غَلَقُ الْأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ .

۵۹۳۸ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ أَبِي عَبَادٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ ، وَخَمَرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ - قَالَ هَمَّامٌ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَوْ بَعُوذٍ يَعْزُضُهُ) . [ر : ۳۱۰۶]

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب تم سونے لگو تو چراغوں کو بجھا دیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو، مشک کا منہ باندھ دیا کرنا اور کھانے

(۴۸) شرح معانی الآثار، کتاب مناسک الحج، باب ما یقتل المحرم من الدواب: ۱/۴۱۱

(۴۹) إرشاد الساری: ۱۳/۲۹۷، ۲۹۶

پینے کی چیزیں ڈھک کر رکھو۔

اور ہام کا بیان ہے میرا خیال ہے، کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ”ولو بعود“ یعنی اگرچہ ایک لکڑی سے ہی کیوں نہ ہو۔

رات کو دروازے بند کر کے سونا چاہیے۔

وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ یعنی مشکیزوں کو کسی چیز سے باندھو۔

قال ہمام: وأحسبه قال: ولو بعود

ہمام بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میرے شیخ عطاء نے ”ولو بعود“ کا اضافہ بھی کیا تھا۔ یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپو، اگرچہ لکڑی سے ہو۔

### ۵۱ - باب : الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَتَنْفِ الْأَيْطِطِ .

۵۹۳۹ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ ، وَالْأَسْتِحْدَادُ ، وَتَنْفِ الْأَيْطِطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ) . [ر : ۵۵۵۲]

۵۹۴۰ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (أَخْتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَأَخْتَنَ بِالْقُدُومِ) . مُخَفَّفَةٌ .

قال أبو عبد الله : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْمُعْبِرَةُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ : بِالْقُدُومِ .

[ر : ۳۱۷۸]

۵۹۴۱ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : أَخْبَرَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ : سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قَبِضَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ ، قَالَ : وَكَانُوا لَا يَخْتُونُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ .

(۵۹۴۱) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب السنن في هذا الباب (رقم الحديث: ۶۳۰۰)،

والحديث من أفرادہ. انظر: عمدة القاري (۲۲/۴۲۳)

## ترجمہ الباب کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں ختنہ کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ختنہ ابتدائی عمر ہی میں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا ختنہ نہیں ہوا تو بڑے ہونے کے بعد بھی کرنا چاہیے، جس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جیسا کہ روایت باب میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کے بعد ختنہ کیا تھا۔

## ختنہ کا حکم

ختنہ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے (۵۰)۔ بعض مالکیہ کا بھی یہی مسلک ہے (۵۱) اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت وجوب کی منقول ہے (۵۲)۔ امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور روایت اور حضرات حنفیہ کے نزدیک ختنہ مسنون ہے (۵۳)۔

## ونتف الإبط:

بغل کے بالوں کے اندر سنت تو یہ ہے کہ اسے نوچ کر اکھیڑا جائے اور حلق کرنا بھی جائز ہے، اگر ہاتھ سے نکالتے ہوئے کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو وہ حلق کر سکتا ہے (۵۴)۔

## اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة:

موطأ کے اندر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک موقوف روایت ہے، اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم

(۵۰) ردالمحتار، کتاب الختنی، مسائل شتی: ۵۳۰/۵، والمغنی لابن قدامة، باب ماتكون الطهارة من الماء:

۶۳/۱

(۵۱) أوجز المسالك: ۲۶۹/۱۶

(۵۲) فتح الباري: ۴۱۹/۱۰

(۵۳) ردالمحتار، کتاب الختنی، مسائل شتی: ۵۳۰/۵، والمنتقى للباہی کتاب: ۲۳۲/۷

(۵۴) المغنی لابن قدامة، باب ماتكون الطهارة من الماء: ۶۴/۱

علیہ السلام نے سب سے پہلے ختنہ کیا تھا، اس وقت ان کی عمر ایک سو بیس سال تھی (۵۵)۔  
لیکن اکثر اور مشہور روایات اسی سال کی ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دونوں طرح کی روایات میں  
تطبیق دی ہے کہ اسی سال اپنی قوم سے جدائی کے وقت سے اور ایک سو بیس سال کی مدت ولادت کے وقت سے  
ہے (۵۶)۔

### واختن بالقُدوم:

قَدُوم: دال کی تخفیف کے ساتھ آلہ کا نام بھی ہے اور ایک بستی کا نام بھی ہے، جو شام کے شہر حلب کے  
قریب واقع ہے۔

اور ایک روایت ”قَدُوم“ دال کی تشدید کے ساتھ ہے، مہلب نے فرمایا کہ تشدید کے ساتھ جگہ کا اور  
دال کی تخفیف کے ساتھ آلہ کا نام ہے (۵۷)۔

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام قدوم میں ختنہ کیا یا قدوم آلہ استعمال کر کے ختنہ کیا۔  
ایک روایت میں قدوم کی تفسیر کلہاڑی سے کی گئی ہے (۵۸)۔

باب کی آخری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کس عمر کے آدمی کی طرح تھے؟ (آپ کی کیا عمر تھی؟) انھوں نے جواب دیا  
کہ اس وقت میرا ختنہ ہو چکا تھا، راوی کہتا ہے کہ لوگ بالغ ہونے سے پہلے ختنہ نہیں کراتے تھے گویا کہ آپ کی  
وفات کے وقت حضرت ابن عباسؓ بالغ تھے۔

(۵۵) وتعقبه الشيخ الإمام محمد زكريا الكاندهلوي في "أوجز المسالك": بأن ماحكى الحافظ من رواية

"الموطأ" ليست ههنا في النسخ المصرية، ولا الهندية. كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء في

السنة في الفطرة: ۲۸۳/۱۶

(۵۶) فتح الباري: ۱۰۷/۱۱

(۵۷) فتح الباري: ۱۰۷/۱۱

(۵۸) فتح الباري: ۱۰۷/۱۱، إرشاد الساري: ۲۹۸/۱۳

## ختنہ کرنے کی عمر

ختنہ کس عمر میں کرنا چاہیے، اس میں اختلاف ہے۔ درمختار میں ہے ”وقتہ غیر معلوم“ یعنی ”اس کا وقت معلوم نہیں ہے“۔ (۵۹) امام ابوحنیفہؒ اور حضرات صاحبینؒ سے بھی کوئی وقت مروی نہیں، امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا ”لاعلم لی بوقتہ“ یعنی ”مجھے اس کا وقت معلوم نہیں“ (۶۰)۔

البحر الرائق میں ہے کہ ایک قول کے مطابق اس کا اول وقت سات سال اور انتہائی وقت بارہ سال ہے اور ایک قول میں انتہائی وقت دس سال ہے (۶۱)۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ ولادت کے ساتویں دن ختنہ کرانا مستحب ہے، لیکن ابن المذر نے امام مالکؒ سے اس کی کراہت نقل کی ہے، انھوں نے کہا یہ یہودیوں کا فعل ہے (۶۲)۔

## باب کی کتاب الاستیذان سے مناسبت

ختان کی مناسبت بیان کرتے ہوئے علامہ کرمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

إن الختان يستدعي الاجتماع في المنازل غالباً یعنی ختنے کے وقت چونکہ عموماً لوگ گھروں کے اندر جمع ہوتے ہیں، اس مناسبت سے اس کو کتاب الاستیذان میں ذکر کیا۔ کیونکہ جہاں لوگ جمع ہوں گے وہاں اجازت لینے کی ضرورت ہوگی۔

۵۲ - باب : كُلُّ نَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنِ طَاعَةِ اللَّهِ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَى أَقَامِرُكَ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» / لقمان : ۶ / .

(۵۹) الدرالمختار، کتاب الختنی، مسائل شتی: ۵۳۰/۵

(۶۰) قال في الدرالمختار: ”وقتہ غیر معلوم، وقیل: سبع سنين، كذا في الملتقى، وقیل: عشر، وقیل: أقصاه اثنا عشرة

سنة، وقیل: العبرة ببطاقته، وهو الأشبه. كتاب الختنی، مسائل شتی: ۵۳۰/۵، والبحر الرائق، مسائل شتی: ۴۸۵/۸

(۶۱) البحر الرائق، مسائل شتی: ۴۸۵/۸

(۶۲) أوجز المسالك، كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء في السنة في الفطرة: ۲۷۳/۱۶



۵۹۴۲ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ :  
 أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ  
 فَقَالَ فِي حَلْفِهِ : بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، فَلْيُقَلِّ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ ،  
 فَلْيَتَصَدَّقْ ) . [ ر : ۴۵۷۹ ]

### ترجمہ الباب کا مقصد

امام ابوداؤد اور امام احمد نے عقبہ بن عامر سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ ہیں ”کل ما يلهو به المرء المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله“ (۶۳) چونکہ یہ روایت امام بخاری کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے اسے ترجمہ الباب میں ذکر کر دیا، حاصل یہ ہے کہ ہر وہ کھیل کود، جو انسان کو اللہ کی طاعت اور دوسری ذمہ داریوں سے غافل کرے، وہ جائز نہیں۔

ترجمہ الباب کا دوسرا جزء ہے ومن قال لصاحبه: تعال، أقامرك۔ یہ بھی حدیث مرفوع کا حصہ ہے جو کتاب الادب میں گزر چکی ہے، اس میں ہے من قال لصاحبه: تعال، أقامرك فليصدق۔ اس کی تشریح کشف الباری، کتاب التفسیر میں گزر چکی ہے (۶۵)۔

ترجمہ الباب کا تیسرا جزء قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله﴾

اس آیت کریمہ میں ”لهو الحديث“ کی تفسیر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کی ہے۔ ”کل ما شغلك عن عبادة الله وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها“۔ (یعنی

(۶۳) إرشاد الساري: ۳۰/۱۳، نیز دیکھیے: شرح الكرماني: ۱۲۰/۲۲

(۶۴) سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل الرمي في سبيل الله: ۱۷۴/۴، رقم الحديث: ۱۶۳۸، ورواه أبو داود في سننه بلفظ: ”ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله“، كتاب الجهاد، باب في الرمي: ۱۳/۳، رقم الحديث: ۲۵۱۳

(۶۵) كشاف الباري، كتاب التفسير، باب: أفرأيتم اللات والعزى: ۶۳۹

”لہو الحدیث“ سے ہر وہ چیز مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور طاعت سے ہٹانے والی ہو، مثلاً فضول قصہ گوئی، ہنسی مذاق کی باتیں، واہیات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ)

## حدیث کی باب اور باب کی کتاب سے مناسبت

حدیث باب کی مناسبت ترجمۃ الباب سے اور ترجمۃ الباب کی مناسبت کتاب الاستئذان سے بیان کرتے ہوئے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”إن الدعاء إلى القمار لا ينبغي أن يؤذن له في دخول المنزل، ثم لكونه يتضمن اجتماع الناس، ومناسبة بقية حديث الباب للترجمة أن الحلف باللات لهو يشغل عن الحق بالخلق فهو باطل“ (۶۷)۔

یعنی ”قمار کی دعوت دینے والے کو گھر میں داخل ہونے کی جازت نہ دی جائے، پھر قمار لوگوں کے اجتماع کو بھی متضمن ہے..... اور حدیث باب کی ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہے کہ ”لات“ کی قسم کھانا ایسا لہو ہے جو حق تعالیٰ سے غافل کر کے مخلوق کی طرف متوجہ کرنے والا ہے، لہذا یہ باطل ہے۔“

۵۳- باب : مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ .

قال أبو هريرة، عن النبي ﷺ : (من أشرط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان) .  
[ر : ۵۰]

## ترجمۃ الباب کی غرض

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تعمیرات سے متعلق حکم بیان کیا ہے کہ بلا ضرورت اونچی بڑی عمارتیں بنانا پسندیدہ اور جائز نہیں۔

استدلال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک حصہ یہاں تعلقاً ذکر کیا ہے ”من أشرط

الساعة إذا تطاول رعاء البهيم في البنيان“ یعنی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ چرواہے بڑی تعمیرات بنا کر باہمی فخر کریں گے، مقصد یہ ہے کہ ذلیل اور رذیل لوگوں کے ہاتھ میں دولت کی فراوانی ہوگی اور وہ بلا ضرورت بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر و تقابل کریں گے۔

رِعاء (راء کے کسرہ کے ساتھ) راعی کی جمع ہے بمعنی چرواہا۔ البہم (باء کے فتح اور ہاء کے سکون کے ساتھ) بہمة کی جمع ہے بھیڑ بکری کے بچے کو کہتے ہیں اور یا یہ بُہم (باء کے ضمہ اور ہاء کے سکون کے ساتھ) اُبہم کی جمع ہے۔ علامہ یعنی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں الأبهم: هو الذي يخلط لونه شبيء، سوی لونہ (۶۸) یعنی ”وہ چیز جس کے رنگ کے ساتھ کوئی اور چیز مل گئی ہو اور اس کا رنگ اس کے رنگ سے مختلف ہو“۔ بہر حال رعاء البهيم سے بھیڑ بکریوں وغیرہ کے چرواہے مراد ہیں۔

### بے فائدہ بلند و بالا تعمیرات کی مذمت

امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کا یہ حصہ اونچی اور بلند و بالا بے فائدہ تعمیرات کی مذمت میں پیش کیا ہے کہ اس طرح کرنا علامات قیامت میں سے ہے۔ اس کی مذمت میں دوسری کئی صریح احادیث بھی وارد ہیں۔ حضرت خبابؓ کی مرفوع روایت ہے ”يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب“ یعنی ”آدمی کو اس کے پورے نفقہ اور خرچ پر اجر دیا جاتا ہے، سوائے مٹی (تعمیرات) کے“ (۶۹)۔

(۶۸) عمدة القاري: ۲۲/۲۷۱

(۶۹) قال الإمام أنور شاه الكاشميري رحمه الله تعالى: واعلم أنك لاتجد الشرع إلا وهو يذم البناء، حتى أنه ذم تزخرف المساجد أبيضاً، وجعل التباهي فيها من أمارات الساعة، وذلك وهو منصبه؛ فإنه لا يقول لنا إلا ننصحاً نصيحاً، ولا يبين لنا إلا حقاً حقيقاً، فسَدَّ علينا سبل الشياطين من كل جانب، فلو كان وسع فيه من أول الأمر، لبلغ اليوم حالهم إلى حد لا يقاس؛ فإنهم إذا فعلوا بعد هذا التضييق ما فعلوا، فلو كان الأمر موسعاً مصرحاً، لرأيت الحال ما كان. فلذا لم يرد الشرع فيه بالتوسيع، إلا أنه يجب علينا أن لانهدر المصالح الشرعية، فقد رأينا اليوم أن المساجد لو كانت على حالها في السلف، ونحن في دار الكفر، لانهدمت ألوف منها، ولما وجدت لها اليوم رسماً ولا اسماً، فالأنسب لنا اليوم أن نجصص المساجد؛ لتكون شعائر الله هي =

ایک اور روایت ہے ”إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعِيدٍ سِوَاهُ أَنْفِقْ مَالَهُ فِي الْبَنِيَانِ“ (۷۰) یعنی ”اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کے ساتھ برامعاملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا مال تعمیرات میں خرچ کرنے لگتا ہے۔“

اسی طرح ابن ابی الدنیانے عمارہ بن عامر سے ایک موقوف روایت نقل کی ہے ”إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ بِنَاءً فَوْقَ سَبْعَةِ أَذْرَعٍ، نُوْدِي: يَا فَاسِقُ! إِلَىٰ أَيْنَ؟“ (۷۱) یعنی ”جب کوئی شخص سات ذراع سے اونچا مکان بناتا ہے تو اسے آواز دی جاتا ہے: اے فاسق، تو کہاں جا رہا ہے؟“

۵۹۴۳ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا يُكْنِي مِنِ الْمَطَرِ ، وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ .

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اپنے ہاتھ سے اپنا مکان بنایا تھا جو مجھے بارش سے پناہ دیتا اور دھوپ سے سایہ فراہم کرتا، اس کے بنانے میں خلق خدا میں کسی نے بھی میری مدد نہیں کی، اس میں اشارہ تھا کہ وہ گھر معمولی اور چھوٹا سا تھا۔

۵۹۴۴ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قَالَ عَمْرُو : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُ لَبَنَةً عَلَىٰ لَبَنَةٍ ، وَلَا غَرَسْتُ نَخْلَةً ، مِنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ . قَالَ سُفْيَانُ : فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ بَنَىٰ بَيْتًا . قَالَ سُفْيَانُ : قُلْتُ : فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِي .

= العلياء، ولا تدرس بمرور الأيام، فيغصبها الكفار، ويجعلوها نسيًا منسيًا، واللّٰه تعالى أعلم. فيض الباري،

كتاب الاستیذان، باب ماجاء في البناء: ۴/۱۴۴

(۷۰) فتح الباري: ۱۱/۱۱۱

(۷۱) فتح الباري: ۱۱/۱۱۱

(۵۹۴۳) الحدیث أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب في البناء والخراب: ۲/۱۲۹۳ (رقم ال- نیث:

(۴۱۶۲

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ واللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے نہ تو میں نے کوئی اینٹ کسی اینٹ پر رکھی اور نہ کوئی پودا لگایا۔

سفیان نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ان کے بعض اہل خانہ سے بیان کی تو انھوں نے کہا کہ حضرت ابن عمرؓ نے تو مکان بنایا..... سفیان نے کہا میں نے جواب دیا، کہ شاید مکان بنانے سے پہلے ایسے کہا ہوگا۔



## کتاب الاستئذان کے ابواب پر ایک نظر

امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاستئذان میں کل مندرجہ ذیل ۵۳ ابواب قائم فرمائے ہیں:

- ۱- باب بدء الاسلام
- ۲- باب سورة النور: [الآيات: ۲۷-۲۹]
- ۳- باب السلام اسم من أسماء الله تعالى
- ۴- باب تسليم القليل على الكثير
- ۵- باب تسليم الراكب على الماشي
- ۶- باب تسليم الماشي على القاعد
- ۷- باب تسليم الصغير على الكبير
- ۸- باب إفشاء السلام
- ۹- باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
- ۱۰- باب آية الحجاب
- ۱۱- باب الاستئذان من أجل البصر
- ۱۲- باب زنا الجوارح دون الفرج
- ۱۳- باب التسليم والاستئذان ثلاثاً
- ۱۴- باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن؟
- ۱۵- باب التسليم على الصبيان
- ۱۶- باب تسليم لرجال على النساء والنساء على الرجال
- ۱۷- باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا
- ۱۸- باب من رد فقال: عليك السلام
- ۱۹- باب إذا قال فلان يقرئك السلام
- ۲۰- باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
- ۲۱- باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي؟
- ۲۲- باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؟
- ۲۳- باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
- ۲۴- باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟ ۲۵- باب بمن يبدأ في الكتاب

- ۲۶- باب قول النبي ﷺ: "قوموا إلى سيدكم"  
 ۲۷- باب المصافحة
- ۲۸- باب الأخذ باليدين  
 ۲۹- باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت؟
- ۳۰- باب من أجاب بلبيك وسعديك  
 ۳۱- باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
- ۳۲- باب سورة المجادلة [الآية: ۱۱]  
 ۳۳- باب من قام من مجلسه أو بيته
- ۳۴- باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء  
 ۳۵- باب من اتكأ بين يدي أصحابه
- ۳۶- باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد  
 ۳۷- باب السرير
- ۳۸- باب من ألقى له وسادة  
 ۳۹- باب القائلة بعد الجمعة
- ۴۰- باب القائلة في المسجد  
 ۴۱- باب من زاد قوماً فقال عندهم
- ۴۲- باب الجلوس كيفما تيسر  
 ۴۳- باب من ناجى بين يدي الناس
- ۴۴- باب الاستلقاء  
 ۴۵- باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
- ۴۶- باب حفظ السر
- ۴۷- باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة  
 ۴۸- باب طول النجوى
- ۴۹- باب لا تترك النار في البيت عند النوم  
 ۵۰- باب إغلاق الأبواب بالليل
- ۵۱- باب الختان بعد الكبر وتنف الإبط  
 ۵۲- باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
- ۵۳- باب ماجاء في البناء

ان میں بعض ابواب ایسے ہیں کہ ان کا استنذ ان کے ساتھ تعلق واضح نہیں ہے، جیسا کہ امام بخاری کا صنیع ہے کہ وہ معمولی مناسبتوں سے بھی ابواب اور احادیث لے آتے ہیں اور بسا اوقات وہ نسبت بڑی خفی اور دقیق ہوتی ہے، مثلاً آخری باب تعمیرات سے متعلق ہے، اس باب کا بظاہر استنذ ان سے تعلق نظر نہیں آتا کیونکہ اس باب میں بلا فائدہ بلند و بالا عمارتوں کی کراہت بیان کی گئی ہے لیکن چونکہ استنذ ان، کسی کے پاس جانے اور داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کرنے کو کہتے ہیں اور آدمی کی ملاقات کے لئے کسی گھریا مکان ہی میں عموماً جانا پڑتا ہے، اس مناسبت سے عمارت سے متعلق باب بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاستنذ ان میں ذکر فرمایا۔

اس سے پہلے ایک باب رات کے وقت دروازوں کے بند کرنے سے متعلق ہے اور اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ رات کے وقت دروازوں کو بند کر دینا چاہیے..... چونکہ استنذ ان میں آدمی دروازے کے پاس آتا ہے، اس مناسبت سے امام نے ”غلق الابواب“ کا باب کتاب السنن ان کے تحت ذکر فرمایا۔

اسی طرح ”باب آیتہ الحجاب“ امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے، استنذ ان کی مشروعیت کے بہت سارے مصالِح ہیں، ان میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ بے پردگی نہ ہو اور کسی اجنبی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑ جائے، اس مناسبت سے حجاب کی آیت پر مستقل باب قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے کتاب السنن ان کے تحت ذکر فرمایا ہے۔

اسی طرح کتاب السنن ان میں امام نے باب قائم کیا ہے باب الختان بعد الکبر و نطف الإبط..... بظاہر ختنہ کرنے کی مناسبت استنذ ان سے نہیں، لیکن چونکہ ختنہ کے موقع پر عموماً لوگ گھروں میں جمع ہوتے ہیں اور استنذ ان کی ضرورت پڑتی ہے، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے کتاب السنن ان میں ذکر فرمایا۔ واللہ اعلم!



٨٣ - كتاب الدعوات

كشف الباري  
عنا في صحيح البخاري



## ۸۳ - کتاب الدعوات

(الأحاديث: ۵۹۲۵-۶۰۴۸)

کتاب الدعوات ۶۹..... ابواب اور ۱۴۵..... احادیث مرفوعہ پر مشتمل ہے، جن میں ۱۴..... احادیث معلق ہیں اور بقیہ ۱۰۴..... احادیث موصول ہیں، جن میں ۱۲۱..... احادیث مکرر ہیں اور بقیہ ۲۲..... احادیث غیر مکرر ہیں، یعنی کتاب الدعوات یا اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو مکرر ذکر نہیں کیا، ان میں آٹھ حدیثوں کے سوا بقیہ سب احادیث کی تخریج امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی کی ہے اور وہ متفق علیہ ہیں..... کتاب الدعوات میں حضرات صحابہ اور تابعین کے نو آثار امام نے ذکر فرمائے ہیں۔

## دعا اور اس کے آداب

دعا مومن کا ہتھیار، عبادت و بندگی کا نچوڑ، دل دردمند کا درماں اور قلب مضطرب کا سہارا ہے..... جب سارے ظاہری سہارے جواب دے جائیں، توقعات کے روزن اور امیدوں کے درتچے بند ہو جائیں..... تمنا کی ہری شاخ، حسرتوں کے بے رنگ کانٹے کا روپ دھار لے، ہر سمت اندھیرا چھا جائے..... مایوسی کے عالم میں بندہ مومن کے پاس ایک دعا ہی کی تقدیل رہ جاتی ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، لجاجت کے ساتھ گڑگڑاتا ہے..... فلک سے رحم لانے اور بخشش پانے کے لئے اس کے والہانہ نالے اٹھتے، اس کی آہیں بلند ہوتی، اس کی اشکیں رواں ہوتی اور اس کی فریادی نوائیں نکلتی ہیں..... اس کے من میں اپنے کرتوتوں، شیطان کے چرکوں، نفس کے زخموں کی کسک کا احساس تازہ ہو جاتا ہے..... اس کے دل میں جھوٹے خداؤں سے توقعات کی حماقتوں، زمانے کی بے وفائیوں، راستہ کی صعوبتوں، منزل کی دشواریوں اور زندگی کی شکایتوں کا درد جاگ جاگ اٹھتا ہے..... جذبات کے تلاطم میں اس کی لڑکھڑاتی زبان ”ربی ربی“ (میرے رب، میرے اللہ) سے آگے بڑھنے نہیں پاتی..... احساسات کا ریلہ لفظوں کی شکل اختیار کرنے کی بجائے ہچکیوں کا رخ کر لیتا ہے اور سرکشی کی منہ زور موجیں، شکستگی کے ساحل سے ٹکرا کر فنا ہو جاتی ہیں، وہ ڈرتا بھی ہے اور مانگتا بھی ہے، کپکپاتا بھی ہے اور پکارتا بھی ہے، اسے خوف بھی رہتا ہے اور امید بھی کہ خوف ورجا اور امید و بیم کی یہ کیفیت ایمان کی نشانی ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اس درکابھکاری بننے میں قسمت کی سکندری اور بے نوائی کی یاوری ہے، شکستگی کی یہی ادا بندگی کی معراج، بندہ و خالق کے درمیان عجز و نیاز اور نصرت خداوندی وصول کرنے کا مہر ذریعہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے: ”میں ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہوں“ (۱)..... دل ٹوٹتا ہے، آرزو شکست

(۱) ولفظہ ”أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي“ ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة، ص: ۱۰۶.

قال العجلوني: ”قال في المقاصد: ذكره في البداية للنزالي، وقال القاري عقبه: ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية، قلت: وتامه ”وأنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي“، ولا أصل لهما في

کھاتی ہے اور تمناؤں کا آئینہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتا ہے تو عجز و بندگی کا جو ہر چمکنے لگتا ہے:

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ

گر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

ویسے تو ہر شخص اپنی زبان میں اپنی فہم اور اپنی ضرورت کے مطابق اللہ کی ذات سے دعائیں کرتا ہے لیکن احادیث کے مبارک ذخیرے میں جو دعائیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی سلاست و روانی، ان کی جامعیت و شیرینی اور ان کی برجستگی و بے ساختگی کو دیکھ کر بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے علاوہ اس قدر خوب صورت کلام کی کوئی اور نظیر نہیں، دنیا کی کوئی خیر و بھلائی ایسی نہیں جو ان میں مانگی نہ گئی ہو، کوئی ایسا شے نہیں جس سے پناہ طلب نہ کی گئی ہو..... ان دعاؤں میں ہر ضرورت اور ہر بھلائی کا احاطہ کیا گیا ہے، ہر طرح کی پریشانی سے نجات کے لئے وظیفہ سکھایا گیا ہے، ہر مقام کی مناسبت سے ذکر کی تلقین کی گئی ہے، یہ اس قدر مؤثر اور بابرکت دعائیں ہیں کہ اگر آدمی ان کا اہتمام کر لے تو اس کے شب و روز کی ساری ساعتیں اللہ کے ذکر و مناجات سے معطر معطر ہو جائیں گی..... بقول مولانا ابوالحسن علی ندوی:

”یہ دعائیں مستقل معجزات اور دلائل نبوت ہیں، ان کے الفاظ شہادت دیتے

ہیں کہ ایک پیغمبر ہی کی زبان سے نکلے ہیں، ان میں نبوت کا نور ہے، پیغمبر کا یقین ہے ”عبد

کامل“ کا نیاز ہے، محبوب رب العالمین کا اعتماد و ناز ہے، فطرت نبوت کی معصومیت و سادگی

ہے، دل دردمند و قلب مضطر کی بے تکلفی و بے ساختگی ہے، صاحب عرض و حاجت مند کا

اصرار و اضطرار بھی ہے اور بارگاہ الوہیت کے ادب شناس کی احتیاط بھی، دل کی جراحت اور

درد کی کسک بھی ہے اور چارہ سازی کی چارہ سازی اور دل نوازی کا یقین و سرور بھی۔“

ذرا دیکھئے، زبان رسالت سے لرزلرز کر ادا شدہ یہ بلیغ دعا کس عالم میں کہی گئی ہے اور دریائے رحمت

میں اس نے کس قدر ہلچل پیدا کی ہوگی:

”اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سرّي وعلانيتي، لا

يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل

المُشْفِقُ، المُقِرُّ المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك  
ابتهاًل المُذنبِ الذليل، وأدعوك دعاء الخائفِ الضَّيرِ، ودعاء من خَضَعَتْ لك  
رَقَبَتُهُ، وفاضته لك عيناه، وَذَلَّ لك جسْمُهُ، وَرَغِمَ لك أنْفُهُ ..... اللهم  
لا تجعلني بدعائك شقيّاً، وكن بي رؤوفاً رحيماً. يا أرحمَ الراحمين، يا أرحمَ  
الراحمين، يا أرحمَ الراحمين!“ (۲).

”میرے اللہ! تو میری نوا سن رہا ہے اور میرا مقام دیکھ رہا ہے، میرا باطن و ظاہر  
جانتا ہے، میرا کوئی معاملہ تجھ سے پوشیدہ نہیں، میں مصیبت زدہ، محتاج، فریادی، پناہ جو،  
لرزاں و ترساں اپنے گناہوں کا معترف و اقراری، مسکین کی طرح تجھ سے سوالی ہوں اور  
گناہگار عاجز کی مانند گڑگڑاتا ہوں، میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، اس دکھی، لرزیدہ شخص  
کسی دعا جس کی گردن تیرے سامنے خم ہوئی، جس کے آنسو تیرے لئے بہے، جس کا جسم  
تیری بندگی کے لئے جھکا اور جس کی ناک تیرے لئے خاک آلود ہوئی ..... میرے رب!  
میرے اللہ! مجھے اس دعا میں محروم نہ کرنا میرے ساتھ شفقت اور کرم کا معاملہ فرما ..... اے  
ارحم الراحمین ..... اے ارحم الراحمین.....“

جب ایمان کی اس کیفیت، عجز و بندگی کے اس احساس اور بے اعتدالیوں پر ندامت کے ان جذبات  
کے ساتھ بندہ مومن دعا کرتا، رب سے مانگتا اور اس کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے، تب رحمت کے بادل برستے،  
برکتوں کے قفل کھلتے اور نصرت کے دروازے وا ہوتے ہیں ..... دل کا بوجھ ہلکا اور باطن کا غبار چھٹتا ہر احساس ہوتا  
ہے ..... بعض نادانوں کو شکایت ہوتی ہے کہ دعا کر کے تھک گئے، قبول ہی نہیں ہوتی ..... یہ غلط فہمی ہے، حقیقت یہ  
ہے کہ اس دربار میں کوئی صدارتی گان نہیں جاتی، اگر مصلحت کی وجہ سے کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو آخرت  
کے لئے ذخیرہ کر دی جاتی ہے یا اس کے عوض آنے والی کوئی آفت ٹال دی جاتی ہے اور یا قبول تو ہو جاتی ہے لیکن

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، ص: ۱۴۴، وأوردته الهيثمي في مجمع الزوائد: ۲/۳، وفي

المجمع: ”يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين“ مكان: ”يا أرحم الراحمين.....“.

مصلحتاً اس میں تاخیر کر دی جاتی ہے..... (۳)۔

دعا صرف بڑی حاجتوں کے حل کرنے کا نسخہ نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں اور ہلکی پریشانیوں کے لئے بھی، اسی رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حدیث میں ہے کہ کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اس کے لئے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے (۴)۔

## آدابِ دعا

قرآن و حدیث سے ماخوذ، دعا کے کچھ آداب ہیں، جن کی رعایت کی جائے تو دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے اور اس کے جلد مقبول ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کتاب الدعوات کے مختلف ابواب میں ان آداب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یہاں ان آداب کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے:

① با وضو ہو کر دعا کرنا، آداب دعا میں سے ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی (۵)..... اس روایت سے ایک ادب دعا کا معلوم ہوا لیکن ظاہر ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب وضو کے لئے وقت ہو، جہاں وضو کا موقع نہ مل سکے، اس کے بغیر بھی دعا کی جاسکتی ہے۔

② قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا بھی، آداب دعا میں سے ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے مستقبل باب قائم کیا ہے، ”باب الدعاء مستقبل القبلة“ اس باب سے اسی ادب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی احادیث کے اندر قبلہ رخ ہو کر دعا کا ثبوت ملتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے:

(۳) لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدحر له، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها“ قالوا: إذن نكثر؟ قال: ”الله أكثر“ (الجامع لأحكام القرآن: ۳۲۰/۲)

(۴) ”لفظه عن أنس رضي الله عنه: ليسألك أحدكم ربه حاجته كلها، حتى يسأل شئع نعله إذا انقطع“.

(سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب يسأل الحاجة وإن صغرت)

(۵) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند اللوضر، رقم الحدیث: ۶۳۸۳

”استقبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكعبة، فدعا على نفر من قريش“ (۶)۔  
یعنی: ”نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ فرمایا اور قریش کی ایک جماعت کے خلاف بددعا کی“۔

۳ دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا بھی آداب میں سے ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے:

”رفع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يديه، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد“ (۷)۔

یعنی: ”نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ”اے اللہ! میں خالد بن ولید کے عمل سے براءت کرتا ہوں“۔

اور سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبين“ (۸)۔

یعنی: ”اللہ جل شانہ کی ذات بڑی باحیا اور نجی ہے، جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے تو انہیں خالی اور محروم لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے“۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات میں ”باب رفع الأيدي في الدعاء“ قائم کر کے، اسی ادب کو ثابت کیا ہے۔

ہاتھ اٹھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اوپر کی طرف ہوں، سنن ابی داؤد کی:

(۶) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على كفار قريش .....  
رقم الحديث: ۳۹۶۰

(۷) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، رقم الحديث: ۴۳۳۹

(۸) سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب بلا عنوان، (رقم الحديث: ۳۵۵۶): ۵/۵۵۶-۵۵۷

وسنن أبي داؤد، کتاب الصلوة، باب الدعاء، (رقم الحديث: ۱۴۸۸): ۲/۷۸، واللفظ للترمذی.

روایت میں ہے: "إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها" (۹)۔

(جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو ہتھیلیوں کے اندرونی حصوں کو سامنے کر کے مانگو،

ہاتھوں کو الٹا کر کے نہ مانگو)

ہاتھوں کو کندھوں کی برابری تک بلند کیا جائے، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت، امام ابو داؤد نے

نقل فرمائی ہے: "المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما" (۱۰)۔ (دعا اور سوال کرتے ہوئے

دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا اس کے قریب تک اٹھایا جائے)

اور صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: "دعا النبي

صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم رفع يديه، وقال: ورأيت بياض إبطيه" (۱۱)۔ (نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میں نے آپ کی بغل کی سفیدی دیکھی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہاتھوں کو خوب پھیلا یا جائے، "والا تبتهال أن تمد يديك

جميعاً" (۱۲) یعنی عاجزی اور الخاج و زاری یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیں۔

۲۰ دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنا بھی آداب دعا کا ایک اہم

ادب ہے، سنن ترمذی میں، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

تشریف فرما تھے، ایک صاحب داخل ہوئے، نماز پڑھی اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے لگے "اللهم اغفر لي

وارحمني" رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: "اے نمازی! تم نے جلدی کی، جب تم نماز

پڑھنے کے بعد بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد بیان کرو، درود شریف پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو".....

اس کے بعد ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، درود شریف پڑھا تو حضور

اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا: "أيها المصلي، ادع تُجِب" (اے نمازی! دعا

(۹) سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب الدعاء، (رقم الحديث: ۱۴۸۶): ۷۸/۲

(۱۰) سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب الدعاء، (رقم الحديث: ۱۴۸۹): ۷۹/۲

(۱۱) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب رفع الأيدي في الدعاء، ص: ۱۶۰۲

(۱۲) سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب الدعاء، (رقم الحديث: ۱۴۸۹): ۷۹/۲

کریں، آپ کی دعا قبول کی جائے گی) (۱۳)۔

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بارگاہِ الہی میں رذہ نہیں ہوتا اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی شانِ کریبی سے بعید ہے کہ دعا کے اول و آخر حصہ کو قبول فرمائے اور درمیان میں اپنے بندے کی مانگی گئی حاجت کو رد فرمادے، اس لئے دعا کے اول و آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود دعا کی قبولیت کو یقینی بنا دیتا ہے (۱۴)۔

۵ دعا سے پہلے، اپنے عجز، اپنی کوتاہیوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی، آدابِ دعا میں سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إن الله لي عجب من العبد، إذا قال: لا إله إلا أنت، إني قد ظلمت

نفسي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب“ (۱۵)۔

یعنی: ”اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے، جب وہ ”لا إله إلا أنت

إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت“ کہتا ہے تو

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، جو بخشتا ہے اور سزا

(۱۳) سنن الترمذی، (رقم الحدیث: ۳۴۸۶) ۲۸۲/۵، و سنن النسائی، (رقم الحدیث: ۱۲۸۴) ۴۴/۳،

ومسند الإمام أحمد: ۱۸/۶

(۱۴) قال السيوطي رحمه الله في جلاء الأفهام:

قال ابن القيم رحمه الله: ”مفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما أن

مفتاح الصلاة الطهور“..... ثم نقل عن أحمد بن أبي الحوراء قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول ”من

أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وليسأل حاجته، وليختم

بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مقبولة، والله

أكرم أن يرده ما بينهما“ (جلاء الأفهام: ۲۶۲)

(۱۵) أخرجه أحمد في مسنده: ۹۷/۱، ۱۱۵، ۱۲۸، من حديث علي رضي الله تعالى عنه.



دیتا ہے۔“

⑥ دعا دل کے اس یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ وہ بارگاہِ الہی میں قبول ہوگی اور رو نہیں کی جائے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے:

”ادعوا اللہ، وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن اللہ لا يستجیب

دعاءً من قلب غافل لاه“ (۱۶)۔

(دعا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا قبول ہوگی اور یہ بات جان لو کہ اللہ

جل شانہ لا پرواہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے)۔

اسی طرح دعا مکمل عزم و پختگی اور دو ٹوک الفاظ کے ساتھ ہونی چاہیے، شک اور تردد کے ساتھ دعا قبول

نہیں ہو سکتی، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات میں، اس پر مستقل باب قائم فرمایا، ”باب لیعزم المسألة، فإنه لا مکرہ لہ“ اور اس کے تحت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں سے کوئی یوں دعا نہ کرے کہ ”اے اللہ! اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، بلکہ پورے عزم و پختگی کے ساتھ دعا کرے۔“

⑦ دعا کے الفاظ کو تین بار یا بار بار دہرانا بھی آداب دعا میں سے ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں

حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ”وكان إذا دعاء، دعا ثلاثاً، وإذا سأل، سأل ثلاثاً“ (۱۷)۔ (یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے اور مانگتے تو تین بار دعا کرتے اور مانگتے)

سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا: ”جو شخص اللہ سے تین مرتبہ جنت مانگے تو جنت کہتی ہے: ”اے اللہ! اسے جنت میں داخل کر دے“ اور جو شخص تین بار جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے: ”اے اللہ! اسے جہنم سے بچالے“ (۱۸)۔

(۱۶) سنن الترمذی، کتاب الدعوات، (رقم الحدیث: ۳۴۷۹): ۵/۵۱۷

(۱۷) صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسیر، باب مالقی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من أذى المشركين

والمناققين، رقم الحدیث: ۴۶۴۹

(۱۸) سنن ابن ماجہ، أبواب الزهد، باب صفة الجنة، رقم الحدیث: ۴۳۴۰

۸ دعا خوب گڑگڑا کر، آہ وزاری کے ساتھ کرنی چاہیے، قرآن کریم میں اسی کا حکم دیا گیا ہے ”ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة“ (۱۹)۔ (تم اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر اور آہستگی کے ساتھ مانگو)۔

خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے حضور گڑگڑاتے اور آہ وزاری کے ساتھ دعا فرماتے کہ یہی شانِ عبدیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

أُتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وهو یصلی، ولجوفہ أذیر

کأذیر المرجل (۲۰)۔

یعنی: ”میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نماز میں

مشغول تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابال کے وقت نکلتی

ہے۔“

امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت نقل کی ہے، وہ

فرماتے ہیں:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَدَّ فِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّ إِيْمَانٍ أَضَلَّنَ كَثِيرًا  
مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي الْآيَةُ وَقَالَ  
عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ  
وَإِنَّ تُغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  
فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي رَبِّي  
فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَدَّ يَا جِبْرِيلُ إِذْ هَبْ إِلَيَّ  
مُحَمَّدٍ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ فَسَلَّهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَنَاءَهُ  
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَأَحْبَبَهُ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ رَمُو

(۱۹) سورة الأعراف: ۵۵

(۲۰) سنن النسائي، أبواب السهو، باب البكاء في الصلوة، رقم الحديث: ۱۲۱۵

أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ إِذْ هَبْتَ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ  
إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوؤُكَ (۲۱)

”نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول (رب انهن اضللن كثيرا.....) پڑھا۔ یعنی: ”اے میرے رب! بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ پس جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔“ اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول (ان تعذبهم فانهم عبادك..... یعنی اے اللہ! اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کرے تو تو غالب اور حکمت والا ہے.....)“ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے، اے اللہ! میری امت میری امت!! اور رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرئیل! محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ کس چیز نے تم کو زلایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو حقیقت خوب معلوم تھی۔ جبرئیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حقیقت بتلائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرئیل! محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تم کو تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، تمہیں ناراض نہیں کریں گے۔“

اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رونے، گڑگڑانے اور اپنے رب سے آہ و زاری کر کے اپنی دعا اور اپنی مراد منوانے کا ذکر ملتا ہے، بہر حال دعا کے اندر رونا، گڑگڑانا اور رب کے حضور آنسو بہانا، دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے اور دریائے رحمت کو متحرک اور عنایت الہی کو متوجہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔

⑨ دعا، آہستگی اور دھیمی آواز میں کرنی چاہیے، چیخ چیخ کر اور شور و ہنگامہ کے ساتھ دعا کرنا، آداب دعا کے

(۲۱) صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب دعاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لأمتہ..... رقم

خلاف ہے۔ ارشاد الہی ہے: ﴿ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة﴾۔ اس آیت کریمہ میں آہستگی کے ساتھ دعا کا حکم دیا گیا ہے۔

❶ دعا کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے انسان اکتاہٹ اور بے صبری کا شکار نہ ہو، قبولیت دعا کے سلسلے میں جلد بازی، بے صبری اور اکتاہٹ کا اظہار کرنا، دعا کو غیر مقبول بنانے کا سبب بن سکتا ہے، دعا تسلسل، استقامت اور دوام کے ساتھ کرنی چاہیے اور کسی موقع پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی، چنانچہ صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بندہ جب تک جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، جلد بازی کا مطلب جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آدمی یوں کہے کہ ”میں نے بڑی دعائیں مانگیں لیکن میرا خیال ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں“ (۲۲)۔

❷ دعا کو مقبول بنانے کے لئے، اس کے آخر میں لفظ ”آمین“ کہنا بہت مؤثر ہے، امام حاکم نے ”مستدرک“ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس مجلس میں کوئی شخص دعا کرے اور دوسرے لوگ اس پر ”آمین“ کہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں (۲۳)۔

اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں آہ وزاری آئے والے ایک شخص کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے: ”أوجب إن ختم“ یعنی اس نے دعا قبول کرادی، اگر یہ دعا کو ختم کر دے؟ پوچھا کس چیز پر؟ آپ نے فرمایا، ”آمین“ پر، چنانچہ حضور سے پوچھنے والے ان صحابی نے آکر دعا کرنے والے سے کہا کہ دعا کے آخر میں ”آمین“ کہہ دو اور خوش خبری پاؤ“ (۲۴)۔

بہر حال دعا کا اختتام اس مبارک کلمہ کے ساتھ کرنا چاہیے اور یہی اکابر اور اسلاف کا معمول بھی

ہے۔

(۲۲) صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل رقم الحديث:

۲۷۳۵، وسنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی من يستعجل فی دعائه رقم الحديث: ۳۳۸۷.

(۲۳) المستدرک، کتاب معرفة الصحابة: ۳/۳۴۷

(۲۴) سنن ابی داؤد، کتاب الصلوة، باب التأمین وراء الإمام: ۱/۲۴۷، رقم الحديث: ۹۳۸

۱۲ دعا کا آخری ادب یہ ہے کہ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا جائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا:

”سلوا اللہ بظنون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا

بہا وجوہکم“ (۲۵)۔

یعنی: ”ہاتھ کے اندرونی حصے کو پھیلا کر اللہ سے مانگو اور جب فارغ ہو جاؤ تو

دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دو۔“

اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے:

”كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء

لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه“ (۲۶)۔

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعائیں ہاتھ اٹھاتے تو نیچے نہیں کرتے

جب تک چہرے پر پھیر نہ لیتے۔“

ان آداب کی رعایت کر کے اگر دعا کی جائے گی تو انشاء اللہ بارگاہ الہی سے وہ رو نہیں کی جائے

گی۔

البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ ان آداب کے ساتھ ساتھ، قبولیت دعا کی اس شرط کا بھی خیال رکھا گیا ہو

کہ دعا کرنے والا حرام خوردہ ہو، جس شخص کی غذا، لباس اور ذریعہ معاش حرام ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی،

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

”الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب

يارب، ومطعمه حرام، وشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى

(۲۵) سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب الدعاء، (رقم الحديث: ۱۴۸۵): ۷۸/۲

(۲۶) سنن الترمذی، كتاب الدعاء، باب ماجاء في رفع الأيدي عند الدعاء، (رقم الحديث: ۳۳۸۶)

يستجاب لذلك“ (۲۷)۔

یعنی: ”ایک آدمی طویل سفر کاٹ کر بکھرے ہوئے بالوں اور پراگندہ پریشان حالت و ہیئت کے ساتھ، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ”یارب یارب“ کہہ کر دعا مانگتا ہے (جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمادے) لیکن اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کا پہننا حرام کا ہوتا ہے، حرام مال سے وہ پلا بڑا ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کی دعا کیونکر قبول ہوگی؟

### حضرت ابراہیم بن ادہم کا ایک قول

اور آخر میں مشہور بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، حضرت سے کسی نے پوچھا کہ ہم دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، انہوں نے فرمایا:

”لأنکم عرفتم اللہ فلم تطیعوه، وعرفتم الرسول، فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأکلتم نعم اللہ فلم تؤدوا شکرها، وعرفتم الجنة، فلم تطلبوها، وعرفتم النار، فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان، فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت، فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وترکتتم عیوبکم، واشتغلتم بعیوب الناس“ (۲۸)۔

یعنی: ”تم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے ہو، اللہ کے رسول کی پیچان ہے لیکن اس کی سنتوں کی اتباع نہیں کرتے ہو، قرآن کریم کو سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن شکر ادا نہیں

(۲۷) الصحيح لمسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب قبول الصدقة من الکسب الطیب و تربیتها، رقم ۲۳۴۶، و سنن

الترمذی، أبواب تفسیر القرآن، رقم: ۲۹۸۹، و سنن الدارمی، کتاب الرقاق، باب فی أکل الطیب

(۲/۳۸۹)، رقم: ۲۷۱۷، و مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۲/۳۲۸

(۲۸) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲/۳۱۲

کرتے، جنت سے واقف ہو لیکن اسے طلب نہیں کرتے، جہنم کو جانتے ہو لیکن اس سے بھاگتے نہیں ہو، شیطان کی دشمنی معلوم ہونے کے باوجود اس سے لڑتے نہیں بلکہ اس کی موافقت کرتے ہو، موت کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود اس کے لئے تیاری نہیں کرتے اور مردوں کو دفنانے کے باوجود عبرت حاصل نہیں کرتے ہو، اپنے عیوب تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں اور لوگوں کے عیوب میں تم نے اپنے آپ کو مشغول کر رکھا ہے!“

☆☆.....☆☆

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### ۸۳ - کتاب الدعوات

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «أَدْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» / غافر: ۶۰.

کتاب الاستیذان کے ساتھ مناسبت

دعوات (دال اور عین کے زبر کے ساتھ) دعوۃ کی جمع ہے۔ دعوۃ، دعا کے معنی میں ہے (۱)، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں دعاؤں اور ان کے متعلقات کو ذکر فرمایا ہے، دعا کے معنی حاجت طلب کرنے کے بھی آتے ہیں اور پکارنے کے بھی آتے ہیں (۲)۔

حافظ ابن حجر وغیرہ نے فرمایا کہ استیذان، بند دروازے کو کھلوانے کے لیے ہوتا ہے، دعا بھی اوپر کے دروازے کھولنے کے لیے کی جاتی ہے (۳)۔

### دعا کی اہمیت و فضیلت

ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت ذکر فرمائی ہے، ارشاد ہے: ”مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ عنقریب جہنم میں

(۱) عمدة القاري: ۲۶۶/۲۲، فتح الباري: ۱۱۳/۱۱، إرشاد الساري: ۳۰۳/۱۳

(۲) فتح الباري: ۱۱۳/۱۱، عمدة القاري: ۲۶۶/۲۲

(۳) الأبواب والتراجم: ۱۲۶/۲



ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔“

دعا پر حدیث شریف میں عبادت کا اطلاق بھی کیا گیا ہے، حضرت نعمان بن بشیر کی روایت امام ترمذی اور امام احمد رحمہ اللہ نے مرفوعاً نقل فرمائی ہے: ”إن الدعاء هو العبادة“ (۳) یعنی ”دعا سراسر عبادت ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام احمد نے ایک مرفوع روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمائی ہے: ”من لم يدع الله، غضب الله عليه“ (۵) یعنی ”جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتے ہیں۔“

اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انسؓ کی ایک مرفوع حدیث نقل فرمائی ہے: ”الدعاء مخ العبادة“ (۶) یعنی ”دعا عبادت کا مغز ہے۔“

امام ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک اور مرفوع روایت کے الفاظ ہیں: ”ليس شيء أكرم على الله من الدعاء“ (۷) یعنی ”اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں: ”سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل“ (۸) یعنی ”اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس کو پسند ہے۔“ اسی طرح حضرت ابن عمرؓ کی ایک حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اس کی سند میں

اگرچہ ضعف ہے لیکن امام حاکم نے مستدرک میں اسے صحیح قرار دیا ہے (۹)، اس کے الفاظ ہیں:

”إن الدعاء ينفع مما نزل، ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء“ (۱۰)۔

(۴) مسند الإمام أحمد: ۴/۲۶۷، وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب سورة المؤمن: ۵/۳۷۴، رقم

الحديث: ۳۲۴۷

(۵) مسند الإمام أحمد: ۲/۴۴۳

(۶) أخرجه الترمذي، في كتاب الدعوات، باب ماجاء في فضل الدعاء: ۵/۴۵۶، رقم الحديث: ۳۳۷۱

(۷) أخرجه الترمذي، في كتاب الدعوات، باب ماجاء في فضل الدعاء: ۵/۴۵۵، رقم الحديث: ۳۳۷۰،

وأخرجه الإمام ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء: ۲/۱۲۵۸، رقم الحديث: ۳۸۲۹.

(۸) أخرجه الترمذي، في كتاب الدعوات، باب في انتظار الفرج وغير ذلك: ۵/۵۶۵، رقم الحديث: ۳۵۷۱

(۹) المستدرک للحاکم، کتاب الدعاء، باب الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ينزل: ۱/۴۹۳

(۱۰) سنن الترمذی: فی کتاب الدعوات، باب فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ۵/۵۵۲، رقم الحديث: =

یعنی ”دعا تمام آفات میں نافع ہے، خواہ وہ نازل ہو چکی ہوں یا ابھی تک نازل نہ ہوئی ہوں، تو اللہ کے بندو! دعا کا ضرور اہتمام کیا کرو۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک مرفوع روایت طبرانی نے نقل کی ہے، اس کے الفاظ ہیں: ”إن اللہ یحب الملحین فی الدعاء“ (۱۱) یعنی ”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو گڑگڑا کر دعا مانگتے ہیں۔“  
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں لیکن ایک جگہ عنعنہ ہے (۱۲)۔

## آیت کریمہ میں دعا کا مصداق

قرآن کریم کی ذکر کردہ آیت میں ”ادعونی“ سے مراد اکثر حضرات کے نزدیک دعا ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے عبادت مراد ہے کیوں کہ آگے وعید ”یستکبرون عن عبادتی“ میں عبادت کا لفظ ذکر کیا گیا ہے (۱۳)؛ لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ دعا بھی چونکہ عبادت ہے، اس لیے پہلے خاص اور اس کے بعد عام کو ذکر کیا گیا، اس لیے کہ جو عام یعنی عبادت سے اعراض کرے گا وہ دعا سے بھی اعراض کرے گا (۱۴)۔

## قبولیت دعا کے معنی

قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ اللہ جل شانہ دعا مانگنے کے بعد اس کو قبول فرمائیں گے۔ بسا اوقات دعا مانگی جاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قبولیت دعا کی مختلف

= ۳۵۴۸، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث عبدالرحمن ابن أبي بكر القرشي، وهو ضعيف في الحديث: ضعفه بعض اهل العلم من قبل حفظه: وقال المنذري في ”التبغيب والترهيب“: وقد طعن في عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي فقال: وهو ذاهب الحديث (كتاب الدعوات - باب: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما نزل: ۴۸۰/۲)

(۱۱) فتح الباري: ۱۱/۱۱۴

(۱۲) فتح الباري: ۱۱/۱۱۴

(۱۳) روح المعاني، المجلد الثالث عشر، الجزء الأول: ۸۱

(۱۴) تفسير القرطبي: ۱۵/۳۲۶، ۳۲۷، روح المعاني، المجلد الثالث عشر، الجزء الأول: ۸۱

صورتیں ہیں، کبھی تو بعینہ وہی چیز عطا کر دی جاتی ہے جس کا بندہ سوال کرتا ہے، کبھی وہ چیز چونکہ مصلحت کے خلاف ہوتی ہے اس لیے وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت کر دی جاتی ہے اور کبھی اس کے عوض کوئی اور آفت اس سے ہٹا دی جاتی ہے..... چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث نقل فرمائی ہے:

”ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم إلا اعطاه

الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة،

وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها“.

یعنی ”ہر وہ مسلمان جو ایسی دعا مانگے جو گناہ اور قطع رحمی سے متعلق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کے بدلے میں تین میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں: یا تو فوری طور پر اس کی مطلوبہ چیز اسے دے دیتے ہیں، یا اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں یا اس کی مثل اس سے کوئی آفت دور فرما دیتے ہیں“ (۱۵) امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے (۱۶)۔

### ۱ - باب : لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.

۵۹۴۵ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا ، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ ) . [ ۷۰۳۶ ]

(۱۵) مسند الإمام أحمد: ۱۸/۳

(۱۶) المستدرک للإمام حاکم، کتاب الدعوات: ۴۹۳/۱

(۵۹۴۵) الحدیث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب احتباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأُمَّتِهِ (رقم الحدیث: ۱۹۸، ۱۹۹) وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿تَوَدَّعِيَ الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ۲۶] (رقم الحدیث: ۷۴۷۴)، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله (رقم الحدیث: ۳۶۰۲)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة (رقم الحدیث: ۴۳۰۷)

۵۹۴۶ : وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ : قَالَ مُعْتَمِرٌ : سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤلاً ، أَوْ قَالَ : لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتَجِيبَ ، فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) .

### حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص دعا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے (اور وہ مقبول ہوتی ہے) اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔  
دوسری روایت حضرت انسؓ سے ہے، فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنا اپنا مطلوب مانگ لیا یا یہ فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، چنانچہ انھوں نے دعا کی اور قبول بھی ہوگئی لیکن میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر لی ہے۔

### ایک اشکال اور اس کا جواب

اس پر بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ ہر نبی کی ایک سے زائد دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں ایک کی تحدید کیسے

کر دی گئی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دعا کی قبولیت یقینی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا یقینی طور پر قبول ہوگی، باقی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ قبول ہوں گی، گو ان میں بھی قبولیت کی امید ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها،

وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة“ (۱۷)۔

(۵۹۴۶) الحدیث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب احتباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة

لأمته (رقم الحدیث: ۲۰۰)

(۱۷) فتح الباري: ۱۱۶/۱۱

معتمر کی روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے موصولاً نقل کیا ہے (۱۸)، اکثر نسخوں میں ”وقال معتمر“ ہے لیکن اصلی کے نسخے میں ”وقال لي خليفة: حدثنا معتمر“ ہے، اس نسخے کے مطابق یہ تعلق نہیں، بلکہ موصول ہے (۱۹)۔

## ۲ - باب : أَفْضَلُ الْإِسْتِغْفَارِ .

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا» / نوح : ۱۰ - ۱۲ .  
«وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» / آل عمران : ۱۳۵ .

## ترجمہ الباب کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں استغفار کے افضل کلمات نقل فرمائے ہیں، حدیث میں انھیں ”سید الاستغفار“ کہا گیا ہے، امام نے ”افضل الاستغفار“ کے الفاظ سے ترجمہ قائم کر کے اشارہ کر دیا کہ حدیث میں ”سید“ بمعنی افضل ہے، سیادت سے فضیلت مراد ہے (۲۰)۔

ترجمہ الباب میں امام نے سورۃ نوح کی تین آیات کریمہ اور سورۃ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ نقل فرمائی ہے، ان آیات میں استغفار کا ذکر ہے، سورۃ نوح کی آیات کا حاصل یہ ہے کہ تم استغفار کیا کرو، اللہ جل شانہ بخشنے والی ذات ہے، استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، مال و دولت اور بیٹے دے کر تمہاری مدد کرے گا، باغات اور نہروں سے تمہیں نوازے گا۔

(۱۸) صحیح مسلم، کتاب، الإیمان، باب احتباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته: ۱/۱۹۰

(رقم الحديث: ۱۹۸، ۱۹۹)

(۱۹) فتح الباري: ۱۱/۱۱۷

(۲۰) فتح الباري: ۱۱/۱۱۸، عمدة القاري: ۲۲/۲۷۸، ۲۷۷

## چار مرض، ایک علاج

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص نے قحط سالی کی شکایت کی، ایک نے فقر و غربت کی، ایک نے باغات خشک ہونے کی اور ایک نے بیٹانہ ہونے کی شکایت کی، انھوں نے چاروں کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا اور قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کیا کہ استغفار کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے ان نعمتوں سے نوازنے کا ذکر فرمایا ہے (۲۱)۔

سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ کا مفہوم ہے: وہ لوگ جنہوں نے بے حیائی کا ارتکاب کیا یا اپنے اوپر (احکام خداوندی توڑ کر) ظلم کیا، پھر ان کو اللہ یاد آیا اور اپنے گناہوں پر معافی طلب کی، اس حال میں کہ یہ لوگ اپنے کیے پر اصرار بھی نہ کرتے ہوں۔

## إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

فاحشہ سے زنا اور بے حیائی مراد ہے اور ظلم سے عام گناہ مراد ہے (۲۲)۔

ذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد آئی اس طرح کہ اللہ کی وعید اور وعدہ دونوں کا خیال آیا۔ وہم یعلمون یعنی انہیں معلوم ہوا کہ جو کام انھوں نے کیا ہے وہ حرام ہے کیونکہ عدم علم کی صورت میں تو اسے معذور قرار دیا جاسکتا ہے (۲۳)۔

۵۹۴۷ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ  
أَبُو بَرِيدَةَ ، حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،

(۲۱) فتح الباری: ۱۱/۱۱۸، إرشاد الساری: ۱۳/۳۰۶، عمدة القاری: ۲۲/۲۷۷، ۲۷۸

(۲۲) تفسیر القرطبی: سورۃ آل عمران، رقم الآیة: تب ۱۳۵: ۴/۲۱۰، التفسیر الکبیر، سورۃ آل عمران،  
رقم الآیة: ۱۳۵: ۹/۱۱۰، ۱۱

(۲۳) تفسیر القرطبی: سورۃ آل عمران، رقم الآیة: ۱۳۵: ۴/۲۱۰، التفسیر الکبیر، سورۃ آل عمران، رقم  
الآیة: ۱۳۵: ۹/۱۰۹، ۹

(۵۹۴۷) الحدیث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح (رقم الحديث:  
۶۳: ۳)، وأخرجه النسائي أيضاً في الاستعاذة من شر ما صنع وذكر الاختلاف على عبد الله بن بريدة فيه.

(۵۵۳۷) الحدیث أخرجه الترمذی في كتاب الدعوات، باب منه: ۴/۶۸ (رقم الحديث: ۳۳۹۳)،  
وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (رقم الحديث: ۵۰۷۰)، وأخرجه ابن ماجه في  
كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (رقم الحديث: ۳۸۷۲)

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : (سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي فَاعْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . قَالَ : وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمَيِّتَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) . [۵۹۶۴]

### سید الاستغفار اور اس کی فضیلت

حضرت شداد بن اوسؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تو کہے: اللہم أنت ربی..... یعنی ”اے میرے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے کرتوتوں کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، ان کا اقرار اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بخش دے کہ تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں ہے“..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمات صدق دل سے صبح کہے اور شام ہونے سے پہلے اسی دن مر گیا تو وہ جنتی ہے اور جس نے یہ کلمات صدق دل سے رات میں کہے اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔

### ان کلمات کو سید الاستغفار کہنے کی وجہ

ان کلمات مبارکہ کو سید الاستغفار کہا گیا ہے، صاحب ہجرت انفس لکھتے ہیں:

وقد جمع في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له

أن يسمى سيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية والاعتراف بأنه

الخالق والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعاذة من

شرما جنی العبد علی نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو، وفي ذلك الإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة، وأن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من الله تعالى“ (۲۴)۔

یعنی ”یہ حدیث جن بہترین الفاظ اور شاندار معانی پر مشتمل ہے، ان کی بدولت یہ اس بات کی انتہائی مستحق ہے کہ اسے ”سید الاستغفار“ کہا جائے، چنانچہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت وعبودیت اور اس کے خالق ہونے کا اعتراف ہے اور اس عہد اور وعدہ کا اقرار ہے جو اس نے بندہ سے اس پر لیا ہے اور اس وعدہ پر امید ویم کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندہ سے کیا ہے۔ نیز اس میں پناہ مانگی گئی ہے ان گناہوں کے شر سے جو بندہ نے کیے ہیں۔ اسی طرح اس میں نعمتوں کی نسبت اس کے موجد اور گناہ و تقصیر کی نسبت خود بندہ کی طرف کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں مغفرت ربانی میں شوق و رغبت کے اظہار کے ساتھ اس بات کا اعتراف ہے کہ مغفرت پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہیں۔ اسی طرح اس میں شریعت اور حقیقت کے جمع ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس بات کی طرف بھی کہ احکام شرعیہ کی پابندی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔“

## استغفار کی برکات

استغفار کی بڑی برکتیں اور فضائل ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کا محققہ ادا نہیں کر سکتا، کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان کی تلافی، اللہ تعالیٰ سے معافی ہی کی صورت میں ہوتی ہے، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے: ”ما أصر من استغفر، ولو عاد في اليوم سبعين مرة“ (۲۵)۔ یعنی ”استغفار کرنے والا مصر شمار نہیں ہوتا، اگرچہ وہ دن میں ستر بار گناہ کرے۔“

(۲۴) فتح الباری: ۱۱/۱۲۰، ۱۲۱

(۲۵) سنن ابی داؤد، أبواب الوتر، باب في الاستغفار: ۸۴/۲، (رقم الحدیث: ۱۵۱۴)، سنن

الترمذی، کتاب الدعوات: باب ۱۰۷: ۵/۵۵۸، (رقم الحدیث: ۳۵۵۹)



البتہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دیا ہو، یہ نہیں کہ گناہ میں مشغول بھی ہے اور زبان سے استغفار کر رہا ہے (۲۶)۔

### عہد اور وعدہ کا مصداق

وَأَنَاعِلِي عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ عَهْدٌ سَيَا تُوْعَامُ عَهْدٌ مَّرَادٌ هُوَ لِيَعْنِي إِيمَانٌ كَالْعَهْدِ وَاللَّهِ كَيْ سَا تَهْ كَيْ كُو شَرِيكَ نَهْ كَرْنَهْ كَالْعَهْدِ۔

شارح بخاری ابن بطال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عہد سے ”عہد ائتت“ مراد ہے اور وعدے سے اللہ جل شانہ کا وہ وعدہ مراد ہے جس کا ذکر ایک حدیث میں ہے ”إِن مِّن مَّاتٍ لَّا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَأَدَى مَا فَعْرَضَ عَلَيْهِ أَن يَدْخُلَهَ الْجَنَّةَ“ (۲۷)۔ یعنی ”جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اور تمام فرائض و واجبات اس نے ادا کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ (کا عہد ہے کہ) اسے جنت میں داخل کرے گا“۔

### ۳- باب : اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ .

۵۹۴۸ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : (وَاللَّهُ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً) .

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کا وقوع اور اس کی مقدار بیان فرما رہے ہیں۔

روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ ”سبعین“ کا عدد کثرت کے لیے بھی آتا ہے اور عدد معین کے لیے بھی! یہاں دونوں ہو سکتے

ہیں (۲۸)۔

(۲۶) فتح الباری: ۱۱/۱۱۸، التفسیر الکبیر، سورۃ آل عمران رقم الآیہ: ۱۳۵: ۱۰/۹،

(۲۷) حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فتح الباری: ۱۱/۱۲۰،

(۲۸) فتح الباری: ۱۱/۱۲۱، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۷۹، نیز دیکھیے إرشاد الساری: ۱۳/۳۰۹،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ’انی استعفر اللہ فی الیوم مائة مرة‘ کے الفاظ ہیں۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں تو انہیں استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

① اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کبار اور اصرار علی الصغائر سے تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن صغائر سے معصوم نہیں ہوتے، استغفار صغائر کی وجہ سے کرتے ہیں (۲۹)۔

② بعض علماء کے نزدیک انبیاء کبار اور صغائر دونوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان کے نزدیک جواب یہ ہے کہ بسا اوقات خلاف اولیٰ کام انبیاء سے صادر ہو جاتے ہیں وہ اگرچہ گناہ کے زمرے میں داخل نہیں ہوتے لیکن انبیاء کی بلند شان اور ارفع مقام کی وجہ سے ’حسنات الأبرار سیئات المقربین‘ کے قاعدے کی بناء پر انبیاء اسے بھی اپنے حق میں سیئہ سمجھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں (۳۰)۔

#### ۴ - باب : التَّوْبَةُ

وَقَالَ قَتَادَةُ : «تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا» /التَّحْرِيمُ : ۸ / : الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ .

استغفار و توبہ کے ابواب شروع میں ذکر کرنے کی وجہ

امام بخاری رحمہ اللہ نے بقیہ دعاؤں سے پہلے، کتاب الدعوات کی ابتدا میں استغفار اور توبہ کے ابواب ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے امکانات اس وقت زیادہ ہوتے ہیں، جب دعا مانگنے والا معاصی سے پاک اور دور ہو، اس لیے دعا سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کر لینی چاہیے تاکہ جو دعا کی جائے، وہ جلد قبول ہو (۱)۔

استغفار توبہ کا ایک جزء ہے توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، ہر گناہ سے لوٹنا اور رجوع کرنا ہے توبہ

تین چیزوں کا نام ہے: اول: کیے ہوئے گناہ پر ندامت دوم: اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا اور سوم: آئندہ نہ کرنے کا عزم (۲)۔

(۲۹) فتح الباری: ۱۱/۱۲۲، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۷۹

(۳۰) فتح الباری: ۱۱/۱۲۲، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۷۹

(۱) فتح الباری: ۱۱/۱۲۳

(۲) فتح الباری: ۱۱/۱۲۴، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۷۹

## ”توبہ نصوح“ کی تفسیر

وقال قتاده: توبة نصوحا: الصادقة الناصحة: قرآن کریم کی سورۃ تحریم میں ہے ﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ امام قرطبی نے فرمایا کہ ”توبہ نصوح“ کی تفسیر میں اہل علم کے تیس اقول ہیں (۳)۔

قتادہ نے توبہ نصوح کی تشریح سچی توبہ سے کی ہے (۴)۔ نصوح کو اگر نصیح اور نصیحت سے لیا جائے تو اس کے معنی خالص کرنے کے آتے ہیں، توبہ نصوح یعنی ریا اور نمود سے خالص اور سچی توبہ۔ اور اگر اسے نصاحت سے مشتق مانا جائے تو اس کے معنی لپڑے سینے اور جوڑ لگانے کے ہیں۔ توبہ نصوح یعنی جوڑنے والی توبہ..... مطلب یہ ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے تقویٰ کے لباس میں جو پھٹن اور شکاف واقع ہوا ہے، یہ توبہ اس کو جوڑنے والی ہے (۵)۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ آدمی اپنے سابقہ گناہ پر نادم ہو کر آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے (۶) توبہ اگر حقوق العباد میں کوتاہی سے متعلق ہے تو ایسی صورت میں، متعلقہ حق کو ادا کرنا ضروری ہے، مثلاً کسی کا مال اگر غصب کیا ہے تو اس میں صرف زبانی استغفار کرنا کافی نہیں، بلکہ وہ مال واپس کرنا ضروری ہے (۷)۔

۵۹۴۹ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ بَرَى ذُنُوبَهُ كَذَّبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا . قَالَ أَبُو شَهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ،

(۳) تفسیر القرطبی: ۱۸/۱۹۷

(۴) تفسیر القرطبی: ۱۸/۱۹۷

(۵) روح المعانی، المجلد الرابع عشر، الجزء الثاني: ۱۵۷

(۶) روح المعانی: المجلد الرابع عشر، الجزء الثاني: ۱۵۷

(۷) تفسیر القرطبی: ۱۸/۱۹۸، ۱۹۷

ثُمَّ قَالَ : ( اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلِكَةٌ ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً ، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي ، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ . تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ .

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ : سَمِعْتُ الْحَارِثَ . وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُو مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ . وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ .

حارث بن سوید کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے دو حدیثیں بیان کیں، ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری خود سے نقل کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ مؤمن اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈر رہا ہو کہ کہیں وہ اس پر گرنے جائے اور فاسق اپنے گناہوں کو اس کھسی کی طرح معمولی خیال کرتا ہے جو اس کی ناک پر سے گذرتی ہے (راوی ابو شہاب نے اپنی ناک پر ہاتھ گذارتے ہوئے اس منظر کی طرف اشارہ کیا)

پھر انھوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک مہلک اور خطرناک جگہ میں اترے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سواری ہو جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، وہ سر دکھ کر سو گیا اور جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کی سواری غائب ہے، وہ ہنر کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کا شدت ہوئی تو اس نے کہا میں اپنی جگہ دوبارہ جاتا ہوں وہاں جا کر وہ تھوڑی دیر سو گیا، پھر سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی سواری، اس کے پاس تھی (تو سواری کو اپنے پاس دیکھ کر یہ شخص جس قدر خوش ہوگا اللہ جل شانہ بھی، بندے کی توبہ سے اسی قدر خوش ہوتے ہیں)۔

(۵۹۴۹) الحدیث أخرجه مسلم في كتاب التوبة، باب في الحوض على التوبة والفرح بها (رقم الحديث:

۲۷۴۴)، وأخرجه الترمذي في كتاب الزهد في أبواب صفة القيامة، باب ماجاء في استعظام المؤمن ذنوبه

(رقم الحديث: ۲۴۹۷، ۲۴۹۸)، وأخرجه النسائي في كتاب الدعوات، باب قوله: ﴿وَلْتَصْنَعْ عَلَيَّ عَيْنِي﴾

أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه  
یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دو حدیثیں بیان فرمائیں، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ  
وسلم کی طرف سے اور دوسری اپنی طرف سے، یعنی ایک حدیث مرفوع تھی اور دوسری حدیث موقوف۔ ان  
المؤمن یری ذنوبہ..... یہ حدیث موقوف ہے اور للہ أفرح بتوبة عبده..... یہ حدیث مرفوع ہے (۸)۔

إن المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعدتحت جبل

یری ذنوبہ میں یری کا مفعول ثانی محذوف ہے أي یری ذنوبه كالجبال (۹) یعنی مؤمن اپنے  
گناہوں کو پہاڑوں کی طرح بھاری سمجھتا ہے۔

فقال به هكنا: به کی ضمیر باب کی طرف راجع ہے یعنی انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا کہ اس طرح۔  
وبه مهلكة: مهلكة میم اور لام کے فتح کے ساتھ جائے ہلاکت کو کہتے ہیں اور مہلکة میم کے  
ضمہ اور لام کے کسرہ کے ساتھ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے بمعنی ہلاک کرنے والی (۱۰)۔

اس روایت میں بندے کی توبہ سے اللہ جل شانہ کے راضی اور خوش ہونے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی  
ہے، ایک شخص صحرا میں ہے اور اس کی ضروریات زنگی اور کھانے پینے کی اشیاء اس کی سواری پر لدی ہوئی ہیں،  
آدمی کی آنکھ لگتی ہے اور وہ سواری غائب ہو جاتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد اس کو بھوک پیاس لگتی ہے، سواری کی  
تلاش میں ادھر ادھر نکلتا ہے، لیکن وہ نہیں نظر آتی، ظاہر ہے، جنگل بیابان ہے اور کہیں سے کھانا پینا میسر نہیں  
ہو سکتا وہ موت کو سامنے دیکھ کر واپس اپنی جگہ چلا جاتا ہے کہ اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے اور جب آنکھ کھلتی  
ہے تو اس کی سواری کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اب ظاہر ہے اس کو دیکھ کر اسے جو خوشی حاصل  
ہوگی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ صحیح مسلم کی روایت میں اس قدر اضافہ بھی ہے:

”فبيناهو كذلك، إذا بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم  
أنت عبدی، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح“ (۱۱)۔

(۸) فتح الباری: ۱۱/۱۲۶، عمدة القاری: ۲۲/۲۸۰، إرشاد الساری: ۱۳/۳۱۳

(۹) إرشاد الساری: ۱۳/۳۱۱

(۱۰) فتح الباری: ۱۱/۱۲۸، عمدة القاری: ۲۲/۲۸۱، إرشاد الساری: ۱۳/۲۱۲

(۱۱) صحیح مسلم، کتاب التوبة، باب في الحوض على التوبة والفرح بها: ۴/۴/۲۱۰

یعنی وہ اسی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کی سواری اچانک اس کے پاس آکھڑی ہوتی ہے تو وہ اس کی ٹکیل پکڑتا ہے، پھر فرط مسرت سے بے اختیار یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں: ”اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں“ بے انتہا خوشی کے باعث اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔..... اللہ جل شانہ بھی بندے کی توجہ سے اس قدر خوش اور راضی ہوتا ہے۔

حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ماشاء الله:

راوی ابو شہاب کو یہاں شک ہے کہ اشتد عليه الحر والعطش کہا یا اشتد عليه ماشاء الله کہا۔

### حدیث سے مستنبط آداب:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ابن ابی جرہ کے حوالے سے اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وفي حديث ابن مسعود من الفوائد: جواز سفر المرء وحده لأنه لا يضرب الشارع المثل إلا بما يجوز..... وفيه أن من ركن إلى ماسوى الله يقطع به أحوج ما يكون إليه، لأن الرجل مانام في الفلاة وحده إلا ركونا إلى مامعه من الزاد، فلما اعتمد على ذلك خانه..... وفيه بركة الاستسلام لأمر الله لأن المذکور لما أيس من وجدان راحتته، استسلم للموت، فمن الله عليه بردضالته، وفيه ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة، والإرشاد إلى المحض على محاسبة النفس، واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان“ (۱۲)۔

یعنی ”حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں کئی فوائد ہیں:

① آدمی کا اکیلے سفر کرنا جائز ہے، کیونکہ شارع صرف ان چیزوں کے ساتھ مثال

بیان کرتے ہیں جو جائز ہوتی ہیں اور حدیثِ نبی کریم پر محمول ہے اور اس حدیث سے

نبی کی حکمت بھی ظاہر ہو جاتی ہے.....

۲) جس شخص نے غیر اللہ پر اعتماد کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی سب سے اہم ضروری چیز منقطع فرمادیتے ہیں، اس لیے کہ وہ آدمی صحرا میں اکیلا اسی لیے سویا تھا کہ اسے اپنے ساتھ موجود توشہ پر اعتماد تھا۔ پس جب اس نے توشہ پر اعتماد کیا تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔

۳) اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں برکت ہے، کیونکہ یہ شخص جب اپنی سواری ملنے سے مایوس ہو گیا تو موت کے سامنے تسلیم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کرتے ہوئے اس کی گمشدہ چیز لوٹا دی۔

۴) مثال ان امور محسوسہ کے ساتھ بیان کرنی چاہیے جن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

۵) نفس کا محاسبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان علامات کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے جو نعمت ایمان کے باقی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

تابعہ أبو عوانة وجرير عن الأعمش

اوپر سند میں ترتیب یہ ہے أبو شہاب عن الأعمش عن عمارة عن الحارث..... أبو شہاب کی متابعت ابو عوانہ وضاح بن عبد اللہ یشکری اور جریر بن عبد الحمید نے کی ہے، ابو عوانہ کی متابعت کو اسماعیلی نے اور جریر کی متابعت کو بزار نے موصولاً نقل کیا ہے (۱۳)۔

وقال أبو أسامة: حدثنا الأعمش، حدثنا عمارة، سمعت الحارث

أبو أسامة حماد بن أسامة نے بھی اعمش سے یہ روایت نقل کی ہے، البتہ اس میں عنعنہ کی بجائے سماع کی تصریح ہے، یہ تعلیق امام مسلم نے موصولاً نقل کی ہے (۱۳)۔

قال شعبة و أبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد  
شعبہ بن الحجاج اور ابو مسلم عبید اللہ نے بھی یہ روایت اعمش سے نقل کی ہے لیکن اس طریق میں اعمش

کے شیخ عمارہ نہیں بلکہ ابراہیم تھی ہیں، اس سے پہلے جو طرق گذرے ان میں اعمش کے شیخ عمارہ ہیں۔

وقال أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن

إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله

ابومعاویہ محمد بن حازم کا یہ طریق اور زیادہ مختلف ہے، وہ اعمش کے واسطے سے عمارہ اور ابراہیم دونوں سے نقل کرتے ہیں لیکن عمارہ کے شیخ حارث کی بجائے اسود ہیں، جب کہ ماقبل کے تمام طرق میں ان کے شیخ حارث ہیں اور ابراہیم کے طریق میں ان کے شیخ حارث بن سويد ہیں جب کہ پہلے طریق میں وہ عمارہ کے شیخ ہیں۔

اس طرح یہ کئی طرق جمع ہو گئے اور ان میں اس جزوی اختلاف کی نشاندہی بھی امام بخاری نے کر دی، البتہ امام مسلم نے چونکہ صرف ابوشہاب کا طریق ذکر کیا ہے (۱۵)، امام بخاری نے بھی موصولاً وہی طریق ذکر کیا ہے، اس لیے وہی قابل ترجیح ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ اس طرح کا اختلاف قاذح اور مضرب نہیں ہوتا (۱۶)۔

۵۹۵۰ : حَدَّثَنِي إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا حَبَّانُ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ ، سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ) .

”حضرت انس بن مالکؓ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے

بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جس کا جنگل میں کھویا ہوا اونٹ اسے پھر دوبارہ مل جائے۔“

(۱۵) فتح الباری: ۱۱/۱۲۹، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۸۲، إرشاد الساری: ۱۳/۳۱۳

(۱۶) فتح الباری: ۱۱/۱۲۹، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۸۲، إرشاد الساری: ۱۳/۳۱۳

(۵۹۵۰) الحدیث أخرجه مسلم في كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها (رقم الحديث:

۲۷۴۷)، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله

لعباده (رقم الحديث: ۳۵۳۸)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة (رقم الحديث: ۴۲۴۷)



امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت دو طریق سے ذکر کی ہے، پہلے طریق میں ان کے شیخ اسحاق بن حبان ہیں اور دوسرا طریق ہد بہ بن خالد سے ہے۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی کتاب التوبہ میں اسے ذکر کیا ہے، انہوں نے ہد بہ کے طریق سے نقل کیا ہے (۱۷)۔

### ۵ - باب : الضَّجَعِ عَلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ .

۵۹۵۱ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُهُ . [ ر : ۹۴۹ ]

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعتیں نماز پڑھتے تھے، پھر جب صبح طلوع ہوتی، تو دو ہلکی ہلکی رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ اذان دینے والا آتا اور آپ کو اطلاع دیتا۔“

### ترجمہ الباب کا مقصد

دائیں پہلو پر سونا مستحب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں اس کا استحباب بیان کرنا چاہتے ہیں، کتاب الدعوات سے اس کی مناسبت یوں بیان کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیتے ہوئے دعائیں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے (۱۸)۔

بعض حضرات نے کہا کہ اسے اگلے ابواب کے لیے بطور تمہید و توطیہ کے ذکر فرمایا ہے (۱۹)۔

(۱۷) صحیح مسلم، کتاب التوبہ، باب فی الحض علی التوبۃ والفرح بها: ۴/۲۱۰۵، رقم الحدیث: ۲۷۴۷

(۱۸) عمدۃ القاری: ۲۸۲/۲۲، إرشاد الساری: ۳۱۴/۱۳

(۱۹) فتح الباری: ۱۳۱/۱۱، إرشاد الساری: ۳۱۴/۱۳

## دائیں پہلو پر سونے کے فوائد

دائیں پہلو پر سونے کے کئی فوائد ہیں، دل عموماً چونکہ بائیں جانب ہوتا ہے، اس لیے دائیں پہلو پر لیٹنے سے اس پر بوجھ نہیں پڑتا، نیند بھی بہت زیادہ گہری نہیں ہوتی کہ آدمی سے نماز فوت ہو جائے، دل کی حرکت بھی مناسب رفتار سے رہتی ہے اور بھی کئی فوائد بیان کیے گئے ہیں (۲۰)۔

## ۶ - باب : إِذَا بَاتَ طَاهِرًا .

۵۹۵۲ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورًا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَيَّ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، وَقُلْ : اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَالْجَنَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مِتُّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْنِي آخِرَ مَا تَقُولُ) . فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُمْ : وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ : لَا : (وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) . [ ر : ۲۴۴ ]

## ترجمہ الباب کا مقصد

ترجمہ الباب کا مقصد یہ ہے کہ انسان با وضو ہو کر لیٹے، اس کی فضیلت ہے، سنن ابی داؤد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے:

”ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة، فيتعار من الليل، فيسأل الله خيرا من الدنيا

والآخرة إلا أعطاه إياه“ (۲۱)۔

یعنی ”جو مسلمان با وضو ہو کر ذکر کر کے سوئے اور رات کو اس کی آنکھ کھلے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور

(۲۰) الأبواب والتراجم: ۱۲۷/۲، فیض الباری: ۴/۴۱۶

(۲۱) سنن ابی داؤد، أبواب النوم، باب فی النوم علی طهارة: ۴/۳۱۰، رقم الحدیث: ۵۰۴۲

آخرت کی کسی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔“

## باب کی کتاب سے مناسبت

کتاب الدعوات سے اس باب کی مناسبت کے بارے میں علامہ یعنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”ہو ان فیہ دعاء عظیماً“ (۲۲) یعنی کتاب الدعوات سے اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں ایک عظیم الشان دعا کا ذکر ہے۔ روایت باب میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ خواب گاہ میں جانے کا ارادہ کریں تو وضو کریں، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اور یہ دعا پڑھیں:

”اللہم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظہري إليك رهبةً ورغبةً إليك، لاملجأً ولا منجأً منك إلا إليك، آمنت بككتنا بك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت“.....

یعنی ”اے اللہ! میں نے اپنے نفس کو تیرا اطاعت گزار بنایا، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا، میں نے اپنی ذات کو تیری طرف متوجہ کیا اور میں نے تجھے اپنی پشت کا سہارا بنایا تیری طرف رغبت اور شوق اور تیرے ڈر کی وجہ سے، (کیونکہ) تیرے علاوہ تجھ سے فرار اور پناہ کی جگہ کوئی نہیں، میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور تیرے نبی پر جسے تو نے مبعوث فرمایا۔“

اگر یہ دعا پڑھ کر آپ سو جائیں اور مر جائیں تو آپ کی موت فطرت پر ہوگی..... ان کلمات کو سب باتوں کے آخر میں پڑھیں کہ اس کے بعد پھر کوئی اور گفتگو نہ ہو۔

## ایک اشکال اور اس کا جواب

فإن مت، مت على الفطرة..... ۱۱، پر اشکال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات نہ بھی پڑھے اور

سوتے ہوئے اس کی وفات ہو جائے تو اس کی موت بھی فطرت ہی پر ہوگی تو پھر ان کلمات پڑھنے کی کیا خصوصیت اور فائدہ رہا؟ علامہ قسطلانی اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

”أجيب بتسوية الفطرة، ففطرة القائلين فطرة المقرئين الصالحين،

وفطرة الآخرين فطرة عامة المؤمنين“ (۲۳)۔

یعنی ”فطرت کی کئی قسمیں ہیں، ایک عام مؤمنین کی فطرت ہے اور ایک مقربین اور صلحاء کی فطرت ہے، ان کلمات کو پڑھنے والوں کی موت صلحاء کی فطرت پر ہوگی، جب کہ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی موت عام مؤمنین کی فطرت پر ہوگی اور یوں اس دعا کا امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔“

ماثور دعاؤں میں روایت بالمعنی کا حکم

فقلت: استذکرهن: وبرسولك الذي أرسلت: سعد بن عبیدہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس دعا میں ”وبرسولك الذي أرسلت“ کے الفاظ آپ کو یاد ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ”وبنيك الذي أرسلت“ کے الفاظ مجھے یاد ہیں۔

روایت بالمعنی اگرچہ جائز ہے اور رسول کی جگہ نبی کہنے اور پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن ماثور دعاؤں میں روایت باللفظ ہونی چاہیے، کیونکہ اذکار اور ادعیہ کے الفاظ توقیفی ہوتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”إن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها قياس،

فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به“ (۲۴)۔

یعنی ”اذکار و ادعیہ کے کلمات توقیفی ہوتے ہیں اور ان کی اپنی خصوصیات اور اسرار ہوتے ہیں، قیاس اور عقل سے ان کا ادراک نہیں کیا جاسکتا، لہذا جن الفاظ کے ساتھ ان اذکار و ادعیہ کا ورود ہوا ہے ان کی رعایت ضروری ہے۔“

(۲۳) إرشاد الساري: ۳۱۵/۱۳

(۲۴) فتح الباري: ۱۳۵/۱۱

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دہرایا تھا اور ”برسولك الذي أرسلت“ پڑھا تھا تو آپ نے اصلاح فرمائی اور ”برسولك“ کے بجائے ”وینبیک“ پڑھنے کے لئے فرمایا۔

## سونے کی تین سنتیں

امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے اندر تین سنتیں ہیں، ایک سونے کے وقت وضو، اگر پہلے سے وضو ہے تو نئے وضو کی ضرورت نہیں کیونکہ مقصود نوم علی الطہارت ہے جو پہلے سے حاصل ہے، دوم دائیں پہلو پر لیٹنا اور سوم ختم بذكر اللہ (۲۵)۔

## سونے کا ایک اور ادب

سونے کے آداب میں سے ایک ادب تو دائیں پہلو پر وضو اور طہارت کی حالت میں لیٹنا ہے اور آگے البواب میں ان ادعیہ کا ذکر ہے جو سونے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، البتہ قبلہ رخ ہو کر سونے کا ذکر نہیں کیا گیا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ”سنن“ میں باب قائم کیا ہے ”باب کیف يتوجه الرجل عند النوم“ اور اس کے تحت حضرت ابو قلابہ کی روایت نقل کی ہے، جس کے الفاظ ہیں:

”كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما يوضع الإنسان في

قبره، وكان المسجد عند رأسه“ (۲۶)۔

یعنی ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اس طرح ہوتا تھا جس طرح انسان کو اس

کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور مسجد (جس میں آپ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے) آپ کے سر کے

پاس ہوتی تھی۔“

اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی ہیئت معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ کا رخ قبلہ کی

(۲۵) شرح مسلم للنووي، كتاب الذكروالدعاء والتوبة والاستغفار، باب الدعاء عند النوم: ۳۴۸/۲

(۲۶) سنن أبي داود، كتاب الأدب، أبواب النوم، باب كيف يتوجه: ۳۱۰/۴، رقم الحديث: ۵۰۴۴

طرف ہوا کرتا تھا۔ (کیونکہ قبر میں میت کو قبلہ رخ ہو کر لٹایا جاتا ہے)۔

### ۷- باب : ما یقول إذا نام .

۵۹۵۳ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : (بِأَسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا) . وَإِذَا قَامَ قَالَ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) . [۵۹۵۵ ، ۵۹۶۵ ، ۶۹۵۹] «نَشْرُهَا» / البقرة: ۲۵۹ / : مُخْرَجُهَا .

### سونے کی دعا

سونے کے وقت کی ماثور دعا اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف آرام فرمانے کے لیے جاتے تو اللہم باسمک اموت و احیا پڑھتے (یعنی اے اللہ! میں تیرے ہی نام سے مرتا اور جیتا ہوں) اور جب اٹھتے تو الحمد للہ الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور پڑھتے۔ (یعنی تمام خدائی صفات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف موت کے بعد لوٹنا ہے)۔

نشور کے معنی بعثت بعد الموت اور مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنے کے ہیں (۲۷)۔

(۵۹۵۳) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الدعوات، باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن (رقم الحديث: ۶۳؛ ۴)، وأخرجه أيضاً في باب ما يقول إذا أصبح (رقم الحديث: ۶۳۲۴)، وأخرجه أيضاً في كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذه بها (رقم الحديث: ۷۳۹۴)، وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب: ما يقال عند النوم: ۳۱۱/۴ (رقم الحديث: ۵۰۴۹) . وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب منه: ۴۸۱/۵ (رقم الحديث: ۳۴۱۷)، وأخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول من يفزع في منامه: ۱۹۲/۶ (رقم الحديث: ۱۰۶۰۸)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب ما يدعوه إذا انتبه من الليل: ۱۲۷۷/۲ (رقم الحديث: ۳۸۸۰)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (رقم الحديث: ۲۷۱۱)

(۲۷) النہایۃ لابن الأثیر، مادۃ: نشر: ۵۴/۵

۵۹۵۴ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرَعْرَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا .  
 وَحَدَّثَنَا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى رَجُلًا فَقَالَ : (إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ : اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَأَلْبَسْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . فَإِنَّ مَتَّ مَتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ) . [ ر : ۲۴۴ ]

”حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور دوسری سند میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی اور فرمایا کہ جب تو بستر پر جانے کا ارادہ کرے، تو یہ دعا پڑھے:

”اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ“..... چنانچہ اگر تو یہ دعا پڑھنے کے بعد مر جائے گا تو فطرت پر مرے گا۔

## ۸ - باب : وَضِعَ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الْيُمْنَى .

۵۹۵۵ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ حَدِيثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ أُنْتِيلٍ ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأُحْيَا) . وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) . [ ر : ۵۹۵۳ ]

”حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو جب اپنے بستر پر جاتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر فرماتے: ”اللہم باسمک اموت وأحیی“ اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے: ”الحمد لله الذي أحیانا بعد ما أماتنا وإليه النشور“.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، روایت باب میں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے، دائیں رخسار کی تصریح نہیں ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، اس میں یہ تصریح ہے، اس میں ہے ”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوسد یمینہ عند المنام، ثم یقول: رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک“ (۲۸)۔ یعنی ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنے دائیں ہاتھ کو سر کے نیچے تکیہ کی طرح رکھتے پھر یہ دعا پڑھتے، اے میرے رب! تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا“۔

چونکہ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنی عادت کے مطابق ترجمہ الباب میں ”الخد الیمنی“ کا ذکر کر کے اس روایت کی طرف اشارہ کر دیا۔

### ۹- باب : التَّوْمُ عَلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ .

۵۹۵۶ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيْبِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ قَالَ : (اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْبَسْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَبَلْتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ) . [ ر : ۲۴۴ ]

”حضرت براء بن عازب سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو اپنے دائیں پہلو پر سوتے، پھر فرماتے:

(۲۸) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ماجاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه: ۵/ ۴۷۱، رقم الحديث: ۳۳۹۹، قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورواه أبو داود في أبواب النوم، باب ما يقال عند النوم: ۴/ ۳۱۱، ۳۱۰، رقم الحديث: ۵۰۴۵



”اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبةً ورغبةً إليك، لاملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت“.....  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمات کہے، اور پھر اسی رات وہ مرجائے تو وہ فطرت یعنی دین اسلام پر مرے گا۔“

### ترجمہ الباب کا مقصد

اس سے پہلے ”ضجع على الشق الأيمن“ کا ذکر تھا اور اس باب میں ”نوم على الشق الأيمن“ کا ذکر ہے، ضجع اور نوم دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، بسا اوقات آدمی لیٹتا ہے لیکن نیند نہیں ہوتی، اور نیند کئی بار لیٹے بغیر بیٹھے بیٹھے بھی آجاتی ہے (۲۹)۔

امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ لیٹنا اور سونا دونوں دائیں پہلو پر ہونا چاہیے، چنانچہ روایت میں ”نام على شقه الأيمن“ کے الفاظ ہیں۔

«أَسْتَرْهَبُوهُمْ» / الأعراف: ۱۱۶ / : مِنَ الرَّهْبَةِ . «مَلَكُوتُ» / الأنعام: ۷۵ / : مُلْكٌ ،  
مَثَلٌ : رَهْبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحْمُوتٍ ، يَقُولُ : تُرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ .

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ اعراف کی آیت کریمہ ﴿فَلَمَّا الْقَوْاسِحِرُوا أَعْيَنَ النَّاسَ وَأَسْتَرْهَبُوا﴾ میں ”استرہبوہم“، ”رہبۃ“ سے مشتق ہے، چونکہ حدیث باب میں ”رہبۃ“ کا لفظ آیا تھا، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ حسب عادت معمولی مناسبت سے ”استرہبوہم“ کی طرف چلے گئے، ”رہبۃ“ سے ایک لفظ ”رہبوت“ آتا ہے، کہتے ہیں رهبوت خیر من رحمت یعنی تجھے ڈرایا جائے، یہ بہتر اس سے کہ تجھ پر رحم کیا جائے، رهبوت کے وزن پر ایک لفظ ”ملکوت“ ہے، جو سورۃ انعام آیت ۷۵ میں واقع ہے، ”وکنلک نری ابراہیم ملکوت السموت والارض“ اس میں ”ملکوت“، ”مُلک“ کے معنی میں ہے، بعض نسخوں میں یہ کلمات نہیں ہیں، علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”هذا لم يقع في بعض النسخ، وليس لذكره مناسبة هنا“۔ (۲۹)۔

## ۱۰- باب : الدُّعَاءُ إِذَا آتَيْتَهُ بِاللَّيْلِ .

۵۹۵۷ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا أَبُو مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَثُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَى حَاجَتَهُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِقَاقَهَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا بَيْنَ وَضُوءَيْنِ لَمْ يُكَبِّرْ وَقَدْ أُنْبِغَ ، فَصَلَّى ، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ ، كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَبِي كُنْتُ أَتَقِيهِ ، فَتَوَضَّأْتُ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَتَمَامَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، فَأَذَنَهُ بِإِلَالٍ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : (اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا ، وَفَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَأَمَامِي نُورًا ، وَخَلْفِي نُورًا ، وَاجْعَلْ لِي نُورًا) .

قال كُرَيْبٌ : وَسَمِعْتُ فِي التَّابُوتِ ، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ وِلْدِ الْعَبَّاسِ ، فَحَدَّثَنِي بِهِ ، فَذَكَرَ عَصِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشْرِي ، وَذَكَرَ خَصَلَتَيْنِ . [ ر : ۱۱۷ ]

## رات کو جاگنے کی دعا

اس باب میں رات کو جاگنے پر دعا پڑھنے کا بیان ہے، باب کی اس پہلی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت ميمونہ کے پاس رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے اور پھر اٹھ کر مشکیزے کے پاس تشریف لائے، اس کا منہ کھولا پھر درمیانے درجہ کا وضو کیا، اس طرح کہ زیادہ پانی استعمال نہیں کیا لیکن پانی اپنے تمام اعضا تک پہنچایا، پھر آپ نے نماز پڑھی۔

حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ میں بھی اٹھا، لیکن میں نے اٹھنے میں دیر کی، اس لیے کہ میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، چنانچہ میں نے وضو کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آپ نے میرا کان پکڑا اور اپنے دائیں طرف گھما کر لائے..... آپ نے پوری تیرہ رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹے اور سو گئے، یہاں تک آپ کے سونے کی

آواز آنے لگی۔ جب آپ سوتے تو خراثوں کی سی آواز ہوتی..... اس کے بعد حضرت بلال نے آپ کو نماز کی اطلاع کی تو آپ نے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا اور اپنی دعا میں یہ فرماتے تھے:

”اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا“۔

یعنی ”اے اللہ! تو میرے دل میں نور پیدا فرما، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، میرے کانوں میں نور پیدا فرما، میرے دائیں طرف نور پیدا فرما، میرے بائیں طرف نور پیدا فرما، میرے اوپر نور پیدا فرما، میرے نیچے نور پیدا فرما، میرے سامنے نور پیدا فرما، میرے پیچھے نور پیدا فرما اور تو مجھے تمام انوارات کے جامع عظیم نور سے سرفراز فرما“۔

فاطلاقِ شناقها: شناق سے وہ رسی مراد ہے جس سے مشکیزے کا منہ باندھا جاتا ہے۔

وقد أبلغ أي أوصل الماء إلى ما يجب إيصاله إليه: یعنی جہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، وہاں تک پہنچایا،

تمطيت: یعنی میں نے دیر کی، تاخیر کی۔

أني كنت أرقبه: أرقب کے معنی نگرانی کرنے کے ہیں، ایک روایت میں ”أنتقبه“ ہے، تنقیب کے معنی تفتیش کرنے ہیں (۳۰)۔

فتنامت صلاته: تمام لازم استعمال ہوتا ہے بمعنی تکاملت: مکمل ہونا۔

جہاتِ ستہ و اعضاء کے لیے نور کی دعا مانگنے کی وجہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء جسم کے لیے اور اپنی جہاتِ ستہ کے لیے نور کی دعا مانگی،

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ، شیخ اکمل الدین کے حوالے سے اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”أما النور الذي عن يمينه، فهو المؤيد له والمعين على ما يطلبه من النور الذي بين يديه، والذي عن يساره نور الوقاية، والذي خلفه فهدى النور الذي يسعى بين يدي من يقتدى به ويتبعه، فهولهم من بين أيديهم، وهوله صلى الله عليه وسلم من خلفه، فيتبعونه على بصيرة، كما أن المتبع على بصيرة، قال الله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن﴾ وأما النور الذي فوقه فهو تنزل نور إلهي قدسي يعلم غريب لم يتقدمه خبر، ولا يعطيه نظر، وهو الذي يعطى من العلم بالله ما ترده الأدلة العقلية، إذا لم يكن لها إيمان، فإذا كان لها إيمان نوراني قبلته بتأويل لتجتمع بين الأمرين، وقوله: واجعل لى نورًا: يجوز أنه أراد نورا عظيما جامعًا للأنوار كلها يعني التي ذكرها هنا، والتي لم يذكرها كأنوار السماء الإلهية، وأنوار الأرواح وغير ذلك“ (۳۱)۔

یعنی ”ربا وہ نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ہے تو وہ اس نور کی طلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤید و مددگار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے اور وہ نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف ہے وہ حفاظتی نور ہے اور وہ نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہے، وہ وہ نور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے سامنے چلتا رہتا ہے، تو یہ ایسا نور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے ہے جو ان کے آگے آگے رہتا ہے اور یہی نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، جس کی بدولت صحابہ کرام بصیرت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”آپ کہہ دیجیے یہ میری

راہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تا ہوں سمجھ بوجھ کر میں اور وہ جو میرے ساتھ ہیں۔“  
 اور رہا وہ نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے تو اس سے مراد وہ قدسی والہی نور ہے جو ایسا عجیب و نادر آشنایا علم لے کر اترتا ہے جس کی پہلے نہ کوئی خبر دی گئی اور نہ عقل و نظر اس کی بخشش کرتی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ایسا علم عطا کرتا ہے جس کی اولہ عقلیہ تردید کرتے ہیں اگر وہ نور ایمان سے تہی دامن ہوں اور اگر وہ اولہ عقلیہ نور ایمان سے مالا مال ہوں تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا وہ عقل و نقل دونوں کو جامع ہو جاتے ہیں۔ ”واجعل لی نوراً“ کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم نور مراد لیا ہے جو تمام انوارات کو جامع ہے، ان انوارات کو بھی جو دعائیں مذکور ہیں اور ان کو بھی جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، مثلاً آسمانی الہی انوارات، ارواح کے انوارات وغیرہ۔“

قال کُریب: وسبع فی التابوت، فلقیت رجلاً من ولد العباس، فحدثنی بہن:

فذكر عصبي ولحمي، ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين.....

## تابوت کی تشریح

کریب کہتے ہیں کہ سات کلمات تابوت میں ہیں، یہاں تابوت کے بارے میں تین قول مشہور ہیں:  
 ① تابوت سے سینہ مراد ہے، کریب کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اشیاء کے لیے نور کی جو دعائیں مانگی ہیں، ان میں سات اور چیزوں کے لیے بھی دعائیں مانگی گئی تھیں وہ میرے سینے میں تو ہیں لیکن مجھے یاد نہیں رہیں، چنانچہ میں اس کے بعد حضرت عباس کی اولاد میں سے ایک شخص سے ملا تو انھوں نے وہ سات چیزیں مجھے بتلائی، چنانچہ انھوں نے عصب، لحم، دم، شعر اور بشر کا ذکر کیا (کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللهم اجعل فی عصبي نوراً، ولحمي نوراً، وفي دمي نوراً، وشعري نوراً، وبشري نوراً بھی فرمایا تھا) اور دو اور خصلتوں کا ذکر کیا (۳۲)، ان خصلتوں سے یا عظم اور مخ (ہڈی اور دماغ) مراد ہیں، یا شحم اور عظم (چربی اور

ہڈی) مراد ہیں..... اس طرح کل یہ سات اشیاء بن جاتی ہیں (۳۳)۔

۲ دوسرا قول علامہ ابن جوزی کا ہے، وہ یہ کہ تابوت سے صندوق مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ بقیہ سات مجھے یاد نہیں، بلکہ صندوق کے اندر لکھی ہوئی محفوظ ہیں (۳۴)۔

۳ تیسرا قول یہ ہے کہ تابوت سے جسم مراد ہے اور کریب کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جہات متہ کے لیے نور کی دعا مانگی ہے اور سات ایسی چیزوں کے لیے بھی دعا مانگی جن کا تعلق جہات اور معانی سے نہیں بلکہ انسانی جسم کے ساتھ ہے، چنانچہ حضرت عباسؓ کی اولاد میں سے ایک شخص نے اس کی وضاحت عصبی، لحمی..... وغیرہ سے میرے پوچھنے پر کر دی (۳۵)۔

فلقیث رجلا من ابن عباس:

شارحین نے لکھا ہے کہ رجل سے علی بن عبد اللہ بن عباسؓ مراد ہیں (۳۶)۔

بعض روایات میں اللهم أعظم لي نوراً وأعطني نوراً کا اضافہ بھی ہے (۳۷)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ويجتمع من اختلاف الروايات كما قال ابن العربي خمس وعشرون خصلة (۳۸) یعنی

”مختلف روایات میں مذکور خصلتیں جمع کی جائیں تو تعداد پچیس ہو جاتی ہے جیسا کہ ابن العربی نے کہا ہے۔“

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(۳۳) عمدة القاري: ۲۲/۲۸۷، فتح الباري: ۱۱/۱۴۲، إرشاد الساري: ۱۳/۳۲۲

(۳۴) عمدة القاري: ۲۲/۲۸۷، فتح الباري: ۱۱/۱۴۱، إرشاد الساري: ۱۳/۳۲۲

(۳۵) فتح الباري: ۱۱/۱۴۲، إرشاد الساري: ۱۳/۳۲۲

(۳۶) فتح الباري: ۱۱/۱۴۲، إرشاد الساري: ۱۳/۳۲۲

(۳۷) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلوة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلوة الليل وقيامه:

۱/۵۳۰، رقم الحديث: ۱۸۹، ۱۹۱، والحاكم في مستدرکہ، کتاب معرفة الصحابة، ذکر عبد اللہ بن

عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما: ۳/۵۳۶، ۵۳۵

(۳۸) فتح الباري: ۱۱/۱۴۲

معنی طلب النور للأعضاء عضوا عضواً أن يتجلى بأنوار المعرفة والطاعات، ويتعري عن ظلمة الجهالة والمعاصي لأن الإنسان ذو سهو وطمغیان، رأى أنه قد أحاطت ظلمات الجبله معتوره عليه من فرقه إلى قدمه، والأدخنة الثائرة من نيران الشهوات من جوانبه، ورأى الشيطان يأتيه من الجهات الست بوساوسه وشبهاته ظلمات بعضها فوق بعض، فلم ير لتخلص منها مساعداً إلا بأنوار سادة لتلك الجهات..... وكل هذه الأنوار راجعة إلى هداية وبيان وضيء للحق، وإلى مطالع هذه الأنوار يرشد قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء﴾ (۳۹)۔

یعنی ”ایک ایک عضو کے لیے نور کی دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی معرفت و طاعت سے منور اور روشن ہو جائیں اور جہالت و معاصی کی ظلمتیں اپنے ڈیرے ان سے ہٹالیں۔ کیونکہ انسان سرکشی و خطا کا پتلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ فطرت و جبلت کی تاریکیوں نے انسان کو پیشانی سے لے کر پاؤں تک مسلسل گھیرے ہوا ہے، شہوات نفسانیہ کی آگ سے اٹھنے والے دھوؤں نے اس کا ہر طرف سے حصار کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ شیطان انسان کے پاس چھ جہتوں سے اپنے وسوسوں اور شبہات لے کر آتا رہتا ہے، غرض انسان اوپر نیچے سے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھرا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نجات و چھکارے کا صرف ایک ہی ذریعہ پایا، یعنی یہ عظیم انوارات جو جہات ستہ کے لیے محافظ اور آڑ ہیں..... یہ تمام انوارات ہدایت اور حق کی روشنی و بیان کی طرف راجع ہیں اور ان انوارات کے مطالع کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان رہنمائی کرتا ہے: اللہ نور السموات..... ”اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا..... نور علی نور روشنی پر روشنی، اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کی راہ دکھلا دیتا ہے جس کو چاہے۔“

۵۹۵۸ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا سَفِيَانُ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ ،  
عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ : (اللَّهُمَّ لَكَ  
الْحَمْدُ ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَكَانَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ قِيمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَكَانَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ  
حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلْتُ ، وَعَلَيْكَ  
تَوَكَّلْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَأَغْفِرْ لِي  
مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ،  
أَوْ : لَا إِلَهَ غَيْرُكَ . [ ر : ۱۰۶۹ ]

”حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو تہجد پڑھتے اور فرماتے: اللہم لك الحمد..... ”اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، تو آسمانوں اور زمینوں کا، اور جو کائنات دونوں کے درمیان ہے، اس کا نور ہے، تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، تو آسمانوں اور زمینوں کا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اس کا نگران ہے اور تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں۔ تیری ذات، تیرا وعدہ، تیرا قول، تیری ملاقات برحق ہے۔ جنت، جہنم، قیامت، انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ اے اللہ! میں نے تیری اطاعت کی، تجھ ہی پر بھروسہ کیا، تجھ ہی پر ایمان لایا، تیری ہی طرف مجھے لوٹنا ہے اور تیری ہی توفیق سے میں لڑا اور تیری ہی طرف مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ اگلے، پچھلے، مخفی اور علانیہ گناہوں کی مغفرت فرما! تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹانے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔“

یہ دوسری دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھا کرتے تھے، مختلف مواقع کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں، ایک ہی موقع کے لیے ایک سے زائد دعائیں بھی منقول ہیں، چنانچہ رات کو اٹھ کر آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے اور اس سے پہلی روایت میں مذکور دعا بھی پڑھتے تھے، یہ حدیث کتاب الصلوة کے آخر میں تہجد کے ابواب کے تحت گزر چکی ہے (۴۰)۔



## ۱۱ - باب : التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ .

۵۹۵۹ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدَيْهَا مِنَ الرَّحَى ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ ، قَالَ : فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْتُ أَقُومُ ، فَقَالَ : (مَكَانَكَ) . فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بُرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي ، فَقَالَ : (أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوْثَبْنَا إِلَى فِرَاشِكُمَا ، أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا ، فَكَبَّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ) .

وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ . [ر : ۲۹۴۵]

## سونے کے وقت تسبیح کی فضیلت

سونے سے پہلے سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، روایت باب مشہور ہے کہ حضرت فاطمہؑ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگا کیونکہ خود چکی پیس پیس کر ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہؑ کی آمد کے وقت گھر پر نہیں تھے، حضرت عائشہؑ نے اطلاع دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، وہ میاں بیوی سونے لگے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت فاطمہؑ ٹھنٹھے لگیں تو آپ نے روک دیا اور بے تکلفی سے دونوں میاں بیوی کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور ان سے کہا کہ میں تم دونوں کو خادم سے زیادہ بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ جب تم ایٹنے لگو تو ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر، ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ اور ۳۳ مرتبہ الحمد للہ کہا کرو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔

شعبہ کی روایت میں ۳۲ مرتبہ سبحان اللہ ہے، بعض روایات میں الحمد للہ ۳۴ مرتبہ ہے اور اکثر روایات

میں اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ آیا ہے (۴۱)۔

(۴۱) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم: ۲۰۹۲، ۲۰۹۱، رقم الحديث: ۲۷۲۷، ۲۷۲۸ والترمذي في كتاب الدعوات، باب ماجاء في التسبيح

والتكبير والتحميد عند المنام: ۵/ ۴۷۹، ۴۷۷، رقم الحديث: ۳۴۱۳، ۳۴۱۲، ۳۴۰۸

روایت میں بیان کردہ اس ذکر کو تسبیحِ فاطمی کہتے ہیں، کئی احادیث میں ہر فرض نماز کے بعد تسبیحِ فاطمی کی فضیلت وارد ہوئی ہے (۴۲)۔ یہاں سوتے وقت اس کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خادم سے بہتر قرار دیا، چونکہ اس وقت آپ کے پاس دینے کے لیے خادم موجود نہیں تھا، اس لیے حضورؐ نے اس کے بدلے میں انھیں ایک ایسا ذکر بتلایا جو ان کے لیے اخروی اعتبار سے فائدہ مند تھا (۴۳)۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں کے پاس جانا اور ان کے درمیان اس طرح بیٹھنا بے تکلفی اور انتہائی محبت کی بناء پر تھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها وجلسه بينهما في فراشهما ومباشرة قدميه بعض جسدهما..... ودفع بعضهم الاستدلال المذكور لعصمته، فلا يلحق به غيره ممن ليس بمعصوم (۴۴)۔

یعنی ”اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیٹی اور اس کے شوہر کے پاس جا سکتا ہے، ان کے درمیان بیٹھ سکتا ہے اور اپنے پاؤں ان کے بدن کے کسی عضو کے ساتھ لگا سکتا ہے..... بعض حضرات نے مذکورہ استدلال کو یہ کہہ کر مسترد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، لہذا کسی غیر معصوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا“۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کے بعد ان سے یہ وظیفہ کبھی زندگی میں نہیں چھوٹا، جب ان سے پوچھا گیا کہ جنگِ صفین کے موقع پر بھی نہیں چھوٹا تو انھوں نے کہا، ہاں صفین کی رات بھی نہیں چھوٹا (۴۵)۔

(۴۲) سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام: ۴۷۹/۵، رقم

الحدیث: ۳۴۱۳، ۳۴۱۲

(۴۳) فتح الباری: ۱۱/۱۴۹

(۴۴) فتح الباری: ۱۱/۱۴۹

(۴۵) صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم: ۲۰۹۲/۴

۲۷۲۷، رقم الحدیث: ۲۰۹۱، ۲۰۹۱

## ۱۲ - باب : التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ النَّوْمِ .

۵۹۶۰ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي نَدْيِهِ ، وَفَرَأَ بِالْمَعْوَذَاتِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ . [ ر : ۴۱۷۵ ]

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور معوذات (سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس) پڑھ کر اپنے جسم پر دونوں ہاتھوں کو مل لیتے۔“

## سونے کے وقت کے دوسرے اوراد

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرتے تھے، حدیث میں تینوں کو تغلیباً معوذات کہا گیا (۴۶)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تین سورتوں کے علاوہ سوتے وقت آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری آیات، سورۃ کافرون، سورۃ ملک، سورۃ الم تنزیل کا پڑھنا بھی ثابت ہے (۴۷)۔

اسی طرح اعدو ذب کلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق کا پڑھنا بھی وارد ہے، جس کا ترجمہ ہے: ”میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں“ (۴۸)۔

امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت علیؑ کے حوالے سے یہ دعا بھی نقل کی ہے:

”اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامات من شر كل شيء أنت آخذ

(۴۶) عمدة القاري: ۲۲/۲۸۹، إرشاد الساري: ۱۳/۳۲۵

(۴۷) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام: ۵/۴۷۴، ۴۷۵، (رقم

الحدیث: ۳۴۰۵، ۳۴۰۴، ۳۴۰۳

(۴۸) فتح الباري: ۱۱/۱۵۱، سنن أبي داؤد، أبواب النوم، باب ما يقال عند النوم: ۴/۳۱۲

بناصیتہ“ (۴۹)۔ یعنی اے اللہ! میں تیری کریم ذات اور تیرے کامل کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، جس کی پیشانی تیرے قبضہ میں ہے۔“

## باب

۵۹۶۱ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِأَسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنِيَّ وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظَهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ .

تَابِعَهُ أَبُو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . وَقَالَ يَحْيَى وَبِشْرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ .

وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبْنُ عَجَلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . [۶۹۵۸]

## سونے کے ایک اور ادب کا بیان

یہ باب بلا ترجمہ ہے، بعض نسخوں میں باب نہیں ہے، حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ باب یہاں ہونا

چاہیے، یہی راجح ہے (۵۰)۔

(۴۹) سنن أبي داود، أبواب النوم، باب ما يقال عند النوم: ۳۱۲/۴، رقم الحديث: ۵۰۵۲  
(۵۹۶۱) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها (رقم الحديث: ۷۳۹۴)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع: ۲۰۸۴/۴ (رقم الحديث: ۲۷۱۴)، وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب: ما يقال عند النوم: ۳۱۱/۴ (رقم الحديث: ۵۰۵۰).  
وأخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول من يفرغ في منامه: ۹۸/۶ (رقم الحديث: ۱۰۶۲۷)،  
وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب منه (دعاء: "بأسمك ربي وضعت جنبي .....") (رقم الحديث: ۳۴۰۱)،  
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب: ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه (رقم الحديث: ۳۸۷۴)

(۵۰) فتح الباري: ۱۱/۱۵۱

اس باب میں ایک اور ادب سونے سے متعلق بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ دینا چاہیے، چنانچہ روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر کی طرف سونے کے لیے آئے تو وہ اپنے ازار کے اندرونی کنارے سے بستر کو جھاڑ دے کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے بستر میں کیا چیز داخل ہوئی ہے اور پھر یہ دعا پڑھے:

”بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي

فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ“.

یعنی ”اے میرے رب! میں نے تیرے ہی نام سے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اسے اٹھاؤں گا، اگر تو نے میری روح روک (کر مجھے موت دے) دی تو، تو اس پر رحم فرما اور اگر تو نے اسے واپس لوٹا کر چھوڑ دیا تو، تو اس کی حفاظت فرما تا اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تو صالحین کی حفاظت فرماتا ہے۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کے آخر میں متابعت ذکر کی ہیں، ابو زمرہ انس بن عیاض کی متابعت امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام مسلم نے ”صحیح“ میں موصولاً نقل کی ہے (۵۱)۔ اسماعیل بن زکریا کی متابعت حارث بن ابی اسلمہ نے اپنی مسند میں موصولاً نقل کی ہے (۵۲)، یحییٰ بن سعید کی تعلیق امام نسائی نے اور بشر بن المفصل کی تعلیق مسدد نے موصولاً نقل کی ہے (۵۳)۔

ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد

امام مالک رحمہ اللہ اور محمد بن عجلان نے بھی مذکورہ حدیث سعید مقبری سے نقل کی ہے، امام مالک کی روایت، آگے کتاب التوحید میں موصولاً آرہی ہے (۵۴) اور ابن عجلان کی روایت امام احمد نے ”مسند“ میں

(۵۱) فتح الباری: ۱۱/۱۵۴، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۹۰، إرشاد الساری: ۱۳/۳۲۶

(۵۲) فتح الباری: ۱۱/۱۵۴، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۹۰، إرشاد الساری: ۱۳/۳۲۶

(۵۳) فتح الباری: ۱۱/۱۵۴، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۹۰، إرشاد الساری: ۱۳/۳۲۶

(۵۴) صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب السؤال بأسماء اللہ تعالیٰ والاستعاذۃ بها: ۱۵۵۳، رقم

موصولاً نقل کی ہے (۵۵)۔

## تہہ بند کے اندرونی حصے سے بستر جھاڑنے کی حکمت

فلینفض فراشه بداخلة إزاره: اپنے بستر کو تہہ بند کے اندرونی کنارے سے جھاڑنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ بستر پر جانے سے پہلے تہہ بند کھول دے اور اس کے اندرونی کنارے سے اپنے بستر کو جھاڑ دے، اندرونی کنارے سے وہ طرف مراد ہے جو جسم کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس حصے سے جھاڑنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”و حکمة ذلك لعله لسرطبي يمنع من قرب بعض الحيوانات استأثر

الشارع بعلمه“ (۵۶)۔

یعنی ”اس کی حکمت شاید ایک طبی راز ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بعض حیوانات بستر کے قریب نہیں آسکتے، شارع نے اس کا علم اپنے تک ہی محدود رکھا ہے“۔  
اور علامہ کرمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ولینفض ویدہ مستورة بطرف إزاره لثلا يحصل في يده مكروه، إن

كان شيء هناك“ (۵۷)۔

یعنی ”جھاڑتے وقت انسان کو اپنا ہاتھ تہہ بند کے کنارے کے ساتھ چھپا کر رکھنا چاہیے تاکہ اس کے ہاتھ کو اذیت نہ پہنچے اگر بستر میں کوئی ایسی چیز ہو“۔  
اور علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”إنما أمر بالنفض بها، لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج

(۵۵) مسند أحمد: ۲/۲۹۵، مرويات أبي هريرة

(۵۶) إرشاد الساري: ۱۳/۳۲۶

(۵۷) شرح الكرماني: ۲۲/۱۳۵

الإزار، وتبقى الدالة معلقة، فينفض بها“ (۵۸)۔

یعنی ”تہ بند کے اندرونی کنارے سے جھاڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ سونے والا شخص اپنے دائیں ہاتھ سے جب تہ بند کا بیرونی کنارہ کھولے گا تو اندرونی کنارہ معلق رہ جائے گا، لہذا وہ اسی کنارے سے بستر جھاڑے گا“۔

### فائدہ

روایت باب کی سند میں تین راوی تابعی ہیں اور تینوں مدنی ہیں، عبید اللہ بن عمر، ان کے شیخ سعید بن ابی سعید مقبری اور ان کے شیخ اور والد ابو سعید کیسان..... تینوں تابعی ہیں (۵۹)۔

روایت باب کی دعا کی طرح، ایک دعا امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمرؓ سے نقل فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کہ وہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرے:

”اللهم إنك خلقت نفسي، وأنت تتوفأها، لك مؤتها ومحيها إن أحييتها فأحفظها وإن أمتها فاغفر لها“ (۶۰)۔

یعنی ”اے اللہ! تو نے ہی میرے نفس کو پیدا کیا اور تو ہی اسے اٹھائے گا، اس کا مرنا اور اس کا جینا تیرے ہی لیے ہے۔ اگر تو نے اس کو زندہ رکھا تو، تو اس کی حفاظت فرمانا اور اگر تو نے اس کو موت دی تو، تو اس کو بخش دینا“۔

### ۱۳ - باب : الدُّعَاءُ نِصْفَ اللَّيْلِ .

۵۹۶۲ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (يُنزَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ،

(۵۸) فتح الباري: ۱۱/۱۵۲، عمدة القاري: ۲۲/۲۸۹، إرشاد الساري: ۱۳/۳۲۶

(۵۹) فتح الباري: ۱۱/۱۵۱، عمدة القاري: ۲۲/۲۸۹، إرشاد الساري: ۱۳/۳۲۶

(۶۰) مسند أحمد: ۲/۷۹، (مرويات ابن عمر رضي الله عنه)

يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ . [ ر : ۱۰۹۴ ]

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے، جب رات کی آخری تہائی باقی رہتی ہے تو فرماتا ہے ”کون ہے! جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے! جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو دے دوں اور کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے، تو میں اس کو بخش دوں۔“

### ترجمۃ الباب کا مقصد

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے اور اپنی مرادوں کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے رات کے آخری حصے سے بڑھ کر کوئی وقت زیادہ موزوں اور اہم نہیں ہے، احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس باب میں اس وقت کی دعا کا ذکر کیا ہے، روایت کے اندر رات کے آخری ثلث کا ذکر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں ”نصف اللیل“ کا ذکر کیا ہے، شاید وہ اس روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اس میں ہے:

”ينزل ربنا تبارك كل ليلة حين يسقى ثلث الليل الآخرة الى سماء

الدنيا“ (۶۱)۔

یعنی ”ہمارے رب ہر رات کو جب کہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے،

آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔“

دارقطنی کی روایت میں ”شطر اللیل“ کے الفاظ بغیر تردد کے ہیں (۶۲)۔

علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فإن قلت: في الترجمة نصف الليل، وفي الحديث الثلث، قلت:

(۶۱) مسند أحمد: ۲/۲۶۴، مرويات أبي هريرة:

(۶۲) فتح الباري: ۱۱/۱۵۵، إرشاد الساري: ۱۳/۳۲۷، عمدة القاري: ۲۲/۲۹۱



حين يبقى الثلث، يكون قبل الثلث، وهو المقصود من النصف“ (۶۳)۔  
 یعنی ”اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ ترجمۃ الباب میں ”نصف اللیل“ کا ذکر ہے،  
 جب کہ حدیث باب میں ”ثلث“ آیا ہے۔ میں جواب میں کہوں گا کہ ثلث کی بقا ثلث سے  
 پہلے ہی ہوگی اور نصف سے یہی مقصود ہے۔  
 روایت باب میں ہے ”یتنزل ربنا تبارک وتعالیٰ.....“

### آسمان دنیا کی طرف نزولِ رب کا مطلب

آسمان دنیا کی طرف اللہ جل شانہ کے نزول سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہونا یا اللہ کے  
 حکم سے ملائکہ رحمت کا نزول مراد ہے، یا یہ اپنے معنی حقیقی پر ہے، اللہ جل شانہ جسم سے منزہ ہیں، نزول کی کیفیت  
 اور حقیقت انسان کی محدود عقل کے دائرے سے آگے کی چیز ہے (۶۴) اس کی تفصیل آگے کتاب التوحید میں  
 آئے گی۔ ان شاء اللہ۔

حدیث باب کتاب الصلاة میں باب التہجد کے تحت گذر چکی ہے (۶۵)۔

### ۱۴ - باب : الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ .

۵۹۶۳ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعْرَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ  
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ  
 بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ) . [ ر : ۱۴۲ ]

”حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت الخلا تشریف  
 لے جاتے تو فرماتے: ”اللهم انى أعوذ بك من الخبث والخبائث“۔ (اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا

(۶۳) شرح الکرمانی: ۱۳۶/۲۲

(۶۴) إرشاد البساری: ۳۲۷/۱۳، فتح الباری: ۱۵۰/۱۱

(۶۵) الصحيح للبخاری، کتاب التہجد، باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل: ۲۲۵، رقم الحدیث: ۱۱۴۵

ہوں، خبث اور خباثت سے)۔“

## خبث اور خباثت کی تشریح

خبث خبیثت کی جمع ہے، باء کے ضمہ کے ساتھ ہے لیکن کبھی تخفیف کے لیے باء پر سکون پڑھنا بھی جائز ہے (۶۶) اور خبائث، خبیثۃ کی جمع ہے، خبث سے زرشیا طین اور خباثت سے مؤنث شیا طین مراد ہیں (۶۷)۔

ایک قول یہ ہے کہ خبث سے شیا طین اور خباثت سے بول و براز اور گندی اشیاء مراد ہیں (۶۸) بہر حال یہ سب مراد ہو سکتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر انسان کی دنیوی اور اخروی زندگی کے لیے خباثت کا کوئی پہلو پایا جاتا ہو، اس سے اس مبارک دعا کے اندر پناہ طلب کی گئی ہے۔ یہ دعائیت الخلا میں جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے (۶۹)۔

### ۱۵ - باب : ما یقول إذا أصبح .

۵۹۶۴ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِينَةَ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أُوْبُؤُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ ، وَأُوْبُؤُ لَكَ بِذُنُوبِي فَاعْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ . إِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، أَوْ : كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ) . مِثْلُهُ . [ر : ۵۹۴۷]

(۶۶) إرشاد الساري: ۳۲۸/۱۳

(۶۷) عمدة القاري: ۲۹۱/۲۲

(۶۸) إرشاد الساري: ۳۲۸/۱۳

(۶۹) فتح الباري: ۳۲۱/۱، إرشاد الساري: ۳۲۸/۱۳

حضرت شداد بن اوس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سید الاستغفار یعنی استغفار کے تمام صیغوں کے سردار اور ان تمام میں افضل درج ذیل کلمات ہیں:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أُوْبُوكَ لَكَ بِنِعْمَتِكَ ، وَأُوْبُوكَ لَكَ بِذَنْبِي فَاعْفُرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ . (اے میرے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے کرتوتوں کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، ان کا اقرار اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بخش دے کہ تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں ہے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اس دعا کو شام کے وقت پڑھے اور مرجائے تو جنت میں داخل ہوگا یا (فرمایا کہ) جنت والوں میں سے ہوگا اور جب صبح کے وقت پڑھے اور اسی دن مرجائے تو اسی طرح (وہ جنت میں داخل) ہوگا۔

۵۹۶۵: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : (بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا) . وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَمَاتِهِ قَالَ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) . [ر : ۵۹۵۳]

”حضرت حدیفہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے: ”باسمک اللہم أموت وأحي“ اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے: ”الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور“۔

۵۹۶۶: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَرْثِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : (اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا) . فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) . [۶۹۶۰]

”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے: ”اللہم باسمک أموت وأحی“. اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے: ”الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماننا وإليه النشور“.

صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھنا چاہیے جس کی تفصیل گزر چکی ہے، نیند سے جاگنے کے بعد کی دعا والی حدیث بھی امام بخاری نے ذکر کر دی کیونکہ عموماً رات ہی کو انسان سو کر صبح اٹھتا ہے، اس لیے اسے صبح کی دعاؤں میں شمار کر سکتے ہیں۔

### ۱۶ - باب : الدَّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ .

۵۹۶۷ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : عَلَّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي ، قَالَ : (قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) .  
وَقَالَ عَمْرٍو ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو : قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ . [ ر : ۷۹۹ ]

”حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسی دعا سکھلا دیجئے، جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں، آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلمًا کثیرًا ولا یغفر الذنوب إلا انت فاعفر لی مغفرة من عندک، وارحمنی، انک انت الغفور الرحیم“۔ (اے اللہ! میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور تو ہی گناہوں کو معاف کرتا

= (رقم الحدیث: ۷۳۹۵)، وأخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول إذا أراد أن ينام:

۱۸۷/۶ (رقم الحدیث: ۱۰۵۸۶)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب:

ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (رقم الحدیث: ۲۷۱۱)، وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب: ما يقول

عند النوم (رقم الحدیث: ۵۰۴۹)

ہے۔ پس اپنی طرف سے میری مغفرت فرمادیجئے، اور مجھ پر رحم فرمادیجئے، بے شک تو بہت بخشنے والا مہرباں ہے۔“

نماز کے اندر دعاء کا ذکر ہے، باب کی اس پہلی روایت میں جو دعاء نقل کی گئی ہے، نماز میں اس کا محل متعین نہیں کیا گیا ہے، بعضوں نے کہا کہ یہ دعاء سجدے میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے:

”فأما السجود فاجتهد وافية بالدعاء“ (۷۰) بعض نے کہا تشہد کے بعد یہ دعاء پڑھنی چاہیے (۷۱)۔

## دعا کی حسن ترتیب کا بیان

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ اس دعا کی حسن ترتیب کے بارے میں لکھتے ہیں:

وهذا الدعاء من أحسن الأدعية لاسيما في ترتيبه، فإن فيه تقديم نداء الرب واستغاثته بقوله: اللهم، ثم الاعتراف بالذنب في قوله: ظلمت نفسي، ثم الاعتراف بالتوحيد إلى غير ذلك مما لا يخفى مع ما اشتمل عليه من التأكيد بقوله: إنك انت الغفور الرحيم بكلمة: إن، وضمير الفصل، وتعريف الخبر باللام، وبصيغة المبالغة“ (۷۲)۔

یعنی ”یہ دعا عمدہ اور بہترین دعاؤں میں سے ایک ہے خصوصاً اپنی ترتیب کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے ”اللہم“ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اس سے مدد مانگی گئی ہے، پھر ”ظَلَمْتُ نَفْسِي“ کہہ کر اپنے گناہ کا اعتراف اور بعد ازاں توحید باری تعالیٰ کا اقرار کیا گیا ہے، غرض یہ حدیث کئی بہترین امور پر مشتمل ہے، علاوہ ازیں ”إنك

(۷۰) صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: ۳۴۸/۱، رقم

الحدیث: ۴۷۹

(۷۱) فتح الباری: کتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام: ۴۱۴/۲، عمدۃ القاری، کتاب الأذان باب الدعاء

قبل السلام: ۱۱۹/۶

(۷۲) إرشاد الساری: ۳۳۱/۱۳

انت الغفور الرحيم“ میں لفظ ”إِنَّ“ ضمیر فصل اور خبر کو لام تعریف کے ساتھ معرف لانے اور صیغہ مبالغہ کے استعمال کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔

۵۹۶۸ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : «وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا» . أَنْزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ . [ر : ۴۴۴۶]

### آیت کریمہ میں دعا کا مصداق

باب کی یہ دوسری روایت قرآن کریم کی آیت ”ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت“ کے بارے میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے نزدیک صلاۃ سے دعا مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ دعا نہ بہت زور سے مانگنی چاہیے، نہ بہت آہستہ۔ لیکن کئی مفسرین کے نزدیک یہ آیت، دعا کے بارے میں نہیں، بلکہ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وولاتجهر بصلاتك اى بقرآءة صلاتك..... مضاف محذوف ہے (۷۳)۔

۵۹۶۹ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ : (إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ - إِلَى قَوْلِهِ - الصَّالِحِينَ ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ) . [ر : ۷۹۷]

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نماز میں پڑھا کرتے تھے: ”السلام علی اللہ، السلام علی فلان“ تو ہم سے ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بیٹھے تو ”التحیات لله..... الصالحین“ تک

(۷۳) روح المعانی: ۱۵/۱۹۴، سورۃ الإسراء، رقم الآیة: ۱۱۰، نیز دیکھیے الجامع لأحكام القرآن، سورۃ

پڑھے، جب وہ یہ کلمات کہے گا تو آسمان اور زمین کے ہر اس بندے کو پہنچ جائے گا جو صالح ہوگا (پھر ان الفاظ کے ساتھ تشهد پڑھے) ”أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله“ اور اس کے بعد جو دعا چاہے، پڑھے۔“

### ترجمہ الباب سے احادیث کی مناسبت

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ترجمہ الباب سے احادیث کی مناسبت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وأخذ الترجمة من هذه الأحاديث إلا أن الأول نص في المطلوب والثاني يستفاد منه صفة من صفات الداعي، وهي عدم الجهر والمخافتة فيسمع نفسه، ولا يسمع غيره“ (۷۴)۔

یعنی ”ترجمہ ان احادیث سے ماخوذ ہے، البتہ اول حدیث مطلوب میں نص ہے اور دوسری حدیث سے داعی کی ایک صفت مستفاد ہوتی ہے اور وہ ہے زیادہ زور سے نہ بولنا اور آہستہ بولنا، اس طور پر کہ وہ خود تو سنے، کوئی اور نہ سنے۔“

أصاب كل عبد في السماء والأرض صالح

اس میں صالح عبد کی صفت ہے، باب کی یہ آخری حدیث کتاب الصلوة میں گزر چکی ہے (۷۵)۔

### ۱۷ - باب : الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

۵۹۷۰ : حَدَّثَنِي إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ : أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ سُمَيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَا بِاللَّدْرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ . قَالَ : ( كَيْفَ ذَلِكَ ) . قَالُوا : صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا ، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا ، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ،

(۷۴) فتح الباری: ۱۱/۱۵۸

(۷۵) الصحيح للبخاري: كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة: ۱۸۲، رقم الحديث: ۸۳۱

وَكَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ . قَالَ : (أَفَلَا أَخْبَرْتُمْ بِأَمْرِ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ ؟ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا ، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا ، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا) .

تَابِعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سُمَيِّ .

وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو ، عَنْ سُمَيِّ ، وَرَجَاءِ بْنِ حَبِيبَةَ .

وَرَوَاهُ جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ .

وَرَوَاهُ سَهْبَلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . [ر : ۸۰۷]

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! دولت مند لوگ تو درجات اور نعمتوں میں بڑھ گئے، آپ نے فرمایا (کیونکر؟) انہوں نے کہا وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جہاد کرتے ہیں، جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں اور اپنا بچا ہوا مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس مال نہیں، آپ نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلا دوں جس کے ذریعہ تم ان کے برابر ہو جاؤ، جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور ان سے بڑھ جاؤ، جو تمہارے بعد آئیں اور کوئی شخص تمہارے برابر نہیں ہوگا مگر وہ جو اس کو پڑھے، ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ اور دس بار الحمد للہ اور دس بار اللہ اکبر کہو۔“

۵۹۷۱ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ وَرَّادٍ ، مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) .

وَقَالَ شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُسَيْبَ . [ر : ۸۰۸]

”حضرت مغیرہ بن شعبہ کے آزاد کردہ غلام وژاد سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ پڑھتے: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لا شريك له، له الملك وله الحمد



وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. (اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے لئے بادشاہت ہے، اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ! کوئی منع کرنے والا نہیں اس چیز کو جسے آپ دیں، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جسے آپ منع کریں اور کسی مالدار کی مالداری تیرے بغیر فائدہ مند نہیں ہو سکتی)۔

### فرض نماز کے بعد دعا کا حکم

اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، امام ان لوگوں کی تردید کرنا چاہ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مشروع نہیں ہے (۷۶)۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ”زاد المعاد“ میں اس کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے (۷۷)۔

لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا مطلقاً یہ نفی کرنا درست نہیں کیونکہ سنن ابی داؤد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

”يا معاذ، إني والله لأحبك، فلاتدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم

أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك“ (۷۸)۔

یعنی ”معاذ! بخدا مجھے تم سے محبت ہے، تم ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا مت

چھوڑو: اے اللہ! تو اپنے ذکر و شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما“۔

(۷۶) فتح الباری: ۱۱/۱۵۹

(۷۷) زاد المعاد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوة: ۱/۲۵۷

(۷۸) سنن أبي داؤد، كتاب الصلوة، باب في الاستغفار: ۲/۸۶، رقم الحديث: ۱۵۲۲، ورواه الإمام أحمد

في مسنده عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوماً، ثم قال: يا معاذ، إني لأحبك، فقال

له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك قال: أوصيك يا معاذ، لاتدعن في دبر كل صلوة أن تقول:

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث معاذ بن جبل: ۵/۲۴۵

اسی طرح زید بن ارقم کی روایت سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے:

”سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعوني دبر كل صلاة:

اللهم ربنا ورب كل شيء“ (۷۹)۔

یعنی ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہوئے سنا:

اے اللہ، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب“۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی نقل فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے ”اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر

وعذاب القبر“ (۸۰) یعنی ”اے اللہ! میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں“۔

اس لیے ان روایات کی موجودگی میں یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بعد الصلاة ثابت نہیں،

درست نہیں ہے، چنانچہ علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لاريب أن الأدعية دبر الصلوات قد تواترت تواترا لاينكر، أما رفع

الأيدي فثبت بعد النافلة مرة أو مرتين، فألحق بها الفقهاء المكتوبة أيضا.....

بقي أن المواظبة على أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة

أو مرتين، كيف هي؟ فتلك هي الشاكلة في جميع المستحبات، فإنها تثبت

طورا فطورا، ثم الأمة تواظب عليها، نعم نحكم بكونها بدعة، إذا أفضى الأمر

إلى النكير على من تركها (۸۱)۔

یعنی ”بلاشبہ نمازوں کے بعد دعا تواتر کے ساتھ ثابت ہے، جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہا دعا میں

دونوں ہاتھوں کا اٹھانا تو نفل کے بعد یہ ایک یا دو بار ثابت ہے پھر فقہاء نے اس پر قیاس کرتے ہوئے فرائض کو

(۷۹) سنن ابی داؤد، کتاب الصلوة، باب ما يقول الرجل إذا سلم: ۸۲/۲، رقم الحدیث: ۱۵۰۸،

مسند أحمد بن حنبل، حدیث زید بن ارقم: ۳۶۹/۴، رقم الحدیث: ۱۹۵۰۸

(۸۰) مسند أحمد بن حنبل، حدیث ابی بکر: ۳۷/۵، رقم الحدیث: ۲۰۶۵۲

(۸۱) فیض الباری: ۴/۱۷

بھی اس کے ساتھ ملحق کر دیا..... رہی یہ بات کہ ایسے امر پر مواظبت کیسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بھر صرف ایک یا دو بار ثابت ہے تو جملہ مستحبات میں یہی طریقہ رہا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت کبھی کبھار ہی ہوا ہے، پھر بعد میں امت ان پر مواظبت کرتی ہے، ہاں اگر کوئی ان کے ترک کرنے پر کسی کو برا بھلا کہے تو اس وقت ان پر بدعت ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔“

### ہیئت اجتماعی کے ساتھ دعا بعد الفرائض کا حکم

ایک اور مقام پر بھی علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ موجودہ اجتماعی ہیئت کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد کی دعا کو سنت نہیں کہا جاسکتا یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہیئت کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے لیکن اس کو بدعت بھی نہیں کہہ سکتے کہ کہا جائے کہ دین کے اندر اس کی اصل اور بنیاد نہیں ہے (۸۲)۔ حاصل یہ کہ اس ہیئت کے ساتھ یہ سنت ہے، نہ بدعت ہے۔

روایاتِ باب کی مناسبت ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے۔

۱۸ - باب : قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ» / التَّوْبَةُ : ۱۰۳ . وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالْدُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ .

### ترجمۃ الباب کا مقصد

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ دوسروں کے لیے دعا مانگنے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا: وصلِّ علیہم یعنی ان کے لیے دعا کیجیے۔

### صرف دوسرے کے لیے دعا مانگنا

ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه : یعنی انسان دوسرے کے لیے دعا کرے اور اپنا ذکر دعا میں نہ کرے، اس کی گنجائش ہے، امام بخاری رحمہ اللہ غالباً ان لوگوں کی تردید کرنا چاہ رہے ہیں جن کا کہنا ہے

کہ دوسروں کے لیے دعا سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، حضرت ابراہیم نخعی وغیرہ سے یہ قول منقول ہے (۸۳)۔

یہ حضرات، ابی بن کعب کی ایک مرفوع روایت سے استدلال کرتے ہیں جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے موصولاً نقل کیا ہے، اس میں ہے:

”إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحداً، فدعاه، بدأ

بنفسه“ (۸۴)۔

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر فرماتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگتے۔“

لیکن روایات باب سے اس کی تردید ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حضرات کے لیے دعا فرمائی جس میں اپنا ذکر نہیں کیا۔

بہر حال اس کی گنجائش ہے کہ انسان دوسروں کے لیے دعا کرے اور اپنا ذکر نہ کرے، لیکن بہتر یہ ہے اور ”حصن حصین“ میں اسے دعا کے آداب میں بھی شمار کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے لیے پہلے دعا کرے، پھر دوسروں کے لیے کرے (۸۵)۔

مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے ”الکوکب الدرّی“ میں لکھا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا اور خود کو چھوڑ دینا..... اس میں ایک گونہ اعراض اور دعا سے استغناء کا وہم ہوتا ہے جو درست نہیں (۸۶)۔

اور اس میں یوں تفصیل بھی کی جاسکتی ہے کہ اگر اہتمام کے ساتھ دعا کا موقع ہے تو اس میں آدمی کو اپنے لئے دعا کرنی چاہیے، اس کے بعد دوسروں کے لئے!

(۸۳) فتح الباری: ۱۱/۱۶۴، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۹۵

(۸۴) أخرجه الترمذی فی کتاب الدعوات، باب ماجاء أن الداعي يبدأ بنفسه: ۵/۴۶۳، (رقم الحدیث:

۳۳۸۵)

(۸۵) حصن حصین (۸۲)

(۸۶) الکوکب الدرّی: ۳/۳۳۵

لیکن اگر کسی کا تذکرہ آگیا یا کسی نے کوئی احسان کیا تو ایسے مواقع پر اپنا ذکر کئے بغیر متعلقہ آدمی کے لئے دعا کی جا سکتی ہے، روایاتِ باب میں اکثر ایسے ہی مواقع ہیں۔

باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے سات احادیث ذکر فرمائی ہیں اور وہ تمام پہلے گزر چکی ہیں، ان سب احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی کے لیے دعا مانگی ہے۔ ذیل میں وہ احادیث ترجمے کے ساتھ دی جا رہی ہیں:

وَقَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُمَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ) . [ر : ۴۰۶۸]

۵۹۷۲ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُمَيْدٍ ، مَوْلَى سَلْمَةَ : حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَيُّ عَامِرٍ ، لَوْ أَشْمَعْتَنَا مِنْ هَنَاتِكَ ، فَتَزَلَّ يَحْدُو بِهِمْ يُذَكِّرُ :  
تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا . وَذَكَرَ شِعْرًا غَيْرَ هَذَا ، وَلَكِنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَنْ هَذَا السَّائِقُ) . قَالُوا : عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : (بِرَحْمَةِ اللَّهِ) . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ ، فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمَ قَاتَلُوهُمْ ، فَأَصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةٍ سَيْفٍ نَفْسِهِ فَمَاتَ ، فَلَمَّا أَمْسُوا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَا هَذِهِ النَّارُ ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقَدُونَ) . قَالُوا : عَلَى حُمْرٍ أَسْيِيَّةٍ ، فَقَالَ : (أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَكَسِّرُوهَا) . قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نُهْرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا ؟ قَالَ : (أَوْ ذَاكَ) . [ر : ۲۳۴۵]

”حضرت سلمہ بن الاکوع سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے عامر! کاش تم اپنے اشعار سنا دیتے؟ وہ سواری سے اتر پڑے، اور ان الفاظ کے ساتھ حدی خوانی کرنے لگے: ”تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا“ (خدا کی قسم! اگر اللہ (ہدایت دینے والا) نہ ہوتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے) اور اس کے علاوہ بھی چند اشعار پڑھے، لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہائیکے ذلک کون ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن اکوع (ہیں) آپ نے فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے، ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کاش اس (عامر) سے آپ

ہمیں اور فائدہ پہنچاتے (یعنی ابھی وہ اور زندہ رہتے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے بارے میں یرحم اللہ یا رحمہ اللہ کے الفاظ فرماتے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا کہ وہ وفات پانے والا ہے) چنانچہ لوگ صف بستہ ہوئے اور جنگ کرنے لگے تو عامر کو اپنی ہی تلوار سے زخم لگ گیا جس کی وجہ سے وفات پا گئے، جب شام ہوئی تو لوگوں نے بہت سی آگ جلائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کیسی ہے؟ کس چیز پر تم نے آگ جلائی ہے؟ لوگوں نے کہا گھریلو گدھوں کے گوشت پر (یعنی اس کا گوشت پکا رہے ہیں) آپ نے فرمایا اس چیز کو پھینک دو جو اس میں ہے یعنی گوشت کو اور برتن کو توڑ ڈالو، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا ہم جو کچھ برتن کے اندر ہے اس کو بہا کر اور برتن کو دھو ڈالیں (تو بہتر نہ ہوگا؟) آپ نے فرمایا، چلو ایسا ہی کر لو۔

۵۹۷۳ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ) . فَأَتَاهُ أَبِي فَقَالَ : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) . [ر : ۱۴۲۶]

”حضرت ابن ابی اوفیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا، تو آپ فرماتے، ”اللہم صل علی آل فلان“، یعنی اے اللہ! آل فلان پر رحمت نازل فرما، چنانچہ میرے والد آپ کے پاس کچھ لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا: یا اللہ! آل ابی اوفیٰ پر رحمت نازل فرما۔“

۵۹۷۴ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ) . وَهُوَ نُصْبٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ ، يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْبَيْمَانِيَّةَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ لَا أَتَّبِعُ عَلَى الْخَيْلِ ، فَصَلِّ فِي صَدْرِي ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا) . قَالَ : فَخَرَجْتُ فِي خَمْسِينَ مِنْ أَخْمَسَ مِنْ قَوْمِي ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ : فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي فَأَتَيْتُهَا فَأَخْرَقْتُهَا ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكْتَهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ ، فَدَعَا لِأَخْمَسَ وَخَيْلِهَا . [ر : ۲۸۵۷]

”حضرت قیس سے روایت ہے کہ میں نے جریر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے ذی الخلقہ سے نجات نہیں دلانے گے؟ یہ ایک بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے اور اس کا نام کعبہ یمانیہ تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں ایسا آدمی ہوں کہ گھوڑے پر سیدھا نہیں بیٹھ سکتا، آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ”اے اللہ! اس کو ثابت قدم بنا اور ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا“، جریر کا بیان ہے کہ میں اپنی قوم احمس کے پچاس آدمیوں کے ساتھ نکلا، اور سفیان روایت میں کبھی یہ الفاظ کہتے (فانطلقت فی عصبۃ من قومی، ”میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ چلا۔“) میں نے وہاں پہنچ کر اس کو جلا دیا، پھر میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ! خدا کی قسم! میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ میں نے خارش اونٹ کی طرح اس کو بنا کر نہیں چھوڑا، تو آپ نے قبیلہ احمس اور اس کے سواروں کے لئے دعا فرمائی۔

۵۹۷۵ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ :  
قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَنَسُ خَادِمُكَ ، قَالَ : (اللَّهُمَّ اكْزِرْ مَالَهُ ، وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ  
فِيمَا أُعْطِيَتْهُ) . [ر : ۱۸۸۱]

”حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انسؓ سے سنا کہ (میری والدہ) حضرت ام سلیمؓ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، ”انسؓ آپ کا خادم ہے“ آپ نے فرمایا کہ ”اے اللہ! اس کو بکثرت مال اور اولاد عطا فرما، اور جو کچھ تو نے اسے دیا، اس میں برکت عطا فرما“۔

۵۹۷۶ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُهُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيََ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : (رَحِمَهُ اللَّهُ ، لَقَدْ أَذَّكَرَنِي  
كَذًّا وَكَذًّا آيَةً ، أَسْقَطَهَا فِي سُورَةِ كَذًّا وَكَذًّا) . [ر : ۲۵۱۲]

”حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا، ”اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلادی، جس کو میں فلاں فلاں سورۃ میں بھول گیا تھا“۔

۵۹۷۷ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسَمًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَضِبَ ، حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، وَقَالَ : (يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى .

لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) . [ ر : ۲۹۸۱ ]

”حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت تقسیم فرمایا، تو ایک شخص نے کہا کہ اس تقسیم سے خدا کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو آپ کو غصہ آ گیا، یہاں تک کہ غصہ کے آثار میں نے آپ کے چہرے پر دیکھے اور فرمایا کہ اللہ! موسیٰ (علیہ السلام) پر رحم فرمائے، جنہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔“

#### ۱۹ - باب : ما يُكْرَهُ مِنَ السَّخَعِ فِي الدَّعَاءِ .

۵۹۷۸ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ : حَدَّثَنَا هَارُونُ الْمَقْرِيءُ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرَيْبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ آتَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَا تُعَلِّمِ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ ، وَلَا أَلْفَيْكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ ، فَتَقْصُ عَلَيْهِمْ ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُعَلِّمُهُمْ ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ ، فَإِذَا أَمْرُكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ ، فَأَنْظِرِ السَّخَعِ مِنَ الدَّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ ، فَإِنِّي عَهَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ . يَعْنِي : لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ الْإِجْتِنَابَ .

#### دعا میں قافیہ آرائی کا حکم

دعا کے اندر سجع اور تکلف اختیار کر کے مقفی عبارتیں بنانا کرنا مکروہ ہے، دعا چونکہ اللہ جل شانہ سے مانگنے، طلب کرنے اور اپنی عاجزی کے اظہار کا نام ہے، اس لیے اس موقع پر قافیہ آرائی کرنا اور مقفی عبارتیں بنانا مناسب نہیں، ہاں اگر بلا قصد و تکلف دعا کے الفاظ میں روانی، سلاست اور قافیہ بندی آجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، ان میں کئی دعائیں مسجع ہیں، لیکن وہ سجع کسی تکلف و تصنع کی آئینہ دار نہیں، بلکہ ایک صاحب ذوق پڑھ کر خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بے ساختہ الہامی



دعائیں ہیں اور ان میں کسی تصنع کا ذرا بھر دخل نہیں (۱)۔

باب کی پہلی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نصیحت نقل کی گئی ہے، انہوں نے کہا: ”ہفتہ میں ایک بار یا دو بار اور زیادہ سے زیادہ تین بار وعظ کہو، لوگوں کو قرآن سے اکتاہٹ مت دلاؤ اور میں تمہیں ایسا کرتا ہوں نہ پاؤں کہ تم کسی جماعت کے پاس آؤ جو اپنی گفتگو میں مشغول ہو اور تم اس کی بات کاٹ کر وعظ کہنے لگو اور اس طرح انہیں اکتاہٹ کا شکار کر دو..... بلکہ خاموش رہو جب وہ خود تمہیں وعظ کہنے کو کہیں اور اس کی خواہش ظاہر کریں تو وعظ کہو لیکن دعائیں قافیہ آرائی سے بچو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، یعنی وہ اس سے اجتناب ہی کرتے تھے۔

فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه: یعنی دعائیں قافیہ آرائی کو مؤخر کر، اس کا قصد و ارادہ منت کر اور اپنی سوچ و فکر کو اس کے ساتھ مشغول نہ کر، کیونکہ دعائیں خشوع مطلوب ہے، جب کہ قافیہ بندی میں تکلف ہے، جو کہ خشوع سے مانع ہے۔

## ۲۰ - باب : لِيَعْرِمَ الْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرَهَ لَهُ .

۵۹۷۹ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْرِمِ الْمَسْأَلَةَ ، وَلَا يَقُولَنَّ : اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي ، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ) . [۷۰۲۶]

## دعا کے ایک اور ادب کا بیان

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر دعا کا ایک اور ادب ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ دعا یقین کامل کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے..... چنانچہ باب کی یہ پہلی روایت حضرت انسؓ سے

(۱) فتح الباری: ۱۱/۱۶۷، عمدۃ القاری: ۲۲/۲۹۸، إرشاد الساری: ۱۳/۳۴۲

(۵۹۷۹) الحدیث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿تَوَتَّى الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ۲۶] (رقم الحدیث: ۷۴۶۴)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب العزم بالدعاء ولا يقبل: ”إن شئت“ (رقم الحدیث: ۶۲۱۸)، وأخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب النهي أن يقول الرجل: ”اللهم اغفر لي إن شئت“ (رقم الحدیث: ۱۰۴۲۰)

ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے دیدے، اس لیے کہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔

۵۹۸۰ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهُ لَا مَكْرَهَ لَهُ ) . [۷۰۳۹]

باب کی یہ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یا اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر بلکہ یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔

علامہ تورپشتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”أراد ادعوه معتقدين وقوع الإجابة، لأن الداعي إذا لم يكن متحققا في الرجاء، لم يكن رجاؤه صادقا، وإذا لم يكن الرجاء صادقا، لم يكن الرجاء خالصا، والداعي مخلصا، فإن الرجاء هو الباعث على الطلب، ولا يتحقق الفرع إلا بتحقق الأصل“ (۲)۔

یعنی ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس یقین و اعتقاد کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، کیونکہ دعا کرنے والے کو

(۵۹۸۰) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿تَوَتَى الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ۲۶] (رقم الحديث: ۷۴۷۷)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب العزم بالدعاء ولا يقل: ”إن شئت“ (رقم الحديث: ۲۶۷۹)، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب: ۵/۲۶ ۵ (رقم الحديث: ۳۴۹۷)، وأخرجه أبو داود في الصلوة، باب الدعاء: ۲/۷۷ (رقم الحديث: ۱۴۸۳)، وأخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب النهي أن يقول الرجل: ”اللهم ارحمني إن شئت“ (رقم الحديث: ۱۰۴۱۸)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب: لا يقول الرجل: ”اللهم اغفر لي إن شئت“ (رقم الحديث: ۳۸۵۴)

(۲) كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة، كتاب الدعوات: ۲/۵۱۶، (رقم الحديث: ۱۵۴۶)

قبولیت دعاء کی امید نہیں ہوگی تو اس کی امید صادق نہ ہوگی اور جب امید صادق نہیں ہے تو دعا بھی خالص نہ ہوگی اور داعی بھی مخلص نہیں ہوگا، کیونکہ امید ہی دعا مانگنے کا باعث ہے، اور فرع، اصل کے بغیر تحقق نہیں ہوتی۔“

لا یقولن أحدکم

اس میں نہی تحریم کے لیے ہے یا کراہت تنزیہی کے لیے، دونوں قول ہیں، امام نووی رحمہ اللہ نے اسے کراہت تنزیہی پر محمول کیا ہے (۳)۔

خلاصہ یہ کہ دعا کرنے والا پوری امید رکھے کہ اللہ جل شانہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے اور وہ کسی استثناء اور تعلیق کے بغیر مکمل الحاج وزاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں اپنی مراد پیش کرے۔

۲۱- باب : يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْجَلْ .

۵۹۸۱ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعْجَلْ ، يَقُولُ : دَعْوَتُهُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي) .

ترجمہ الباب کا مقصد

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دعا کا ایک اور اہم بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ دعا مسلسل کرنی

(۳) قال الحافظ ابن حجر: وحمل النووي النهي في ذلك على كراهة التنزيه، فتح الباري: ۱/۱۶۸، نقول: لم يصرح النووي به، إلا أن فحوى كلامه في شرح هذا الحديث يدل على ذلك، (شرح مسلم للنووي، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب العزم بالدعاء ولا يقبل: إن شئت: ۲/۳۴۲)

(۵۹۸۱) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب بيان أنه يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِي مَا لَمْ يُعْجَلْ (رقم الحديث: ۲۷۳۵)، وأخرجه أبو داود في كتاب الصلوة، باب الدعاء: ۲/۷۸ (رقم الحديث: ۱۴۸۴)، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعاء، باب ما جاء فيمن يستعجل في دُعائه: ۵/۴۶۴ (رقم الحديث: ۳۳۸۷)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب يستجاب لأحدكم ما لم يعجل (رقم الحديث: ۳۸۵۳)

چاہیے اور کسی موقع پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے، چنانچہ روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطیکہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے کہ یوں کہہ دے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی۔

دعا میں اکتاہٹ قبولیت سے مانع ہے

صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں:

”لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، وما لم

يستعجل، قيل: وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت، فلم

أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء“ (۴)۔

یعنی ”بندہ کی دعا مسلسل قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ

کرے اور جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، کسی نے دریافت کیا ”جلد بازی سے

کام لینے کا کیا مطلب ہے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ یوں کہے کہ میں نے بار

بار دعا مانگی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، تو اس وقت وہ اکتاہٹ کا مظاہرہ

کرتے ہوئے دعا چھوڑ دیتا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرتے کرتے اکتا گیا اور اس نے یہ جملہ کہہ دیا۔

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے مظہری کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس دعا میں اکتاہٹ آجائے، وہ قبول

نہیں ہوتی اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور مؤمن کی شان یہ نہیں کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں اکتاہٹ کا اظہار

(۴) صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل،

فيقول: دعوت، فلم يستجب لي: ۴/ ۶۰۹۶، رقم الحديث: ۷۷۳۵، ورواه الترمذي، ولفظه: ”عن أبي

هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت، فلم يستجب لي“.

کتاب الدعوات، باب ماجاء فيمن يستعجل في دعائه: ۵/ ۴۶۴، رقم الحديث: ۳۳۸۷

کرے (۵)۔ دعا وقتی طور پر قبول ہو، نہ ہو، خود کئی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ اور باعث ہوتی ہے۔  
 امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمرؓ سے ایک سرفوع حدیث نقل فرمائی ہے، اس میں ہے:  
 ”من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة“ (۶)۔  
 یعنی ”تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے وا کر دیے گئے“۔  
 اسی طرح ایک روایت میں ہے:  
 ”من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة“ (۷)۔ یعنی ”جس کو دعا کی توفیق ملی وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا“۔

## ۲۲- باب : رَفَعِ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ .

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ : دَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ .  
 [ر : ۴۰۶۸]  
 وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ) .  
 [ر : ۴۰۸۴]  
 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَقَالَ الْأَوْبَسِيُّ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكٍ :  
 سَمِعَا أَنَسًا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ . [ر : ۹۸۴]

## دعا میں رفع یدین کا ثبوت

دعا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھوں کا اٹھانا بہت ساری احادیث میں ثابت ہے، چنانچہ باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تین سطلق روایات ذکر کی ہیں، ان میں رفع یدین کا ذکر ہے، حضرت

(۵) إرشاد الساري: ۳۴۴/۱۳

(۶) سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ۵/۵۵۱، رقم الحدیث: ۳۵۴۷  
 (۷) لم أجد بهذا اللفظ في كتب الحديث المتوفرة لدي، ووجدت ما يقارب ذلك وهو ما ذكره ابن عبد البر، ولفظه عن ابي هريرة، أنه كان يقول: ما أخاف أن أحرم الإجابة، ولكني أخاف أن أحرم الدعاء. (التمهيد لابن عبد البر: ۲۹۸/۱۰)

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تعلیق کتاب المغازی میں، حضرت ابن عمر کی تعلیق بھی مغازی میں موصولاً گزری چکی ہے اور اویسی کی تعلیق ابو نعیم نے موصولاً نقل کی ہے (۸)، اویسی کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے (۹)۔

امام بخاری رحمہ اللہ ان احادیث سے شاید ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو استسقاء کے علاوہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے قائل نہیں ہیں، وہ لوگ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جس میں ہے:

”لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیه فی شیء من دعائه إلا

فی الاستسقاء“ (۱۰)۔

یعنی ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کے علاوہ کبھی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔“

### حدیث استسقاء اور احادیث باب کے درمیان وجہ تطبیق

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے لیکن اس حدیث اور ان احادیث میں جن میں رفع یدین ثابت ہے تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ حضرت انس کی حدیث میں درحقیقت مطلقاً رفع یدین کی نفی نہیں، بلکہ مخصوص صفت کے ساتھ رفع کی نفی ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح استسقاء کے وقت ہاتھ بہت بلند کر کے اٹھاتے تھے یہاں تک کہ ہاتھ چہرہ انور کے محاذات میں آجاتے، اس وصف کے ساتھ اور اس طرح عام دعا کے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، عام دعا میں ہاتھ شانوں کے محاذات تک اٹھاتے تھے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”لکن جمع بینہ و بین احادیث الباب وما فی معناہا، بأن المنفی

(۸) فتح الباری: ۱۱/۱۷۰، إرشاد الساری: ۱۳/۳۴۵

(۹) عمدۃ القاری: ۲۲/۳۰۰، إرشاد الساری: ۱۳/۳۴۵، فتح الباری: ۱۱/۱۷۰

(۱۰) صحیح البخاری، کتاب الاستسقاء، باب رفع الإمام یدہ فی الاستسقاء، ص: ۲۲۰، (رقم الحدیث:

۱۰۳۱)، صحیح مسلم، کتاب الاستسقاء، باب رفع الیدین بالدعاء فی الاستسقاء: ۲/۶۱۲، (رقم

صفة خاصة لأصل الرفع..... وحاصله ان الرفع في الاستسقاء يخالف غيره  
إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا وفي الدعاء إلى حذو  
المنكبين..... وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض، وفي الدعاء يليان  
السماء“ (۱۱)۔

یعنی ”حدیث استسقاء اور احادیث باب کے درمیان اس طرح تطبیق دی گئی ہے۔  
کہ حدیث استسقاء میں مطلقاً رفع یدین کی نفی نہیں کی گئی بلکہ ایک خاص صفت کے ساتھ اس  
کی نفی کی گئی ہے..... اس تطبیق کا حاصل یہ ہے کہ استسقاء میں رفع یدین جس صفت کے  
ساتھ ہوتا ہے، اس صفت کے ساتھ دعا میں نہیں ہوتا یا تو اس طور پر کہ استسقاء میں ہاتھ  
اٹھانے میں اس قدر مبالغہ کیا جاتا ہے کہ وہ چہرے کے سامنے آجاتے ہیں جب کہ دعا میں  
شانوں کے محاذات اٹھائے جاتے ہیں..... اور یا اس طور پر کہ استسقاء میں ہتھیلیوں کا رخ  
زمین کی طرف، جب کہ دعا میں آسمان کی طرف ہوتا ہے۔“

امام منذری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جمع اور تطبیق کے معجز رہونے کی صورت میں ترجیح کا طریقہ اختیار کیا  
جائے گا اور اثبات کی روایات صحت اور کثرت دونوں اعتبار سے راجح ہیں (۱۲)۔

خود امام بخاری رحمہ اللہ نے ”جزء رفع الیدین“ کے نام سے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انھوں  
نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے وقت رفع یدین ثابت ہے۔ حضرت  
عائشہؓ، حضرت عبدالرحمن بن سمرہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ، حضرت فاروق اعظمؓ،  
حضرت اسامہ بن زیدؓ اور حضرت قیس بن سعدؓ کی روایات حافظ ابن حجرؒ نے ذکر کی ہیں جن میں دعا کے وقت ہاتھ  
اٹھانے کا ذکر ہے (۱۳)۔

(۱۱) فتح الباری: ۱۱/۱۷۰، ۱۷۱

(۱۲) فتح الباری: ۱۱/۱۷۱

(۱۳) فتح الباری: ۱۱/۱۷۱

سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی ایک مرفوع روایت میں ہے:

”إن ربکم حیّ کریم یتحیی من عبده إذا رفع یدیه إلیه أن

یردھما صفرًا“ (۱۴)۔

یعنی ”تمہارا رب حیادار اور کریم ہے، بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو

اسے وہ ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے بندہ سے حیا آتی ہے۔“

### دعا میں ہاتھ اٹھانے کی حد

ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہئیں، اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، سینے کے برابر، کندھوں کے برابر،

چہرے کے برابر اور سر کے برابر (۱۵)..... سینے کے برابر اٹھانے کو حضرت ابن عباسؓ نے وصف دعا قرار دیا

ہے (۱۶)۔

### ۲۳ - باب : الدّعاء غیر مُستقبل القبلة .

۵۹۸۲ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِي

اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُحْطَبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَدْعُ

اللَّهِ أَنْ يَسْقِينَا . فَتَعَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا ، حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَلَمْ تَزَلْ تُمَطِّرُ

إِلَى الْجُمُعَةِ الْقُبْلَةَ ، فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ ، فَقَالَ : أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا .

فَقَالَ : (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا) . فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ ، وَلَا يُمَطِّرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ .

[ر : ۸۹۰]

”حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے

تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم لوگوں پر بارش ہو، آسمان ابراؤد ہو گیا

(۱۴) سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب الدعاء: ۷۸/۲، (رقم الحدیث: ۱۴۸۸)

(۱۵) عمدۃ القاری: ۳۰۱/۲۲، فتح الباری: ۱۱/۱۷۲

(۱۶) عمدۃ القاری: ۳۰۱/۲۲، فتح الباری: ۱۱/۱۷۲



اور بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکتے تھے، دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی، تو وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش کو ہم سے پھیر دے، ہم لوگ تو ڈوب گئے، آپ نے فرمایا، اے اللہ! ہمارے ارد گرد برسنا، اور ہم پر نہ برسنا، چنانچہ بدلی مدینہ کے ارد گرد منتشر ہونے لگی (اور بارش ہوتی رہی) لیکن مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔“

### ترجمۃ الباب کا مقصد

اس باب کا مقصد یہ ہے کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب اگرچہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے لیکن یہ ضروری نہیں، بعض مواقع پر قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی انسان دعا کر سکتا ہے جیسا کہ روایت باب میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے خطبہ کے دوران دعا فرمائی، مسجد میں خطبہ کے وقت خطیب کا رخ لوگوں کی طرف ہوتا ہے، وہ قبلہ رخ نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ اس طرح دعا مانگنا ثابت ہے (۱۷)۔

### ۲۴ - باب : الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

۵۹۸۳ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ ابْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هَذَا الْمَصَلَّى بَسْتَسْقِي ، فَدَعَا وَأَسْتَسْقِي ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلْبَ رِدَاءَهُ . [ر : ۹۶۰]

### ترجمۃ الباب کا مقصد

حدیث کے اندر قبلہ رخ ہو کر دعا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کی طرف نکلے، بارش کی دعا کی، پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے چادر پلٹی۔

اسماعیلی نے فرمایا قبلہ رخ ہو کر چادر پلٹنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس کا صراحتاً ذکر اگرچہ روایت باب میں نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے دوسرے طرق میں اس کا ذکر ہے، امام بخاری نے

ترجمۃ الباب سے حسب عادت اسی طریق کی طرف اشارہ کیا ہے (۱۸)۔

اس کے علاوہ کئی دوسری احادیث بھی ہیں، جن میں قبلہ رو ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت ہے:

”لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى

المشركين، فاستقبل القبلة، ثم مديديه، فجعل يهتف بربه“ (۱۹)۔

یعنی غزوہ بدر کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا،

پھر قبلہ رخ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کو پکارنے لگے۔

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے ”استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، فدعا علي نفر

من قريش“ (۲۰) یعنی ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، پھر قریش کی ایک جماعت کو بددعا دی۔“

۲۵ - باب : دَعْوَةُ النَّبِيِّ ﷺ لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْعُمُرِ وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ .

۵۹۸۴ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ اللَّهَ عَنَّهُ قَالَ : قَالَتْ أُمِّي : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَادِمُكَ أَنَسٌ ، أَدْعُ اللَّهَ لَهُ ، قَالَ : (اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ ، وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ) . [ ر : ۱۸۸۱ ]

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انسؓ کے لیے کثرت مال و اولاد اور لمبی عمر کے لیے دعا فرمائی تھی،

روایت باب میں اگرچہ طول عمر کا ذکر نہیں، لیکن اس روایت کے ایک دوسرے طریق میں اس کا ذکر ہے، اس کے

(۱۸) فتح الباری: ۱۱/۱۷۳، إرشاد الساري: ۱۳/۳۴۷، سعة القاري: ۲۲/۳۰۱

(۱۹) صحیح مسلم، کتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم:

(رقم الحديث: ۱۷۶۳) ۱۳۸۳/۳

(۲۰) صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب دعا النبي ﷺ على كفار قريش، ص: ۸۳۰، (رقم الحديث:

الفاظ ہیں ”اللهم أكثر مالہ وولده، وأطل حیاتہ، واغفرہ“۔ ”اے اللہ! تو اسے مال واولاد کی کثرت سے نواز، اس کی زندگی لمبی فرما اور اس کی مغفرت فرما“۔ امام بخاری نے کتاب الادب میں اس کی تخریج کی ہے (۲۱)۔

چنانچہ اللہ جل شانہ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت مال و دولت کی کثرت و فراوانی سے بھی نواز اور انھوں نے عمر بھی بڑی لمبی پائی، ان کی زندگی ہی میں ان کے بیٹوں اور پوتوں وغیرہ کی تعداد ایک سو تک پہنچ گئی تھی (۲۲)۔

بصرہ کے اندران کا ایک باغ تھا جو سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا، اس میں ایک پھول ہوتا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی (۲۳) انھوں نے عمر بھی ایک سو تین یا ایک سو سات سال پائی (۲۴)۔

## ۲۶ - باب : الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ .

۵۹۸۶/۵۹۸۵ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ،  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ يَقُولُ : (لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) .  
(۵۹۸۶) : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ،  
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : (لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ

(۲۱) الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد)، باب من دعا بطول العمر : ۱۰۶/۲، (رقم الحديث: ۶۵۳)

(۲۲) فتح الباري: ۱۱/۱۷۴، إرشاد الساري: ۱۳/۳۴۷، عمدة القاري: ۲۲/۳۰۲

(۲۳) فتح الباري: ۱۱/۱۷۴، عمدة القاري: ۲۲/۲۹۷

(۲۴) فتح الباري: ۱۱/۱۸۴، عمدة القاري: ۲۲/۲۹۷

(۵۹۸۶/۵۹۸۵) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب (رقم

الحديث: ۶۳۴۶)، وأخرجه أيضاً في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾

[المعارج: ۴] (رقم الحديث: ۷۴۳۱)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب الدعاء للكرب (رقم

الحديث: ۲۷۳)، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ماجاء: ما يقول عند الكرب (رقم الحديث:

۳۴۳۵)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب الدعاء عند الكرب (رقم الحديث: ۳۸۸۳)

الأرض ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) .

وَقَالَ وَهَبٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ : مِثْلَهُ . [ ٦٩٩٠ ، ٦٩٩٤ ]

### مصیبت کے وقت کی خاص دعا

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرب و شدت اور غم و حزن کے وقت جو دعا پڑھا کرتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ یہاں ذکر فرمائی ہے، اس کے الفاظ ہیں ”(لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم، ”یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے (اور) عرش عظیم کا رب ہے۔“)

دوسری روایت کے الفاظ پہلی روایت سے کچھ مختلف ہیں۔

حدثنا قتادة عن أبي العالية

ابو العالیہ کا نام رفیع ہے، ان سے قتادہ نے یہ روایت نقل کی ہے لیکن عنعنہ کے ساتھ ہے اور قتادہ مدلس ہیں، مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہوتا۔

چنانچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ”سنن ابی داؤد“ میں کتاب الطہارت کے تحت شعبہ کا قول نقل کیا ہے کہ ابو العالیہ سے قتادہ نے صرف چار حدیثیں سنی ہیں (۲۵) اور ان چار میں حدیث باب شامل نہیں۔

ابن ابی حاتم نے ”مرا سیل“ میں چار کی بجائے تین کا ذکر کیا ہے (۲۶)۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک چار اور تین کا یہ حصہ غیر معتبر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ شعبہ مدلس راویوں کا عنعنہ نقل نہیں کرتے جب تک سماع کی تصریح نہ ہو اور یہ حدیث خود شعبہ نے بھی قتادہ سے نقل کی ہے،

(۲۵) سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی الوضوء من النوم، تحت رقم الحدیث: ۲۰۲، ولفظہ: وقال شعبہ: إنما سمع قتادة عن أبي العالية أربعة أحاديث: حدیث یونس بن مثنی، و حدیث ابن عمر فی الصلوۃ، و حدیث: ”القضاة ثلاثة“، و حدیث ابن عباس: حدیثی رجال مرضیون، منهم عمر، وأرضاهم عندی عمر.

وانظر فتح الباری: ۱۱/۱۷۴، وإرشاد الساری: ۱۳/۳۴۹، وعمدة القاری: ۲۲/۳۰۲

(۲۶) فتح الباری: ۱۱/۱۷۵

جو اس بات کی دلیل ہے کہ قتادہ نے سماع کی تصریح کے ساتھ بھی یہ روایت ابو العالیہ سے نقل کی ہے (۲۷)۔  
 شاید اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے آخر میں وہب کی تعلیق ذکر فرمائی ”وقال وہب:  
 حدثنا شعبۃ عن قتادہ..... مثله“۔

## دعائے کرب کی فضیلت

ابن بطال نے لکھا ہے کہ ابو بکر رازی اصہبان میں علم حدیث کے سلسلے میں مقیم تھے، وہاں ابو بکر بن علی نام کے ایک مفتی عالم دین تھے، کسی وجہ سے وہاں کے امیر ان سے ناراض ہو گئے اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا، ابو بکر رازی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں، ابو بکر بن علی سے جا کر کہو کہ صحیح بخاری میں مذکور دعائے کرب پڑھو، اللہ جل شانہ تمہاری یہ مصیبت دور فرمادیں گے، چنانچہ انہوں نے جا کر اس خواب کا ذکر ان سے کیا، انہوں نے جو ہی یہ دعا پڑھنا شروع کی، امیر شہر نے انہیں آزاد کر دیا (۲۸)۔

## پریشانی کے وقت کی دیگر ماثور دعائیں

کرب و شدت کے وقت احادیث کے اندر یہ دعائیں بھی منقول ہیں:

① اللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، سنن ابی داؤد میں حضرت اسماء بنت عمیس سے منقول ہے (۲۹) (جس کا ترجمہ ہے: ”اللہ! اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں ٹھہراتا“)۔

② اللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأُضْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا

(۲۷) عمدة القاري: ۲/۲۲، ۳، فتح الباري: ۱۱/۱۷۵

(۲۸) فتح الباري: ۱۱/۱۷۶، وشرح ابن بطال: ۱۰/۱۱۳

(۲۹) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الاستغفار، رقم الحديث: ۱۵۲۵، و سنن ابن ماجه في كتاب

الدعوات، باب الدعاء عند الكرب، رقم الحديث: ۳۸۸۲، وفتح الباري: ۱۱/۱۷۶

انت ..... سنن ابی داؤد میں حضرت ابو بکرؓ سے منقول ہے (۳۰) (اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس تو مجھے پلک جھپکنے کی بقدر بھی میرے نفس کے حوالہ نہ فرما اور تو میرے تمام امور درست کر دے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔“)

❷ لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ..... سنن ترمذی اور مستدرک حاکم میں ہے ”فانه لم يدع بهار رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له“ (۳۱) یعنی ”جس مسلمان شخص نے بھی کسی بھی سلسلے میں ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔“

### ۲۷ - باب : التَّعَوُّدُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ .

۵۹۸۷ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنِي سُمَيْعٌ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَانَةِ الْأَعْدَاءِ .

قَالَ سُفْيَانُ : الْحَدِيثُ ثَلَاثٌ ، زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً ، لَا أُدْرِي أَيُّهُنَّ هِيَ . [۶۲۸۲]

جَهِد (جیم کے فتح اور ہاء کے سکون کے ساتھ) مشقت کو کہتے ہیں اور بَلَاء، آزمائش کو کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کی مشقت سے، بدبختی پانے سے، برے فیصلے سے اور دشمنوں کی ہنسی سے پناہ مانگتے تھے۔ سفیان کا بیان ہے کہ حدیث میں تین باتیں تھیں، اس پر

(۳۰) سنن ابی داؤد، کتاب الأدب، فی آخر باب ما یقول إذا أصبح، رقم الحدیث: ۵۰۹۰، وفتح الباری:

۱۷۶/۱۱

(۳۱) سنن الترمذی، فی کتاب الدعوات، باب: رقم الحدیث: ۳۵۰۵، وأخرجه الحاکم فی المستدرک فی

کتاب الدعاء والتکبیر والتهلل والتسبیح والذکر: ۵۰۵/۱، فتح الباری: ۱۷۶/۱۱

(۵۹۸۷) الحدیث أخرجه البخاری أيضاً فی کتاب القدر، باب: مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ

(رقم الحدیث: ۶۶۱۶)، وأخرجه مسلم فی کتاب الذکر والدعاء، باب التَّعَوُّدُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ..... (رقم

الحدیث: ۲۷۰۷)، وأخرجه النسائی فی کتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ: ۴/۴۵۷ (رقم

الحدیث: ۷۹۲۷)

میں نے ایک زیادہ کر دی مجھے یاد نہیں کہ ان میں وہ کون سی ہے۔

## جہد البلاء کی تشریح

جہد البلاء کی تشریح بعض شارحین نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، ”الحالة التي يمتحن بها الإنسان وتشق عليه بحيث يتمنى فيها الموت ويختاره عليها“ (۳۲) یعنی ”وہ حالت جس کے ساتھ بندہ کو آزما یا جاتا ہے اور وہ بندہ پر اس قدر شاق ہوتی ہے کہ بندہ اس میں موت کی تمنا کرتا ہے اور اس پر موت کو وہ ترجیح دیتا ہے۔“  
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جہد البلاء کی تشریح قلت مال اور کثرت عیال مروی ہے (۳۳)۔  
ابن بطلال نے ”جہد البلاء“ کی وضاحت یوں کی ہے:

”كل ما أصاب المرء من شدة المشقة والجهد وملاطاقة له بحمله ولا

يقدر على دفعه من نفسه“ (۳۴)۔

یعنی ’اس سے مراد انسان کو لاحق ہونے والی وہ شدید تکلیف ہے، جس کو برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ اس کے دفع کرنے پر قادر ہوتا ہے۔“

## دَرَكُ الشَّقَاءِ

درك (راء کے فتح اور سکون کے ساتھ) درك بمعنی ادراک و لحاق ہے۔ شقاء کے معنی ہلاکت و بدبختی کے ہیں، سوء القضاء: ایسا فیصلہ جو آدمی کے حق میں برا ہو۔ شمانة: دشمن کی ہنسی اور خوشی کو کہتے ہیں جو انسان کے مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد ہو (۳۵)۔

قال سفیان: الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة

سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ اصل حدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے، میں نے یہاں چار چیزیں، جہد بلاء، درک شقاء، سوء قضا اور شماتت اعدا ذکر کی ہیں، ان میں ایک کا اضافہ میں نے اپنی طرف سے کیا ہے

(۳۲) إرشاد الساري: ۳۵۰/۱۳

(۳۳) فتح الباري: ۱۷۸/۱۱، إرشاد الساري: ۳۵۰/۱۳، عمدة القاري: ۳۰۴/۲۲

(۳۴) شرح ابن بطلال: ۱۱۳/۱۰، وفتح الباري: ۱۷۸/۱۱، عمدة القاري: ۳۰۳/۲۲

(۳۵) فتح الباري: ۱۷۸/۱۱، إرشاد الساري: ۳۵۰/۱۳، عمدة القاري: ۳۰۴/۲۲

لیکن اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ ایک کونسا ہے۔

اسماعیلی کی روایت میں اس کی تصریح آئی ہے کہ وہ ”شماتۃ الأعداء“ ہے (۳۶)، سفیان کو پہلے یاد تھا جیسا کہ اسماعیلی کی روایت میں ہے لیکن پھر وہ بھول گئے اور انھیں یاد نہیں رہا جیسا کہ یہاں ذکر کیا ہے (۳۷)۔

### ۲۸ - باب : دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى).

۵۹۸۸ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَاحِبٌ : (لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ يُحْيِيهِ) . فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخْدِي غَشِيَ عَلَيَّ سَاعَةٌ ثُمَّ أَفَاقَ ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ، ثُمَّ قَالَ : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى) . قُلْتُ إِذَا لَا يَخْتَارُنَا ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَاحِبٌ ، قَالَتْ : فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى) . [ر : ٤١٧١]

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تندرستی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو وفات سے پہلے اس کا مقام جنت میں دکھلایا جاتا ہے، پھر اختیار دیا جاتا ہے چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کا سر میری ران پر تھا، تھوڑی دیر آپ پر غشی طاری رہی، پھر افاقہ ہوا، تو آپ نے اپنی نگاہ چھت کی طرف اٹھائی، پھر ”اللہم الرفیق الاعلیٰ“ فرمایا، میں نے کہا، کہ آپ تندرستی کی حالت میں جو بیان فرماتے تھے، وہ سچ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ کے منہ سے آخری الفاظ جو نکلے وہ یہی تھے یعنی ”اللہم الرفیق الاعلیٰ“۔

ما قبل سے مناسبت

اس حدیث کی پوری تفصیل کشف الباری، کتاب المغازی میں گزر چکی ہے (۳۸)، ما قبل سے

(۳۶) فتح الباری: ۱۱/۱۷۸، إرشاد الساری: ۱۳/۳۵۰

(۳۷) فتح الباری: ۱۱/۱۷۸، إرشاد الساری: ۱۳/۳۵۰، عمدة القاری: ۲۲/۳۰۴

(۳۸) دیکھئے: کشف الباری، کتاب المغازی، ص: ۲۸۸، أيضاً، ص: ۶۷۸



مناسبت بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وتعلقه بما قبله من جهة أن فيه إشارة إلى حديث عائشة أنه كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، وقضية سياقها هنا أنه لم يتعوذ في مرض موته بذلك، بل تقدم في الوفاة النبوية من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة: ”فذهبت أعوده، فرفع رأسه إلى السماء، وقال: في الرفيق الأعلى“ (۳۹)۔

یعنی ”ما قبل کے ساتھ اس کی مناسبت اس طور پر ہے کہ اس میں حضرت عائشہؓ کی حدیث کی طرف اشارہ ہے، جس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو وہ معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے۔ یہاں اس ترجمہ الباب کے لائن کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں معوذات نہیں پڑھے، بلکہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے معوذات پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا اور ”ففي الرفيق الأعلى“ کے الفاظ فرمائے۔“

#### ۲۹- باب : الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ .

۵۹۸۹ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : أُتَيْتُ خَبَابًا وَقَدْ أَكْتَوَى سَبْعًا قَالَ : لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ .  
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ : أُتَيْتُ خَبَابًا وَقَدْ أَكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ . [ر : ۵۳۴۸]

”حضرت قیس سے روایت کہ میں خبابؓ کے پاس آیا، انہوں نے سات داغ لگوائے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرماتے تو میں اس کی دعا کرتا۔“

۵۹۹۰ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَامٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضَرْ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيًّا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْبِبِّي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ) . [ ر : ۵۳۴۷ ]

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آنے والی تکلیف پر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اس کو موت کی تمنا کرنی ہی ہے تو اس کو کہنا چاہیے ”اے اللہ! مجھے زندہ رکھ، جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہو اور مجھے اٹھا لے جب موت میرے لئے بہتر ہو“۔

### ترجمہ الباب کا مقصد

شارحین میں سے علامہ عینی اور قسطلانی نے باب کا مقصد یہ بیان کیا کہ جب زندگی کسی کے لیے باعث شر ہو تو اس کا زندگی یا موت کے لیے دعا کرنا مکروہ ہے یعنی نہ وہ اپنے لیے زندگی کی دعا کرے کہ اس کی زندگی خیر کی نہیں، شر کی ہے اور نہ وہ موت مانگے، کیونکہ موت کی دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے (۴۰) آدمی موت کی تمنا اور دعا کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیل اسی حدیث کے تحت کشف الباری کتاب المرضى میں گزر چکی ہے (۴۱)۔

۳۰- باب : الدُّعَاءِ لِلصَّبِيَانِ بِالْبِرَاكَةِ ، وَمَنْحِ رُؤُوسِهِمْ .

وَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَوَلَدِي وَوَلَدُ ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبِرَاكَةِ . [ ر : ۵۱۵۰ ]

### یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی فضیلت

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کے لئے برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے ”مسند“ میں حضرت ابواسامہؓ سے روایت نقل کی ہے، جس میں یتیم بچے کے سر پر

(۴۰) عمدة القاري: ۲۲/۳۰۵، ۳۰۶، إرشاد الساري: ۱۳/۳۵۲

(۴۱) كشف الباري، كتاب المرضى، باب: نهى تمنى المريض الموت، ص: ۵۱۱-۵۱۹

دستِ شفقت پھیرنے کی فضیلت آئی ہے، روایت کے الفاظ ہیں:

”من مسح رأس یتیم لا یمسحه إلا لله کان له بكل شعرة تمریدہ

علیہا حسنة“ (۱)۔

یعنی ”جس شخص نے کسی یتیم بچے کے سر پر خالص اللہ کی رضا کے لئے دستِ

شفقت پھیرا، تو سر کے جس قدر بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا، ہر بال کے عوض، اس کو ایک نیکی

ملے گی۔“

لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے (۲)۔

امام احمدؒ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت سند حسن کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس میں

ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی اور قساوت کی شکایت کی، حضور اکرم صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور علاج ان سے فرمایا: ”أطعم المسکین، وامسح رأس الیتیم“ (۳)۔ (مسکین کو

کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر دستِ شفقت پھیرا کرو)۔

### باطنی بیماریوں کے علاج کا ایک اصول

اس سے علماء نے یہ اصول مستنبط کیا ہے کہ بعض باطنی بیماریاں، بظاہر غیر اختیاری ہوتی ہیں، لیکن بعض

اختیاری امور اختیار کرنے سے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مثلاً کچھ لوگوں کو حسد کی بیماری ہوتی ہے اور بظاہر اس

میں ان کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، حضرات صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ حاسد، محسود کی تعریف کرے

اور اس کے لئے دعا کرے تو حسد جاتا رہے گا، گو حسد غیر اختیاری طور پر ہو جاتا ہے لیکن تعریف اور دعا اختیاری عمل

ہے اور اس کی برکت سے یہ بیماری جاتی رہتی ہے، ٹھیک اسی طرح دل کی سنگینی اور قساوت غیر اختیاری ہے، لیکن یتیم

کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے کے اختیاری عمل سے یہ بیماری جاتی رہتی ہے (۴)۔

(۱) مسند أحمد: ۲۵۰/۵، ۲۶۵

(۲) فتح الباری: ۱۱/۱۵۱

(۳) مسند أحمد: ۲/۲۶۳

(۴) إتحاف السادة، کتاب ذم الغضب والحقد والحسد: ۵۲۶/۹

وقال أموموسیٰ: ولد لي غلام، ودعاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالبركة  
یہ تعلق، کتاب العقیقہ میں موصولاً گزر چکی ہے، وہاں الفاظ ہیں: ”ولد لي غلام، فأنتبت به النبي

صلى الله تعالى عليه وسلم، فسماه إبراهيم، وحنكه بتمره ودعاه بالبركة“ (۵)۔

یعنی: ”میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی  
خدمت میں لے گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور سے اس  
کی تحنیک کرتے ہوئے اس کے لئے برکت کی دعا فرمائی۔“

۵۹۹۱ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :  
بِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : ذَهَبَتْ بِي خَالَئِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،  
إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبِرْكَةِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ، ثُمَّ قُمْتُ  
خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَظَنَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، مِثْلَ زُرِّ الْحَجَلَةِ . [ ر : ۱۸۷ ]

حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ میری خالہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا یہ بھانجا بیمار ہے،  
آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی، پھر وضو کیا تو میں نے  
آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو میں نے آپ کے دونوں  
مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو دو لہن کے مسہری کے بٹن کی طرح تھی۔

حضرت سائب بن یزید کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دستِ شفقت پھیرا، یہ حجۃ  
الوداع میں شریک رہے ہیں، اس وقت ان کی عمر صرف سات سال تھی اور مدینہ منورہ میں وفات پانے والے  
سب سے آخری صحابی یہی ہیں، ان کی وفات سن ۸۲ ہجری میں ہوئی ہے (۶)۔

(۵) صحیح البخاری، کتاب العقیقہ، باب تسمية المولود غداة يولد، لمن لم يعق عنه، وتحنيكه: ۲۰۸۱/۵،

رقم الحديث: ۵۴۶۷

(۶) قال أبو نعیم: مات سنة اثنين وثمانين، وقيل بعد التسعين، وقيل سنة إحدى، وقيل سنة أربعة؛ وقال ابن أبي داود: هو

آخر من مات بالمدينة من الصحابة، وهم يعقوب ابن سفيان فذكره فيمن قتل يوم الحرة (الإصابة: ۲، الترجمة: ۳۰۷۷)

۵۹۹۲ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ،  
عَنْ أَبِي عَقِيلٍ : أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السُّوقِ ، أَوْ : إِلَى السُّوقِ ،  
فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ ، فَيَقُولَانِ : أَشْرِكْنَا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا  
لَكَ بِالْبَرَكَةِ . فَيُشْرِكُهُمْ : فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ ، فَيَبْعُثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ . [ر : ۲۳۶۸]

حضرت ابو عقیل سے روایت ہے کہ مجھ کو میرے دادا عبد اللہ بن ہشام بازار سے یا  
بازار کی طرف لے جاتے، اور وہاں سے غلہ خریدتے، ان سے ابن زبیر اور ابن عمر ملتے، تو  
کہتے کہ ہم کو بھی شریک کر لو، اس لئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے لئے برکت  
کی دعا کی ہے (یہ ان کو شریک کر لیتے) اکثر ایسا ہوتا کہ نفع میں وہ پورا ایک اونٹ پالیتے اور  
وہ اسے گھر بھیج دیتے۔

سند کے اندر ابن وہب کا نام عبد اللہ ہے، اور ابو عقیل (عین کے زبر اور قاف کے زیر کے ساتھ) کا  
نام زہرہ بن معبد بن عبد اللہ بن ہشام ہے، عبد اللہ بن ہشام ان کے دادا ہیں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ  
علیہ وسلم نے دعائے برکت فرمائی تھی، یہ جب بازار کی طرف خریداری کے لئے نکلتے تھے اور ان سے حضرت  
عبد اللہ بن زبیر اور حضرت عبد اللہ بن عمر کی ملاقات ہوتی تو وہ ان سے درخواست کرتے کہ خریداری میں آپ  
ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لئے برکت کی دعا فرمائی  
ہے، وہ انہیں شریک کرتے، فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ان کو پورا ایک اونٹ منافع کامل جاتا اور وہ اسے گھر بھیج  
دیتے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہوتا۔

### من السوق أو إلى السوق

راوی کو شک ہے کہ من کہا ہے یا "إلى" کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر من ہے تو معنی ہوں گے: من جهة  
دخول السوق یعنی بازار کے داخلی راستے کی جہت سے مجھے بازار لے گئے، لیکن سبب الشركة میں "إلى"  
بغیر شک کے جزم کے ساتھ وارد ہے (۷)۔

فرما اصاب الرحلة بتمامها

یعنی بسا اوقات ابن ہشام کو منافع میں پورا ایک اونٹ مل جاتا، بتمامها یعنی بکمالها یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا ثمرہ ہوتا۔

۵۹۹۳ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بَنِيهِمْ . [ ر : ۷۷ ]

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ مجھ سے محمود بن ربیع نے بیان کیا یہ وہی ہیں کہ ان کی کمسنی کے وقت ان کے کنویں سے پانی لے کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر کلی کی تھی۔

یہ روایت کتاب العلم کے اندر گزر چکی ہے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وكان فعله لذلك للتبريك على عادته الشريفة مع أولاد أصحابه

والدعابة معهم لطفاً ورحمة وتشريعاً“ (۸)۔

یعنی: ”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بطور تبرک حضرات صحابہ کی اولاد کے ساتھ اس طرح کا معمول رہا، بچوں سے آپ ہنسی مذاق کیا کرتے، یہ شفقت کی وجہ سے بھی آپ کی عادت تھی اور شرعی تعلیم بھی اس سے مقصود تھی۔“

۵۹۹۴ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيَدْعُو لَهُمْ ، فَأَنِّي بَصِيٍّ فَبَالَ عَلَيَّ ثَوْبِي ، فَدَعَا بِنَاءٍ فَاتَّبَعَهُ إِيَّاهُ ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ . [ ر : ۲۲۰ ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے، اور آپ ان کے لئے دعا کرتے تھے، چنانچہ ایک بچہ لایا گیا، تو اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوا کر اس کو بہا دیا اور اس

کو دھویا نہیں۔

سند میں عبدان سے عبد اللہ بن عثمان بن جبلة اور عبد اللہ سے حضرت عبد اللہ بن المبارک مراد ہیں، روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جس بچے کے لانے کا ذکر ہے، اس سے حضرت حسنؑ یا حضرت حسینؑ مراد ہیں، کما فی الأوسط للطبرانی (۹)۔

فَاتْبِعْهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

یعنی بچے نے آپ کے کپڑوں میں جو پیشاب کیا تھا، اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی چھڑکا، پانی بہایا اور اس کو باقاعدہ دھویا نہیں۔

۵۹۹۵ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْبٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ : أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُوتِرُ بِرُكْعَةٍ .

حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبد اللہ بن ثعلبہ نے جن کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا، بیان کیا کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو ایک رکعت وتر پڑھتے ہوئے دیکھا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ابوالیمان کا نام حکم بن نافع ہے، یہاں روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن ثعلبہ بن صعیرؓ کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی میں باب غزوة الفتح کے اندر معلقاً یہ روایت نقل کی ہے، اس میں ”مسح عينه“ کی بجائے ”مسح وجهه“ کے الفاظ ہیں (۱۰)۔

حضرت عبد اللہ بن ثعلبہؓ کی ولادت ہجرت سے چار سال قبل ہوئی تھی اور ۸۹ ہجری میں ان کی وفات

(۹) مجمع الزوائد: ۱/۶۳۱، ۶۳۲، رقم الحدیث: ۱۵۶۸، ۱۵۷۰، ۱۴۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۴، وورد اسم الحسن جزئاً فی الحدیث رقم: ۱۵۷۰، واسم الحسين فی الحدیث رقم: ۱۵۷۲، ۱۵۷۱، وأما فی الحدیث رقم ۱۵۶۸، ۱۵۷۴، وورد اسم الحسن والحسين بكلمة أو يشعر بها التردد. واللہ أعلم.

(۱۰) صحیح البخاری، کتاب المغازی، رقم الباب: ۵۴، رقم الحدیث: ۴۳۰۰

ہوئی ہے، اس وقت ان کی عمر ۹۳ سال تھی۔

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر چار سال تھی اور ان کی ولادت ہجرت کے بعد ہوئی ہے (۱۱)۔

ان کے والد ثعلبہ بن صعیر بھی صحابی ہیں، و یقال له ابن أبي صعیر أيضا (۱۲)۔

### ۳۱- باب : الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

#### صلوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی

صلوٰۃ یعنی درود شریف سے متعلق چند باتیں ذہن نشین کر لیں:

① صلوٰۃ لغت میں دعا، رحمت، استغفار، مغفرت اور مدح و ثناء کے معنی میں استعمال ہوتا ہے (۱۳)۔ اور نسبتوں کے فرق سے اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کے معنی اللہ کی جانب سے اپنے نبی پر رحمت کا نزول و افاضہ ہوتا ہے۔ ملائکہ کی طرف نسبت ہو تو استغفار کے معنی میں آتا ہے، بندوں کی طرف ہو تو اس کے معنی دعائے رحمت کے ہیں (۱۴)۔

بعضوں نے اس کے برعکس کہا کہ ملائکہ کی طرف نسبت کی صورت میں دعائے رحمت اور عباد کی طرف نسبت کی صورت میں اس کے معنی استغفار ہے (۱۵)۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ احزاب کی تفسیر میں ابو العالیہ کا قول نقل کیا ہے:

”معنی صلوٰۃ اللہ تعالیٰ علی نبیہ: ثناؤہ علیہ عند ملائکتہ، ومعنی

(۱۱) الاستیعاب علی هامش الإصابة: ۲/۲۷۱

(۱۲) تہذیب الکمال: ۱۴، الترجمة: ۳۱۹۳

(۱۳) لسان العرب: ۱۴/۴۶۴-۴۶۵

(۱۴) ”الصواب أن الصلوٰۃ لغة بمعنى واحد وهو العطف، ثم هو بالنسبة إليه تعالیٰ: الرحمة وإلی الملائكة

عليهم السلام الاستغفار، وإلی الأدميين الدعاء“. روح المعانی: ۱۲/۷۶، ۷۷



صلوة الملائكة عليه: الدعاء له“ (۱۶)۔

یعنی: ”اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی پر صلوة بھیجنے کے معنی ہیں، اللہ کا فرشتوں کے پاس اپنے نبی کا ذکر خیر اور تعریف کرنا اور فرشتوں کا آپ پر صلوة بھیجنے کا مطلب، آپ کے لئے دعا کرنا ہے۔“

علامہ زبیدی رحمہ اللہ ”احیاء العلوم“ کی شرح ”اتحاف سادة المتقين“ میں لکھتے ہیں:

”معنى الصلوة العطف، وهو بالنسبة إلى الله تعالى إما ثناؤه على

العبد عند الملائكة، وهذا هو الأليق في تفسير صلوة الله على أنبيائه، وإما

كمال الرحمة، وبالنسبة إلى غيره تعالى الدعاء بخير“ (۱۷)۔

یعنی: ”صلوة کے اصل معنی تو عطف یعنی میلان و مہربانی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی

طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب یا تو اللہ تعالیٰ کا اپنے فرشتوں کے ہاں اپنے نبی کی

تعریف و ثناء کرنا ہے، ”صلوة اللہ علی انبیائہ“ کی یہی تفسیر سب سے زیادہ مناسب ہے

اور یا اس کے معنی کمال رحمت کے ہیں اور غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کے معنی دعا

کے آتے ہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہو تو صلوة کے اصل معنی دعا ہی کے آتے ہیں،

مغفرت کی دعا کرنا، مخصوص رحمت کی دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کا

ذکر تعظیم و اکرام کے ساتھ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے اور اپنی نعمتوں اور نوازشوں کی ان پر پھوار برساتا ہے (۱۸)۔

قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب ہے: ﴿ووصل عليهم إن صلاتك

سكن لهم﴾ اس میں صلوة بمعنی دعا ہے، جیسا کہ آگے آرہا ہے (۱۹):

(۱۶) صحیح البخاری، کتاب التفسیر، سورة الأعراب، باب قوله: ﴿إن الله وملئكته يصلون على النبي﴾

(۱۷) إتحاف السادة، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الثاني: ۲۶۹/۵

(۱۸) ”فتح الباري: ۱۱/۱۰۶، ۱۰۵

(۱۹) أحكام القرآن للجصاص: ۲۲۷/۳

## دروود شریف کا حکم

② دوسری بات دروود شریف کے حکم سے متعلق ہے:

جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دروود بھیجنا فرض ہے جیسے کلمہ توحید پڑھنا ایک بار فرض ہے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ”القول البدیع“ میں اور علامہ ابن عبدالبر نے ”الاستذکار“ میں اس کی تصریح فرمائی ہے (۲۰)۔ امام ابو بکر صاص رازی اور ملا علی قاری نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے (۲۱)۔ حاصل یہ ہے کہ پوری عمر میں ایک مرتبہ دروود پڑھنا فرض ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ”صلوا“ کے الفاظ سے دروود بھیجنے کا حکم دیا ہے، یہ حکم شعبان سن دو ہجری میں نازل ہوا اور اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ امر تکرار کا تقاضہ نہیں کرتا (۲۲)، البتہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ جب بھی آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دروود بھیجنا واجب و مستحب ہے (۲۲☆)۔

اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، جمہور علماء کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مجلس میں پہلی بار آئے تو دروود شریف پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد پھر مستحب ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اسی کو مفتی بہ قرار دیا (۲۳)۔

البتہ امام طحاوی رحمہ اللہ اور بعض شافعی علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کسی مجلس میں جتنی بار بھی آئے، ہر بار دروود شریف پڑھنا واجب ہے (۲۴)، امام قرطبی رحمہ اللہ اور علامہ زبیر بن عیینہ رحمہ اللہ نے اسی کو محتاط قول قرار دیا ہے (۲۵)۔

(۲۰) الاستذکار لابن عبدالبر: ۲/۳۰۸، کتاب قصر الصلوة فی السفر

(۲۱) أحكام القرآن للجصاص: ۳/۵۴۴، ومرقاة لملا علی قاری، کتاب الصلوة: ۲/۳۳۷

(۲۲) کشف الأسرار للیزدوی: ۱/۱۲۳، باب موجب الأمر.

(۲۲☆) احکام القرآن للقرطبی: ۱۴/۲۳۳

(۲۳) ردالمحتار: ۱/۳۸۱، ۳۸۲، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة

(۲۴) فتح الباری: ۱۱/۱۵۳، نیز دیکھئے: جلاء الإفہام فی الصلوة والسلام علی خیر الأنام: ۲۱۴.

(۲۵) تفسیر القرطبی: ۱۴/۱۵۰، کشف للزمخشری: ۳/۵۵۸

## درود شریف کے فضائل و برکات

۴ تیسری بات درود شریف کی فضیلت، اہمیت اور فوائد و برکات سے متعلق ہے:

امام بیہقی رحمہ اللہ نے عامر بن ربیعہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”من صَلَّى عَلَيَّ صَلَوةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا“ (۲۶)۔ یعنی: ”جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس پر دس بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں“۔

امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے عامر بن ربیعہ کی اور امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت نقل کی ہے:

”ما من عبد يصلي عليّ إلا صلّت عليه الملائكة ما دام يصلي، فليقلّ

العبد من ذلك أو ليكثر“ (۲۷)۔

یعنی: ”جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ملائکہ اس کے لئے اس وقت تک

استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے، سو بندہ کی مرضی ہے چاہے کم

درود پڑھے یا زیادہ پڑھے“۔

درود شریف کی بڑی برکتیں اور فوائد ہیں، کثرت درود سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، یہ ذریعہ جنت و نجات ہے، چنانچہ طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت روبیع بن ثابتؓ سے روایت نقل کی ہے:

”من قال: اللهم صلّ على محمد وأنزلهُ المُقَرَّبَ عندك يوم القيامة،

وجبت له شفاعتي“ (۲۸)۔

یعنی: ”جو شخص یہ درود پڑھے: ”اللهم صلّ على محمد وأنزلهُ المُقَرَّبَ

(۲۶) شعب الإيمان، رقم الحدیث: ۱۵۵۷، ۱۵۵۸

(۲۷) رواه أبو داود الطيالسي عن عامر بن ربیعة فی مُسنده البدری: ۱/۶۳۹، رقم الحدیث: ۱۲۳۸، ورواه

أحمد فی مسنده نحوه ولفظه: ”من صَلَّى عَلَيَّ رَسولُ اللَّهِ ﷺ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً فَلَيَقْلَ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ

ليكثر“: ۲/۶۱۷، رقم الحدیث: ۶۶۰۵

(۲۸) المعجم الكبير للطبراني، رقم الحدیث: ۴۴۸۰

عندك يوم القيامة (اے اللہ! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور قیامت کے دن اسے اپنے مقرب مقام پر اتار دے)“، تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔“

اور ایک روایت میں ہے:

”من صلی علیّ فی یوم ألف مرة، لم یمت حتی یری مقعده من الجنة“ (۲۹)۔

یعنی: ”جو شخص دن میں ہزار بار درود پڑھے گا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے“، یعنی مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا مسکن دیکھ لے گا۔

کثرت درود، فقر وفاقہ کو بھی دور کرتا ہے، ابو نعیم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے:

”کثرة الذكر والصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنفي الفقر“ (۳۰)۔ یعنی: ”ذکر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کی کثرت فقر وفاقہ کو ختم کرتی ہے۔“

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے:

”من صلی علی مائة صلوة حين یصلي الصبح قبل أن یتکلم، قضی اللہ له مائة حاجة، عجل منها ثلاثین حاجة، وأخر له سبعین“ (۳۱)۔

یعنی: ”جو شخص نماز فجر کے وقت بات کرنے سے پہلے مجھ پر سو بار درود پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سو ضرورتیں پوری فرمائیں گے، ان میں سے تیس تو اس دنیا میں اور

(۲۹) الترغیب والترہیب للمنذري: ۲/۵۰۱

(۳۰) إتحاف السادة، كتاب الأذکار والدعوات، الباب الثاني: ۲۷۵/۵

(۳۱) إتحاف السادة، كتاب الأذکار والدعوات، الباب الثاني: ۲۷۵/۵

ستر آخرت میں پوری فرمائیں گے۔“

علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”إِذَا نَسِيتُمْ شَيْئاً، فَصَلُّوا عَلَيَّ، تَذَكَّرُوهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ“ (۳۲)۔ (اگر تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، یاد آ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ)۔  
ایک اور روایت میں ہے:

”من خاف على نفسه النسيان فليكثر الصلوة على النبي صلى الله

تعالى عليه وسلم“ (۳۳)۔

یعنی: ”جسے اپنے اوپر نسیان کا خوف ہے تو وہ مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھا

کرتے۔“

### درود شریف لکھنے کی فضیلت

درود شریف لکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”من صلى علي في كتاب لم تنزل الملائكة يستغفرون له ما دام

اسمي في ذلك الكتاب“ (۳۴)۔

یعنی: جو شخص کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھتا ہے تو فرشتے اس کے لئے اس وقت

تک استغفار کرتے رہتے ہیں، جب تک میرا نام اس کتاب میں موجود ہو۔“

(۳۲) القول البدیع فی الصلوة علی الحبيب الشفیع، ص: ۴۲۷

(۳۳) قال السخاوی رحمہ اللہ: ”أخرجه ابن بشکوال بسند منقطع“. القول البدیع فی الصلوة علی الحبيب

الشفیع، ص: ۴۲۷

(۳۴) إتحاف السادة، كتاب الأذکار والدعوات، الباب الثاني: ۲۷۲/۵، قال الزبيدي بعد نقل هذا الحديث من

الإحياء: قال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط، وأبو الشيخ في الثواب والمستغفري في الدعوات من حديث

أبي هريرة بسند ضعيف اه. قلت: ورواه أيضاً أبو القاسم التميمي في الترغيب والخطيب في شرف أصحاب

الحديث وابن بشکوال بسند ضعيف، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال ابن كثير: إنه لا يصح. انتهى.

## جمعہ کے دن درود کی فضیلت

درود شریف کی کثرت کا اہتمام تو ہر مسلمان کو ہر وقت کرنا چاہیے، البتہ جمعہ کے دن بطور خاص اس کا اہتمام ہو، حضرت ابواسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”أَكْبَرُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ؛ فَإِنْ صَلَّوْا أَمْتِي تَعْرَضَ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَّوْا، كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً“ (۳۵)۔

یعنی: ہر جمعہ کے روز مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، پس جو شخص مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا تو از روئے رتبہ دوسروں کے مقابلہ میں وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔“

اسی طرح حدیث کے طلباء کو بھی بطور خاص درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ احادیث کا تعلق براہ راست حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ہے، تو کثرت درود کے ساتھ احادیث پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت اور روحانیت محسوس ہوگی!

## ترجمہ الباب کی وضاحت

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ترجمہ الباب قائم کیا ہے: باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کے متعلق لکھتے ہیں:

”هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلها والاقتصار

على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث وقد يؤخذ منه الثاني“ (۳۶)۔

یعنی: ”ترجمہ الباب مطلق ہے اور اس میں چار امور کے بیان کا احتمال ہے، درود

شریف کا حکم، اس کی فضیلت، طریقہ و کیفیت اور اس کے پڑھنے کا محل و مقام۔ البتہ باب

میں مذکور دو احادیث پر اکتفا کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مقصود امر ثالث یعنی درود

(۳۵) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الجمعة، باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلوة على

رسول الله وقراءة سورة الكهف وغيزها: ۳/۳۵۳، رقم الحديث: ۵۹۹۵

(۳۶) فتح الباري: ۱۱/۱۵۲

شریف کے طریقے اور کیفیت کو بیان کرنا ہے، اور امر ثانی یعنی درود شریف کے حکم کا بیان بھی مقصود ہو سکتا ہے۔

لیکن علامہ یعنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث باب کی وجہ سے ترجمہ الباب مطلق نہیں رہا، بلکہ اس سے کیفیتِ صلوٰۃ ہی کو بیان کرنا مقصود ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”حدیثا الباب یقیدان هذا الإطلاق، لأنهما یبشان عن کیفیة، والمطابقة بین الترجمة والحديث مطلوبة، ولا تجيء المطابقة إلا بما قلنا: هذا باب فی بیان کیفیة الصلاة“ (۳۷)۔

یعنی: ”ترجمہ الباب اگرچہ بظاہر مطلق ہے، مگر باب میں مذکور دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقید ہے، کیونکہ دونوں حدیثیں درود شریف کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں۔ ترجمہ الباب اور حدیث کے درمیان مطابقت مطلوب ہوتی ہے اور مطابقت ہمارے اس قول سے ہی ہو سکتی ہے کہ: ”هذا باب فی بیان کیفیة الصلاة“۔ (یعنی ترجمہ الباب کو مقید ماننے سے ہی مطابقت ہو سکتی ہے)۔

۵۹۹۶ : حَدَّثَنَا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ : لَقِيتُ كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ فَقَالَ : أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : (قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) . [ر : ۳۱۹۰]

عبدالرحمن ابی لیلی سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے کعب بن عجرہ ملے اور کہا کہ کیا میں تم کو ایک ہدیہ نہ پیش کروں؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم کس طرح آپ کو سلام

کریں، اور کس طرح آپ پر درود بھیجیں، آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کہو: ”اللہم  
سل علی محمد وعلیٰ ال محمد کماصلیت علی آل ابراہیم انک حمید  
مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلیٰ ال محمد کما بارکت علی آل  
ابراہیم انک حمید مجید“۔

آدم سے آدم بن ایاس اور حکم سے حکم بن عتیبہ مراد ہیں، عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ جلیل القدر تابعین میں  
سے ہیں، ابویلیٰ کا نام یسار ہے (۳۸)۔

ألا أهدي لك هدية یعنی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے کہا کہ میں  
آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں؟ شعبہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، ہاں کیوں نہیں (۳۹)۔ ہدیہ کا لفظ عموماً اجسام  
کے لئے استعمال ہوتا ہے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وأكثر ما يستعمل في الأجسام ..... وقد يستعمل في المعاني  
كالعلوم والأدعية مجازاً، لما يشتر كان فيه من قصد المودة والتواصل في  
إيصال ذلك إليه“ (۴۰)۔

یعنی: ”ہدیہ کا اکثر استعمال اجسام میں ہوتا ہے..... البتہ کبھی کبھار مجازاً معانی میں  
بھی ہدیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے علوم اور دعائیں وغیرہ، وجہ یہ ہے کہ دونوں میں قدر  
مشترک یہ امر ہے کہ دونوں میں ان کو دوسروں تک پہنچانے سے باہمی محبت اور میل جول  
مقصود ہوتا ہے“۔

أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج علينا

”علینا“ جمع کی ضمیر استعمال فرمائی ہے، کیونکہ اس وقت دوسرے صحابہ بھی موجود تھے۔

(۳۸) قال المزني في تهذيب الكمال ..... واسمه يسار، ويقال: بلال. ويقال: داود بن بلال بن بليل

.....: ۱۷/الترجمة: ۳۹۴۳

(۳۹) فتح الباري: ۱۱/۱۵۳

(۴۰) إرشاد السباري: ۱۳/۳۵۶



قد علمنا كيف نسلم عليك

اس میں سلام سے تشہد اور التحيات کے اندر سلام مراد ہے (۴۱) جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو ان لفظوں کے ساتھ سکھایا: ”السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته“، یعنی سلام کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت کریمہ میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا تھا: ﴿صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾ ایک سلام اور دوسرا صلاۃ، تو درود بھیجنے کا وصف اور طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو درود شریف بتلایا، وہ ”درود ابراہیمی“ کہلاتا ہے، یہاں روایت میں ”وعلى آل ابراهيم“ کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن بخاری کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں (۴۲)، حافظ لکھتے ہیں:

”والحق أن ذكر محمد وإبراهيم، وذكر آل محمد وآل إبراهيم

ثابت في أصل الخبر، وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظه الآخر“ (۴۳)۔

یعنی: ”حق بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ

السلام کا ذکر اور اسی طرح آل محمد اور آل ابراہیم کا ذکر اصل حدیث میں ثابت ہے۔ دراصل

بعض راویوں کو تمام الفاظ یاد رہے اور بعض کو وہ یاد نہ رہ سکے۔“

اللهم صل على محمد كاترجمه علامه حلبي رحمه الله نے یوں کیا ہے:

”أي عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره، وإظهار دينه، وإيفاء شريعته، وفي

الآخرة بإعزاز مثوبته، وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام

المحمود“ (۴۴)۔

یعنی: ”تو ان کو عظمت عطا فرما، دنیا میں ان کا ذکر بلند کر کے، ان کے دین کو

(۴۱) قال البيهقي: فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد وهو قول ”السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

وبركاته“ فيكون المراد بقولهم ”فكيف نصلي عليك“ أي بعد التشهد. فتح الباري: ۱۱/۱۵۵

(۴۲) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم: ۱۰، رقم الحديث: ۳۳۷۰

(۴۳) فتح الباري: ۱۱/۱۵۶

(۴۴) فتح الباري: ۱۱/۱۵۶

غالب کر کے، اور ان کی شریعت کو کامل کر کے اور آخرت میں ان کو بے پایاں ثواب عطا فرما کے، امت کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر کے اور مقام محمود کے ذریعے ان کی فضیلت کا اظہار کر کے۔“

إنك حمید مجید: حمید بمعنی محمود ہے، ستودہ صفات، مجید: مجرب و بزرگی والا، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔

۵۹۹۷: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي حَازِمٍ وَالْدَّرَّأَوْرِدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ). [ر: ۴۵۲۰]

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم آپ کو سلام کرنا تو جانتے ہیں، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجیں، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہو: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ۔“

ابن ابی حازم کا نام عبدالعزیز ہے اور ابو حازم کا نام سلمہ بن دینار ہے، در اوردی کا نام بھی عبدالعزیز بن محمد ہے (۳۵)۔

۳۲- باب: هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» / التوبة: ۱۰۳ /

۵۹۹۸: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى

قَالَ : كَانَ إِذَا أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ بِصَدَقَتِهِ قَالَ : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ) . فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ،  
فَقَالَ : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) . [ر : ۱۴۲۶]

حضرت ابن اوفی سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ فرماتے: اللہم صل علیہ چنانچہ میرے والد جب صدقہ لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا اللہم صل علی آل ابي اوفی یعنی اے اللہ ابی اوفی کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔

۵۹۹۹ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،  
عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرِّيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو حَمِيدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،  
كَيْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : (قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ  
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ  
حَمِيدٌ مُجِيدٌ) . [ر : ۳۱۸۹]

حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کس طرح آپ پر درود بھیجیں، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہو: ”اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی ابراہیم وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم، انک حمید مجید“۔

### غیر نبی پر درود بھیجنے کا حکم

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ حضرات انبیاء، ملائکہ اور عام مومنین پر درود بھیجا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، ”ہل“ کلمہ استفہام ذکر کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے (۱)۔ اس میں تین مذاہب مشہور ہیں:

۱ پہلاندہب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء اور ملائکہ اور مؤمنین پر درود مطلقاً بھیجا جاسکتا ہے، مستقلاً بھی اور تبعاً بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے کیونکہ انہوں نے جو آیت کریمہ اور روایات باب ذکر فرمائی ہیں، ان میں ”غیر نبی“ پر صلوة کا حکم اور ذکر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، ﴿صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ یعنی مؤمنین کے لئے رحمت کی دعا کریں کیونکہ آپ کی دعا ان کے لئے باعث طمانیت و سکون ہے، اس آیت میں مؤمنین پر صلوة بھیجنے کا حکم وارد ہے۔ معلوم ہوا غیر نبی پر صلوة بھیج سکتے ہیں۔

باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو دو روایتیں ذکر فرمائی ہیں، ان میں پہلی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن ابی اوفی کے بارے میں فرمایا: ”اللهم صلّ علی آل ابي اوفی“ جس سے غیر نبی پر مستقلاً صلوة بھیجنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

اور دوسری روایت میں صلوة علی النبی و علی غیر النبی دونوں کا ذکر ہے، جس سے غیر نبی پر تبعاً صلوة بھیجنے کا جواز معلوم ہوتا ہے (۲)۔

۲ دوسرا مسلک یہ ہے کہ غیر نبی پر مستقلاً صلوة بھیجنا جائز نہیں اور تبعاً بھی مطلقاً جائز نہیں، صرف جن نصوص کے اندر تبعاً غیر نبی پر صلوة بھیجا گیا ہے، ان ماثر نصوص کی حد تک جائز ہے، امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول اسی کے مطابق ہے (۳)۔

۳ تیسرا مسلک حضرات حنفیہ اور جمہور علماء کا ہے کہ غیر نبی پر مستقلاً درود بھیجنا تو جائز نہیں، لیکن تبعاً جائز ہے (۴) کیونکہ درود شریف کی کئی روایتوں کے اندر تبعاً صلوة علی غیر النبی وارد ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے: ”صلوا علی أنبياء الله“ (۵)۔ یعنی اللہ کے نبیوں پر درود بھیجا کرو، لیکن جمہور کے نزدیک یہ حکم مستقلاً نہیں بل کہ تبعاً ہے کیونکہ ابن ابی شیبہ نے سند صحیح کے

(۲) عمدة القاري: ۳۰۸/۲۲، وفتح الباري: ۱۶۹/۱۱

(۳) فتح الباري: ۱۷۰/۱۱

(۴) فتح الباري: ۱۷۰/۱۱

(۵) عمدة القاري: ۳۰۹/۲۲، وفتح الباري: ۱۷۰/۱۱

ساتھ حضرت ابن عباسؓ کی روایت نقل فرمائی ہے: ”ما أعلم الصلوة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم“ (۶)۔ یعنی: ”اگر کسی کا کسی پر درود بھیجنا جائز ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کس اور پر درود بھیجنے کے جواز کا مجھے علم نہیں۔“

اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو استدلال کیا ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حکم اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا کہ وہ جس کے لئے چاہیں، اس کے لئے صلوة ودعا کریں، لیکن دوسرے لوگوں کو یہ اختیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن ابی اوفی کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ، کسی اور نے صلوة کا لفظ استعمال نہیں کیا، بل کہ صحابی ہونے کی وجہ سے ”رضی اللہ عنہ“ کا جملہ ان کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے (۷)۔

۳۳ - باب : قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (مَنْ آذِنْتُهُ فَأَجَعَلَهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً).

۶۰۰۰ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَيْتُهُ ، فَأَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یا اللہ جس ایماندار کو میں نے برا بھلا کہا ہو، تو قیامت کے دن اس کو اس کے لئے قربت کا ذریعہ بنا۔

فأیما مؤمن سبیتہ .....

فأیما میں فاء جزائیہ ہے اور شرط یہاں محذوف ہے، جس پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہے، ”إن“

کنٹ سبیت مؤمناً“۔

(۶) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ۴۷/۶، رقم الحديث: ۸۸۰۸

(۷) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ۱۰۵/۸

(۶۰۰۰) الحديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلوة، باب: من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سبته،

أودع عليه - وليس هو أهلاً لذلك - كان له زكاة وأجرًا ورحمة: ۲۰۰۸/۴ (رقم الحديث: ۲۶۰۱)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا حاصل یہ ہے کہ مؤمنین میں جس کو میں نے ڈانٹا ہو اور طبعی غصہ کی وجہ سے کبھی برا بھلا کہا ہو اور وہ درحقیقت اس کا مستحق نہ ہو تو اے اللہ! تو میری اس تنبیہ اور ڈانٹ ڈپٹ کو اس کے لئے آخرت کے اندر باعثِ تزکیہ اور باعثِ اجر و ثواب بنا دیں۔ یہاں روایت اگرچہ مطلق ہے کہ ”جس شخص کو بھی میں نے ایذا دی ہو“، لیکن مراد ہر شخص نہیں، بل کہ وہ شخص ہے جو اس ڈانٹ اور تنبیہ کا مستحق نہ ہو، چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں ”لیس لها باہل“ کی قید وارد ہے!

صحیح مسلم کے اندر حضرت انسؓ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إنما أنا بشر أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَمَا يَأْتِي أَحَدٌ دَعَاةٍ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهْرًا، وَزَكَاةً، وَقَرْبَةً تَقْرِبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (۸)۔

یعنی: ”میں ایک انسان ہوں، اور انسانوں ہی کی طرح میں بھی کبھی راضی اور کبھی ناراض ہو جاتا ہوں اور غصہ آجاتا ہے، چنانچہ اگر کسی امتی کے لئے میں نے بددعا کی ہو اور وہ اس کا سرِ اوار نہیں تھا تو اے اللہ! اس دعا کو اس کے لئے قیامت میں پاکیزگی اور اپنی قربت کا ذریعہ بنا دیں۔“

اور ایک روایت میں ہے: ”اللہم! إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر“ (اے اللہ! محمد ایک بشر ہے اور بشر ہی کی طرح اسے بھی غصہ آجاتا ہے)۔

حدیث باب، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلۃ میں نقل فرمائی ہے (۹)۔

حدیث کے اندر ”لیس لها باہل“ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری حالت میں تو وہ تنبیہ کا مستحق تھا، لیکن حقیقت میں اس کا مستحق نہیں تھا، عدم استحقاق کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بالکل مستحق نہیں تھا، دوسری صورت یہ ہے کہ استحقاق سے بڑھ کر سختی کی گئی، دونوں صورتوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا مانگی ہے (۱۰)۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت پر کمال درجے شفیقت کی دلیل ہے۔

(۸) صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ والأدب، باب من لعنة النبي أو سبه أمر دعا عليه، وليس له أهلاً

لذلك، كان له زكاة وأجر وأرحمة، رقم: ۶۶۲۷

(۹) صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب من لعنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه ..... رقم: ۶۶۲۷

(۱۰) فتح الباري: ۱۱/۱۷۰

## ۳۴- باب : التَّوَدُّ مِنَ الْفِتَنِ .

۶۰۰۱ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَنهُ : سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحْفَوهُ الْمَسْأَلَةَ ، فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ : ( لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَكُمْ ) . فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَخِي ، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي ، فَإِذَا رَجُلٌ ، كَانَ إِذَا لَاحَى الرَّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : ( حُدَّافَةُ ) . ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ : رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ ) .

وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الْآيَةَ : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَزْرَ أَسْبَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْوَأُهُمْ » . [ ۶۶۷۸ ، وانظر : ۴۳۴۵ ]

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا شروع کیا جب لوگ بہت زیادہ سوال کرنے لگے تو آپ کو غصہ آ گیا اور منبر پر چڑھ کر فرمایا آج تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کو کھول کر بیان کروں گا، راوی کا بیان ہے کہ میں دائیں بائیں نظر دوڑا کر دیکھنے لگا، تو نظر آیا کہ ہر شخص اپنے کپڑے میں منہ لپیٹے ہوئے ہے اور رو رہا ہے، ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کو لوگ لڑائی کے وقت اس کے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتے تھے۔ چنانچہ اس نے پوچھا: یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: خدا! پھر عمر کہنے لگے کہ: رضی عنہ! اللہ ربنا..... یعنی ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوئے اور ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج کی طرح کبھی خیر و شر نہیں دیکھا، میرے سامنے جنت اور جہنم کی صورت پیش کی گئی، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو دیوار کے پیچھے دیکھا اور فرمایا: اس حدیث کے بیان کرنے کے وقت یہ آیت بھی بیان کرتے تھے:

﴿يا ايها الذين امنوا لاتسألوا عن اشياء ان تبدلکم تسؤکم﴾  
 فتن، فتنہ کی جمع ہے، فتنہ، آزمائش اور امتحان کو کہتے ہیں۔

### ۳۵- باب : التَّعَوُّذُ مِنْ غَلْبَةِ الرِّجَالِ .

۶۰۰۲ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ : (الْتِمِسْ لَنَا غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ بِحَدْمَتِي) . فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرِدْفَنِي وَرَاءَهُ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الهمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدِّينِ ، وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ) . فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ ، وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ قَدْ حَازَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وَرَاءَهُ بَعَاءَةً أَوْ كِسَاءً ثُمَّ يُرِدْفُهَا وَرَاءَهُ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا ، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى بَدَأَ لَهُ أُحُدٌ ، قَالَ : (هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحْرِمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْنَا ، مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَدْمِهِمْ وَصَاعِهِمْ) . [ر : ۲۷۳۲]

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوطلحہ سے فرمایا: اپنے لڑکوں میں سے ایک لڑکا میری خدمت کے لئے دے دو، چنانچہ ابوطلحہ پیچھے سو کر کے لے گئے چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگا۔ جب بھی آپ اترتے تو میں آپ کو اکثر یہ فرماتے ہوئے سنتا کہ  
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالنَّجَسِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ - میں برابر آپ کی خدمت میں رہا یہاں تک کہ ہم جب خیبر سے واپس ہوئے تو آپ نے صفیہ بنت حی کو ساتھ لے کر جن سے نکاح کیا تھا، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، کہ اپنی چادر یا کبیل کا پردہ کر کے اپنے پیچھے ان کو سوار کر لیتے تھے، یہاں تک کہ ہم جب مقام صہبا میں پہنچے تو آپ نے ہمیں تیار کر کر اس کو دسترخوان پر رکھوایا، پھر مجھے بھیجا،



تو میں لوگوں کو بلا کر لے آیا۔ لوگوں نے کھانا کھایا، یہ ولیمہ کی دعوت تھی، پھر وہاں سے آگے بڑھے یہاں تک کہ جب احد پہاڑ نظر آیا، تو فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا: یا اللہ! میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی زمین کو حرم قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اے اللہ! مدینہ والوں کو ان کے مد میں اور ان کے صاع میں برکت عطا فرما۔

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل.....

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں چند چیزوں سے پناہ مانگی ہے، ایک ہم سے، ہم غم کو کہتے ہیں اور بعضوں نے کہا ہم ایسے غم کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ معلوم نہ ہو اور جس میں زل مضطرب اور بے چین ہو (۱۱)۔

حزن: (حاء اور زاء کے فتح کے ساتھ اور حاء کے ضمہ اور زاء کے سکون کے ساتھ) بمعنی غم ہے، ہم اور حزن میں فرق یہ ہے کہ حزن کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی کوئی واقعہ ہو گیا، اس کی وجہ سے جو غم لاحق ہوتا ہے، اسے حزن کہتے ہیں اور ہم کا تعلق مستقبل سے ہے کہ کسی چیز کے وقوع یا عدم وقوع کا اندیشہ ہو (۱۲)۔

ضلع الدين: قرض کا بوجھ، خاص کر جب قرض خواہ مطالبہ کرتا ہو اور مقروض کے پاس ادائیگی قرض کا انتظام نہ ہو، اس کی وجہ سے جو بوجھ اور فکر لاحق ہوتی ہے، وہ مراد ہے، اگر قرض کی ادائیگی کا بندوبست ہے تو ایسے قرض سے پناہ نہیں مانگی گئی، بعض اسلاف سے منقول ہے کہ قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہے اور قرض خواہ مطالبہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو ایسی فکر لاحق ہو جاتی ہے جو عقل و شعور کو ماؤف کر دیتی ہے (۱۳)، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔

(۱۱) وفي مجمع بحار الأنوار: ۱۷۰/۵: الهم: حزن يذيب الإنسان فهو أخص من الحزن، وقيل: هو بالآتي، والحزن بالماضي.

(۱۲) إرشاد الساري: ۳۶۴/۱۳

(۱۳) فتح الباري: ۱۷۴/۱۱

غلبة الرجال: لوگوں کے غالب آنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ آدمی اس قدر کمزور اور بے بس ہو جاتا ہے کہ ہر شخص کو چڑھائی کا موقع ملے اور ہر ایک کے ظلم کا تختہ مشق بنتا رہے۔

اس دعا میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ قرض کا بوجھ انسان پر کسل اور سستی کی وجہ سے آجاتا ہے جو شخص اپنے دنیوی معاملات میں دیانت داری اور چستی و محنت سے کام کرے گا، وہ قرض کے بوجھ تلے نہیں آئے گا، اسی طرح جنہیں بزدلی اور قرض، غلبہ الرجال یعنی آدمی پر لوگوں کے غلبے کا سبب بن جاتے ہیں اور ایسی حالت میں انسان ہر ایک سے مغلوب رہنے لگتا ہے۔

علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”هذا الدعاء من جوامع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وخارجية، فالأولى بحسب القوى التي للإنسان، وهي ثلاثة: العقلية والغضبية والشهوانية، فالهم والحزن يتعلق بالعقلية، والجبن بالغضبية، والبخل بالشهوانية، والعجز والكسل بالبدنية والثاني يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى، والأول عند نقصان عضو ونحوه، والضعف والغلبة بالخارجية، فالأول مالي، والثاني جاهي، والدعاء مشتمل على جميع ذلك“ (۱۵)۔

یعنی: ”یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان مبارک کلمات میں سے ایک ہے جنہیں ”جوامع الكلم“ کہا جاتا ہے جو مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر معانی کا ایک جہاں رکھتے ہیں، درحقیقت رذائل کی تین قسمیں ہیں، نفسانیہ، بدنیہ اور خارجیہ، پھر نفسانی رذائل انسانی قوتوں کے اعتبار سے بھی تین قسموں پر مشتمل ہیں، عقلیہ، غضبیہ اور شہوانیہ، چنانچہ ہم اور حزن کا تعلق قوت عقلیہ سے ہے، جبن کا تعلق قوت غضبیہ سے ہے اور بخل کا تعلق قوت شہوانیہ سے ہے اور عجز و کسل کا تعلق بدنیہ سے ہے، عجز کی صورت میں اعضاء کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے اور کسل کی صورت میں اعضاء سالم ہوتے ہیں لیکن

چستی مفقود ہوتی ہے اور ضلع دین اور غلبۃ الرجال کا تعلق قوی خارجیہ سے ہے، پہلا مالی اور دوسرا جاہ و رتبہ سے متعلق ہے اور مذکورہ دعائیں سب پر مشتمل ہے۔“

### ۳۶- باب : التَّعَوُّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ :

۶۰۰۳ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . [ ر : ۱۳۱۰ ]

حضرت خالد سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا، موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ ام خالد کے سوا میں نے کسی کے

متعلق نہیں سنا کہ اس نے یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، یہ حدیث منکرین عذاب قبر پر حجت

ہے (۱۶)۔

۶۰۰۴ : حَدَّثَنَا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ مُصْعَبٍ : كَانَ سَعْدُ يَأْمُرُ بِخُمْسٍ ، وَيَذَكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبِينِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا - يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَالِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) . [ ر : ۲۶۶۷ ]

حضرت مصعب سے روایت ہے کہ سعد پانچ باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے

تھے اور ان پانچ باتوں کے متعلق آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ

آپ ان باتوں سے پناہ مانگتے تھے (آپ فرماتے تھے کہ) اللہم انی أعوذ بک من

البخل وأعوذ بک من الجبین وأعوذ بک أن أزدل العمر وأعوذ بک من

فتنة الدنيا یعنی فتنة الدجال وأعوذ بک من عذاب القبر.

۶۰۰۵ : حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عَجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَتَا لِي : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ ، فَكَلَّمْتُهُمَا ، وَلَمْ أَنْعَمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا ، فَخَرَجْنَا ، وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَجُوزَيْنِ ، وَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : (صَدَقْنَا ، إِنَّهُنَّ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا) . فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

[ر : ۹۹۷]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس یہود مدینہ کی دو بوڑھی عورتیں آئیں ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والے اپنی قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں تو میں نے ان کی تکذیب کی، اور اچھا نہیں سمجھا کہ ان کی تصدیق کروں چنانچہ وہ دونوں چلی گئیں، پھر میرے پاس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! دو بوڑھی عورتیں آئیں تھیں، اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا ان دونوں نے ٹھیک کہا بے شک (لوگ) قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں، جنہیں تمام چوپائے سنتے ہیں چنانچہ اس کے بعد میں نے آپ کو ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔

صرف مستحلی کے نسخے میں یہاں باب ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے دو وجہ سے غلط قرار دیا، ایک اس لئے کہ پہلی حدیث میں اگرچہ بخل کا ذکر ہے، لیکن تین ابواب کے بعد بعینہ امام نے یہی باب قائم کیا ہے، دوم اس لئے کہ دوسری حدیث میں بخل کا سرے سے ذکر نہیں ہے، بل کہ اس میں صرف عذاب قبر کا تذکرہ ہے، اس لئے یہ دونوں روایتیں، باب التَّعَوُّذِ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ ہی کا حصہ ہیں (۱۷)۔

۳۷ - باب : التَّعَوُّذُ مِنَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

۶۰۰۶ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ،  
وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) .

[ر : ۲۶۶۸]

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے: أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (میں تیری پناہ مانگتا ہوں، عجز، سستی، بزدلی اور بہت زیادہ بڑھاپے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے)۔

### فتنہ محیا و ممات کا مطلب

محیا اور ممات، مفعول کے وزن پر دونوں مصدر ہیں، زندگی اور موت کے معنی میں ہیں فتنہ محیا سے مراد وہ فتنے ہیں جو کسی انسان کو زندگی میں پیش آسکتے ہیں، جو اس کے دین و دنیا کے لئے مضر اور نقصان کا سبب بن سکتے ہیں اور ”فتنہ ممات“ سے فتنہ قبر یعنی قبر کے اندر کی آزمائش مراد ہو سکتی ہے اور اس سے موت کے قریب انسان کو پیش آنے والا فتنہ بھی مراد ہو سکتا ہے، مثلاً برا خاتمہ اور بری حالت پر موت (۱۸)۔

حدیث باب اسی سند اور متن کے ساتھ کتاب الجہاد میں گزر چکی ہے (۱۹)۔

### ۳۸- باب : التَّعَوُّذُ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ .

مأثم کے معنی گناہ اور مغرم کے معنی قرض کے ہیں۔

۶۰۰۷ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

(۱۸) قال القسطلاني: ”فتنة المحيا“ مما يعرض للإنسان في مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها وجهالاتها وأعظمها— والعياذ بالله— سوء الخاتمة عند الموت، وفتنة الممات، قيل: فتنة القبر كسؤال الملكين، والمراد من شر ذلك، وإلا فأصل السؤال واقع لا محالة فلا يدعى برفعه، فيكون عذاب القبر مسبباً عن ذلك، والسبب غير المسبب، وقيل: المراد الفتنة قبيل الموت وأضيفت إلى الموت لقربها منه، وحينئذ تكون فتنة المحيا قبل ذلك، وقيل: غير ذلك، والمحيا والممات مصدران بالإضافة على وزن مفعول“. إرشاد الساري: ۳۶۷/۱۳

(۱۹) صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب ما يتعوذ من الجبن، رقم الحديث: ۲۸۲۳

عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ،  
وَالْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ  
فِتْنَةِ الْغَنَى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ  
عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّجِّ وَالْبَرْدِ ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ،  
وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) . [۶۰۱۴ - ۶۰۱۶]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہم انی أعوذ بک..... یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور بڑھاپے اور گناہ اور قرض اور قبر کی آزمائش اور عذاب قبر اور آگ کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے اور فتنہ مالداری کے شر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں فتنہ فقر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ سے یا اللہ تو مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو گناہوں سے صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو گندگی سے صاف کیا اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ویسی ہی دوری کر دے، جیسی دوری تو نے مشرق و مغرب میں کی ہے۔

حدیث کے اندر ”من شر فتنۃ الغنی“ اور ”من فتنۃ الفقر“ کے الفاظ ہیں، یعنی غنی کے ساتھ ”شر“ کا لفظ ہے اور فقر کے ساتھ نہیں۔

بعض شارحین نے کہا کہ غنی کے ساتھ شر کا لفظ ذکر کر کے اس کی شاعت کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتلایا ہے ”مالداری کے فتنہ“ کا شر زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے (۲۰)۔

لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”شر“ کا لفظ دونوں جگہ ہے، اگرچہ اس روایت میں نہیں، لیکن آگے روایت آرہی ہے، اس میں ”من شر فتنۃ الفقر“ کے الفاظ ہیں، اس لئے اس نکتے کی حاجت نہیں رہتی (۲۱)۔

اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج

علامة تورپشتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بها؛ تبيانا لأنواع المغفرة التي لا تلخص من الذنوب إلا بها. أي: طهرني من الخطايا بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس والأوضار ورفع الجنابة والأحداث“ (۲۲)۔

یعنی: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا میں تطہیر کے وہ تمام ذرائع ذکر فرمائے جو آسمان سے اترتے ہیں اور ان کے بغیر کامل پاکی کا حصول ممکن نہیں، اس سے ان کی غرض مغفرت کی ان تمام انواع کو بیان کرنا ہے جن کے بغیر گناہوں سے پاکی اور خلاصی ممکن نہیں۔ یعنی اے اللہ! تو مجھے اپنی مغفرت کے ان تمام انواع کے ذریعے گناہوں سے پاک کر دے جو گناہوں کو ختم کرنے میں ایسی ہیں جس طرح پاکی کے یہ ذرائع گندگیوں، جنابت اور ناپاکیوں کو ختم کرتے ہیں“۔  
اور علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ويمكن أن يقال: إن ذكر الثلج والبرد بعد ذكر الماء المطلوب منهما شمول أنواع الرحمة بعد المغفرة؛ لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة؛ لأن عذاب النار تقابله الرحمة ..... أي: اغسل خطاياي بالماء أي: اغفرها وزد على الغفران شمول الرحمة“ (۲۳)۔

یعنی: ”یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ پانی کے بعد برف اور اولوں کے ذکر سے مقصود مغفرت کے بعد تمام انواع رحمت کا احاطہ کرنا ہے، نیز ان دونوں کا ذکر پانی کے بعد اس

(۲۲) کتاب المیسر، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یقرء بعد التکبیر: ۲۳۳/۱

(۲۳) شرح الطیبی، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یقرء بعد التکبیر: ۲۹۶/۲

لئے بھی کیا گیا تاکہ عذاب جہنم کی انتہائی درجے کی حرارت کو بجھایا اور ختم کیا جاسکے..... تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ! تو پانی سے میرے گناہوں کو دھو یعنی تو یہ گناہ معاف فرما دے اور معافی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔“

## ایک اشکال اور اس کا جواب

بماء الثلج والبرد: اس پر اشکال کیا گیا ہے کہ عموماً جب تطہیر اور صفائی دھلائی میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو گرم پانی استعمال ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کیا جاتا تو یہاں ”ماء الثلج والبرد“ مبالغہ فی التطہیر کے لئے کیونکر استعمال کیا گیا؟

علامہ خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دراصل ثلج اور برد یعنی برف اور اولے کے پانی کو ہاتھ نہیں لگا ہوتا ہے اور وہ بالکل شفاف غیر مستعمل ہوتا ہے، اس پہلو سے اس میں تطہیر زیادہ ہوتی ہے (☆۲۳)۔

## ۳۹- باب : الأستعاذۃ من الجبن والكسل

«كُسَالَى» / النساء: ۱۴۲ / : وَكُسَالَى وَاحِدٌ .

۶۰۰۸ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَضَلَعِ الدِّينِ ، وَغَلْبَةِ الرُّجَالِ) . [ ر : ۲۶۶۸ ]

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا میں کہتے

تھے: أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ..... یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و حزن اور مجرد سستی اور بزدلی و بخل اور قرض کی گراں باری اور لوگوں کے غلبہ سے۔



## کُسَالِي وَكُسَالِي وَاحِد

یہ قرآن کی آیت کریمہ میں واقع ہے "ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا" (۲۴)۔ فرماتے ہیں، کُسَالِي كَاف کے ضمہ کے ساتھ اور کُسَالِي كَاف کے فتح کے ساتھ دونوں ایک ہیں۔

## ۴۰ - باب : التَّعَوُّذُ مِنَ الْبُخْلِ .

الْبُخْلُ وَالْبَخْلُ وَاحِدٌ ، مِثْلُ الْحُزْنِ وَالْحَزَنِ .

۶۰۰۹ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَوْلَاءِ الْخَمْسِ ، وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) . [ر : ۲۶۶۷]

حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ سعد ان پانچ چیزوں (سے پناہ مانگئے) کا حکم دیتے تھے، اور ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے، (وہ یہ ہیں) اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "بخل" (باء کے ضمہ اور خاء کے سکون کے ساتھ) اور "بُخْل" (باء اور خاء کے فتح کے ساتھ) یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، جس طرح حَزَن اور حُزْن دونوں کے معنی ایک ہیں۔

## ۴۱ - باب : التَّعَوُّذُ مِنَ أَرْدَلِ الْعُمَرِ .

«أَرَادِلُنَا» / هود: ۲۷ / : سَقَاطُنَا .

۶۰۱۰ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِقَوْلٍ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

الْكسَلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ) . [ر : ۲۶۶۸]

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور اس طرح فرماتے تھے کہ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بہت بڑھاپے اور بخل سے۔

ارذل عمر سے، عمر کا وہ ضعیف ترین اور کمزور حصہ مراد ہے جس میں انسان اپنی ذاتی اور جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور سب سیکھا ہوا بھول جاتا ہے (۲۵)، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کا مشغلہ قرآن کریم ہوگا، وہ ارذل عمر سے محفوظ رہے گا (۲۶)۔

أرذلنا: أسقاطنا

یہ سورۃ ہود کی آیت کریمہ میں واقع ہے: ﴿وَمَا نُرَاكُ اتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا﴾ (۲۷)۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں ارذل سے گئے پڑے لوگ مراد ہیں، کشمبہنی اور مستملی کے نسخوں میں ”سُقَاتُنَا“ (سین کے ضمہ اور قاف کی تشدید کے ساتھ) ہے، جو ساقط کی جمع ہے: گرا ہوا، اللثیم فی حسبہ ونسبہ (۲۸)۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر جو حدیث ذکر فرمائی ہے، اس میں ”ارذل عمر“ کا ذکر نہیں، امام نے حسب عادت ترجمۃ الباب سے اُس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں یہ الفاظ آئے ہیں، چنانچہ

(۲۵) قال الزبيدي في إتحاف سادة المتقين: "والأرذل من كل شيء الردي منه، والمراد بأرذل العمر حال الهرم والخرف، والعجز، والضعف، وذهاب العقل". (كتاب الأذكار والدعوات، الباب الرابع: ۳۳۴/۵)

قال العلامة الألويسي: "وأرذل العمر أخسه وأحقره وهو وقت الهرم الذي تنقص فيه القوى، وتفسد الحواس ويكون حال الشخص فيه كحاله وقت الطفولية من ضعف العقل والقوة: (روح المعاني: ۱۸۷/۸، سورة هود: ۷)

(۲۶) قيل: إنه مخصوص بالكافر، والمسلم لا يرد إلى أرذل العمر لقوله تعالى: ﴿ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ وأخرج ابن المنذر وغيره عن عكرمة أنه قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، والمشاهد تكذب كلا القولين فحكم رأينا مسلماً قارئ القرآن قلرد إلى ذلك، والاستدلال بالآية على خلافه فيه نظر. (روح المعاني: ۱۸۸/۸)

(۲۷) سورة هود: ۲۷

(۲۸) فتح الباري: ۱۱/۱۷۹

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت، اس باب سے پہلے باب کے اندر گزر چکی ہے، اس میں "وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرْدَإِلَى أَرْضِ الْعَمْرِ" کے الفاظ ہیں (۲۹)۔

#### ۴۲ - باب : الدُّعَاءُ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ .

وباء سے مرض مراد ہے، بعض امراض اور بیماریاں وبا کی شکل میں عام ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ختم ہونے اور اٹھائے جانے کی دعا فرمائی ہیں، وبا ایک عام لفظ ہے، ہر بیماری کے لئے استعمال ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں طاعون داخل نہیں ہو سکتا، البتہ دوسری بیماری وبا کی صورت میں آ سکتی ہے، اس کی کچھ تفصیل کتاب الطب میں گزر چکی ہے (۳۰)۔

الْوَجَعِ : سے ہر قسم کا مرض مراد ہے، یہ عطف العام علی الخاص کے قبیل سے ہے (۳۱)۔

۶۰۱۱ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ ، وَأَنْتَلِ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدَنَّا وَصَاعِنَا) . [ ر : ۱۷۹۰ ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

اے اللہ! مدینہ ہمارے لئے ایسا ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ ہمارے لئے تو نے محبوب بنایا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کے بخار کو جھہ کی طرف منتقل کر دے، اے اللہ! ہمارے مد اور صاع میں برکت عطا فرما۔

وانقل حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ

جحفہ، حیم کے ضمہ اور حاء کے سکون کے ساتھ ایک جگہ کا نام ہے جہاں یہودی آباد تھے، اور یہ اہل

مصر کا میقات بھی ہے (۳۲)۔

(۲۹) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب التعوذ من البخل، رقم: ۶۰۰۹

(۳۰) کشف الباری، کتاب الطب، ص: ۵۶، ۵۵

(۳۱) عمدة القاري: ۷/۲۳

(۳۲) وفي عمدة القاري: ..... والجحفة بضم الميم وسكون الحاء المهملة وبالفاء ميقات أهل مصر =

۶۰۱۲ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ،  
عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ ، مِنْ شَكْوَى أَشْفَيْتُ  
مِنْهَا عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِيئِي  
إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي ؟ قَالَ : (لَا) . قُلْتُ : فَبَسْطِرِهِ ؟ قَالَ : (الثُّلُثُ كَثِيرٌ ،  
إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً  
تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي أَمْرَاتِكَ) . قُلْتُ : أَأَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟  
قَالَ : (إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ ، فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، إِلَّا أزدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَّكَ  
تُخْلَفُ حَتَّى يَنْتَمِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْنُصِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدَّهُمْ  
عَلَيَّ أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ) . قَالَ سَعْدٌ : رَأَيْتُ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ تُؤْفَى  
بِمَكَّةَ . [ ر : ۵۶ ]

حضرت عامر بن سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد (سعد) نے بیان کیا کہ  
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری اس بیماری میں جس میں میں قریب الموت تھا، حجۃ  
الوداع کے موقع پر میری عیادت کو تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے جو  
تکلیف ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں مالدار ہوں لیکن ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی  
وارث نہیں، تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، تو میں نے پوچھا  
نصف مال (خیرات کر دوں)؟ آپ نے فرمایا تہائی بہت زیادہ ہے، ورنہ کو مالدار چھوڑنا  
تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ ان کو محتاج چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز  
کرتے پھریں اور تم اللہ کی رضا مندی کی خاطر جو بھی خرچ کرو گے، اللہ اس کا اجر دے گا  
یہاں تک کہ اس لقمہ کا بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے، میں نے کہا کیا میں اپنے  
ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم پیچھے چھوڑ دیئے جاؤ اور پھر کوئی  
عمل کرو، جس سے مقصود اللہ کی رضا جوئی ہو تو تمہارے درجہ اور بلندی میں اضافہ ہوگا، اور

امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے۔ اور کچھ قومیں یعنی مسلمان تم سے نفع اٹھائیں گے اور دوسرے یعنی کافروں کو آپ کی وجہ سے نقصان پہنچے گا، اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت پوری کر دے اور ان کو ایڑیوں کے بل واپس نہ کر، البتہ افسوس سعد بن خولہ کا ہے (کہ وہ اپنی ہجرت پوری نہ کر سکے) سعد نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مکہ ہی میں انتقال کے سبب افسوس کیا (کہ وہ ہجرت نہیں کر سکے)۔

### أَشْفَيْتَ مِنْهَا عَلَيَّ الْمَوْتِ

اشفیت بمعنی اشرف ہے، یعنی اس بیماری کی وجہ سے میں نے موت کی قربت محسوس کی، امام زہری رحمہ اللہ کے تمام شاگرد اس پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے، سوائے سفیان بن عیینہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔

بعض محدثین نے فرمایا کہ سفیان بن عیینہ سے وہم ہوا ہے اور صحیح بات حجۃ الوداع والی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو تعدد واقعات پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے، اس طرح دونوں روایات میں تطبیق ہو جائے گی (۳۳)۔

يَتَسَكَّفُونَ النَّاسَ: یعنی يسألون الناس بأكفهم أو يسألون ما يكف عنهم الجوع (یعنی وہ لوگوں کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلا کر سوال کرتے یا لوگوں سے ایسی چیز مانگتے جو ان کی بھوک ختم کر دے)۔

### حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب کی اس دوسری حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے اپنے درد اور وجع کا ذکر کیا ہے اور ترجمۃ الباب میں وجع کا ذکر ہے، اس پہلو سے حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے (۳۵)۔

(۳۳) فتح الباری: ۳۶۳/۵-۳۶۴، وقال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروایتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين: مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع، ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلاً، وفي الثانية كانت له ابنة فقط، فالله أعلم. انتهى.

(۳۴) فتح الباری: ۳۶۶/۵

(۳۵) فتح الباری: ۱۸۰/۱۱

علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ترجمۃ الباب میں ”دعا برفع الوجع“ ہے، اور حدیث کے اندر ”دعا برفع الوجع“ نہیں ہے، البتہ حدیث کے آخر میں ”اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم“ (اے اللہ! تو میرے اصحاب کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں واپس نہ کر)، سے حدیث اور ترجمہ کے درمیان مناسبت ہو سکتی ہے، فلان فیہ إشارة لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرة، وہی المدینہ (۳۶)۔ یعنی: ”اس میں حضرت سعدؓ کے لئے عافیت کی طرف اشارہ ہے تاکہ وہ دار ہجرت کی طرف لوٹ جائیں اور دار ہجرت مدینہ منورہ ہے۔“

#### ۴۳ - باب : الأستعاذۃ من أزدل العمر ، ومن فتنۃ الدنیا ، وفتنۃ النار .

”تعوذ من اذل العمر“ کا ترجمہ الباب پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن وہاں صرف ایک امر یعنی ارذل عمر کا ذکر تھا اور یہاں فتنۃ الدنیا اور فتنۃ النار کا بھی اضافہ ہے، اس لئے ترجمہ الباب کا تکرار نہیں ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا لکھتے ہیں:

”مغایرة هذه الترجمة بالترجمة السابقة باعتبار زيادة الجزء الأخير  
ومن عادته أنه ربما يذكر مجموع الأمور التي أراد ذكرها في باب واحد، ثم  
يذكر واحدا منها في باب باب، فيعقد لكل منهما بابا مستأنفا، ليكون كل  
منها مستقلا بالإفادة“ (۳۷)۔

یعنی: ”ترجمہ الباب کا تکرار نہیں، بلکہ یہ ترجمہ، سابقہ ترجمہ سے بایں طور مختلف ہے کہ اس میں آخری جزء (من فتنۃ الدنیا) کا اضافہ ہے، دراصل امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ کبھی کبھار ایک ہی باب کے اندر تمام امور ذکر کر دیتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک امر کے لئے وہ علیحدہ علیحدہ مستقل باب قائم کرتے ہیں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ہر امر کی مستقل افادیت ہے۔“

(۳۶) عمدة القاري: ۲۳/۸

(۳۷) الأبواب والتراجم لصحيح البخاري: ۱۲۹/۲

۶۰۱۳ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهِنَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبَنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أُرْدَالِ الْعُمَرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ) . [ ر : ۲۶۶۷ ]

حضرت مصعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کلمات کے ذریعے پناہ مانگو جن کے ذریعے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ (وہ کلمات یہ ہیں) اللہم انی أعوذ بک من الجبن وأعوذ بک من البخل وأعوذ بک من أن أُرَدَّ إلى أُرْدَالِ الْعُمَرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ .  
سند میں حسین سے حسین بن علی جعفی، ان کے شیخ زائدہ بن قدامہ ہیں اور وہ عبد الملک بن عمیر سے نقل کرتے ہیں۔

۶۰۱۴ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَنِيِّ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ التَّلْحِجِ وَالْبَرْدِ ، وَتَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا ، كَمَا يُتَّقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) . [ ر : ۶۰۰۷ ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ

دعا پڑھا کرتے تھے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ.....

مغرم اور مآثم دونوں مصدر میسی ہیں، مغرم سے یا گناہوں اور معصیوں کا بوجھ مراد ہے اور یا قرض کا بوجھ مراد ہے قرض کا بوجھ بھی درحقیقت معصیت کا ذریعہ بن جاتا ہے (۳۸)، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول

(۳۸) وفي فتح الباري: والمراد الإثم والغرامة، وهي ما يلزم الشخص أداءه كالدين، باب التعوذ من المأثم

ہے کہ مقروض جب ادائیگی قرض پر قادر نہ ہو، تو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتے ہوئے خلاف ورزی کرتا ہے۔

#### ۴۴ - باب : الأستعاذة من فتنة الغنى .

۶۰۱۵ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالَتِهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ) . [ر : ۶۰۰۷]

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت اس طرح پناہ مانگا کرتے تھے: اللہم

إني أعوذ بك من فتنة النار.....

غنی اور مالداری کا فتنہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں صرف

کرے (۳۹)۔

#### ۴۵ - باب : التَّعَوُّذُ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ .

۶۰۱۶ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَسُرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَسُرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

(۳۹) کما فی "عمدة القاري" کتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم: ۵/۲۳، مانصه: "قوله ومن

شرفتنه الغنى هي نحو الطغيان والبطر وعدم تادية الزكاة. وكذا في فتح الباري، كتاب الدعوات، باب التعوذ

من المأثم والمغرم: ۱۷۷/۱۱ مانصه: قال الغزالي: فتنه الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من

غير حله ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه.



شَرَّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ النَّجِّ وَالْبَرْدِ ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا  
 نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ  
 وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسْلِ ، وَالْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ . [ر : ۶۰۰۷]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے اور قبر کے فتنے اور عذاب قبر سے، اور مالدار کی فتنے کے شر سے اور فقر کے فتنے کے شر سے، اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے کے شر سے، اے اللہ میرے قلب کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے قلب کو گناہوں سے صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو گندگی سے صاف کر دیا۔ اور میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان ویسی ہی دوری کر دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری کر دی ہے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے اور گناہ اور قرض سے۔

### فتنہ فقر کا مطلب

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقر کے فتنے سے بھی پناہ مانگی ہے، فتنہ فقر یہ ہے کہ انسان کے لئے اس کا فقر گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں کا ذریعہ بن جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا (۴۰)۔ یعنی ”قریب ہے کہ فقر باعث کفر بن جائے“، فقر کی وجہ سے اگر دل کے اندر مالدار کا حسد آتا ہے، اللہ کی طرف سے دل میں شکوہ و شکایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مال کمانے اور مالدار بننے کی جائز و ناجائز طریقے سے ہوس پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی تمام باتیں ”فتنہ فقر“ میں داخل

(۴۰) حلیۃ الأولیاء للحافظ أبی نعیم الأصفہانی: ۳/۶۲، ۱۳۰، رقم الحدیث: ۳۱۶۹، ۳۴۳۱، وإتحاف

ہیں (۴۱)۔

۴۶ - باب : الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ مَعَ الْبِرِّكَةِ .

۶۰۱۷ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ،

عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَسُ خَادِمُكَ ، أَدْعُ اللَّهَ لَهُ ، قَالَ :  
(اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ ، وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ) .

وَعَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : مِثْلَهُ . [ر : ۱۸۸۱]

حضرت انسؓ، حضرت ام سلیم سے روایت کرتے ہیں کہ ام سلیم نے عرض کیا  
یا رسول اللہ! انسؓ آپ کا خادم ہے، آپ اللہ سے اس کے حق میں دعا فرمائیں۔ آپ نے  
فرمایا اے اللہ! اس کے مال اور اولاد میں زیادتی عطا کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا اس میں  
برکت عطا فرما، اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالکؓ کو اسی طرح  
بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔

### کثرت مال و اولاد بغیر برکت کے فتنہ

اس باب میں مال کی کثرت کی دعا مانگی گئی ہے لیکن برکت کے ساتھ اور اگلے باب میں کثرت ولد مع  
البر کے دعا مانگی گئی ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت اگر برکت کے ساتھ ہو  
تب تو خیر اور بھلائی ہے لیکن اگر بغیر برکت کے ہے تو فتنہ ہے (۴۲)۔

(۴۱) فتح الباری، کتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم: ۱۱/۱۷۷، وعمدة القاری، کتاب  
الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم: ۲۳/۵۰، وإتحاف السادة، کتاب ذم الغضب والحقد والحسد:

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت کی دعا مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر اور ان کے مال و دولت اور اولاد میں بڑی برکت عطا فرمائی، جس کی تفصیل گزر چکی ہے (۴۳)۔

ابن قتیبہ نے ”معارف“ میں لکھا ہے کہ بصرہ کے اندر تین شخص ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں اور پوتوں وغیرہ میں سے سو تک افراد دیکھے، ایک حضرت انسؓ، دوم حضرت ابوبکرؓ اور سوم خلیفہ بن بدر اور بعضوں نے مہلب بن ابی صفرہ کو بھی اس میں شمار کیا ہے (۴۴)۔

سند میں امام بخاری کے شیخ اشبح غندر ہیں، ان کا نام محمد بن جعفر ہے۔

#### ۴۷ - باب : الدُّعَاءُ بِكَثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ الْبِرَّةِ .

۶۰۱۸ : حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ ، سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ : أَنَسُ خَادِمِكَ ، أَدْعُ اللَّهَ لَهُ ، قَالَ : (اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ ، وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ) . [ ر : ۱۸۸۱ ]

حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے انسؓ سے سنا کہ ام سلیمؓ نے عرض کیا، انسؓ آپ کا خادم ہے آپ نے فرمایا، یا اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی عطا کر اور جو کچھ تو نے اس کو دیا ہے، اس میں برکت عطا فرما۔

#### ۴۸ - باب : الدُّعَاءُ عِنْدَ الْإِسْتِخَارَةِ .

### استخارہ کے لغوی و اصطلاحی معنی

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے استخارہ کی دعا ذکر کی ہے، استخارہ کے لغوی معنی ہیں خیر طلب کرنا

(۴۳) فتح الباری : ۱۱/۱۴۵

(۴۴) وزاد علی قول ابن قتیبہ الحافظ فی فتح الباری : وزاد غیرہ - ای غیر ابن قتیبہ - رابعاً وهو : المہلب بن

أبي صفره . كتاب الدعوات ، باب دعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله :

اور اصطلاح شرع میں استخارہ کے معنی ہیں دو کاموں میں سے کسی ایک کام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا کہ ان میں جو اس کے لئے بہتر ہو، وہ اسی کو اختیار کرے (۱)۔

## استخارہ کی اہمیت و فضیلت

یہاں بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت سند حسن کے ساتھ نقل کی ہے، اس میں ہے: ”من سعادة ابن آدم استخارته اللہ“ (۲)۔ یعنی: ”ابن آدم کی سعادت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے“۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے: ”إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد أمراً، قال: اللهم خذلي، واخترلي“ (۳)۔ یعنی: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے تو یوں دعا فرماتے: ”اللهم خذلي، واخترلي“ اے اللہ! تو میرے لئے خیر والے کام کا انتخاب فرما“۔

اسی طرح طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے..... ”ماخاب من استخار“ (۴)۔ یعنی: ”جس شخص نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا“۔

ان دونوں حدیثوں کی سند اگرچہ ضعیف ہے (۵)، لیکن اس سے استخارہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

(۱) فتح الباری: ۱۱/۱۷۳

(۲) نصّ الحديث تماماً ”قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته اللہ، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه اللہ، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارته اللہ، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى اللہ عزوجل (مسند أحمد: ۱/۵۵۹-۵۶۰، رقم الحديث: ۱۴۴۴)

(۳) سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب دعاء: اللهم خذلي واخترلي، رقم الحديث: ۳۵۱۶

(۴) فتح الباری: ۱۱/۱۸۴

(۵) فتح الباری: ۱۱/۱۷۴۔ قال الحافظ: ومن حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد أمراً قال: اللهم خذلي واخترلي وأخرجه الترمذی وسنده ضعیف وفي حديث أنس رفعه ”ماخاب من استخار“ والحديث أخرجه الطبرانی في ”الصغير“ بسندواہ جداً.

۶۰۱۹ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُضْعَبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ : (إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْ عَنِّي ، وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ ، وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ .

[د : ۱۱۰۹]

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تمام امور میں استخارہ کی تعلیم کرتے تھے، جس طرح قرآن کی سورۃ سکھاتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے، تو دو رکعت نماز پڑھے، پھر کہے: اے اللہ! میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی وجہ سے تجھ سے قدرت مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی قادر ہے، میں قادر نہیں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو تمام پوشیدہ چیزوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے، اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے، میرے دین، میری معاش اور انجام کام کے اعتبار سے بہتر ہے تو تو اس کو میرے لئے مقرر و مقدر کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے، میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے خیر مقدر کر دے جہاں بھی ہو اور پھر مجھے اس پر راضی اور مطمئن کر دے۔

عبدالرحمن بن ابی الموال

عبدالرحمن بن ابی الموال: مسوال، مؤلی کی جمع ہے، ابوالموال کا نام زید ہے اور بعضوں نے کہا کہ زید

عبدالرحمن کا دادا ہے اور ان کے والد ابوالموال کا نام معلوم نہیں ہو سکا (۶)، ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی توثیق کی ہے، چنانچہ امام نسائی، امام ترمذی، امام ابوداؤد اور امام ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا (۷)۔ ابن عدی نے اگرچہ ”الکامل“ میں ان کا تذکرہ کیا ہے جو ضعیف راویوں پر مشتمل کتاب ہے، لیکن انہوں نے کہا ”حدیث استخارہ“ ان کے علاوہ دوسرے راویوں نے بھی نقل کی ہے اور اس کے کئی ”شواہد“ ہیں (۸)، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہ حدیث ذکر فرمائی اور فرمایا: ”وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب“ (۹)۔

## استخارہ کن امور میں جائز ہے؟

يَعْلَمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام امور میں ہمیں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، جیسے قرآن کریم کی سورتیں سکھاتے تھے، اسی طرح دعائے استخارہ سکھاتے تھے، تمام امور سے مراد مباح امور ہیں، کیونکہ واجب اور مستحب امور اختیار کرنے میں استخارہ کی ضرورت نہیں اور جو امور شرعاً ممنوع ہیں، ان میں بھی استخارہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ شرعاً متروک ہیں، البتہ دو کام مباح ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے یا دو مستحب میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے تو اس میں استخارہ کیا جائے گا (۱۰)۔

## استخارہ کا طریقہ

فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول ..... یعنی استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھی جائیں، ”من غير الفريضة“ کی قید لگا کر بتلایا کہ یہ دو رکعت نفل ہوں، مثلاً صبح کی دو رکعت فرض نماز نہ ہو اور پھر دعا پڑھی جائے جو روایت میں مذکور ہے، یہ دعا نماز کے بعد پڑھی جائے گی اور اگر نماز کے اندر سجدے

(۶) فتح الباري: ۱۱/۱۷۳

(۷) تہذیب الکمال: ۱۷/الترجمة: ۳۸۷۲

(۸) الكامل لابن عدی: ۵/الترجمة: ۱۱۳۴/۱۶۷

(۹) جامع الترمذی، کتاب الوتر، باب ماجاء فی صلاة الاستخارہ، رقم الحدیث: ۴۸۰

(۱۰) فتح الباري: ۱۱/۱۷۴

بعد پڑھی جائے گی اور اگر نماز کے اندر سجدے میں یا قعدہ تشہد میں پڑھ لے تو بھی کافی ہے (۱۱)، بہر حال دعایا نماز کے بعد ہو یا نماز کے آخر میں ہو، چنانچہ ابن ابی جرہ لکھتے ہیں:

”الحكمة في تقديم الصلوة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة؛ فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أسجع، ولا أنجع من الصلوة، لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه، والافتقار إليه مآلاً وحالاً“ (۱۲)۔

یعنی: نماز کو دعائے استخارہ پر مقدم کرنے میں حکمت یہ ہے کہ استخارہ سے مقصود دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا حصول ہے، تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے در رحمت کو کھٹکانے کی ضرورت پیش آئے گی اور اس کے لئے نماز کے علاوہ کوئی چیز زیادہ مفید و کارگر نہیں، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی تحمید و ثناء پر مشتمل ہے، نیز اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار ہے، مآلاً بھی اور حالاً بھی۔

### ایک اشکال اور اس کا جواب

اللهم إن كنت تعلم..... علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے اشکال کیا ہے ”إن“ حرف شک ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں شک کرنا جائز نہیں۔

اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہ کے علم میں شک نہیں بلکہ اس میں شک ہے کہ اللہ کا علم خیر اور شر میں سے کس سے متعلق ہے، خیر سے یا شر سے (۱۳)۔

فاقد رہ لسی: یہ دال کے زیر اور دال کے پیش دونوں کے ساتھ درست ہے، پہلی صورت میں باب

ضرب سے اور دوسری صورت میں باب نصر سے ہوگا (۱۴)۔

(۱۱) فتح الباری: ۱۷۵/۱۱-۱۸۶

(۱۲) فتح الباری: ۱۷۶/۱۱

(۱۳) شرح الکرمانی: ۱۶۹/۲۲

(۱۴) فتح الباری: ۱۷۶/۱۱، ونصہ: قال أبو الحسن القاسبي: أهل بلدنا يكسرون الدال وأهل الشرق يضمونها.

استخارہ کرنے کے بعد دل کا میلان جس طرف ہو جائے، اسی کو اختیار کیا جائے اور اگر میلان کسی طرف نہیں ہے تو دوبارہ استخارہ کیا جائے، بلکہ ابن السنی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، اس میں سات بار استخارہ کا ذکر ہے (۱۵)۔ اگرچہ محدثین نے اس کی سند کو انتہائی ضعیف قرار دیا ہے (۱۶)۔

ویسمی حاجتہ

یعنی استخارہ کرنے والا اپنی حاجت کا نام لے، اللھم إن كان هذا الأمر..... اس میں ”هذا الأمر“ کی جگہ اپنی حاجت کا ذکر کرے مثلاً کوئی شادی اور نکاح کے لئے استخارہ کرتا ہے تو کہے گا ”اللھم إن كان التزوج بفلانة.....“

۴۹ - باب : الدُّعَاءِ عِنْدَ الوُضُوءِ .

ترجمہ الباب کی غرض

اکثر نسخوں میں باب ان الفاظ کے ساتھ ہے اور مقصد وضو کے وقت دعا کا ثبوت بیان کرنا ہے، لیکن ہندوستانی نسخوں میں ”باب الوضوء عند الدعاء“ ہے، علامہ عینی رحمہ اللہ نے ”باب الدعاء عند الوضوء“ کو زیادہ مناسب قرار دیا (۱)، لیکن شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے ہندوستانی نسخے کو زیادہ اوجہ قرار دیا، وہ لکھتے ہیں:

”والأوجه عندي ما في النسخ الهندية، أي: الوضوء عند الدعاء،

والفرق بين اللفظين ظاهر، والدليل على ما اخترته سياق الحديث؛ فقد تقدم

الحديث في الباب المذكور بلفظ: قال (أي: أبو عامر): قال له (صلى الله

تعالى عليه وسلم): استغفر لي، فدعا بماء، فتوضأ، ثم رفع يديه.....؛ فهذا

(۱۵) ونص الحديث - كما في فتح الباري: ۱۱/۱۷۷ - إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعاً ثم انظر إلى

الذي يسبق في قلبك فإن الخير فيه

(۱۶) فتح الباري: ۱۱/۲۲۳

(۱) عمدة القاري: ۱۲/۲۳



یدل علی أن الوضوء إنما كان لقصده الدعاء، فالغرض من الترجمة: بیان آداب الدعاء“ (۲)۔

یعنی: ”میرے نزدیک ہندوستانی نسخوں میں مذکور ”باب الوضوء عند الدعاء“ زیادہ اوجہ ہے، دونوں ترجموں کے درمیان فرق بالکل ظاہر ہے۔ میری رائے کی تائید حدیث کے سیاق سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیش نظر باب کی حدیث پہلے ان الفاظ سے گزر چکی ہے: ابو عامر نے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ وہ میرے لئے استغفار کریں، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضوء کر کے پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے.....“۔

تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضوء کرنا دعا کے ارادے سے تھا، اس سے معلوم ہوا کہ ترجمہ الباب کی غرض دعا کے ایک ادب کو بیان کرنا ہے۔

۶۰۲۰ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : (اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ) . وَرَأَيْتُ بِيَاضَ إِنْطِيهِ ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ) . [ ر : ۲۷۲۸ ]

حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی مانگا اور وضوء کیا، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ! عبید ابی عامر کو بخش دے اور میں نے آپ کی بغل کی سفیدی دیکھی، پھر فرمایا کہ اے اللہ! قیامت کے دن اپنی مخلوق میں بہت سارے لوگوں سے اس کا مرتبہ بلند کر۔

سند میں ابو اسامہ کا نام حماد بن سلمہ، ابو بردہ کا نام عامر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام

عبداللہ بن قیس ہے (۳)۔

(۲) الأبواب والتراجم: ۱۲۹/۲

(۳) عمدة القاري: ۱۶/۲۳

یہ روایت غزوہ اوطاس میں تفصیل سے گزر چکی ہے، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پیچھا، حضرت عبید رضی اللہ عنہ کو تیر لگا، انہوں نے زخمی حالت میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا: ”بھتیجے! حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرا سلام کہتے اور ان سے میرے لئے استغفار کی درخواست کریں“ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ان کا پیغام ملا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو فرمایا اور پھر ان کے لئے دعا فرمائی۔

### ۵۰- باب : الدُّعَاءُ إِذَا عَلَا عَقَبَةٌ .

عَقَبَةٌ (عین اور قاف کے زبر کے ساتھ) گھائی کو کہتے ہیں، اس باب میں گھائی اور چڑھائی چڑھتے ہوئے دعا کا بیان ہے۔

۶۰۲۱ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا) . ثُمَّ آتَى عَلِيٌّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، فَقَالَ : (يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، فَإِنَّهَا كُنْتُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ) . أَوْ قَالَ : (أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كُنُوزُ الْجَنَّةِ ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) . [ر : ۲۸۳۰]

حضرت ابوموسیٰؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے،

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! اپنے اوپر نرمی کرو، اس لئے کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس کو پکارتے ہو، جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، پھر میرے پاس تشریف لائے (میں اپنے دل میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ رہا تھا) تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ اس لئے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا (راوی کو شک ہے کہ) آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا

قوة إلا باللّٰه ہے۔

حدیث کے اندر دعا کا ذکر نہیں، بلکہ تکبیر کا ذکر ہے، البتہ ”فإنکم لاتدعون أصمّ ولا غائباً.....“ میں دعا کا تذکرہ ہے اور ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت کے لئے امام کے ہاں اتنی بات کافی ہے (۴)۔

اربعوا علی أنفسکم أي: ارفقوا بہا، ولا تبالغوا فی الجہر..... یعنی: ”اپنے اوپر رحم کرو اور جہر میں اتنا مبالغہ نہ کرو۔ اربعوا، باب سماع سے امر حاضر جمع کا صیغہ ہے۔

یہ کس سفر کا واقعہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”لم أقف علی تعینہ“ (۵)۔ یعنی: ”مجھے متعین طور پر اس کا علم نہیں ہو سکا۔“

۵۱- باب : الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا .

فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ . [ر : ۲۸۳۱]

جس طرح چڑھائی پڑھتے ہوئے دعا ثابت ہے، اسی طرح وادی اترتے ہوئے بھی دعا اور ذکر ثابت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”فیه حدیث جابر رضی اللہ عنہ“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کتاب الجہاد میں گزر چکی ہے، وہاں الفاظ ہیں: ”کننا إذا صعدنا کبرنا، وإذا نزلنا سبحنا“ (۶)۔ (چڑھائی پڑھتے وقت ہم تکبیر کہتے اور اترتے وقت تسبیح پڑھتے)۔ مستملی اور کشمیری کے علاوہ باقی نسخوں میں یہ باب نہیں ہے (۷)۔

۵۲- باب : الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ .

فِيهِ بَعْضُ بَنِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ . [ر : ۲۹۱۹]

سفر سے لوٹتے ہوئے بھی دعا اور ذکر ثابت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”فیه یحییٰ بن ابی

(۴) فتح الباری: ۱۱/۱۸۸

(۵) فتح الباری: ۱۱/۱۸۸

(۶) صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب التسییح إذا هبط وادیا، رقم الحدیث: ۲۹۹۳

(۷) فتح الباری: ۱۱/۱۸۸

إسحاق عن أنس. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کتاب الجہاد میں موصولاً گزر چکی ہے (۸)۔

۶۰۲۲ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ . صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ) . [ر : ۱۷۰۳]

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد یا حج یا عمرے سے واپس ہوتے تو ہر اونچی زمین پر تین بار تکبیریں کہتے پھر فرماتے کہ لا إله إلا اللہ وحده لا شريك ..... یعنی اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے ہیں، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور فوجوں کو تنہا شکست دی۔  
حدیث کی مناسبت باب کے ساتھ بالکل واضح ہے۔

### ۵۳ - باب : الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ .

۶۰۲۳ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ : (سَهْمٌ ، أَوْ مَهْمٌ . قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاقٍ) . [ر : ۱۹۴۴]

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف پر زردی کا نشان دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک

عورت سے ایک گٹھلی کے برابر سونے کے عوض نکاح کر لیا ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تجھے برکت دے، ولیمہ کی دعوت کر، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔

کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو اس کے لئے دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ باب کی پہلی روایت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے لئے دعا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں ہے کہ جب کوئی شادی کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لئے ان الفاظ کے ساتھ دعا فرماتے: ”بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما بخیر“ (۹)۔ (اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور تم پر برکتیں نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر و عافیت کے ساتھ اکٹھا رکھے)۔

۶۰۲۴ . حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ ، فَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ) . قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : (بِكْرًا أَمْ نَيْبًا) . قُلْتُ : نَيْبًا ، قَالَ : (هَلَّا جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ ، أَوْ تَضَاحِكُهَا وَتَضَاحِكُكَ) . قُلْتُ : هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ ، فَفَكَرِهْتُ أَنْ أَجِئُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْنَّ ، قَالَ : (فَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ) .  
لَمْ يَقُلْ أَبُو عَيْسَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو : (بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ) . [ ر : ۴۳۲ ]

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد وفات پا گئے، اور سات

یانو بیٹیاں چھوڑیں، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے نکاح کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے فرمایا کنواری ہے، یا بیوہ؟ میں نے کہا بیوہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کنواری۔ سے کیوں نہ نکاح کیا، کہ تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی؟ یا فرمایا تو اس کو ہنساتا اور وہ تجھ کو ہنساتی؟ میں نے عرض کیا کہ میرے والد مر گئے، اور انہوں نے سات یانو بیٹیاں چھوڑیں، اس لئے مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کے پاس ان ہی جیسی لڑکی لاؤں، چنانچہ میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو ان کی نگرانی

(۹) سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب ما یقال للمتزوج، رقم الحدیث: ۳۱۳۰، وانظر جامع الترمذی،

أبواب النکاح، باب ما جاء فیما یقال للمتزوج، رقم الحدیث: ۹۱

کرے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، ابن عیینہ اور محمد بن مسلم نے عمرو سے بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ کے الفاظ نقل نہیں کئے۔

یعنی حماد بن زید کے علاوہ عمرو بن دینار سے یہ روایت دو اور راویوں نے بھی نقل کی ہے، ایک سفیان بن عیینہ اور دوم محمد بن مسلم طاہمی، ان دونوں کی روایتیں کتاب المغازی میں گزر چکی ہیں، ان میں ”بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ“ کے الفاظ نہیں ہیں (۱۰)۔

### ۵۴ - باب : مَا يَقُولُ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَهُ .

۶۰۲۵ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يَقْدَرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) . [ر : ۱۴۱]

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے (یعنی صحبت کرنے) کا ارادہ کرے اور پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان مما رزقتنا (پھر) اگر اس صحبت سے کوئی اولاد مقدر ہے، تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچائے گا۔

### مباشرت کی دعا

اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے بیوی کے ساتھ مباشرت کی دعا ذکر فرمائی ہے، حاصل یہ ہے کہ جنسی تقاضے کو جائز طریقے سے پورا کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور غافل نہیں رہنا چاہیے، ورنہ عموماً یہ حالت سرمستی اور مدہوشی کی ہوتی ہے لیکن ایک مومن کی زندگی کے تمام لمحات میں سے کوئی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اپنی فکر سے خالی نہیں رہنا چاہیے، اور اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو بڑی خوبصورت دعا کی تعلیم دی، اللہ اکبر!

۵۵ - باب : قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً).

۶۰۲۶ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ :

كَانَ أَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ : (اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَفَنَّا عَذَابَ النَّارِ) . [ ر : ۴۲۵۰ ]

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اکثر دعا

یہ تھی اللہم ربنا آتنا ..... یعنی اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کے

عذاب سے بچا۔

### ایک جامع قرآنی دعا

اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جامع قرآنی دعا ذکر فرمائی جس کا ورد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت کیا کرتے تھے، اس دعا کے اندر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے حسنہ طلب کیا گیا ہے اور جہنم سے بچاؤ طلب کیا گیا ہے، دنیا کے اندر حسنہ سے مراد ایمان و اسلام کے ساتھ عافیت، نیک بیوی اور اولاد ہے اور آخرت کا حسنہ جنت اور نجات ابدی ہے (۱۱)۔

۵۶ - باب : التَّعَوُّذُ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا .

۶۰۲۷ : حَدَّثَنَا فَرَوَةَ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ : حَدَّثَنَا عَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ،

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، كَمَا تَعَلَّمُ الْكِتَابَةَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُرَدَّ إِلَى أَرْضِ الْعُمَرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ) . [ ر : ۲۶۶۷ ]

حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد (سعد بن ابی وقاص) سے

روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کلمات اس

طرح سکھاتے تھے، جس طرح لکھنا سکھایا جاتا ہے، اللہم انی أعوذ بک ..... یعنی یا اللہ!

میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں

اس بات سے کہ عمر کے ذلیل ترین مرحلہ کی طرف لوٹایا جاؤں اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا

کے فتنے سے اور عذاب قبر سے۔

### ۵۷- باب : تکریرِ الدُّعَاءِ .

۶۰۲۸ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْدِرٍ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طُبَّ ، حَتَّى إِنَّهُ لِيُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ ، وَإِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : (أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ) . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : (جَاءَنِي رَجُلَانِ ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : مَطْبُوبٌ ، قَالَ : مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ : لَيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ ، قَالَ : فِيمَاذَا ؟ قَالَ : فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٍّ طَلَعَةٍ ، قَالَ : فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : فِي ذَرْوَانَ) . وَذَرْوَانُ بَيْتٌ فِي بَنِي زُرَيْقٍ ، قَالَتْ : فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : (وَاللَّهِ لَكَانَ مَاءَهَا نُقَاعَةَ الْحِجَاءِ ، وَلَكَانَ نَحْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ) . قَالَتْ : فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبَيْتِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا أَخْرَجْتَهُ ؟ قَالَ : (أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا) .

زَادَ عَيْسَى بْنُ يُونُسَ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُحِرَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَدَعَا وَدَعَا ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ . [ ر : ۳۰۰۴ ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو

کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کا خیال ہوتا کہ ایک کام کر چکے، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا۔ چنانچہ آپ نے اپنے رب سے دعا کی، پھر فرمایا (اے عائشہ) کیا تو جانتی ہے کہ اللہ نے مجھے وہ بات بتادی جو میں دریافت کرنا چاہتا تھا، حضرت عائشہ نے پوچھا وہ بات کیا تھی یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھا، ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا ”اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا: اس پر جادو کیا گیا ہے (پہلے نے) پوچھا کس نے جادو کیا، اس نے کہا لید بن اعصم نے پوچھا، کس چیز میں، جواب دیا کنگھی میں اور کنگھی سے نکلے ہوئے بالوں میں اور کھجور کے غلاف



میں، (پہلے نے) پوچھا وہ کہاں ہے (دوسرے نے) کہا ذروان میں، ذروان بنی رزیق میں ایک کنواں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آنحضرت اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹے، تو فرمایا: واللہ اس کا پانی مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ ہے، اور اس کے پاس کھجوروں کے درخت گویا شیطانوں کے سر ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آئے، اور کنویں کی حالت بیان کی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اس کو نکال کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی اور میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ لوگوں پر شر کو برا بھیختے کروں، عیسیٰ بن یونس ولیث نے ہشام سے بواسطہ عروہ عن عائشہ نقل کیا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا، تو آپ نے دعا فرمائی، پھر پوری حدیث بیان کی۔

### بار بار دعا کرنا مستحب ہے

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار دعا کیا کرتے تھے، دعا میں تکرار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھا، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین بار دعا کرنا اور تین بار استعمال کرنا پسند تھا (۱۲)۔

باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت ذکر کی ہے، وہ اس سے پہلے کتاب الطب میں گزر چکی ہے، روایت باب میں ”تکرار دعاء“ نہیں ہے بلکہ ”دعائے“ کے الفاظ ہیں، البتہ کتاب الطب کی روایت میں ”دعا اللہ ودعاه“ مکرر وارد ہے (۱۳) اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں ہے: ”فدعاً، ثم دعاً.....“ امام نے اسی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی مناسبت ترجمہ الباب سے واضح ہے۔

### ۵۸ - باب : الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ .

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (اللَّهُمَّ اغْنِي عَنِّي بِسَبْعٍ كَسَبَعِ بُوسُفَ) .

[ر : ۹۶۲]

(۱۲) سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، رقم الحدیث: ۱۵۲۴

(۱۳) فتح الباری: ۱۱/۱۹۳، نیز دیکھئے کشف الباری، کتاب الطب: ۱۰۴

وَقَالَ : (اللَّهُمَّ عَلَيْكَ يَا بِي جَهْلِي) . [ر : ۲۳۷]  
 وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو : دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ : (اللَّهُمَّ الْعَنَّا فُلَانًا وَفُلَانًا) . حَتَّى أَنْزَلَ  
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» / آل عمران : ۱۲۸ . [ر : ۳۸۴۲]

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین اور کافروں کے لئے بددعا فرمائی ہے، اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کافر اور مشرک کے لئے بددعا کی۔

ترجمہ الباب میں تین تعلیقات ذکر فرمائی ہیں، پہلی تعلیق حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی ہے: "اللہم أعني عليهم....." (اے اللہ! تو ان کے مقابلہ میں میری مدد فرما.....) یہ تعلیق امام بخاری رحمہ اللہ نے استسقاء میں موصولاً ذکر فرمائی ہے (۱۳)۔

دوسری تعلیق بھی ان کی ہے: "اللہم عليك يا ببي جهل" (اے اللہ! تو ابو جہل کی گرفت کر)۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطہارۃ میں اس تعلیق کو بھی موصولاً نقل کیا ہے (۱۵)۔ اور تیسری تعلیق، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، اسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے "کتاب التفسیر" میں موصولاً نقل کیا ہے (۱۶)۔

۶۰۲۹ : حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ : أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْأَحْزَابِ ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ ، أَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ) . [ر : ۲۷۷۵]  
 حضرت ابن ابی اوفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کی مختلف جماعتوں اور احزاب کے لئے بددعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ! جو کتاب نازل

(۱۴) صحیح البخاری، کتاب الامتسقاء، باب دعاء النبی: "اجعلها عليهم سنين كسني يوسف" رقم الحديث: ۱۰۰۷

(۱۵) صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب إذا ألقى على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته:

رقم الحديث: ۲۴۰

(۱۶) صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب "ليس لك من الأمر شيء" رقم الحديث: ۴۵۵۹

کرنے والا ہے، اور جلد حساب لینے والا ہے، احزاب کو شکست دے، ان کو ہزیمت دے اور ان کو متزلزل کر دے (قدم ڈگر گادے)۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ کا نام محمد بن سلام (لام کی تخفیف کے ساتھ) ہے، ابن ابی خالد سے اسماعیل ابن ابی خالد مراد ہیں، ابو خالد کا نام سعید یا ہرمز ہے، ابن ابی اوفی کا نام عبد اللہ ہے اور ابو اوفی کا نام علقمہ ہے، یعنی عبد اللہ بن علقمہ، یہ دونوں صحابی ہیں (۱۷)۔

۶۰۳۰ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَتَّ : (اللَّهُمَّ أَنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَشَدُّ وَطْأَتِكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ) . [ ر : ۹۶۱ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز میں آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو قنوت پڑھتے، اے اللہ! عیاش بن ربیعہ کو نجات دلا، یا اللہ ولید بن ولید کو نجات دلا، اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات دلا، اے اللہ! کمزور مسلمانوں کو نجات دلا، یا اللہ! اپنی گرفت کو قبیلہ مضر پر سخت کر، اے اللہ! ان (کافروں) کو یوسف علیہ السلام کی (قحط سالی) کی طرح قحط سالی میں مبتلا کر دے۔

۶۰۳۱ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَنَّهُ : بَعَثَ النَّبِيَّ ﷺ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ فَأَصَابُوا ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَتَّتْ سَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ : (إِنَّ عَصِيَةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) . [ ر : ۹۵۷ ]

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سادستہ بھیجا، ان لوگوں کو قراءت کہا جاتا تھا وہ لوگ قتل کر دیئے گئے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ اتنے غمگین ہوتے ہوئے کسی واقعہ پر میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، چنانچہ نماز فجر میں آپ ایک ماہ تک قنوت پڑھتے رہے اور فرمایا کرتے تھے کہ قبیلہ عصبیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

ابوالاحوص کا نام سلام (بتشديد اللام) بن سلیم ہے، اور عاصم سے عاصم بن سلیمان احوال مراد ہیں (۱۸)۔

عُصَبِيَّةٌ، یہ عصا کی تصغیر ہے اور عرب کا مشہور قبیلہ ہے (۱۹)۔

۶۰۳۲ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ الْيَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُونَ : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ إِلَى قَوْلِهِمْ ، فَقَالَتْ : عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (مَهْلًا يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفِيقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ) . فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ ؟ قَالَ : (أَوَلَمْ تَسْمَعِي أَنِّي أَرَدْتُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ ، فَأَقُولُ : وَعَلَيْكُمْ) . [ر : ۲۷۷۷]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرتے، تو کہتے ”السام عليك“ حضرت عائشہ نے ان کی یہ بات سمجھ لی، تو انہوں نے کہا کہ تم ہی پر ہلاکت اور لعنت ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ! چھوڑو بھی، اللہ تعالیٰ تمام امور میں نرمی کو پسند کرتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا:، اللہ کے نبی! کیا آپ نے نہیں سنا جو ان لوگوں نے کہا ہے، آپ نے فرمایا: کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے، میں نے کہا ہے: نو علیکم یعنی تم ہی پر ہو۔ یہ حدیث کتاب الاستیذان میں گزر چکی ہے، سند میں ہشام سے ہشام بن یوسف مراد ہیں۔

(۱۸) عمدة القاري: ۱۸/۲۳

(۱۹) عمدة القاري: ۱۸/۲۳

۶۰۳۳ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : حَدَّثَنَا عَيْدَةُ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَقَالَ : (مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَيُوتِهِمْ نَارًا ، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوَسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ) . وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ . [ ر : ۲۷۷۳ ]

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ خندق کے دن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح ان لوگوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ سے غروب آفتاب تک روک رکھا، درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔

سند میں امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ اشبح ”انصاری“ ہیں، اس سے محمد بن عبد اللہ مراد ہیں، جو بصرہ کے قاضی تھے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، لیکن یہ روایت امام نے ان سے بالواسطہ نقل کی ہے اور عبیدہ (عین کے زبر اور باء کے زیر کے ساتھ) سے عبیدہ بن عمرو یا عبیدہ بن قیس مراد ہیں (۲۰)۔ یہ حدیث غزوہ خندق میں گزر چکی ہے۔

احادیث باب کی مناسبت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر روایت میں کسی ایک مشرک، یا مشرکین کی کسی جماعت کے لئے بددعا فرمائی ہے۔

#### ۵۹ - باب : الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ .

۶۰۳۴ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَأَدْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْنَا ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ أَهْدِ دَوْسًا وَأَنْتَ بِهِمْ) . [ ر : ۲۷۷۹ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! دوس نے نافرمانی کی اور انکار کیا اس لئے

علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! دوس نے نافرمانی کی اور انکار کیا اس لئے

آپ ان لوگوں کے حق میں بددعا کیجئے، لوگوں کا خیال تھا کہ آپ ان لوگوں کے لئے بددعا کریں گے (لیکن) آپ نے فرمایا: یا اللہ! دوس کو ہدایت دے، اور ان کو (میرے پاس) لے آئے۔

## ترجمہ الباب کی غرض

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین اور کفار کے لئے اگر ہدایت اور ایمان و اسلام کی دعا کی جائے تو جائز ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سند میں ابو الزناد کا نام عبد اللہ بن ذکوان ہے۔ روایت باب کتاب المغازی میں گزر چکی ہے (۲)۔

اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل فرمائی ہے،

۶۰ - باب : قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ)

جس میں آپ نے اللہ جل شانہ سے اپنے لئے مغفرت کی دعا کی ہے۔

## ایک اشکال اور اس کا جواب

اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہیں، تو ان کے حق

میں اس دعا کے کیا معنی ہیں؟

① اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ استغفار اور دعا کرنا بطور شکر اور تواضع تھا اور اظہارِ عبدیت کے طور پر تھا، یعنی اگرچہ اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے گناہوں سے حفاظت اور مغفرت کا فیصلہ فرمایا تاہم اللہ تعالیٰ کے اس خصوصی کرم اور فضل کے تقاضہ کی بناء پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے اور اللہ جل شانہ نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورۃ نصر میں استغفار کا حکم دیا: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾۔ نیز دعا کرنا بجائے خود ایک عبادت ہے، بلکہ حدیث میں تو اسے ”مُخَّ الْعِبَادَةِ“ قرار دیا گیا ہے (۲۱)۔

② دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ گناہوں سے معصوم تھے، لیکن

(۲) کشف الباری، کتاب المغازی: ۶۱۳

(۲۱) فتح الباری: ۱۱/۲۳۷، وإرشاد الساری: ۱۳/۳۹۴، وقال العینی: ”هذا إرشاد لأمتہ وتعلیم لهم، وهو

معصوم عن الذنوب جميعها قبل النبوة، وبعدها“ (عمدة القاری: ۲۳/۲۹)

بسا اوقات خلافِ افضل اور خلافِ اولیٰ امور آپ سے سرزد ہو جاتے، مثلاً فاضل کو افضل پر ترجیح دی اور اگرچہ اس طرح کسی امر کا صادر ہونا ”معصیت“ کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن ”حسنات الأبرار سیئات المقربین“ کے قاعدے کی رو سے اسے اپنے حق میں سیرہ سمجھ کر آپ استغفار فرمایا کرتے تھے (۲۲)۔

۶۰۳۶/۶۰۳۵ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ صَبَّاحٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : (رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمَقْدُمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .  
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ : وَحَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

حضرت ابواسحاق ابن موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: رب اغفر لی.....  
”یعنی اے میرے رب! میری غلطی، نادانی اور تمام معاملات میں حد سے تجاوز کرنے میں اور جو کچھ تو میرے متعلق جانتا ہے، اس میں میری مغفرت فرما، اے اللہ! میری مغفرت فرما، میری غلطیوں کی، میرے بالقصد اور نادانی سے ہونے والی کوتاہیوں کی، میری ہنسی، مزاح کے کاموں کی کہ یہ سب میرے پاس ہیں، یعنی میں ان تمام خطاؤں کے ساتھ متصف ہوں، اے اللہ! میرے اگلے پچھلے اور خفیہ علانیہ گناہوں کی مغفرت فرما، تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے ہٹانے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

### عبدالملک بن صباح کا درجہ ثقاہت

عبدالملک بن صباح کی صحیح بخاری میں صرف یہی ایک روایت ہے (۲۳)، امام ابوہاتم رازی نے ان

(۲۲) روح المعانی: ۹۱/۱۶ (تفسیر سورة الفتح)

(۲۳) فتح الباری: ۱۹۷/۱۱

کے لئے ”صالح“ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ اگرچہ الفاظ توثیق میں سے ہے لیکن یہ لفظ وہ آخری اور بالکل بلکہ درجے کی توثیق کے لئے استعمال کرتے ہیں (۲۴)۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ان کی روایت ذکر کی ہے (۲۵)، اور شیخین کا راوی کی کسی روایت کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ثقاہت میں اس کا درجہ بالکل معمولی اور آخری نہیں ہے۔

كان يدعو بهذا الدعاء

یہ دعا آپ کس وقت پڑھتے تھے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت کے کسی طریق میں اس کا محل متعین نہیں ہو سکا لیکن بعض دوسری روایات میں ہے کہ یہ آپ نماز کے آخر میں پڑھتے تھے، سلام سے پہلے اور شہد کے بعد یا سلام اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد، دونوں طرح ثابت ہے (۲۶)۔

وقال عبید اللہ بن معاذ.....

عبید اللہ بن معاذ، امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں۔ امام نے اسے یہاں تعلقاً ذکر کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے موصولاً ”تصریح تحدیث“ کے ساتھ ذکر کیا ہے (۲۷)۔

(۶۰۳۶) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ . عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى ، وَأَبِي بُرْدَةَ - أَحْسَبُهُ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَأَبَايَ وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي)

حضرت ابوموسیٰ اشعری آنحضرت سے روایت کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھا

کرتے تھے: ”اے اللہ! میری غلطی، میری نادانی، معاملات میں میرا حد سے بڑھنے اور جو

کچھ کوتاہی تو میرے متعلق جانتا ہے، اس سب کی مغفرت فرما، اے اللہ! میری مزاح اور

(۲۴) فتح الباری: ۱۱/۱۹۷

(۲۵) فتح الباری: ۱۱/۱۹۷

(۲۶) فتح الباری: ۱۱/۱۹۸

(۲۷) فتح الباری: ۱۱/۱۹۷



سجیدگی کی غلطی اور بالقصد گناہ کی مغفرت فرما کہ میں ان سب کے ساتھ متصف ہوں!

## حدیث باب کے تین طریق

امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث باب کے تین طریق ذکر کئے:

- ① پہلا طریق محمد بن بشار ہے، اس میں ”ابن ابی موسیٰ“ ہے۔
- ② دوسرا طریق عبید اللہ بن معاذ کا ہے، اس میں ”ابی بردہ عن ابی موسیٰ“ ہے۔
- ③ تیسرا طریق محمد بن الحنفی کا ہے، اس میں ”ابی بکر بن ابی موسیٰ“ اور ”ابی بردہ عن ابی موسیٰ“ دونوں ہیں، تیسرے طریق میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ان کے دونوں بیٹوں ابو بکر اور ابو بردہ نقل کر رہے ہیں۔

۶۱ - باب : الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

## جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی

جمعہ کے دن اللہ جل شانہ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس میں جو بھی دعا کی جائے، وہ قبول ہوتی ہے، اسے ”ساعة اجابة“ کہا جاتا ہے، امام بخاری نے اس باب میں اسی کو بیان کیا ہے۔ اب یہ گھڑی کس وقت ہے؟ اس سلسلے میں چالیس سے زیادہ اقوال ہیں (۲۸)، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا: ”إني كنت أعلمها، ثم أنسيتها، كما أنسيت ليلة القدر“ (۲۹)۔ یعنی: ”مجھے اس کا علم تھا، مگر پھر لیلۃ القدر کی طرح مجھے یہ بھلا دی گئی۔“

صبح نماز سے پہلے، نماز فجر کے بعد، زوال کے وقت، دونوں خطبوں کے درمیان کے وقفے میں اور نماز عصر کے بعد مغرب تک کے اوقات میں قبولیت کی اس گھڑی کے امکانات زیادہ بتلائے گئے ہیں (۳۰)۔ اس ساعت کو مخفی رکھنے میں راز یہی ہے کہ لوگ سارے دن کو اہم سمجھ کر اطاعت و عبادت میں لگے رہیں (۳۱)۔

(۲۸) فتح الباری: ۱۱/۱۹۹

(۲۹) فتح الباری: ۱۱/۱۹۹

(۳۰) عمدة القاري: ۶/۲۴۳

(۳۱) فتح الباری: ۱۱/۴۱۷، وعمدة القاري: ۶/۲۴۳

۶۰۳۷ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ ، لَا يُؤَافِقُهَا مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي . يَسْأَلُ اللَّهُ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ ) . وَقَالَ بِيَدِهِ ، قُلْنَا : يَقْلَلُهَا ، يَزْهَدُهَا .

[ ر : ۸۹۳ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، جس کو کوئی مسلمان اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو بھلائی وہ مانگے گا، اللہ عنایت فرمائے گا۔ اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہم نے اس اشارہ سے یہ سمجھا کہ حضور اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

قلنا: يقللها: يزهدها یعنی ہم نے دل میں کہا کہ حضور اس ساعت اور گھڑی کو قلیل اور مختصر قرار دے رہے ہیں، يزهدها، یہ يقللها کی تفسیر ہے۔

۶۲ - باب : قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيْنَا ) .

### یہود سے متعلق دعا کی قبولیت

یعنی یہودیوں کے بارے میں ہم جو دعا کرتے ہیں، وہ قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ دعائے برحق ہوتی ہے، لیکن یہودی کی دعا ہمارے بارے میں قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ دعا برحق نہیں ہوتی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ جل شانہ ان ہی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں جو صحیح اور برحق ہوں اور جو دعا شرعی لحاظ سے درست نہ ہو اور ظالمانہ ہو، وہ قبول نہیں ہوتی۔

۶۰۳۸ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ،

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ الْيَهُودَ اتَّوَأ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : السَّأْمُ عَلَيْكَ ، قَالَ : ( وَعَلَيْكُمْ ) . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : السَّأْمُ عَلَيْكُمْ ، وَلَعْنُكُمْ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَهْلًا يَا عَائِشَةُ ، عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ ، وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ ، أَوْ الْفُحْشَ ) . قَالَتْ : أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ : ( أَوْ لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ، رَدَدْتُ عَلَيْهِنَّ ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِنَّ ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي ) .

[ ر : ۲۷۷۷ ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السام عليك آپ نے فرمایا وعلیکم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا السام علیکم ولعنکم اللہ و غضب علیکم (تم پر ہلاکت ہو، اور اللہ تم پر لعنت کرے اور تم پر اپنا غضب نازل کرے) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! اس کو چھوڑو بھی، نرمی اختیار کرو اور سختی سے بچو یا فرمایا: بدگوئی سے بچو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہودیوں نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا، آپ نے نہیں سنا، جو میں نے جواب دیا چنانچہ میں نے ان کی بات، ان ہی پر لوٹا دی، میری دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیکن ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوتی۔

سند میں ایوب سختیانی کے شیخ ابن ابی ملیکہ ہیں، ان کا نام عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی ملیکہ ہے۔

### ۶۳ - باب : التَّامِينُ .

۶۰۳۹ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ( إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَاْمَنُوا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ ، فَمَنْ وَاَفَّقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) . [ ر : ۷۴۷ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کہ جب پڑھنے والا (یعنی امام) آمین کہے، تو تم بھی آمین کہو، اسلئے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

### لفظ آمین کی تحقیق

آمین کے بارے میں بعضوں نے کہا یہ غیر عربی، سریانی یا عبرانی زبان کا کلمہ ہے۔ لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں: "اللہم استجب" (اے اللہ! آپ قبول فرماویں) حضرت ابن عباس سے یہ معنی منقول ہیں (۱)۔ یہ اسم فعل ہے۔

بعضوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ

کے اسماء توقیفی ہیں اور ان میں اس کا ذکر نہیں (۲)۔

امام حاکم نے ”مستدرک“ میں حبیب بن مسلمہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا یجتمع ملاً فیدعو بعضهم، ویؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالیٰ“ (۳)۔ یعنی: ”جس مجلس میں کوئی شخص دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں“۔

اور کسی بزرگ کا قول ہے: ”آمین کنز من کنوز الجنة“ (۴)۔ یعنی: ”آمین جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے“۔

### ۶۴ - باب : فضل التہلیل

#### تہلیل کی فضیلت

تہلیل کے معنی ہیں: ”لا إله إلا الله“ کہنا، اس باب میں ”لا إله إلا الله“ کے ورد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وهي الكلمة العليا التي يدور عليها رحي الإسلام، والقاعدة التي تبنى عليها أركان الدين، وانظر إلى العارفين وأرباب القلوب كيف يستأثرونها على سائر الأذكار؟! وما ذاك إلا لما رأوا فيها من الخواص التي لم يجدوها في غيرها“ (۵)۔

یعنی: ”لا إله إلا الله ایسا عالی شان کلمہ ہے، جس پر اسلام کی چکی گھومتی ہے، اور یہ ارکان دین کی بنیاد ہے۔ عارفین اور ارباب قلوب کو دیکھ لیں! کس طرح یہ حضرات اس کو دیگر اذکار پر ترجیح دیتے ہیں اور اس کی سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس میں جو خواص ہیں وہ دیگر اذکار میں ان کو نہیں ملے“۔

(۲) إرشاد الساري: ۳۹۵/۱۳

(۳) المستدرک للحاکم، کتاب معرفة الصحابة، مناقب حبیب بن مسلمة الفهری: ۳۴۷/۳

(۴) إرشاد الساري: ۳۹۶/۱۳

(۵) إرشاد الساري: ۳۹۷/۱۳

بعض حضرات نے تسبیح کو تہلیل کے مقابلے میں ترجیح دی ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ تہلیل افضل ہے، کیونکہ ”لا إله إلا الله“ کو حدیث میں افضل الذکر کہا گیا ہے (۶)۔

۶۰۴۰ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ لَهُ عَدَلٌ عَشْرٍ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمِيتَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ ) .  
[ر : ۳۱۱۹ ، ۶۰۴۱]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جس شخص نے لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ایک دن میں سو بار پڑھا تو اس کو دس غلام (آزاد کرنے) کا ثواب ملے گا اور سو گناہ اس کے مٹا دیئے جاتے ہیں، اور اس دن شام ہونے تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور اس سے کوئی آدمی افضل نہ ہوگا، مگر وہ شخص جو اس سے زیادہ پڑھے گا۔

۶۰۴۱ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : ( مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ) .  
قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّرِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خَثِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ : مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ : مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، فَأَتَيْتُ عَمْرًا بْنَ مَيْمُونٍ ، فَقُلْتُ : مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ : مِنْ أَبِي لَيْلَى ، فَأَتَيْتُ أَبَانَ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ : مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ : مِنْ أَبِي أَيْبَرَ ، الْأَنْصَارِيِّ ، يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ .  
 وَقَالَ مُوسَى : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ .  
 وَقَالَ آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ : سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ سِنَافٍ ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلَهُ .  
 وَقَالَ الْأَعْمَشُ وَحَصْبِيُّ عَنْ هِلَالَ ، عَنْ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَوْلَهُ .  
 وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ : (كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) .

قال أبو عبد الله: وَالصَّحِيحُ قَوْلُ عَمْرُو . [ر : ٦٠٤٠]

”من قال عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل“ یعنی: ”جس نے یہ کلمہ دس بار پڑھا تو اس کا اجر اتنا ہے، جتنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی غلام آزاد کرنے کا ہے۔“

## حدیث کے مختلف طرق کی وضاحت

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے مختلف طرق موصولاً اور تعلقاً بیان کئے ہیں:

① پہلا طریق یہ ہے: ”عبد اللہ بن محمد، عبد الملک بن عمرو، عمر بن ابی زائده، ابواسحاق، عمرو بن ميمون“۔ (عمر بن ابی زائده کا نام خالد یا ميمره ہے اور یہ مشہور محدث زکریا بن ابی زائده کے بھائی ہیں اور ابواسحاق سے عمرو بن عبد اللہ سبعی مراد ہیں، یہ صغارتا بعین میں سے ہیں اور ان کے شیخ عمرو بن ميمون، کبارتا بعین میں سے ہیں) (۷)۔

② دوسرا طریق یہ ہے: ”عبد اللہ بن محمد، عبد الملک بن عمرو، عمر بن ابی زائده، عبد اللہ بن ابی السفر شعبي، ربیع بن خثيم“۔

حاصل یہ ہے کہ عمر بن ابی زائده کے دو شیخ ہیں، ایک ابواسحاق، ان کا پہلا طریق ہے اور وہ موقوف

ہے، دوم عبداللہ بن ابی السفر، ان کا دوسرا طریق ہے اور یہ مرفوع ہے، کیونکہ اس طریق میں آگے ہے: ”فقلت للربیع ممن سمعته؟ فقال: من عمرو بن میمون، فأتیت عمرو بن میمون، فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من ابن ابی لیلی، فأتیت ابن ابی لیلی، فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من ابی ایوب الأنصاری یحدثه عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“۔

اس میں ربیع بن خثیم کے شاگرد شععی عامر بن شراحیل نے اپنے استاذ سے حدیث سننے کے بعد تحقیق کی کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، تو انہوں نے عمرو بن میمون کا حوالہ دیا،..... ان کے پاس گئے انہوں نے عبدالرحمن بن ابی لیلی کا حوالہ دیا تو یہ ان کے پاس پہنچے، چنانچہ انہوں نے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث بیان کی، اس طرح تحقیق کر کے یہ حدیث عبدالرحمن بن ابی لیلی کے واسطے سے حضرت ابویوب انصاری سے مرفوعاً حاصل کی۔

❶ ”وقال إبراهيم بن يوسف: عن أبيه، عن أبي إسحاق، حدثني عمرو بن ميمون، عن عبدالرحمن بن أبي لیلی، عن أبي أيوب قوله عن النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔  
یہ تیسرا طریق ہے اور یہ بھی مرفوع ہے، پہلا طریق موقوف تھا، اس میں ”ابی إسحاق عن عمرو بن میمون“ عنہ تھا اور اس تیسرے طریق میں ”حدثني عمرو بن میمون“ کے الفاظ کے ساتھ تحدیث کی تصریح ہے (۸)۔

❷ ”وقال موسى: حدثنا وهيب، عن داود، عن عامر، عن عبدالرحمن بن أبي لیلی، عن أبي أيوب، عن النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“۔

یہ چوتھا طریق بھی مرفوع ہے، موسیٰ بن اسماعیل، امام بخاری کے شیخ ہیں، وہیب بن خالد کے شیخ داود بن ابی ہند ہیں اور ان کے شیخ عامر شععی ہیں، اس کو امام بخاری نے بطور تعلیق کے ذکر کیا ہے، اس تعلیق کو ابوبکر بن ابی خیشمہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے (۹)، اس طریق میں عامر شععی اور عبدالرحمن بن ابی لیلی کے درمیان باقی

(۸) فتح الباری: ۱۱/۲۴۳

(۹) عمدة القاری: ۲۳/۳۶

واسطوں کا ذکر نہیں، جیسا کہ دوسرے طریق میں ہے۔

⑤ ”وقال إسماعيل: عن الشعبي، عن الربيع قوله“.

یہ پانچوں طریق بھی موقوف ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابن مبارک کے ”زیادات زہد“ میں یہ طریق موصولاً اور مرفوعاً واقع ہے، امام بخاری کا مقصد بھی اسی طریق کی طرف اشارہ ہے (۱۰)۔

⑥ ”وقال آدم: حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، سمعت هلال بن يساف عن

الربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون عن ابن مسعود قوله“.

یہ چھٹا طریق ہے، آدم بن ایاس، امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، لیکن یہاں اسے تعلقاً ذکر کیا ہے، سنن دارقطنی میں یہ موصولاً واقع ہے (۱۱)، اس طریق میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے موقوفاً مروی ہے، اور ریج اور عمرو دونوں کے شیخ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔

⑦ ”وقال الأعمش: وحصين عن هلال، عن الربيع عن عبد الله قوله“.

اعمش کا نام سلیمان بن مہران ہے، امام نسائی نے اس تعلق کو موصولاً نقل کیا ہے (۱۲) اور اس طریق میں یہ حدیث مرفوعاً نہیں، بلکہ موقوف ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر اسے پیش کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی گئی۔

⑧ ”ورواه أبو محمد الحضرمي، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:

”كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل“.

ابو محمد حضرمی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خادم خاص تھے، ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا، علامہ مزنی نے ان کا نام ”فلح“ لکھا ہے (۱۳)، صحیح بخاری میں اس تعلق کے علاوہ ان کی کوئی اور روایت

(۱۰) فتح الباری: ۱۱/۲۴۳؛ ۲۴۴

(۱۱) فتح الباری: ۱۱/۲۴۴

(۱۲) إرشاد الساری: ۱۳/۴۰۰

(۱۳) فتح الباری: ۱۱/۲۴۵



نہیں ہے (۱۴)۔

امام احمد نے اس تعلق کو موصولاً نقل کیا ہے (۱۵)۔

قال أبو عبد الله: والصحيح قول عمرو، قال الحافظ أبو ذر الهزوي: صوابه عُمر، وهو ابن أبي زائدة، قلت: وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه، لا عمرو. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "والصحيح قول عمرو" یعنی عمر و کا قول اور ان کی روایت صحیح ہے، حافظ ابو ذر نے تصحیح کرتے ہوئے کہا کہ "عمرو" کے بجائے "عمر" کا لفظ صحیح ہے اور اس سے مراد عمر بن ابی زائدہ ہیں، چنانچہ امام بخاری نے اصل نسخے میں خود بعد میں اس کی تصحیح کی ہے، چنانچہ "والصحيح قول عُمر" کے الفاظ ہونے چاہئیں، امام کا مقصد یہ ہے کہ ابن ابی زائدہ کی روایت صحیح ہے۔

عمر بن ابی زائدہ، ابو اسحاق سبعمی کے شاگرد ہیں، ابو اسحاق سے اور بھی کئی حضرات یہ روایت نقل کرتے ہیں اور ان کے اور بھی کئی شاگرد ہیں، امام بخاری ان میں "عمر بن ابی زائدہ" کی روایت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہلے طریق میں ذکر کیا ہے۔

### ۶۵ - باب : فضل التَّسْبِيحِ .

۶۰۴۲ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں سو بار کہے تو اس کے گناہ معاف

کردیئے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

### تسبیح کے معنی

تسبیح کے معنی ہیں: اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی جو چیزیں اللہ جل شانہ کے شایان شان نہیں، ان سے اللہ

(۱۴) فتح الباری: ۲۴۵/۱۱

(۱۵) إرشاد الساری: ۴۰۱/۱۳

تعالیٰ کی تزیینہ اور پاکی بیان کرنے کو تسبیح کہتے ہیں۔  
تسبیح افضل ہے یا تہلیل؟

یہاں باب کی پہلی روایت میں ہے کہ ”سبحان اللہ وبحمدہ“ جو شخص دن میں سو بار کہے گا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہلیل کے مقابلے میں تسبیح افضل ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ تہلیل یعنی ”لا إله إلا الله“ کہنا زیادہ افضل ہے، ایک تو اس لئے کہ حدیث میں اسے افضل الذکر کہا، دوم وہ عقیدہ توحید میں صریح ہے (۱)۔ نیز تہلیل میں ”عشق رقاب“ کا اجر ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رقبہ آزاد کیا، اس کے ہر عضو کے عوض، جہنم سے آزاد کرنے والے کا ہر عضو آزاد ہوگا، تو یہ جہنم سے مکمل خلاصی اور آزادی کا ذریعہ ہے، دوسرے فضائل اور اجراء کے علاوہ ہیں (۲)۔

۶۰۴۳ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ : ( كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ) . [ ۶۳۰۴ ، ۷۱۲۴ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن قول میں وزنی

اور اللہ کو محبوب ہیں، (وہ یہ ہیں) سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ

وبحمدہ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس متن کو صحیح بخاری میں تین جگہ ذکر کیا ہے، ایک یہاں، دوسرے آگے کتاب

الایمان والذکر میں اور تیسرے صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث کے طور پر! وہیں پر، اس کی تفصیلی بحث

آئے گی۔ انشاء اللہ۔

(۱) إرشاد الساري: ۴۰۲/۱۳

(۲) فتح الباري: ۲۴۸/۱۱

## ۶۶ - باب : فضلِ ذکرِ اللہِ عزَّ وَّجَلَّ .

### ذکر کی فضیلت

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ذکر میں وہ تمام دعائیں اور مناجات داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں پر مشتمل ہیں، استغفار، تعوذ، علمی مذاکرہ اور قرآن کریم کی تلاوت ”ذکر اللہ“ میں داخل ہیں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت تو عام اذکار و وظائف کے مقابلہ میں بہت اعلیٰ اور افضل ہے (۱)۔

### ذکر کی بہتر صورت

ذکر کی سب سے بہتر اور کامل صورت تو یہ ہے کہ آدمی جن دعاؤں اور جن اذکار کا ورد پڑھ رہا ہے، دل و دماغ میں ان کے معانی اور مطالب کا استحضار ہو، استحضار قلبی کے بغیر ذکر لسانی پر بھی اجر و ثواب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دل بھی ذکر کے ساتھ مشغول ہو  
علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وأصل الذكر: التذكر بالقلب..... ثم يطلق على الذكر اللساني

من باب تسمية الدال باسم المدلول، ثم كثر استعماله فيه، حتى صار هو

السابق للفهم، وأصله مع الحضور والمشاهدة“ (۲)۔

یعنی: ”اصل ذکر تو دل سے یاد دہانی کو کہتے ہیں لیکن پھر زبانی ذکر پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا، یہ ”تسمیۃ الدال باسم المدلول“ کے قبیل سے ہے اور اسی دوسرے معنی میں اس کا استعمال بکثرت ہونے لگا، یہاں تک کہ اب ذکر سے یہی معنی سمجھ میں آنے لگتا ہے، تاہم اصل ذکر دل کے حضور اور مشاہدے کے ساتھ ہوتا ہے!“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بعض عارفین کے حوالے سے ذکر کی سات قسمیں لکھی ہیں:

”ذكر العينين بالبكاء، والأذنين بالإصغاء، واللسان بالثناء، واليدنين

بالإعطاء، والبدن بالوفاء، والقلب بالخوف والرجاء، والروح بالتسليم

(۱) إرشاد الساري: ۴۰۳/۱۳

(۲) شرح الأبي علي صحيح مسلم: ۱۱۱/۷

والرضاء“ (۳)۔

یعنی: ”آنکھوں کا ذکر گریہ و زاری کے ساتھ، کانوں کا توجہ سے حق بات سننے کے ساتھ، زبان کا حمد و ثناء کے ساتھ، ہاتھوں کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے ساتھ، بدن کا اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے کے ساتھ، دل کا خوف و رجاء کے ساتھ اور روح کا تسلیم و رضا کے ساتھ“۔

۶۰۴۴ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ) .

حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے (یعنی یاد کرنے والا زندہ اور نہ یاد کرنے والا مردہ ہے)۔

سند میں ابواسامہ کا نام حماد بن سلمہ ہے، اور ابوبوردہ کا نام عامر بن عبد اللہ بن قیس ہے۔ حدیث کے اندر ذکر کی تشبیہ زندہ کے ساتھ اور محروم عن الذکر کی تشبیہ میت اور مردے کے ساتھ دی ہے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”شبه الذاکر بالحي الذي يزين ظاهره بنور الحياة، وإشراقها فيه، وبالتصرف التام فيما يريد، وباطنه بنور العلم والفهم والإدراك، كذلك الذاکر مزین ظاهره بنور العلم والطاعة، وباطنه بنور العلم والمعرفة، فقلبه مستقر في حظيرة القدس، وسره في مخدع الوصل، وغير الذاکر عاطل ظاهره وبالغل باطنه“ (۴)۔

یعنی: ”حدیث میں ذکر کرنے والے کو زندہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس طور پر:

(۳) فتح الباری: ۲۵۱/۱۱

(۴) إرشاد الساری: ۴۰۴/۱۳

کہ جس طرح زندہ شخص کا ظاہر زندگی کے نور سے مزین ہوتا ہے اور وہ اس کی بنیاد پر اپنی مرضی سے ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے، نیز اس کا باطن بھی علم، فہم اور ادراک سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح ذکر کرنے والے کا ظاہر بھی علم و اطاعت خداوندی کے جذبے سے مزین ہوتا ہے اور اس کا باطن بھی علم و معرفت کے نور سے روشن اور سجا ہوا ہوتا ہے، چنانچہ اس کا دل قدس کی چراگا ہوں میں چرتا اور وصال کے لئے مچلتا ہے، جب کہ غیر ذاکر کا ظاہر بے کار و معطل اور باطن خراب و باطل ہوتا ہے۔“

امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث امام بخاری کے شیخ ابو کریب محمد بن العلاء سے، اسی سند کے ساتھ نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں: ”مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت“ (۵)۔ یعنی: ”جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس کی مثال زندہ کی سی ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے غالباً اس روایت کو با معنی ذکر کیا ہے، کیونکہ حسی اور میت کا اطلاق بیت اور مسکن پر حقیقتاً نہیں ہو سکتا، بلکہ بیت میں رہنے والے پر ہو سکتا ہے، بلاغت و معانی کی اصطلاح میں اسے ”ذکر المحل وإرادة الحال“ کہا جاتا ہے (۶)۔

۶۰۴۵ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الدُّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَيَّ حَاجَتِكُمْ . قَالَ : فَيَحْفُوهُمْ بِأَجْنِحَتَيْهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ، مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالَ : تَقُولُ : يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ ، قَالَ : فَيَقُولُ : هَلْ رَأَوْنِي ؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ : لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْنَاكَ ، قَالَ : فَيَقُولُ : وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْنَاكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ

(۵) الصحيح لمسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد،

رقم الحديث: (۲۱۱): ۵۳۹/۱

(۶) إرشاد الساري: ۴۰۴/۱۳

عِبَادَةٌ ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا ، قَالَ : يَقُولُ : فَمَا يَسْأَلُونَنِي ؟ قَالَ : يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : يَقُولُ : وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا ، قَالَ : يَقُولُ : فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلْبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ، قَالَ : فَعِمَّ بَتَعَوُّذُونَ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : مِنَ النَّارِ ، قَالَ : يَقُولُ : وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا ، قَالَ : يَقُولُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا ، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً ، قَالَ : فَيَقُولُ : فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . قَالَ : يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ .

قَالَ : هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ .

رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ ، عَنِ أَبِيهِ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے چند فرشتے ہیں جو راستوں میں گھومتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں جب وہ کسی قوم کو ذکر الہی میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں، اپنی ضرورت کی طرف آؤ، آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے ان کو اپنے پروں میں ڈھک لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان سے انکار پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کو فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح و تکبیر اور حمد اور بڑائی بیان کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، فرشتے کہتے ہیں بخدا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی بہت زیادہ عبادت کرتے اور بہت زیادہ بڑائی اور پاکی بیان کرتے، آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے، فرشتے کہتے ہیں، وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے جنت دیکھی

ہے، فرشتے کہتے ہیں نہیں بخدا انہوں نے جنت نہیں دیکھی، اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے، فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس کے بہت زیادہ حریص ہوتے اور بہت زیادہ طالب ہوتے اور اس کی طرف ان کی رغبت بہت زیادہ ہوتی، اللہ فرماتا ہے کہ کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے، فرشتے کہتے ہیں جہنم سے، آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں، بخدا، انہوں نے اس کو نہیں دیکھا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے بہت زیادہ دور بھاگتے اور بہت زیادہ ڈرتے، آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا، آپ نے فرمایا کہ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں فلاں شخص ان (ذکر کرنے والوں) میں نہیں تھا، بلکہ کسی ضرورت کے لئے آیا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا۔

سند میں امام بخاری کے شیخ الشیخ جریر بن عبد الحمید ہیں، ان کے شیخ سلیمان اعمش ہیں اور وہ ابو صالح ذکوان سے نقل کرتے ہیں۔

هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم

یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا، اگرچہ وہ کسی اور مقصد اور غرض سے بیٹھنے والا ہو، اس سے اللہ والوں کی صحبت کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

رواه شعبة، عن الأعمش ولم يرفعه

یعنی اسی سند کے ساتھ یہ روایت شعبہ بن الحجاج نے سلیمان بن مہران اعمش سے نقل کی ہے، لیکن وہ روایت مرفوع نہیں ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے اس موقوف روایت کو موصولاً نقل کیا ہے (۷)۔

ورواه سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُهَيْلٌ نَعَى فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ أَبِيهِ وَالِدَ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمَانَ سَعْدِيًّا مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَهُ  
اللَّهُ فِي مَوْصُولًا ذَكَرَ كَمَا هِيَ (۸)۔

۶۷ - باب : قَوْلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

۶۰۴۶ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا سَلِيمَانُ التَّمِيمِيُّ ،  
عَنْ أَبِي عُمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقَبَةٍ ، أَوْ قَالَ : فِي ثِيَابِهِ ،  
قَالَ : فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلٌ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : وَرَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَتِهِ ، قَالَ : (فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا) . ثُمَّ قَالَ : (يَا أَبَا مُوسَى ، أَوْ :  
يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَثَرِ الْجَنَّةِ) . قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ  
إِلَّا بِاللَّهِ) . [ر : ۲۸۳۰]

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک  
پہاڑی پر چڑھنے لگے آپ اس وقت ایک خچر پر سوار تھے۔ جب ایک شخص اسی پہاڑی پر  
چڑھا تو اس نے با آواز بلند کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تم کسی بہرے  
اور غائب کو نہیں پکار رہے، پھر فرمایا: اے ابوموسیٰ! یا فرمایا: اے عبد اللہ! کیا میں تجھے ایک  
ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کا خزانہ ہے، تو میں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا: ”لا حول ولا  
قوة الا باللہ“۔

لا حول ولا قوة الا باللہ کی فضیلت

لا حول ولا قوة الا باللہ کے بڑے فضائل اور برکتیں ہیں، یہاں روایتِ باب میں اسے جنت  
کے خزانے کا ورد قرار دیا گیا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ”لا حول ولا قوة الا باللہ“ میں بناوے بیماریوں کی شفا ہے، جن میں



سب سے ہلکی بیماری ”ہم“ ہے (۹)۔ ہم غم اور پریشانی کو کہتے ہیں، لا حول ولا قوة إلا باللہ کا ترجمہ کیا گیا ہے، ”لا حيلة في دفع شر، ولا قوة في تحصيل خير إلا باللہ“ (۱۰)۔ یعنی: ”اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ رفع شر میں کوئی حیلہ کارگر ہو سکتا ہے اور نہ بھلائی کے حصول پر کوئی قادر ہو سکتا ہے۔“

۶۸ - باب : **لِلّٰهِ مِائَةٌ اَسْمَاءٌ غَيْرَ وَاحِدَةٍ .**

۶۰۴۷ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ، قَالَ : (لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا ، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا ، لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَهُوَ وَتَرٌ يُحِبُّ الْوَتَرَ) . [ر : ۲۵۸۵]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں،

ان کو جو شخص زبانی یاد کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ وتر (طاق) ہے اور وتر ہی کو پسند فرماتا ہے۔

سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے ابو الزناد (عبداللہ بن ذکوان) سے حفظ کی، وہ اعرج سے نقل کرتے ہیں، اعرج کا نام عبدالرحمن بن ہر مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کے بارے میں چند باتیں ذہن نشین کر لیں:

## اسماء حسنیٰ سے متعلق چند باتیں

### اسمائے حسنیٰ توقیفی ہیں

① پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے اچھے اور عمدہ مبارک نام ہیں، بعض حضرات کے نزدیک یہ نام توقیفی نہیں ہیں، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ توقیفی ہیں، توقیفی کے معنی یہ ہیں،

(۹) مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الدعوات، باب ثواب التسییح والتمجید، والتہلیل والتکبیر، (رقم الحدیث:

۲۳۲۰) : ۱/ ۴۳۴ کما أخرجه في كنز العمال : ۱/ ۴۵۴، رقم الحدیث: ۱۹۵۶

(۱۰) عمدۃ القاری: ۱۹/۲۳

قرآن وحدیث کی نص صریح کے بغیر کسی لفظ اور وصف کو اللہ تعالیٰ کا نام قرار نہیں دیا جاسکتا، چنانچہ علامہ قشیری رحمہ اللہ اپنی کتاب ”مفاتیح الحج ومصایح النهج“ میں لکھتے ہیں:

”أسماء الله تعالى تؤخذ بتوقيف، ويراعى فيها الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد في هذه الأصول، وجب إطلاقه في وصفه تعالى، وما لم يرد فيها، لا يجوز إطلاقه في وصفه، وإن يصح معناه“ (۱۱)۔

یعنی: ”اللہ تعالیٰ کے نام منصوص اور توفیقی ہیں، اور اس میں قرآن کریم، سنت نبویہ اور اجماع ہی کو ملحوظ رکھا جائے گا، چنانچہ ان تینوں اصولوں میں اگر کوئی نام وارد ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ پر بطور وصف اس کا اطلاق درست ہوگا، اور جو نام اور وصف ان تین اصولوں میں نہ آیا ہو، تو اللہ کے اوصاف میں اس کا استعمال جائز نہیں، اگرچہ اس کے معنی درست ہوں۔“

چنانچہ نصوص میں جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے بطور اسم ثابت نہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا مناسب نہیں، چنانچہ ”یارحیم“ کہہ سکتے ہیں، ”یارقیق“ نہیں، ”یا قوی“ کہہ سکتے ہیں لیکن ”یا جلید“ کہنا درست نہیں (۱۲)۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ ”تفسیر قرطبی“ میں لکھتے ہیں:

”وهي بتوقيف لا يصح وضع اسم الله بنظر، إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع“ (۱۳)۔

یعنی: ”اللہ تعالیٰ کے اسماء توفیقی ہیں، قیاس اور نظر و فکر کر کے اللہ تعالیٰ پر کسی نام کا اطلاق کرنا صحیح نہیں، سوائے ان ناموں کے جو قرآن کریم یا حدیث نبوی میں وارد ہوئے، یا ان پر امت کا اجماع ہو۔“

حاصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے اسمائے حسنی توفیقی ہیں، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اسماء

(۱۱) إرشاد الساري: ۴۰۹/۱۳

(۱۲) إرشاد الساري: ۴۰۹/۱۳

(۱۳) تفسير القرطبي: ۳۴۳/۱۰

میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔

## اسمائے حسنیٰ کی تعداد

❶ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کتنے ہیں؟ اس حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ کے ننانوے نام ہیں، علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عدد حصر کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ننانوے ہی نام ہیں، اس سے زیادہ نہیں (۱۴)۔

لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے کے عدد میں منحصر نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہیں، چونکہ ان ناموں میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف لا تعداد ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو کسی خاص عدد میں منحصر نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ بعض علماء نے ہزار اور بعض نے چار ہزار تک کے اسمائے حسنیٰ قرآن و حدیث کی نصوص سے جمع کئے ہیں (۱۵)۔ امام نووی رحمہ اللہ نے تو اس بات پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے (۱۶)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعائیہ الفاظ ہیں:

”أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هَوَّلَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ

عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ“ (۱۷)۔

یعنی: ”میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے

اپنے لئے رکھا، یا اپنی کتاب کریم میں اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا صرف تجھے

ہی اس کا علم ہے اور دوسروں سے تو نے اس کو مخفی رکھا ہے۔“

(۱۴) فتح الباری: ۱۱/۲۶۴

(۱۵) فتح الباری: ۱۱/۲۶۴

(۱۶) فتح الباری: ۱۱/۲۶۳

(۱۷) المستدرک للحاکم، کتاب الدعاء، دعاء دفع الكرب المأمور بتعلمہ: ۱/۵۰۹، وإكمال إكمال المعلم

المعروف بشرح الأبي علي صحيح مسلم: ۷/۱۱۵

اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے کعب احبار کی ایک دعا ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے:

”أَسْأَلُكَ بِأَسْمَاءِ كَالْحَسَنِ، مَا عَلِمْتُ، مِنْهَا وَمَالِمِ أَعْلَمُ“ (۱۸)۔

یعنی: ”میں تجھ سے تیرے پیارے ناموں کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، خواہ مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو“۔

ان روایتوں سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے اسمائے مبارکہ کسی خاص عدد میں منحصر نہیں

ہیں۔

### ننانوے کے عدد کی حکمت

۳ تیسری بات، حدیث باب سے متعلق ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کا ذکر ہے، جیسا کہ بتلایا گیا ہے کہ یہ عدد حصر کے لئے نہیں، بلکہ فضیلت بیان کرنے کے لئے ہے کہ جو شخص ان ناموں کو یاد کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، ننانوے کی یہ تعداد اور اس کی یہ فضیلت تعبیری اور توفیقی ہے، اجتہادی نہیں، جیسے نمازوں کی تعداد تعبیری ہے (۱۹)۔ بعض علماء نے اس میں حکمت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد، والفرد أفضل من الزوج، ومنتهى

الأفراد من غير تكرار تسعة وتسعون؛ لأن مائة وواحد يتكرر فيه

الواحد“ (۲۰)۔

یعنی: ”ننانوے کے عدد میں حکمت یہ ہے کہ عدد جفت بھی ہوتا ہے اور طاق بھی،

اور طاق جفت کے مقابلہ میں افضل ہے، اور آخری عدد بغیر تکرار کے وہ ننانے ہے (جو کہ

طاق ہے) کیونکہ اس کے بعد والے اعداد میں تکرار ہے مثلاً ایک سو ایک میں ایک مکرر

ہے“۔

(۱۸) فتح الباری: ۱۱/۲۶۴

(۱۹) فتح الباری: ۱۱/۲۶۵

(۲۰) فتح الباری: ۱۱/۲۶۵

## نانوے اسمائے حسنیٰ

۴۰ اب یہ بات رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جن ننانوے ناموں کا حدیث باب میں ذکر ہے، وہ کون سے ہیں؟ عموماً تین روایات میں ان اسمائے مبارکہ کی تعیین کی گئی ہے۔

ایک سنن ترمذی شریف میں، ولید بن مسلم کی روایت، دوم سنن ابن ماجہ میں زہیر بن محمد کی روایت اور سوم ”مستدرک حاکم“ میں عبدالعزیز بن الحصین کی روایت (۲۱)۔

ان تین روایات میں اللہ تعالیٰ کے جو اسمائے مبارکہ ذکر کئے گئے ہیں، ان میں کچھ مشترک اور بعض ایک دوسرے سے مختلف ہیں (۲۲)۔

اکثر علماء نے سنن ترمذی کی روایت کو ترجیح دی ہے، لیکن اس روایت کے اندر بہت سے ایسے اسمائے مبارکہ ہیں جو قرآن کریم میں ”بطور اسم“ نہیں ہیں اور قرآن کریم میں بطور اسم پائے جانے والے کئی اسمائے حسنیٰ اس روایت میں نہیں ہیں (۲۳)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کی روایت سے ان ناموں کو خارج کر دیا، جن کا قرآن کریم میں ”بطور اسم“ ذکر نہیں اور ان ناموں کا اضافہ کر دیا جو قرآن کریم میں ہیں، لیکن سنن ترمذی کی روایت میں نہیں اور اس طرح انہوں نے مندرجہ ذیل ننانوے نام ذکر کئے:

”اللَّهُ، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن،  
المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصور، الغفار، القهار،  
التواب، الوهاب، الخلاق، الرزاق، الفتاح، العليم، العظيم، الواسع،  
الحكيم، الحي، القيوم، السميع، البصير، اللطيف، الخبير، العلي، الكبير،  
المحيط، القدير، المولى، النصير، الكريم، الرقيب، القريب، المحيب،

(۲۱) الحدیث أخرجه الإمام الترمذی فی کتاب الدعوات: ۵/۵۳۰، رقم: ۲۵۰۷، وأخرجه ابن ماجه فی

سننه، کتاب الدعاء، باب أسماء الله عزوجل، رقم الحدیث: ۳۸۶۱

(۲۲) فتح الباری: ۱۱/۲۵۷

(۲۳) فتح الباری: ۱۱/۲۶۱

الوکیل، الحسیب، الحفیظ، المقیت، الودود، المجید، الوارث، الشہید، الولی، الحمید، الحق، المبین، القوی، المتین، الغنی، المالک، الشدید، القادر، المقدر، القاهر، الکافی، الشاکر، المستعان، الفاطر، البدیع، الغافر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الکفیل، الغالب، الحکیم، العالم، الرفیع، الحافظ، المنتقم، القائم، المحیی، الغفور، الشکور، العفو، الرؤوف، الأکرم، الأعلى، البر، الحفی، الرب، الإله، الواحد، الأحد، الصمد“ (۲۴)۔

## اسم اعظم

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک مبارک نام ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے، قبول ہو جاتی ہے، اسے ”اسم اعظم“ کہتے ہیں، تاہم اس نام کی تعیین نہیں کی گئی کہ وہ کون سا نام ہے، البتہ احادیث اور علماء کے اقوال میں اشارات ملتے ہیں جن سے اس نام کا کچھ پتہ چل سکتا ہے، ان میں سے چند اور ادوار اسماء کا حافظ ابن حجر اور علامہ قسطلانی نے ذکر کیا ہے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”واختلفوا فيه، فقيل: هو لفظه ”هو“ نقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف وقيل: الله. وقيل: الله الرحمن الرحيم، وقيل: الرحمن الرحيم الحي القيوم، وقيل: الحي القيوم، وقيل: الحنان المنان بديع السموات والأرض ذوالجلال والإكرام، وقيل: ذوالجلال والإكرام، وقيل: الله لا إله إلا الله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وقيل: رب رب. وقيل: دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقيل: هو الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم“ (۲۵)۔

(۲۴) فتح الباري: ۱۱/۲۶۲، ۲۶۳

(۲۵) إرشاد الساري: ۱۳/۴۰۱

اس میں گیارہ کلمات کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں ”اسم اعظم“ پایا جاتا ہے۔

ان گیارہ کے علاوہ مندرجہ ذیل اسماء اور دعاؤں کو بھی اسم اعظم کہا جاتا ہے:

- ① يا إِلَهنا وَإِلَه كل شئ إِلهاً واحد لا إِله إلا أنت (۲۶)۔
- ② والهِكم اله واحد لا إِله إلا هو الرحمن الرحيم (۲۷)۔
- ③ الم اللّٰه لا إِله إلا هو الحي القيوم (۲۸)۔
- ④ سورہ حشر کی آخری تین آیات، سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی، سورۃ آل عمران کی آیت ﴿قل اللهم مالك الملك.....﴾ سورۃ طہ کی آیت ﴿وعنت الوجوه للحي القيوم﴾ کے بارے میں وارد ہے کہ ان میں ”اسم اعظم“ ہے (۲۹)۔

⑤ اللهم اني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دُعيتَ به، أُجبتَ، وإذا سُئِلتَ به أُعطيْتِ وإذا أُسْتُرِحمتَ به، رَحِمْتِ، وإذا اسْتُفْرِجْتِ به، فَرَّجْتِ (۳۰)۔

یعنی: ”اے اللہ! میں تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو اچھا، پاک اور مبارک ہے، جو تجھے زیادہ محبوب ہے، جس کے ذریعے جب تجھ سے دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے اور جس کے ذریعے جب تجھ سے سوال کیا جائے تو تو عطا فرماتا ہے اور جس کے ذریعے جب تجھ سے رحم کی درخواست کی جائے تو تو رحم فرماتا ہے اور جب

(۲۶) الجامع لأحكام القرآن: ۱۳۲/۱۸، سورۃ النمل

(۲۷) سنن ابن ماجہ، باب اسم اللّٰه الأعظم، کتاب الدعاء، رقم (۳۸۵۵)

(۲۸) سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب اسم اللّٰه الأعظم، رقم (۳۸۵۵)

(۲۹) دیکھئے: سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء: ۱۶۶۷/۲

(۳۰) سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب اسم اللّٰه الأعظم، رقم (۳۸۵۹)

کشادگی کی درخواست کی جائے تو کشادگی پیدا فرماتا ہے۔“

① اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر (۳۱). یعنی:  
”اے اللہ! میں تجھ سے تیرے اسم اعظم اور تیری بڑی خوشنودی کے واسطے سے سوال کرتا  
ہوں۔“

② اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في  
حكمتك، عدلٌ في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو  
علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب  
عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني،  
وذهب غمي وهي (۳۲).

یعنی: ”اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا، میری پیشانی  
تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم میرے لئے فیصلہ کن ہے، تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے،  
میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے خود اپنے لئے رکھا  
ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنے علم غیب  
کے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہے، کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور،  
میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔“

بہر حال یہ مختلف قسم کی دعائیں اور اسمائے حسنیٰ پر مشتمل کلمات وارد ہوئے ہیں جن کے مارے میں کہا  
گیا ہے کہ ان میں ”اسم اعظم“ ہے، ان سب اسماء اور دعاؤں کو شامل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو انشاء اللہ  
اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔

(۳۱) رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، رقم الحدیث: (۲۹۵۹)

(۳۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۱/۳۹۱



## مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ کی تحقیق

اسمائے حسنیٰ..... حقیقی معنی میں اللہ پاک کا نام یعنی اسم ذات صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے ”اللہ“۔ البتہ اس کے صفاتی نام سیکڑوں ہیں جو قرآن مجید اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں، انہی کو اسمائے حسنیٰ کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں امام جعفر بن محمد صادق اور سفیان بن عیینہ اور بعض دوسرے اکابر امت سے نقل کیا ہے کہ:

اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام تو صرف قرآن مجید ہی میں مذکور ہیں اور پھر انہی حضرات نے ان کی تفصیل اور تعین بھی نقل کی ہے۔ اس کے بعد حافظ ممدوح نے ان میں سے بعض اسماء کے متعلق یہ تبصرہ کر کے کہ یہ اپنی خاص شکل میں قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں، بلکہ استخراج اور اشتقاق کے طور پر وضع کئے گئے ہیں، ان کے بجائے دوسرے اسماء قرآن مجید ہی سے نکال کے بتایا ہے کہ یہ ننانوے اسماء الہیہ قرآن مجید میں اپنی اصل شکل میں مذکور ہیں اور ان کی پوری فہرست دی ہے جو انشاء اللہ عنقریب نقل ہوگی۔

ہمارے ہی زمانہ کے بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء کا تتبع احادیث سے کیا تو دوسو سے زائد نام کو ملے۔ یہ سارے صفاتی اسماء حسنیٰ اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے عنوانات اور اس کی معرفت کے دروازے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک بڑی جامع اور تفصیلی شکل یہ بھی ہے کہ بندہ عظمت اور محبت کے ساتھ ان اسماء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور ان کو اپنا وظیفہ بنائے۔

”إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة“۔ (اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جس نے ان کا احصا کیا وہ جنت میں جائے گا)۔

## تشریح

صحیحین کی روایت میں صرف اتنا ہی ہے، ان ننانوے ناموں کی تفصیل اور تعین اس روایت میں نہیں کی گئی ہے، عنقریب ہی انشاء اللہ جامع ترمذی وغیرہ کی اس روایت کا ذکر آئے گا جس میں تفصیل کے ساتھ یہ ننانوے نام بیان کئے گئے ہیں۔

شارحین حدیث اور علماء کا اس پر قریب قریب اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ صرف ننانوے میں منحصر نہیں ہیں

اور یہ ان کی پوری تعداد نہیں ہے، کیونکہ تتبع اور تلاش کے بعد احادیث میں اس کے بہت زیادہ تعداد مل جاتی ہے۔ اس لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب اور مدعا صرف یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کو یاد کرے گا اور ان کی نگہداشت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی صرف ننانوے ناموں کا احصاء کر لینے پر بندہ اس بشارت کا مستحق ہو جائے گا۔

حدیث پاک کے جملہ ”من أحصاها دخل الجنة“ کی تشریح میں علماء اور شارحین نے مختلف باتیں کی ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اسماء الہیہ کے مطالب سمجھ کر اور ان کی معرفت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر یقین کرے گا جن کے یہ اسماء عنوانات ہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اسماء حسنیٰ کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تیسرا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ننانوے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اور ان کے ذریعہ اس سے دعا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ امام بخاری نے ”من أحصاها“ کی تشریح ”من حفظها“ سے کی ہے، بلکہ اس حدیث کی بعض روایات میں ”من أحصاها“ کی جگہ ”من حفظها“ کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، اس لئے اس تشریح کو ترجیح دی گئی ہے اور اسی لئے ترجمہ میں عاجز نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس بناء پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بندہ ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کے ننانوے نام محفوظ کر لے، اور ان کے ذریعہ اس کو یاد کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ واللہ اعلم۔

عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله

تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة الا واحدة، من أحصاها دخل الجنة:

هو الله الذى لا إله إلا هو الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ،

السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيَّمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَادِي،

الْمُصَوِّرُ، الْعَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الْفَتَّاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ،

الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْمُعِزُّ، الْمُدِلُّ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكِيمُ، الْعَدْلُ، اللَّطِيفُ،

الْخَبِيرُ، الْحَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْغَفُورُ، الشَّكُورُ، الْعَلِيُّ، الْكَبِيرُ، الْحَفِيفُ، الْمُقِيتُ،

الْحَسِيبُ، الْجَبَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، الْمُجِيبُ، الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ، الْوَدُودُ،

الْمَجِيدُ، الْبَعِثُ، الشَّهِيدُ، الْحَقُّ، الْوَكِيلُ، الْقَوِيُّ، الْمُتَيْنُّ، الْوَلِيُّ، الْحَمِيدُ،  
 الْمُخْصِي، الْمُبْدِي، الْمُعِيدُ، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْوَاحِدُ،  
 الْمَاجِدُ، الْوَاحِدُ، الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الْقَادِرُ، الْمُقْتَدِرُ، الْمَقْدِمُ، الْمُؤَخِّرُ، الْأَوَّلُ،  
 الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْوَالِي، الْمُتَعَالِي، الْبَرُّ، التَّوَّابُ، الْمُتَنَبِّهُ، الْعَفْوُ،  
 الرَّؤُفُ، مَالِكُ الْمُلْكِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، الْمُفْسِطُ، الْجَامِعُ، الْغَنِيُّ،  
 الْمُغْنِي، الْمَنَاعُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، النُّورُ، الْهَادِي، الْبَدِيعُ، الْبَاقِي، الْوَارِثُ،  
 الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں (ایک کم سو) جس نے ان کو محفوظ کیا، اور  
 ان کی نگہداشت کی، وہ جنت میں جائے گا۔ (ان ناموں کی تفصیل یہ ہے):

وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، وہ ہے الرَّحْمَنُ (بڑی رحمت  
 والا) الرَّحِيمُ (نہایت مہربان) الْمَلِكُ (حقیقی بادشاہ اور فرمانروا) الْقُدُّوسُ (نہایت  
 مقدس اور پاک) السَّلَامُ (جس کی ذاتی صفت سلامتی ہے) الْمُؤْمِنُ (امن و امان عطا  
 فرمانے والا) الْمُتَمِّمُ (پوری نگہبانی فرمانے والا) الْعَزِيزُ (غلبہ اور عزت جس کی ذاتی  
 صفت ہے اور جو سب پر غالب ہے) الْجَبَّارُ (صاحبِ جبروت ہے، ساری مخلوق اس کے  
 زیرِ تصرف ہے) الْمُتَكَبِّرُ (کبریائی اور بڑائی اس کا حق ہے) الْخَالِقُ (پیدا فرمانے والا)  
 الْبَاطِنُ (ٹھیک بنانے والا) الْمُصَوِّرُ (صورت گری کرنے والا) الْغَفَّارُ (گناہوں کا  
 بہت زیادہ بخشنے والا) الْقَهَّارُ (سب پر پوری طرح غالب اور قابو یافتہ جس کے سامنے  
 سب عاجز اور مغلوب ہیں) الْوَهَّابُ (بغیر کسی عوض اور منفعت کے خوب عطا فرمانے والا)  
 الرَّزَّاقُ (سب کو روزی دینے والا) الْفَتَّاحُ (سب کے لئے رحمت اور رزق کے دروازے  
 کھولنے والا) الْغَنِيْمُ (سب کچھ جاننے والا) الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ (تنگی کرنے والا، فراخی

کرنے والا۔ یعنی اس کی شان یہ ہے کہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کبھی کسی کے حالات میں تنگی پیدا کرتا ہے اور کبھی فراخی پیدا کرتا ہے) الْخَافِضُ، الرَّافِعُ (پست کرنے والا، بلند کرنے والا) الْمُعِزُّ، الْمُدِلُّ (عزت دینے والا، ذلت دینے والا) (یعنی کسی کو نیچا اور کسی کو اونچا کرنا، کسی کو عزت دے کر سرفراز کرنا اور کسی کو قصرِ مذلت میں گرا دینا اس کے قبضہ و اختیار میں ہے، اور یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے) السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا) الْحَكْمُ، الْعَدْلُ (حاکمِ حقیقی، سراپا عدل و انصاف) اللَّطِيفُ (لطافت اور لطف و کرم جس کی ذاتی صفت ہے) الْخَبِيرُ (ہر بات سے باخبر) الْخَلِيمُ (نہایت بردبار) الْعَظِيمُ (بڑی عظمت والا، سب سے بزرگ و برتر) الْعَفْوُ (بہت بخشنے والا) الشُّكُورُ (حسنِ عمل کی قدر کرنے والا اور بہتر سے بہتر جزا دینے والا) الْعَلِيُّ، الْكَبِيرُ (سب سے بالا، سب سے بڑا) الْحَفِيفُ (سب کا نگہبان) الْمُفِيتُ (سب کو سامانِ حیات فراہم کرنے والا) الْحَسِينُ (سب کے لئے کفایت کرنے والا) الْجَبِيلُ (عظیم القدر) الْكَرِيمُ (صاحبِ کرم) الرَّقِيبُ (نگہدار اور محافظ) الْمُجِيبُ (قبول فرمانے والا) الْوَاسِعُ (وسعت رکھنے والا) الْحَكِيمُ (سب کا حکمت سے کرنے والا) الْوَدُودُ (اپنے بندوں کو چاہنے والا) الْمَجِيدُ (بزرگی والا) الْبَعِثُ (اٹھانے والا، موت کے بعد مَرُودوں کو جلانے والا) الشَّهِيدُ (حاضر جو سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے) الْحَقُّ (جس کی ذات اور جس کا وجود اصلاً حق ہے) الْوَكِيلُ (کارسازِ حقیقی) الْقَوِيُّ الْمُتِينُ (صاحبِ قوت، اور بہت مضبوط) الْوَلِيُّ (سرپرست و مددگار) الْحَمِيدُ (مستحقِ حمد و ستائش) الْمُخْصِي (سب مخلوقات کے بارے میں پوری معلومات رکھنے والا) الْمُبْدِي، الْمَعِينُ (پہلا وجود بخشنے والا، دوبارہ زندگی دینے والا) الْمُنْخِي، الْمُمِيتُ (زندگی بخشنے والا، موت دینے والا) الْحَيُّ (زندہ جاوید، زندگی جس کی ذاتی صفت ہے) الْقَيُّومُ (خود قائم رہنے والا اور سب مخلوق کو اپنی مشیت کے مطابق قائم رکھنے والا) الْوَاجِدُ

(سب کچھ اپنے پاس رکھنے والا) الْمَاجِدُ (بزرگی اور عظمت والا) الْوَاحِدُ، الْأَحَدُ (ایک اپنی ذات میں، اور یکتا اپنی صفات میں)۔ الصَّمَدُ (سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج) الْقَادِرُ، الْمُقْتَدِرُ (قدرت والا، سب پر کامل اقتدار رکھنے والا) الْمُقَدِّمُ، الْمُؤَخِّرُ (جسے چاہے آگے کر دینے والا، اور جسے چاہے پیچھے کر دینے والا) الْأَوَّلُ، الْآخِرُ (سب سے پہلے اور سب سے پیچھے) (یعنی جب کوئی نہ تھا، کچھ نہ تھا، جب بھی وہ موجود تھا، اور جب کوئی نہ رہے گا، کچھ نہ رہے گا وہ اس وقت اور اس کے بعد بھی موجود رہے گا) الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ (بالکل آشکارا اور بالکل مخفی) الْوَالِي (مالک و کارساز) الْمُتَعَالِي (بہت بلند و بالا) الْبَرُّ (بڑا محسن) التَّوَّابُ (توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا) الْمُتَنَقِّمُ (مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچانے والا) الْعَفْوُ (بہت معافی دینے والا) الرَّؤُوفُ (بہت مہربان) مَالِكُ الْمُلْكِ (سارے جہان کا مالک) ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (صاحب جلال اور بہت کرم فرمانے والا۔ جس کے جلال سے بندہ ہمیشہ خائف رہے اور جس کے کرم سے ہمیشہ امید رکھے) الْمُقْسِطُ (حقدار کا حق ادا کرنے والا عادل و منصف) الْجَمَاعُ (ساری مخلوق کو قیامت کے دن یکجا کرنے والا) الْغَنِيُّ، الْمُغْنِي (خود بے نیاز جس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں، اور اپنی عطا کے ذریعہ بندوں کو بے نیاز کر دینے والا) الْمَسَاعُ (روک دینے والا، ہر اُس چیز کو جس کو روکنا چاہے) الضَّارُّ، النَّافِعُ (اپنی حکمت اور مشیت کے تحت ضرر پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا) النَّوْرُ (سراپا نور) الْهَادِي (ہدایت دینے والا) الْبَدِيعُ (بغیر مثال سابق کے مخلوق کا پیدا فرمانے والا) الْبَاقِي (ہمیشہ رہنے والا جس کو کبھی فنا نہیں) الْوَارِثُ (سب کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہنے والا) الرَّشِيدُ (صاحب رُشد و حکمت جس کا ہر فعل اور فیصلہ درست ہے) الصَّبُورُ (بڑا صابر کہ بندوں کی بڑی سے بڑی نافرمانیاں دیکھتا ہے اور فوراً عذاب بھیج کر ان کو تہس نہس نہیں کر دیتا)۔

## تشریح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا ابتدائی حصہ بالکل وہی ہے جو صحیحین کے حوالے سے ابھی اوپر نقل ہو چکا ہے، البتہ اس میں ننانوے ناموں کی تفصیل بھی ہے جو صحیحین کی روایت میں نہیں ہے۔ اس بناء پر بعض محدثین اور شارحین حدیث کی یہ رائے ہے کہ حدیث مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصل ارشاد بس اسی قدر ہے، جتنا صحیحین کی روایت میں ہے یعنی: ”إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ“ (اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جس نے ان کا احصا کیا وہ جنت میں جائے گا)۔ اور ترمذی کی اس روایت میں اور اسی طرح ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ کی روایتوں میں جو ننانوے نام یہ تفصیل ذکر کئے گئے ہیں وہ ارشاد نبوی کا جز نہیں ہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی شاگرد نے حدیث کے اجمال کی تفصیل اور ابہام کی تفسیر کے طور پر قرآن و حدیث میں وارد شدہ یہ اسماء الہیہ ذکر کر دیئے ہیں، گویا محدثین کی اصطلاح میں یہ اسماء حسنیٰ مدرج ہیں۔ اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم کی روایات میں ننانوے ناموں کی جو تفصیل ذکر کی گئی ہے، اس میں بہت برفرق اور اختلاف ہے۔ اگر یہ ننانوے اسماء حسنیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے ہوتے تو ان میں اتنا اختلاف اور فرق ناممکن تھا۔

بہر حال یہ تو فن حدیث و روایت کی ایک بحث ہے، مگر اتنی بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایات میں جو ننانوے اسماء حسنیٰ ذکر کئے گئے ہیں، وہ سب قرآن مجید اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ننانوے اسماء الہیہ کے احصا پر (محموظ کرنے پر) جو بشارت سنائی ہے، اس کے وہ بندے یقیناً مستحق ہیں جو اخلاص اور عظمت کے ساتھ ان اسماء حسنیٰ کو محفوظ کریں اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے اسکی علم اور اس کے سبب پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو صفات کمال، حق تعالیٰ کے لئے ثابت کی جانی چاہئیں اور جن چیزوں کی اس کی ذات پاک سے نفی کی جانی چاہیے، ان ننانوے اسماء حسنیٰ میں وہ سب کچھ آجاتا ہے، اس بناء پر یہ اسماء حسنیٰ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کلمہ اور صالح نصاب ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے مجموعہ میں غیر معمولی برکت ہے اور عالم قدر میں ان کو خاص قبولیت حاصل ہے اور جب کسی

بندے کے اعمال نامہ میں یہ اسماء الہیہ ثبت ہوں تو یہ اس کے حق میں رحمتِ الہی کے فیصلہ کے موجب ہوں گے۔  
واللہ اعلم۔

ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں جو ننانوے اسماء حسنیٰ ذکر کئے گئے ہیں، ان میں سے دو تہائی تو قرآن مجید میں مذکور ہیں، باقی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق وغیرہ جن حضرات نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام قرآن مجید میں موجود ہیں، ان کا ذکر ابھی اوپر کیا جا چکا ہے، اور اس سلسلہ میں حافظ ابن حجرؒ کی آخری کاوش کا بھی حوالہ دیا جا چکا ہے کہ انہوں نے صرف قرآن مجید سے وہ ننانوے اسماء الہیہ نکالے ہیں، جو اپنی اصل شکل میں قرآن پاک میں موجود ہیں۔

اگر ان محدثین اور شارحین کی بات مان لی جائے جن کی رائے ہے کہ ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں جو اسماء حسنیٰ ذکر کئے گئے ہیں، یہ حدیث مرفوعہ کا جزو نہیں ہیں، بلکہ کسی راوی کی طرف سے مدرج ہیں یعنی حدیث کے اجمال کی تفصیل کے طور پر انہوں نے قرآن وحدیث میں وارد شدہ ان ناموں کا اضافہ کر دیا ہے تو پھر حافظ ابن حجرؒ کی پیش کردہ وہ فہرست قابل ترجیح ہونی چاہیے جس کے سب اسماء بغیر کسی خاص تصرف کے قرآن مجید ہی سے لئے گئے ہیں (۱)۔

ننانوے اسماء حسنیٰ جو ترمذی کی روایت میں مذکور ہیں، اور اسی طرح یہ جو حافظ ابن حجرؒ نے قرآن مجید سے نکالے ہیں، بلاشبہ ان میں سے ہر ایک معرفتِ الہی کا دروازہ ہے۔  
علمائے امت نے مختلف زمانوں میں ان کی شرح میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مہمات میں ان کے ذریعہ دعا کرنا بہت سے اہل اللہ کے خاص معمولات میں سے ہے اور اس کی قبولیت مجرب ہے۔

## اسم اعظم


احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے بعض وہ ہیں جن کو اس لحاظ سے خاص عظمت و امتیاز حاصل ہے کہ جب ان کے ذریعہ دعا کی جائے، تو قبولیت کی زیادہ امید کی جاسکتی ہے۔

(۱) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اسمائے حسنیٰ کی پیش کردہ فہرست صفحہ ۳۲۸ پر گزر چکی ہے

ان اسماء کو حدیث میں ”اسم اعظم“ کہا گیا ہے، لیکن صفائی اور صراحت کے ساتھ ان کو متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کسی درجہ میں ان کو مبہم رکھا گیا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کو اور جمعہ کے دن قبولیت دعا کے خاص وقت کو مبہم رکھا گیا ہے۔ احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ہی اسم پاک ”اسم اعظم“ نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ متعدد اسماء حسنیٰ کو ”اسم اعظم“ کہا گیا ہے۔ نیز انہی احادیث سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ عوام میں اسم اعظم کا جو تصور ہے، اور اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں، وہ بالکل بے اصل ہیں، اصل حقیقت وہی ہے جو اوپر عرض کی گئی ہے۔

احادیث میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک مخصوص نام پاک کو اسم اعظم نہیں فرمایا گیا ہے، بلکہ یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ حدیث میں جن دو آیتوں، (ایک ﴿وَاللّٰهُمَّ﴾ الہ واحد لا الہ الا ھو الرحمن الرحیم ﴿﴾، دو ﴿اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا ھُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ﴾..... کا حوالہ دیا گیا، اور اس سے پہلی دونوں حدیثوں میں دو شخصوں کی جو دو دعائیں..... (اللہم انی اسألك بأنک أنت اللہ لا الہ الا أنت الأحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد.....، اور دوم اللہم انی اسألك بأن لك الحمد لا الہ الا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض یا ذالجلال والإکرام، یا حی یا قیوم أسألك.....) نقل کی گئی ہیں، ان میں سے ہر ایک میں متعدد اسماء الہیہ کی خاص ترکیب سے اللہ تعالیٰ کا جو مرکب اور جامع وصف مفہوم ہوتا ہے، اس کو ”اسم اعظم“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نوع کے علوم و معارف سے خاص طور پر نوازا ہے، انہوں نے ان احادیث سے یہی سمجھا ہے۔ واللہ اعلم (۱)۔





## ۶۹- باب : الْمَوْعِظَةُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ .

۶۰۴۸ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ : كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللَّهِ إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مَعَاوِيَةَ ، فَقُلْنَا : أَلَا تَجْلِسُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَذْخُلُ فَأُخْرَجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبِكُمْ وَإِلَّا جِئْتُ أَنَا فَجَلَسْتُ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ ، فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ : أَمَا إِنِّي أُخْبِرُ بِمَكَانِكُمْ ، وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ ، كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا . [ ر : ۶۸ ]

حضرت شقیق سے روایت ہے کہ ہم لوگ عبداللہ (بن مسعود) کا انتظار کر رہے تھے کہ یزید بن معاویہ آئے، ہم نے کہا تشریف نہیں رکھیں گے؟ انہوں نے کہا: نہیں! بلکہ میں اندر جاتا ہوں اور تمہارے پاس تمہارے ساتھی (حضرت عبداللہ بن مسعود) کو لے آتا ہوں، ورنہ میں آؤں گا اور بیٹھ جاؤں گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود نکلے اور وہ یزید بن معاویہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں یہاں تم لوگوں کی موجودگی سے باخبر تھا، لیکن مجھے جس چیز نے باہر نکلنے سے روکا وہ صرف یہ خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں وعظ کہنے میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں وہ ہمارے اکتانے کا سبب نہ ہو جائے۔ (اصل میں وہاں موجود لوگوں نے ان سے روزانہ وعظ کہنے کی درخواست کی، جس کے جواب میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا)

## ترجمہ الباب کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وعظ و نصیحت وقتاً فوقتاً ہونا چاہیے اور اس میں وقفہ رکھنا چاہیے، بغیر کسی وقفے کے تسلسل کے ساتھ روزانہ اور بلا ناغہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ بسا اوقات، اکتاہٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لئے اگر مناسب وقفے کا خیال رکھ کر وعظ و نصیحت کی جائے تو یہ صورت زیادہ بار آور اور مفید ثابت ہوگی.....

## باب کی کتاب سے مناسبت

کتاب الدعوات سے، اس باب کی مناسبت بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وعظ و نصیحت چونکہ عموماً ذکر پر مشتمل ہوتی ہے اور ذکر بھی دعا کے زمرے میں داخل ہے، اس لئے موعظہ کو کتاب الدعوات میں لے آئے (۱)۔

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے، اس باب کی کتاب الدعوات سے مناسبت کی ایک نفیس توجیہ بیان فرمائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری، اس باب اور حدیث سے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دعا میں اکتاہٹ سے بچنا چاہیے، وعظ و نصیحت اور دعوت و تبلیغ ایک اہم فریضہ ہے، جب اس میں اکتاہٹ سے بچنے کا اہتمام کیا گیا ہے تو دعا میں بطریق اولیٰ اس سے بچنا چاہیے اور دعا اس قدر لمبی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، چنانچہ حضرت لکھتے ہیں:

”وعندي أن الإمام البخاري رحمه الله أشار بالترجمة وحدثها إلى أنه ينبغي الاحتراز عن الملal في الدعاء، فإنه لما يحترز عنه في التذكير، وهو أهم؛ ففي الدعاء بالأولى، فلا ينبغي التطويل في الدعاء، حتى يؤدي إلى الملal، وليس المراد كراهة الطول مطلقاً، بل الطول المؤدي إلى الملal“ (۲)۔

## إذ جاء يزيد بن معاوية

يزيد بن معاوية تابعي ہیں اور صحیح بخاری میں صرف اس ایک مقام پر ان کا ذکر ملتا ہے، ابن حبان نے کتاب اشقات میں ان کا ذکر کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فارس میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے (۳)۔

(۱) فتح الباري: ۲۶۵/۱۱، وعمدة القاري: ۴۵/۲۳

(۲) الأبواب والتراجم: ۱۳۰/۲

(۳) قال ابن الأثير في النهاية: ۸۸/۲: ”يتخولنا: يتعهدنا، من قولهم، فلان خائل مال، وهو الذي يصلحه،

ويقوم به، وانظر غريب الحديث للخطابي: (۴۳۷/۲)

## یتخولنا بالموعظة

یتخول "تخول" سے مشتق ہے، اس کے معنی اصلاح اور نگہداشت کرنے کے ہیں (۴)۔ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت میں ہماری حالت کی رعایت رکھتے تھے۔

## کراهية السامة علينا

یعنی ہمارے اوپر اکتاہٹ طاری ہو جانے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے، اس وجہ سے آپ ہمارے رعایت رکھتے تھے۔ یہ ترکیب میں مفعول نہ واقع ہو رہا ہے۔

یہ حدیث کتاب العلم میں باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة..... کے تحت گزر چکی ہے اور وہیں اس پر مفصل گفتگو بھی ہوئی ہے (۵)۔



(۴) تہذیب الکمال: ۲۴۶/۳۲، و کتاب الثقات لابن حبان: ۵/۵۴۵

(۵) دیکھئے: کشف الباری، کتاب العلم، ص: ۲۵۶، رقم الحدیث: ۶۸

٨٤ - كتاب الرقاق

كشف الباري  
عن أبي بصير الجباري

## ۸۴ - کتاب الرقاق

(الأحادیث: ۶۰۴۹-۴۲۲۰)

کتاب الرقاق ۵۳..... ابواب پر مشتمل ہے، جن میں اکتالیسواں باب  
بلا ترجمہ ہیں، امام بخاری نے اس میں ۱۹۳..... مرفوع احادیث ذکر فرمائی ہیں، ان میں  
۳۳..... احادیث تعلیق کی صورت میں ہیں اور بقیہ ۱۶۰..... احادیث موصولہ ہیں، جن  
میں ۱۳۴..... احادیث مکرر ہیں اور بقیہ ۵۹..... احادیث خالص یعنی غیر مکرر ہیں،  
۱۷..... احادیث کے سوا بقیہ احادیث کی تخریج امام مسلم نے بھی کی ہے..... کتاب  
الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرات صحابہ اور تابعین وغیرہ کے ۱۷..... آثار ذکر  
فرمائے ہیں۔

## زہد و رقاق کی کتب پر ایک تعارفی نظر

مرتب کے قلم سے

حضرات محدثین ”زہد و رقاق“ کے عنوان سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان مبارک احادیث اور امت کے جلیل القدر اسلاف کے ان واقعات کو جمع کرتے ہیں جن کو پڑھ کر دل کی سنگینی، رقت میں بدل جاتی ہے اور قساوت کی جگہ سوز و گداز لے لیتا ہے، فانی دنیا کی حقیقت سامنے آتی ہے، انسانی زندگی کی بے بسی عیاں ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اس بھری پری کائنات کی رنگینیوں کی بے ثباتی واضح ہوتی ہے..... حقیقت یہ ہے کہ اس عنوان کے تحت، اس رنگ رنگ جہاں کی ان دل کشیوں سے ”ہوشیار باش“ کی صدا لگائی جاتی ہے جو زندگی کے مسافر کے رخ کو سمت قبلہ سے پھیرتی اور نافرمانیوں میں گھیرتی ہیں، مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حدیث کی کتابوں میں جس طرح کتاب الایمان، کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب النکاح، کتاب البیوع وغیرہ عنوانات ہوتے ہیں، جن کے تحت ان ابواب کی حدیثیں درج کی جاتی ہیں، اسی طرح ایک عنوان ”کتاب الرقاق“ کا ہوتا ہے، جس کے ذیل میں وہ حدیثیں درج کی جاتی ہیں جن سے دل میں رقت اور گداز کی کیفیت پیدا ہو، دنیا سے دل بستگی کم ہو اور آخرت کی فکر بڑھے اور آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی فلاح کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے، اس کے علاوہ اسی عنوان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موثر خطبات و نصائح اور مواعظ بھی درج کئے جاتے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ حدیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ موثر اور زندگی کے رخ کو بدلنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا حصہ یہی ہوتا ہے، جو کتب حدیث میں ”کتاب الرقاق“ کے زیر عنوان درج ہوتا ہے، اس لئے اس کی خاص اہمیت ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ حقیقی اسلامی

تصوف کی یہی اساس و بنیاد ہے“ (۱)۔

اسی اہمیت کی بناء پر حضرات محدثین، حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی احادیث کے لئے ”کتاب الرقاق“ یا ”کتاب الزهد والرقاق“ کا مستقل عنوان قائم کرتے ہیں اور امت کے کئی ائمہ اور علماء نے اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، یہاں ان کا ایک اجمالی تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

### صحیح بخاری میں کتاب الرقاق

امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الرقاق کے تحت ۵۳ ابواب ذکر کئے ہیں، انہوں نے قیامت، حشر، جنت، جہنم، پل صراط اور حوض کوثر سے متعلق احادیث بھی رقاق کے ذیل میں بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ عرض کیا گیا کتاب الرقاق ۵۳..... ابواب پر مشتمل ہے، جن میں اکتالیسواں باب بلا ترجمہ ہیں، امام بخاری نے اس میں ۱۹۳..... مرفوع احادیث ذکر فرمائی ہیں، ان میں ۳۳..... احادیث تعلق کی صورت میں ہیں اور بقیہ ۱۶۰..... احادیث موصول ہیں، جن میں ۱۳۳..... احادیث مکرر ہیں اور بقیہ ۵۹..... احادیث خالص یعنی غیر مکرر ہیں، ۱۷..... احادیث کے سوا بقیہ احادیث کی تخریج امام مسلم نے بھی کی ہے..... کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرات صحابہ اور تابعین وغیرہ کے ۱۷..... آثار ذکر فرمائے ہیں۔

### صحیح مسلم میں کتاب الرقاق

امام مسلم رحمہ اللہ نے، صحیح مسلم میں ”رقاق“ کی حدیثیں ذکر کی ہیں، انہوں نے چونکہ ابواب اور عنوانات خود نہیں لگائے تھے بلکہ مطبوعہ نسخوں میں کتب اور ابواب کے یہ عنوانات بعد میں امام نووی رحمہ اللہ نے لگائے ہیں (۲) انہوں نے کتاب التفسیر سے پہلے اور ”کتاب الجنة وصفة نعيمها“ کے بعد کتاب الزهد والرقاق ذکر کیا ہے اور ۱۷ احادیث پر بیس ابواب قائم کئے ہیں (۳)۔

جنت و جہنم اور قیامت سے متعلق احادیث پر امام نووی رحمہ اللہ نے مستقل کتاب کا عنوان قائم کیا ہے

(۱) معارف الحدیث: ۲/۲۵

(۲) مقدمہ صحیح مسلم از مولانا شبیر احمد عثمانی: ۱۰۰

(۳) دیکھئے، صحیح مسلم، کتاب الزهد والرقاق، الأحادیث: ۷۳۴۳-۷۴۳۸

اور ان احادیث کو رقاق کے تحت نہیں رکھا، جب کہ صحیح بخاری میں یہ احادیث کتاب الرقاق ہی کے تحت ہیں، صحیح مسلم میں کتاب صفة القيامة اکیس ابواب پر، کتاب صفة الجنة بیس ابواب پر، کتاب التوبہ بارہ ابواب پر مشتمل ہے، البتہ بعض نسخوں میں کتاب التوبہ سے پہلے، کتاب الرقاق کا عنوان ہے اور اس کے تحت ایک باب ”باب أكثر أهل الجنة الفقراء“ ذکر کیا گیا ہے (۴)۔

ان نسخوں میں ”کتاب الرقاق“ دو جگہ ہیں، ایک کتاب التوبہ سے پہلے اور دوم کتاب التفسیر سے پہلے، البتہ ہندوستانی نسخوں میں یہاں کتاب الرقاق کا عنوان نہیں ہے (۵)۔

### سنن ترمذی کی کتاب الزہد

صحاح ستہ میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی کتاب الزہد کے تحت ۶۴ ابواب قائم کئے ہیں اور اس کے تحت ایک سو گیارہ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں (۶)، انہوں نے بھی جنت، جہنم اور قیامت سے متعلق احادیث اس کے بعد ”کتاب صفة القيامة والرقاق.....“، ”کتاب صفة الجنة“ اور ”کتاب صفة جہنم“ کے عنوان سے ذکر کی ہیں، یہ تمام احادیث بھی رقاق کے زمرے میں آتی ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب صفة القيامة والرقاق میں ۶۰ ابواب قائم کئے اور اس کے تحت ایک سو سات حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، کتاب صفة الجنة میں ۲۷ ابواب اور تیس حدیثیں اور کتاب صفة جہنم میں ۱۳ ابواب اور تقریباً ۳۱ احادیث ذکر فرمائی ہیں (۷)۔

### سنن ابن ماجہ میں کتاب الزہد

امام ابن ماجہ نے سنن میں کتاب الزہد کے تحت ۳۹ ابواب قائم کئے ہیں اور اس کے تحت دو سو اکتالیس

احادیث نقل فرمائی ہیں۔

(۴) دیکھئے، صحیح مسلم: ۵۵/۱۷، دارالمعرفة بیروت

(۵) دیکھئے، صحیح مسلم: ۳۵۲/۲، قدیمی کتب خانہ

(۶) دیکھئے، سنن الترمذی، کتاب الزہد، الأحادیث: ۲۳۰۴-۲۴۱۴

(۷) دیکھئے، سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة والرقائق، الأحادیث: ۲۴۱۵-۲۵۲۲، و کتاب صفة الجنة،

الأحادیث: ۲۵۲۳-۲۵۷۲، و کتاب صفة جہنم، الأحادیث: ۲۵۷۳-۲۶۰۵



صحاح ستہ میں امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں کتاب الزہد یا کتاب الرقاق کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا، اسی طرح سنن نسائی صغریٰ میں بھی کتاب الرقاق نہیں ہے۔

صحاح ستہ میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ زہد و رقاق کی حدیثیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہیں، جن کی اردو تشریح ”دنیا کی حقیقت“ کے نام سے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جو چھپ چکی ہے (۹)۔

### زہد و رقاق پر لکھی جانے والی مستقل کتابیں

زہد و رقاق کے عنوان سے مستقل کتابیں بھی حضرات علماء نے لکھی ہیں، جن میں مندرجہ ذیل اہل علم کی کتابیں زیادہ مشہور ہیں:

- ① امام عبد اللہ بن المبارک..... متوفی: ۱۸۱ھ، ان کی کتاب الزہد مشہور ہے، اس کا تعارف آرہا ہے۔
- ② امام معانی بن عمران موصلی..... متوفی: ۱۸۵ھ، ان کی کتاب الزہد مطبوع ہے۔
- ③ حضرت امام وکیع بن جراح..... متوفی: ۱۹۷ھ، ان کی کتاب الزہد بھی مطبوع ہے۔
- ④ حضرت اسد بن موسیٰ..... متوفی: ۲۱۲ھ، ان کی کتاب الزہد بھی مطبوع ہے۔
- ⑤ حضرت امام احمد بن حنبل..... متوفی: ۲۴۱ھ، ان کی کتاب الزہد کا تعارف آرہا ہے۔
- ⑥ حضرت ہناد بن سری..... متوفی: ۲۴۳ھ، ان کی کتاب الزہد بھی مطبوع ہے۔
- ⑦ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بختانی..... متوفی: ۲۷۵ھ، ان کی کتاب الزہد بھی مطبوع ہے۔
- ⑧ عبد اللہ بن محمد بن عبید: ابن ابی الدنیا..... متوفی: ۲۸۱ھ، ان کی کتاب الزہد بھی مطبوع ہے۔
- ⑨ امام بیہقی (احمد بن احسین صاحب السنن)..... متوفی: ۴۵۸ھ، ان کی کتاب، کتاب الزہد الکبیر کے نام سے مشہور ہے اور طبع ہو چکی ہے۔

ان کے علاوہ محمد بن فضیل بن غزوان (متوفی: ۱۹۵)، قاضی محمد بن احمد عسال اصہبانی (متوفی: ۲۳۹)،

(۸) دیکھئے، سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، الأحادیث: ۱۶۰۰-۴۳۴۱

(۹) یہ کتاب مکتبہ بینات کراچی سے چھپی ہے۔

حافظ عمر بن احمد: ابن شاپین (متوفی: ۳۸۵)، امام ابو القاسم خلف بن القاسم (متوفی: ۳۹۳) اور علامہ عبدالحق بن عبد الرحمن اشبیلی (متوفی: ۵۸۱ھ) نے بھی کتاب الزہد و الرقاق پر مستقل کتابیں لکھی ہیں (۱۰)۔

لیکن ان مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب الزہد ہے۔

### حضرت عبد اللہ بن مبارک کی کتاب الزہد

حضرت عبد اللہ بن مبارک دوسری صدی ہجری کے جلیل القدر محدث اور ممتاز مجاہد بزرگ امام ہیں، ان کا ایک سال حج کے لئے جانا اور ایک سال جہاد کے لئے محاذ پر جانا مشہور ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور ائمہ جرح و تعدیل کا ان کی ثقاہت پر اتفاق ہے، ان کی ولادت ۱۱۸ اور وفات ۱۸۱ میں ہوئی (۱۱)۔

انہوں نے ”کتاب الزہد“ کے نام سے مستقل کتاب لکھی ہے، جس کو امت میں بڑی مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی، اس کتاب کے ایک نسخہ کے راوی حسین بن الحسن مروزی ہیں جو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں اور جن کی وفات ۲۳۶ میں ہوئی ہے (۱۲) اور اس کے ایک دوسرے نسخے کے راوی نعیم بن حماد ہیں جو مشہور محدث ہیں اور ان کی وفات ۲۲۸ھ میں ہوئی ہے (۱۳)۔

حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے ممتاز شاگرد حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن مبارک کی کتاب الزہد کو اپنی تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے، انہوں نے تین نسخوں کو سامنے رکھ کر تحقیق کی، آیات کریمہ اور احادیث کی تخریج کی اور ان پر ارقام لگائے، مشکل الفاظ کی وضاحت کی اور آخر میں نعیم بن حماد کے نسخے میں مروزی کے نسخے پر جو اضافہ ہے، اسے بھی شامل کتاب کر دیا گیا ہے، چنانچہ مروزی

(۱۰) دیکھئے، مقدمہ مولانا حبیب الرحمن اعظمی: ۱۲-۱۳

(۱۱) دیکھئے، حلیۃ الأولیاء، ۱/۱۶۲، وسیر أعلام النبلاء: ۸/۲۷۸، وستان المحدثین: ۱۴۷، ونہذب

الکمال: ۵/۱۶

(۱۲) تہذیب التہذیب: ۳/۳۳۴

(۱۳) تذکرۃ الحفاظ: ۶/۲

عن ابن المبارک کے نسخے میں ۱۶۲۶ احادیث و آثار ہیں اور نعیم بن حماد کے نسخے میں ۴۳۶ احادیث و آثار کا اضافہ ہے، اس طرح کل ۲۰۶۲ احادیث و آثار اس میں آگئے ہیں، یہ تمام آثار و روایات فقہی ابواب پر مرتب کی گئی ہیں۔

کتاب کے شروع میں مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے چالیس سے زیادہ صفحات پر مشتمل ایک وقیح مقدمہ بھی تحریر فرمایا ہے، جس میں زہد کی تعریف، شریعت میں زہد کے مقام و مرتبے اور کتاب الزہد کے تعارف اور اپنے کام کی نوعیت کی وضاحت فرمائی ہے!

ہمارے پاس اس وقت اس کا جو نسخہ ہے، وہ دارالکتب العلمیہ بیروت نے ۱۴۲۵ھ میں چھاپا ہے، جو اس کا دوسرا ایڈیشن ہے اور ۵۳۵ صفحات پر مشتمل ہے!

## امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد

امام احمد بن حنبل کا نام محتاج تعارف نہیں، ان کی کتاب الزہد بھی بڑی معروف اور متداول ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ومن أجل ما صنف فيه كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، وفيه روايات واهية.....، وأجود ما صنف فيه كتاب الزهد للإمام أحمد، لكنه مكتوب على الأسماء، وزهد بن المبارك على الأبواب“ (۱۴) یعنی اس سلسلے میں سب سے جلیل القدر تصنیف حضرت عبد اللہ بن المبارک کی کتاب الزہد ہے، لیکن اس میں ضعیف روایات ہیں، اس باب میں سب سے عمدہ تصنیف، امام احمد کی کتاب الزہد ہے، جو اسماء کے اعتبار سے لکھی گئی ہے، جب کہ ابن المبارک کی کتاب الزہد، ابواب فقہیہ کی ترتیب پر ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تقریباً بارہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور چوالیس حضرات صحابہ اور تابعین کے زہد و دورے کے آثار و واقعات نقل کئے ہیں، کتاب کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث

اور سیرت سے زہد و ورع کا ایک نمونہ پیش فرمایا، کتاب میں موجود ان احادیث و آثار کی تعداد ۲۳۷۹ ہے، ہمارے سامنے اس وقت جو نسخہ ہے، یہ دارالکتب العربی نے ۱۴۱۴ھ، ۱۹۹۴ء میں چھاپا ہے اور دوسرا ایڈیشن ہے، یہ ایڈیشن محمد سعید سیونی زغلول کی تحقیق و حواشی کے ساتھ ۵۶۶ صفحات میں طبع ہوا ہے۔

### الترغیب والترہیب للمنزري

زہد و رفاق سے متعلق ساتویں صدی ہجری کے مشہور محدث حافظ منذری رحمہ اللہ نے بھی ”الترغیب والترہیب“ کے نام سے کتاب لکھی ہے، جو بہت حد تک جامع ہے، ان کا پورا نام عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری ہے، اور ان کی وفات ۲۵۶ھ میں ہوئی ہے (۱۵)۔

انہوں نے زہد و رفاق سے متعلق صحاح ستہ اور مندرجہ بالا کتب کی اکثر احادیث کو جمع کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ مندرجہ ذیل کتابوں سے انہوں نے ترغیب و ترہیب سے متعلق تمام احادیث کے استیعاب کی کوشش کی ہے:

- |  |  |
|--|--|
| ۱ موطا امام مالک                               | ۲ مسند احمد                            |
| ۳ صحیح بخاری                                   | ۴ صحیح مسلم                            |
| ۵ سنن ابی داؤد                                 | ۶ سنن ترمذی                            |
| ۷ سنن نسائی کبریٰ                              | ۸ سنن ابن ماجہ                         |
| ۹ معاجم طبرانی                                 | ۱۰ مسند ابی یعلیٰ موصلی                |
| ۱۱ مسند بزار                                   | ۱۲ صحیح ابن حبان                       |
| ۱۳ مستدرک حاکم                                 | ۱۴ صحیح ابن خزیمہ                      |
| ۱۵ کتب ابن ابی الدنیا                          | ۱۶ شعبہ الایمان اور کتاب الزہد للبیہقی |
| ۱۷ ابوالقاسم اصہبانی کی کتاب الترغیب والترہیب۔ |  |

حافظ منذری رحمہ اللہ نے ”الترغیب والترہیب“ کو درج ذیل فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا ہے:

کتاب العلم، کتاب الطہارۃ، کتاب الصلوٰۃ، کتاب النوازل، کتاب الجمعہ، کتاب الصدقات، کتاب الصوم، کتاب العیدین، کتاب الحج، کتاب الجہاد، کتاب قراءۃ القرآن، کتاب الذکر والدعاء، کتاب البیوع، کتاب الزکاح، کتاب اللباس، کتاب الطعام، کتاب الحدود، کتاب البر والصلہ، کتاب الادب، کتاب التوبہ والزرہد، کتاب الجنائز، کتاب البعث و احوال القیامہ۔

حافظ منذری رحمہ اللہ نے احادیث سے سند حذف کر دی ہے اور عموماً صرف صحابی یا تابعی کا نام باقی رکھا ہے، جس کتاب سے حدیث لی گئی ہے، اس کا حوالہ دیا ہے اور حدیث کی حیثیت واضح کی ہے اور اگر کوئی حدیث متکلم فیہ ہے تو محدثانہ اصول کے مطابق وجہ ضعف کی انہوں نے وضاحت فرمادی ہے! (۱۶)

ہمارے سامنے اس وقت جو نسخہ ہے، وہ مصطفیٰ محمد عمارہ کی تحقیق سے دار احیاء التراث العربی بیروت نے ۱۹۶۸ء میں چار جلدوں میں شائع کیا ہے اور تیسرا ایڈیشن ہے، کتاب کے شروع میں محقق نے تقریباً تیس صفحات کا مقدمہ لکھا ہے جس میں اصول حدیث کی اصطلاحات اور کتاب کے مراجع کے مصنفین کا تعارف کرایا ہے۔

☆☆.....☆☆

## ۸۴ - کتاب الرقاق

رقاق، رقیق کی جمع ہے جس کے معنی ہیں: رقت والا، پتلا، نرم۔  
صحیح بخاری کے بعض نسخوں اور حدیث شریف کی بعض کتابوں میں ”رقاتق“ ہے، جو ”رقیقة“ کی جمع ہے، حضرات محدثین، اس کتاب کے تحت ان احادیث کو جمع کرتے ہیں، جن سے دل کے اندر رقت اور نرمی پیدا ہوتی ہے (۱)۔

۱ - باب : ما جاء في الصَّحَّةِ وَالْفِرَاقِ ، وَأَنْ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ .

اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک جسمانی صحت اور فراغتِ اوقات کی فضیلت و اہمیت بیان فرمائی ہے، دوم یہ کہ اصل زندگی، آخرت کی زندگی ہے۔

۶۰۴۹ : حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصَّحَّةُ وَالْفِرَاقُ) .

قَالَ عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : مِثْلَهُ .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی بابت فریب خوردہ ہیں، صحت اور فراغت، عباس عنبری نے بیان کیا کہ ہم سے صفوان بن عیسیٰ نے عبد اللہ بن سعید سے اور انہوں نے

اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث سنی۔

المسکی نام ہے، نسبت نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے بڑے اساتذہ وشيوخ میں سے ہیں، عبد اللہ بن سعید صغار تابعین میں سے ہیں، ہو ابن أبي الهند اس میں ”ہو“ ضمیر سعید کی طرف راجع ہے (۲)۔

## صحت اور فراغت کی قدر کی جائے

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان دو نعمتوں کے بارے میں عموماً دھوکے اور غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے، ایک صحت و تندرستی اور دوم فراغت اور فرصت کے اوقات و لمحات۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانتے ہوئے دین و دنیا کے فائدے میں صرف کرنے کے بجائے اسے ضائع کر دیتے ہیں، پھر جب صحت جواب دے جاتی ہے اور جسم کی قوتیں اور صلاحیتیں کام کی نہیں رہتیں تب محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے کتنے کاموں کی طرف، زمانہ صحت میں انہوں نے توجہ نہیں دی، یہی حال فراغت اوقات کا ہے، فرصت کے اوقات یوں ہی ضائع چلے جاتے ہیں، بعد میں مختلف مشغولیتیں، مصروفیات اور کاموں کا جب ہجوم ہونے لگتا ہے تو فرصت کے اوقات کے ضائع جانے پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔

مغبون: اسم مفعول کا صیغہ ہے یہ یا تو غبن (نون کے کون کے ساتھ) سے ماخوذ ہے، جس کے معنی خسارے کے ہیں اور یا غبن (فتح الباء) سے ماخوذ ہے، جس کے معنی رائے کی کمزوری کے آتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے ان دو نعمتوں کی قدر نہ کی، وہ خسارے میں رہا یا دھوکے میں رہا اور اس بارے میں اس کی فکر اور سوچ بڑی کمزور رہی، جس طرح آدمی خرید و فروخت میں دھوکہ کھا کر مفت میں نفع گنوا دیتا ہے اور خسارے کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح ان دو نعمتوں کی ناقدری کرنے والے بھی خسارے کا شکار رہتے ہیں (۳)۔

(۲) عمدة القاري: ۴۷/۲۳، فتح الباري: ۲۸۶/۱۱، إرشاد الساري: ۱۳/

(۴) عمدة القاري: ۴۷/۲۳، فتح الباري: ۲۷۶/۱۱

۶۰۵۰ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ . فَأَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ) .  
[ر : ۲۶۷۹]

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، پس انصار اور مہاجرین کو تو صالح اور نیک رکھ۔

۶۰۵۱ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْقَدَامِ : حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ ، وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ ، وَبَصُرْنَا ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ . فَأَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةَ) .  
تَابِعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . [ر : ۳۵۸۶]

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر موجود تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، اور ہم مٹی منتقل کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے فرمایا: اے اللہ! اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، پس تو انصار و مہاجرین کی مغفرت کر، اس روایت کی متابعت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالہ سے کی۔

۲- باب : مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ .

دنیا بمقابلہ آخرت

”فی الآخرة“ جار مجرور کا متعلق محذوف ہے، تقدیری عبارت یوں ہے: مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، ”فی“ حرف جر بمعنی ”إلى“ ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ ﴿فَرُدُّوْا اِيْدِيْهِمْ فِىْ اَفْوَاهِهِمْ﴾ میں



بھی ”فی“ بمعنی ”إلی“ ہے (۱)، ترکیب کے اندر ”مثل الدنيا.....“ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے، ”کمثل لا شی“ (۲)۔

صحیح مسلم میں حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”واللہ ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعة في اليم فلينظر بما يرجع“ (۳) یعنی خدا کی قسم! آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ وہ انگلی کیا چیز لے کر واپس آئی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سمندر کے اندر انگلی ڈبوتا ہے تو اس پر صرف تری یا ایک آدھ قطرہ لگا ہوگا، اس تری اور قطرے کی سمندر کے پانی کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں، اسی طرح دنیا کے زمانے اور نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں کوئی مناسبت نہیں، یہ تمثیل بھی محض لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہے ورنہ درحقیقت دنیا کی نعمتوں کا آخرت کی نعمتوں سے مقابلہ ہی نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ دنیا فانی اور متناہی ہے اور آخرت باقی اور غیر متناہی ہے۔

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ / الحديد: ۲۰ /

”تم خوب جان لو کہ دنیوی زندگی گنی نغض لہو و لعب، زینت، باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک کا دوسرے پر اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے، جیسے، مینہ (بارش) ہے کہ اس کی پیداوار کا شکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، اس کو تو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چور چور ہو جاتی ہے اور آخرت میں عذاب شدید ہے اور خدا کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے اور دنیوی زندگی گنی محض، ہو کہ کا سامان ہے۔“

(۱) عمدة القاري: ۴۸/۲۳، إرشاد الساري: ۴۱۴/۱۳، وروح المعاني: ۲۴۲/۱۳

(۲) عمدة القاري: ۴۸/۱۳، وإرشاد الساري: ۴۱۴/۱۳

(۳) صحیح مسلم، کتاب الجنة وصفة نعيمها، باب فناء الدنيا، وبيان الحشر يوم القيامة: ۱۷۹/۱۸، رقم الحديث: ۷۱۲۶

## دنیوی زندگی کی بے ثباتی

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیوی زندگی کی بے وقعتی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حیاتِ دنیوی فانی، محض فریب اور دھوکہ کا سبب ہے، یہ ہرگز قابلِ اشتغال مقصود نہیں کیونکہ وہ بچپن میں کھیل تماشے، جوانی میں بناؤ سنگھار اور قوت و جمال اور دنیوی ہنر و کمال میں باہم ایک دوسرے پر فخر کرنے اور بڑھاپے میں مال و دولت اور اولاد کی فکر کرنے کا نام ہے اور یہ سب مقاصد نہایت حقیر اور جلد ختم ہونے والے ہیں، سرعتِ زوال و اضمحلال میں ان کی مثال کھیتی جیسی ہے، جس کی رونق و بہار چند روزہ ہوتی ہے، کاشت کار اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مگر کچھ ہی دنوں بعد وہ خشک ہو کر زرد ہو جاتی ہے، آدمی اور جانور اس کو روند کر پھوڑا پھوڑا کر دیتے ہیں اور اس شادابی اور رونق کا نام و نشان تک نہیں رہتا، یہی حال اس دنیا کی زندگی کا ہے، جب کہ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی لافانی اور پائے دار ہے، جس میں اہل ایمان کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و مغفرت کا انعام ہے اور کفار کے لئے سخت عذاب ہے اور یہ دونوں نہ ختم ہونے والے امور ہیں، لہذا مسلمان کو دنیا میں انہماک کے بجائے آخرت کے لئے توشہ تیار کرنا چاہیے۔

لَهُوَ: تفریحی مشغلہ، سامانِ تفریح، فضول کام وغیرہ جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے۔

زِينَةٌ: بناؤ سنگھار، فیشن وغیرہ۔

تَفَاخُرٌ: قوت و جمال اور دنیوی ہنر و کمال میں باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا۔

تَكَاَثُرٌ فِي الْاَوْلَادِ وَالْاَمْوَالِ: اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا۔

عَنِيَةٌ: بارش۔

الْكُفَّارُ: کاشتکار مراد ہیں، کاشت کار کو کافر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ”کفر“ کے معنی ہیں: نستر، چھپانا اور کاشت کار بھی زمین میں بیج چھپاتا ہے اور اس سے کافر بھی بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی زیب و زینت کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں (۴)۔

يَهِيْجُ هَاجَ النَّبْتُ يَهِيْجُ هَيْجاً کے معنی ہیں: گھاس یا پودے کا سوکھ کر زرد ہو جانا، کھیتی کارپکنے کے

قریب ہونا، زور پر آنا۔

مُضْفَرًا: اصرار سے ہے، بمعنی زرد ہونا۔

حُطَامًا: کسی چیز کا پورا اور بیزہ وغیرہ (۵)۔

۶۰۵۲ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (مَوْضِعُ سَوَاطِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَعْدَوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) . [ر : ۲۶۴۱]

حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا: جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، سب سے بہتر ہے اور اللہ

کے راستے میں صبح کو یا شام کو چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

### دنیا، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک یہ کہ جنت میں

ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے بہتر ہے، ایک کوڑے کی جگہ بڑی کم ہوتی ہے، مقصد یہ ہے کہ

جنت کا قلیل اور مختصر حصہ دنیا اور اس کی تمام نعمتوں اور خزانوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس کی نعمتیں فانی اور

زائل ہونے والی ہیں، جب کہ آخرت کی ہر نعمت کو دوام اور بقاء حاصل ہے۔

### حدیث کے دو مطلب

دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے،

ان سب سے بہتر ہے، حضرات محدثین نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں:

① ایک یہ کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لئے، ایک صبح اور ایک شام کا وقت صرف کرنے پر

آخرت میں جو اجر و ثواب ملتا ہے، وہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے بہتر ہے، کیونکہ آخرت کا ثواب اور اجر

دائمی اور دنیا کی خوشیاں اور مسرتیں فانی ہیں (۶)، اس مطلب کی تائید حدیث شریف کے پہلے جملے ”موضوع سوط فی الجنة.....“ سے ہوتی ہے، جس طرح پہلے جملے میں دنیا کا مقابلہ آخرت سے کیا گیا ہے، اسی طرح اس دوسرے جملے میں بھی آخرت کے اجر و ثواب کا تقابل دنیا سے کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آخرت کا اجر تمام دنیا سے بہتر ہے۔

۲ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں صبح و شام صرف کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب، اس شخص کے اجر و ثواب سے زیادہ بہتر ہے، جو دنیا اور اس کے تمام خزانوں کو خرچ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک شخص دنیا اور اس کے تمام خزانوں کا مالک بن جائے اور وہ اسے خرچ کر دے، اس کا ثواب اس کو حاصل ہوگا لیکن اس ثواب کے مقابلے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے صبح یا ایک شام لگانے کا ثواب زیادہ بہتر ہے (۷)۔

اس دوسرے مطلب میں ثواب کا تقابل ثواب سے کیا گیا ہے، ایک صبح اور شام کا ثواب ہے، دوسرا اتفاقِ دنیا کا ثواب ہے، پہلے ثواب کو ترجیح دی گئی ہے۔

اس دوسرے مطلب کی تائید، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جہادی قافلے میں ان کی تشکیل فرمائی تھی، جمعہ کے دن قافلہ کو روانہ ہونا تھا، صبح کے وقت قافلہ روانہ ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ یہ سوچ کر پیچھے رہ گئے کہ نماز جمعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں ادا کر دیں گے اور پھر تیزی کے ساتھ سفر کر کے قافلے سے جا ملیں گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں مسجد میں دیکھا، پوچھا، انہوں نے اپنا ارادہ بتلایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”لو أنفقت ما في الأرض، ما أدرى كنت فضل غَدْوَتِهِمْ“ یعنی: آپ دنیا کی تمام دولت بھی اب خرچ کر دیں تو صبح جانے والوں کا ثواب نہیں پاسکتے (۸)۔

(۶) شرح ابن بطلال: ۱۴/۵

(۷) فتح الباری: ۱۴/۶، کتاب الجهاد، باب الغدوة والروحة فی سبیل اللہ

(۸) فتح الباری: ۱۴/۶

حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی اس حدیث میں بھی ثواب کا مقابلہ ثواب سے کیا گیا ہے، اس سے دوسرے مطلب کی تائید ہوتی ہے اور بظاہر دونوں مطالب میں کوئی تضاد بھی نہیں، اس لئے دونوں کو جمع کیا جاسکتا ہے۔

۳- باب : قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ : ( كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ) .  
 ۶۰۵۳ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُذَنَّبِ الطَّفَاوِيُّ ،  
 عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
 أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ : ( كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ) . وَكَانَ  
 ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ  
 صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ .

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا: دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستہ پر چلنے والے ہو، حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے تھے: شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو (بلکہ جو نیک عمل کرنا ہے، اسے اسی وقت کر لو) اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے!

طَفَاوِي : ( طاء کے ضمہ کے ساتھ ) یہ نسبت ہے بنو طفاوہ کی طرف، بعضوں نے کہا کہ یہ بصرہ میں ایک جگہ کا نام ہے (۱)۔ ان کا نام محمد بن عبدالرحمن ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ الشیخ ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ علی بن عبداللہ ہیں، محمد بن عبدالرحمن ان کے شیخ ہیں اور یہ نقل کرتے ہیں سلیمان ابن معتمر سے جو اعمش سے مشہور ہیں۔

## دنیا میں مسافر بن کر جے

غریب او عابر سبیل: غریب کے معنی اجنبی کے ہیں اور عابر سبیل سے راستے کو عبور کرنے اور آگے جانے والا مسافر مراد ہے، جو شخص کسی شہر کے اندر اجنبی ہو، اس کا گھربار، متعلقین اور جاننے والے نہ ہوں تو اس کے ساتھ علاقے بھی کم ہوتے ہیں، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں، ایک انجان اور اجنبی شخص کی طرح دنیوی تعلقات اور علاقے سے یکسو ہو کر زندگی گزارنی چاہیے یا اس شخص کی طرح جو مسافر ہو اور آگے جانے کے لئے پاہ رکاب ہو، وہ ٹھہرتا نہیں، کسی منزل اور مقام پر وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ اس سے آگے جانے کی فکر رہتی ہے، اسی طرح ایک مومن بھی دنیا کے راستے کی ایک منزل سے زیادہ حیثیت نہیں دینی چاہیے، اس کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر میں مستقل اور مسلسل لگے رہنا چاہیے، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں:

”قَدِمَ بِلْدًا لَا مَسْكَنَ لَهَا فِيهَا يُوْوِيهِ، وَلَا سَكَنَ يُسْلِيهِ، خَالَ عَنِ الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ، وَالْعَلَائِقِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْأَشْتِغَالِ عَنِ الْخَالِقِ، وَلَمَّا شَبِهَ النَّاسِكَ السَّالِكِ بِالْغَرِيبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ، تَرَفَّى، وَأَضْرَبَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ”أَوْ عَابِرَ سَبِيلٍ“؛ لِأَنَّ الْغَرِيبَ قَدْ يَسْكُنُ فِي بِلَادِ الْغُرْبَةِ، وَيُقِيمُ فِيهَا، بِخِلَافِ عَابِرِ السَّبِيلِ الْقَاصِدِ لِلْبَلَدِ الشَّاسِعِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَوْدِيَةٌ مُرْدِيَةٌ، وَمَفَاوِزَةٌ مُهْلِكَةٌ، وَهُوَ بِمَرْصَدٍ مِنْ قَطَاعِ الطَّرِيقِ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُقِيمَ لِحِظَةٍ، أَوْ يَسْكُنَ لِمَحَةٍ“ (۲).

وخذ من صحتك لمرضك.....

یعنی اپنی تندرستی اور صحت سے مرض اور بیماری کے وقت کے لئے کچھ حاصل کریں، مطلب یہ ہے کہ زمانہ صحت میں بھرپور محنت کرنی چاہیے اور اعمال کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے، کہ بسا اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کی وجہ سے بہت سارے اعمال انجام نہیں دیئے جاسکتے تو زمانہ صحت میں حفظ ما تقدم کے طور پر اس کی پیشگی تلافی کا سامان کر دینا چاہیے!

## پانچ چیزوں کو غنیمت جانئے

امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل فرمائی ہے، اس میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا:

”اغتنم خمساً قبل خمس: شبابتک قبل هرمک، وصحتک قبل

سقمک، وغناک قبل فقرک، و فراغک قبل شغلک، و حیاتک قبل موتک“ (۳).

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی پانچ حالتیں ایسی ہیں کہ جب وہ موجود ہوں تو ان کو پانچ حالتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جو زمانہ آئندہ میں پیش آنے والی ہیں:

① بڑھاپے سے پہلے جوانی کو یعنی اپنے اس زمانہ کو غنیمت جانو اور اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ، جس میں تمہیں عبادت و طاعات کی انجام دہی اور خدا کے دین کو پھیلانے کی طاقت و ہمت میسر ہو، قبل اس کے کہ تمہارے جسمانی زوال کا زمانہ آجائے اور تم عبادت و طاعت وغیرہ کی انجام دہی میں ضعف و کمزوری محسوس کرنے لگو۔

② بیماری سے پہلے صحت کو، یعنی ایمان کے بعد جو چیز سب سے بڑی نعمت ہے، وہ صحت و تندرستی ہے، لہذا اپنی صحت و تندرستی کے زمانہ میں اگر چہ وہ بڑھاپے کے دور ہی میں کیوں نہ ہو، یعنی دینی و دنیاوی بھلائی اور بہتری کے لئے جو کچھ کر سکتے ہو، کر گزرو۔

③ فقر و افلاس سے پہلے تو نگری و خوشحالی کو، یعنی تمہیں جو مال و دولت نصیب ہے، قبل اس کے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا موت کا پنجہ تمہیں اس سے جدا کر دے، تم اس کو عبادت مالیہ اور صدقات و خیرات میں خرچ کرو اور اس دولت مندی و خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت موقع سمجھو جس میں تم اپنی اخروی فلاح و سعادت کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہو۔

④ مشاغل و تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے وقت کی فراغت و اطمینان کو۔

⑤ موت سے پہلے زندگی کو۔

”اغتنم“ باب افتعال سے امر حاضر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں، غنیمت کا مال لینا اور ”غنیمت“ اصل میں تو اس مال کو کہتے ہیں، جو مسلمان نے لڑکر اور حملہ کر کے حربی کافروں سے حاصل کیا ہو۔ لیکن اس لفظ کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے، جو کسی محنت و مشقت کے بغیر انسان کو حاصل ہو جائے۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جوانی، صحت، دولت، فراغت و وقت اور زندگی ایسی چیزیں ہیں، جو ہمیشہ ساتھ نہیں دیتیں، جوانی کے بعد بڑھاپے، صحت کے بعد بیماری، دولت کے بعد محتاجگی، فراغت و وقت کے بعد تفکرات و مشاغل اور زندگی کے بعد موت کا پیش آنا لازمی امر ہے۔

لہذا جب تک یہ چیزیں پیش نہ آئیں، موقع غنیمت جانو اور اس میں اپنی دنیاوی و اخروی بھلائی و بہتری کے لئے جو کچھ کر سکتے ہو، اس سے غفلت اختیار نہ کرو۔

#### ۴- باب : في الأمل وطوله .

أمل امید کو کہتے ہیں، انسان دنیا کے اندر لمبی لمبی امیدیں لگائے رکھتا ہے، اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے لمبی امیدوں کی حقیقت واضح فرمائی (۱)۔

(۱) قال القسطلاني رحمه الله: ”الأمل: — بفتح الهمزة، والميم — وهو: الرجاء فيما تُحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى، يقال: أمل خيره، يأمله — أملاً، وكذلك التأميل، ومعناه قريب من التمني، وقيل: الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم سببه، والتمني بخلافه، وقيل: الأمل: إرادة الشخص تحصيل شيء يمكن حصوله، فإذا فاتته تمناه، والرجاء تعليق القلب بمحسوب ليحصل في المستقبل.

والفرق بين الرجاء والتمني: أن التمني يُورث صاحبه الكسل، ولا يسلك طريق الجهد والجد، وبعكسه صاحب الرجاء؛ فالرجاء محمود، والتمني معلول كالأمل إلا للعالم في العلم، فلولا طول أمله ما صنف ولا ألف، وفي الأمل سر لطيف؛ لأنه لولا الأمل، ما تمنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا، وإنما المذموم منه الاسترسال فيه، وعدم الاستعداد لأمر الآخرة.

(إرشاد الساري، كتاب الرقاق: ۱۳/۴۱۷)



وَقَوْلِهِ اللَّهُ تَعَالَى : «فَمَنْ زُحِرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ» / آل عمران: ۱۸۵ .

وَقَوْلِهِ : «ذَرَهُمْ يَا كُفُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» / الحجر: ۳ .

## ترجمہ الباب کی آیاتِ کریمہ کی تفسیر

﴿فَمَنْ زُحِرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

”پس جسے اس دن جہنم کی آگ سے دور رکھا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ

بامراد ہوا اور دنیوی زندگی گانی محض دھوکہ کا سودا ہے۔“

زُحِرِحَ: یہ باب فعللہ سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کا مجرد زَحَّ يَزُحُّ — زَحًّا آتا ہے،

جس کے معنی ہیں: کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹانا، اور زُحِرِحَ کے معنی ہیں: جَدَّبَ بِعُجْلَةٍ: جلدی سے ہٹانا،

کھینچنا۔ یہاں اس کے معنی ہیں: دور کرنا اور بچانا۔

## دنیوی زندگی کی حقیقت

متاعُ الغرور: غرور یا تو مصدر ہے، غَرَّرْتُ غُرُورًا — غُرُورًا: دھوکہ دینا، یا غَارًا کی جمع ہے، متاع

کے معنی ہیں: ما يتمتع به وينتفع به مما يُباع ويُشترى (۲)۔ یعنی خریدی اور بیچی جانے والی قابل انتفاع

چیز۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے وقعتی اور اس کی خساست پر تشبیہ و اشارہ کرنے کے لئے اس کو اس سامان کے

ساتھ تشبیہ دی ہے جس کا مالک اس کے عیب کو چھپاتے ہوئے مشتری کو اس کی خوبیاں گنا کر اس کے خریدنے پر

آمادہ کرے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں:

”اور یہ جو فرمایا کہ ”دھوکہ کا سودا“ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیوی زندگی سب

کے لئے مضر ہے، مطلب تشبیہ سے صرف یہ ہے کہ یہ اصلی مقصود بنانے کے قابل نہیں، بلکہ اگر کوئی کریم قصداً یہ سودا عمدہ داموں خریدنے لگے تو اس سودے سے محبت نہ کرے، بلکہ غنیمت سمجھ کر بیچ ڈالے، چنانچہ اہل حق اس حیات اور اس کے تمتعات کے عوض اللہ تعالیٰ سے اعمال صالحہ اور جنات عالیہ لے لیتے ہیں“ (۳)۔

### دوسری آیت کریمہ

﴿ذَرِهِمْ يَا كُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمِ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ”آپ ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے، کہ وہ کھالیں، چین اڑالیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، ان کو عنقریب حقیقت معلوم ہو جائے گی“۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ آپ کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے، اس پر عمل نہیں کرتے اور آپ کی بات مان کر نہیں دیتے تو آپ کیوں ان کے غم میں گھلتے ہیں، ان کے کفر پر غم نہ کریں، انہیں ان کے حال پر رہنے دیں کہ چند دن جانوروں کی طرح کھاپی لیں اور مزے اڑالیں اور مستقبل کے متعلق خوب لمبی لمبی امیدیں اور خیالی منصوبے بناتے رہیں، بہت جلد سب کچھ معلوم ہو جائے گا، حقیقت حال کھل جائے گی اور اگلا پچھلا کھایا پیاسا کچھ نکل جائے گا، چنانچہ کچھ تو دنیا ہی میں مجاہدین کے ہاتھوں قید و قتل کے ذریعے حقیقت کھل گئی اور پوری تکمیل آخرت میں دائمی عذاب سے ہو جائے گی۔

ذَرِهِمْ: ذَرَّ بمعنی اُتْرَكَ امر ہے۔ اس کا ماضی قلیل الاستعمال ہے..... ”یا کُلُوا“ جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ يَتَمَتَّعُوا اور يُلْهِمِ یہ دونوں یا کُلُوا پر معطوف ہونے کی وجہ سے مجزوم ہیں۔ يُلْهِمِ: اَلْهَى يُلْهِمِي — اَلْهَاءُ سے فعل مضارع معروف کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اصل میں يُلْهِمِي تھا، یاء بوجہ جزم گر گئی تو ”يُلْهِمِ“ ہو گیا (۴)، اس کے معنی ہیں: غافل کرنا۔

(۳) بیان القرآن: ۱/۳۰۵ (سورۃ آل عمران)

(۴) دیکھئے، إعراب القرآن للدرویش: ۱۷۲/۴

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَرْتَحَلَّتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً ، وَأَرْتَحَلَّتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ .  
«بِمَزْحَرِجِهِ» / البقرة: ۹۶ : بِمَبَاعِدِهِ .

حضرت علیؑ فرماتے ہیں یہ دنیا ادھر سے کوچ کر کے منہ پھیرے ہوئے چلی جا رہی ہے، اور آخرت ادھر سے کوچ کر کے ہماری طرف منہ کئے آرہی ہے۔ یعنی دنیا کا ہماری طرف سے منہ پھیر کر اپنی فنا کی طرف بڑھنا اور آخرت کا اپنی بقا کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہونا ظاہر ہو رہا ہے اور ان دونوں یعنی دنیا و آخرت میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، پس تم نیک عمل اختیار کر کے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر آخرت کے بیٹے بنو اور آخرت سے بے پروا اور دنیا کی طرف راغب و متوجہ ہو کر دنیا کے بیٹوں میں نہ ہو، یاد رکھو، آج کا دن عمل کرنے کا ہے، حساب کا دن نہیں ہے، یعنی یہ دنیا دار العمل ہے، دار الحساب نہیں۔ (یہاں بس زیادہ سے زیادہ نیک عمل کئے جاؤ) اور کل قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا، عمل کرنے کا نہیں۔

«بِمَزْحَرِجِهِ» / البقرة: ۹۶ : بِمَبَاعِدِهِ .

مُزْحَرِجِهِ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۹۶ میں واقع ہے، ﴿وَمَا هُوَ بِمَزْحَرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ اس میں مزحرحہ کے معنی مباعده یعنی دور کرنے والے کے ہیں۔

آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جہنم کے عذاب سے ہٹانے والا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔

﴿فَمَنْ زَحَرَ ح.....﴾ کی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ بقرہ کے اس لفظ کو یہاں ذکر کیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب ہے۔

۶۰۵۴ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا ، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خَطًّا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ ، وَقَالَ : (هَذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ - أَوْ : قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا) .


حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوکھٹا خط کھینچا، پھر اس کے درمیان میں ایک خط کھینچا، جو چوکھٹے خط سے نکلا ہوا تھا، اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکھٹے کے درمیان میں تھا، چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے اور پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو (بچ کے خط کا حصہ) ہے یا باہر نکلا ہوا ہے، وہ اس کی امید ہے اور چھوٹے چھوٹے خطوط مشکلات ہیں، پس انسان جب ایک (مشکل) سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔

### لبی امیدوں کی پرفریبی

اس حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انسانی زندگی کی لیبی امیدوں کی پرفریبی بیان فرمائی ہے کہ انسان اپنی زندگی سے لیبی امیدوں کی دنیا قائم کرتا ہے، تمناؤں کی کائنات سجاتا ہے، منصوبوں کا ایک طویل سلسلہ بناتا ہے لیکن اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس نے بہت جلد یہاں سے رحلت کرنا ہے، اس کی زندگی ہزار آفتوں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، ایک آفت سے چھٹکارا اور بچاؤ پا بھی لے، دوسری آفت آتی ہے اور یوں اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

## نقشے کے ذریعے دنیا کی حقیقت کی مثال

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حقیقت ایک نقشے کے ذریعے سمجھائی، آپ نے ایک چوکور مربع خط کھینچا، اس کے درمیان سے ایک خط باہر کی طرف کھینچا اور اس درمیانے خط کے آس پاس چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں، اور چوکور ڈبہ نما خط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ انسان کی موت اور اجل ہے، جس نے اس کا احاطہ اور گھیراؤ کیا ہے اور اس سے آگے انسان بڑھ نہیں سکتا، درمیان کے خط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ انسان ہے اور چھوٹی لکیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ آفتیں ہیں جو انسانی زندگی کی طرف متوجہ ہیں، کسی نہ کسی آفت کا انسان شکار ہو ہی جاتا ہے اور آفت کا شکار اگر نہ ہو تو طبعی موت تو بہر حال آنی ہی ہے، علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کا نقشہ یوں بنایا ہے (۵):



حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اس پہلے نقشے ہی کو معتمد کہا ہے کہ سیاق حدیث اسی پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت لکھتے ہیں:

”والأول المعتمد، وسياق الحديث يتنزل عليه فالإشارة بقوله: ”هذا الإنسان“ إلى النقطة الداخلة وبقوله: ”وهذا أجله محيط به“ إلى المربع وبقوله: ”وهذا الذي هو خارج أمله“ على الخط المستطيل المنفرد، وبقوله: ”وهذه“ إلى الخطوط، وهي المذكورة على سبيل المثال؛ لأن المراد

إنحصارها في عدد معين يؤيده قوله في حديث أنس بعده: "إذ جاءه الخط الأقرب"..... فإنه إشارة به إلى الخط المحيط به" (۶).

یعنی: ”پہلا نقشہ ہی قابلِ اعتماد ہے، اور حدیث کا سیاق اسی پر اترتا ہے، ہذا الإنسان سے اشارہ ہے اندروالے نقطے کی طرف اور ہذا أجله محیط به سے اشارہ ہے چونکہ کی طرف اور ہذا الذي ہو خارج أمله سے اشارہ ہے لمبے خط کی طرف جو باہر کی طرف نکل گیا ہے اور ہذا سے چھوٹے خطوط کی طرف اشارہ ہے۔“

۶۰۵۵ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ : (هَذَا الْأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ) .

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند خطوط کھینچے اور فرمایا: یہ امید ہے اور یہ موت ہے، انسان اسی حالت میں رہتا ہے کہ قریب والے خط یعنی موت تک پہنچ جاتا ہے۔

اذ جاءه الخط الأقرب

خط اقرب سے اجل مراد ہے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وهو الأجل المحيط به، إذ لاشك أن الخط المحيط، هو أقرب من

الخط الخارج عنه“ (۷).

چنانچہ بیہقی کی روایت میں ”موت“ کی اور ترمذی کی روایت میں ”اجل“ کی تصریح ہے (۸)۔

(۶) التعليق الصحيح شرح مشكاة المصابيح، باب الأمل والحرص: ۶۱/۶

(۷) إرشاد الساري: ۴۲۰/۱۳

(۸) إرشاد الساري: ۴۲۰/۱۳

۵- باب : مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً ، فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمْرِ .

لِقَوْلِهِ : «أَوْ لَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ» / فاطر: ۳۷ / : بَعْنَى

الشَّيْبِ .

طویل العمری..... اتمام حجت ہے

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ جل شانہ نے اگر ساٹھ سال کی زندگی عطا فرمائی تو اب اس کے پاس، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کوئی عذر اور بہانہ نہیں رہا، اَعْذَرَ باب افعال سے ہے اور اس میں سلب ماخذ کا خاصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے عذر کو زائل اور ختم کر دیا، اس قدر طویل عمر پانے کے باوجود اگر کوئی آخرت کی فکر و تیاری سے غافل رہا تو اس کے پاس اس غفلت اور بے توجہی کا کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ وہ پیش کر سکے۔

لِقَوْلِهِ : «أَوْ لَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ» / فاطر: ۳۷ / : بَعْنَى

الشَّيْبِ .

”کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ اس میں سمجھ سکتا اور

تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا“۔

دوزخ میں پڑے ہوئے کفار چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو یہاں سے نکال لیجئے، ہم اب خوب اچھے اچھے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور صرف عمر ہی دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والا بھی آیا تھا۔

اولم نعمرکم: حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں:

”عمر سے مراد عمر بلوغ ہے کہ بقدر ضرورت اس میں کمال فہم حاصل ہو جاتا ہے،

اسی لئے مکلف ہونے کی بھی یہی حد مقرر کی گئی ہے، حضرت قتادہ سے درمنثور میں یہی تفسیر

منقول ہے: قال: اعلّموا أن طول العمر حجة نزلت، وأن فيهم لابن ثمان عشرة

سنہ۔ اور مراد اس سے بلوغ ہے جیسا کہ امام صاحبؒ نے اکثر بلوغ کی یہی مدت ٹھہرائی ہے اور بعض حدیثوں میں جو اس کی تفسیر میں ساٹھ برس آئے ہیں، مراد اس سے تخصیص نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس سے اور زیادہ احتجاج ہوگا (۱)۔

استفہام یہاں برائے انکار ہے، واو برائے عطف ہے اور معطوف علیہ مقدر ہے اور ”ما“ موصولہ ہے اور تقدیری عبارت یوں ہے: أَلَمْ نَمَهْلِكْكُمْ وَنَعْمَرَ كُمْ الَّذِي، أَي: الْعَمْرُ الَّذِي يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ ”ما“ موصوفہ بھی ہو سکتا ہے، ”ما“ کو نافیہ قرار دینا غلط اور مصدریہ ظرفیہ قرار دینا ضعیف ہے۔  
وجاء كم النذير: اس کا عطف جملہ استفہامیہ کے معنی اور مدلول پر ہے، گویا یوں کہا گیا: عمرنا كم و جاء كم النذير. غرض یہ عطف الخبر علی الانشاء کے قبیل سے نہیں۔

### آیت کریمہ میں نذیر کا مصداق

”نذیر“ سے مراد یا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، یا قرآن کریم ہے، یا جنس نذیر یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد ”بخار“ ہے، بعض نے ”عزیز و اقارب کی موت“، بعض نے ”کمال عقل“ مراد لیا ہے (۲)۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اس سے بالوں کی سفیدی مراد ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔

۶۰۵۶: حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مَطَهْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَعَذَرَ اللَّهُ إِلَىٰ أَمْرِي أَخْرَاجَهُ حَتَّىٰ بَلَغَهُ سِتِينَ سَنَةً).  
تَابَعَهُ أَبُو حَازِمٍ وَأَبْنُ عَجَلَانَ، عَنِ الْمَقْبَرِيِّ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا عذر ختم کر دیا جس کی موت کو اس نے اتنا مؤخر کر دیا کہ

(۱) بیان القرآن: ۲۲۵/۳

(۲) روح المعانی: ۵۱۲/۲۲



اسے ساٹھ سال تک پہنچا دیا۔ اس روایت کی متابعت ابو حازم اور ابن عجلان نے بھی مقبری کے واسطے سے کی ہے۔“

فائدہ.....

سند کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ الشیخ عمر بن علی ہیں، وہ معن بن محمد سے روایت کرتے ہیں، عمر بن علی مدلس ہیں اور یہاں وہ معن سے عن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔  
مدلس کا معنی قبول نہیں، تاہم یہ روایت احمد بن عبدالرزاق نے نقل کی ہے، اس میں عمر بن علی نے سماع کی تصریح کی ہے، البتہ اس روایت میں ”معن“ کا نام نہیں بلکہ ”رجل من بنی غفار“ کے الفاظ ہیں، ”رجل“ سے معن غفاری ہی مراد ہیں (۳)۔

تابعہ ابو حازم.....

یعنی معن بن محمد غفاری کی متابعت ابو حازم سلمہ بن دینار محمد بن عجلان دونوں نے کی ہے، ابو حازم کی یہ متابعت امام نسائی رحمہ اللہ اور ابن عجلان کی متابعت امام محمد نے موصولاً نقل فرمائی ہے (۴)۔

۶۰۵۷ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ،  
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : (لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ : فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ) .  
قَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ وَأَبْنُ وَهْبٍ : عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي  
سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی امید۔

(۳) إرشاد الساري: ۴۲۱/۱۳، وفتح الباري: ۲۸۸/۱۱

(۴) فتح الباري: ۲۸۸/۱۱

قال الليث.....

لیث بن سعد کی اس تعلیق کو اسماعیلی نے موصولاً نقل کیا ہے، اس میں محمد بن شہاب کے دو شیخ ہیں، حضرت سعید بن المسیب اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف۔ حضرت سعید کی روایت کے الفاظ بعینہ روایت باب کے الفاظ ہیں، البتہ اس میں ”فی حب الدنيا“ کے بجائے ”فی حب المال“ ہے اور حضرت ابوسلمہ کی روایت کے الفاظ ہیں:

”قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الحياة وحب المال“ (۳).

یعنی: ”بوڑھے کا دل دو چیزوں کی محبت کے سلسلے میں جوان رہتا ہے، ایک لمبی زندگی اور دوسری مال کی محبت“۔

۶۰۵۸: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَكْبُرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمُرِ). رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عمر جوں جوں بڑھتی ہے، اس کے ساتھ دو چیزیں بھی اس کے اندر بڑھتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور عمر کی درازی کی۔

## امام شعبہ کی ایک خصوصیت

رواہ شعبہ..... شعبہ کی روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے موصولاً نقل کیا ہے (۴)۔

شعبہ کی یہ تعلیق امام نے ذکر کر کے انقطاع سند کے وہم کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ روایت باب کی سند میں

(۳) عمدة القاري: ۵۶/۲۳، إرشاد الساري: ۴۲۳/۱۳

(۴) عمدة القاري: ۵۶/۲۳، إرشاد الساري: ۴۲۳/۱۳، وفتح الباري: ۲۹۰/۱۱

قتادہ "عَنْ" سے روایت نقل کر رہے ہیں اور قتادہ مدلس ہیں، جب کہ شعبہ کا معاملہ مختلف ہے وہ مدلس راویوں کی صرف وہی روایات نقل کرتے ہیں جن کے بارے میں تصریح سماع کا ان کو علم ہو تو شعبہ کا قتادہ سے یہ روایت نقل کرنا تصریح سماع کی دلیل ہے، اس لئے امام بخاری نے "رواہ شعبہ عن قتادہ" ذکر فرمایا (۵)۔

۶- باب : الْعَمَلُ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ .

فِيهِ سَعْدٌ . [ر : ۱۲۳۳]

### اللہ کی خوشنودی والے عمل کی فضیلت

جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لئے کیا جاتا ہے، اس کی شریعت میں بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کئے جانے والے عمل کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

فیہ سعد یعنی اس بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو کتاب الجناز میں باب رثاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سعد بن خولہ کے تحت گزر چکی ہے، اس میں ہے کہ جو عمل اللہ کی رضامندی کے لئے کیا جائے گا، اس سے درجہ اور تہ بلند ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں: "فقلْتُ: یا رسول اللہ، أخلف بعد أصحابی؟ قال: إنک لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة" (۱)۔

۶۰۵۹ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَزَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ : وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ ، قَالَ : غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : (لَنْ يُؤَانِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ) . [ر : ۴۱۴]

(۵) فتح الباری: ۱۱/۲۹۰، وعمدة القاری: ۲۳/۵۶

(۱) فتح الباری: ۱۱/۲۹۱، وعمدة القاری: ۲۳/۵۶

حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ اس یقین کا اظہار کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ذہن میں خوب محفوظ ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے گھر ایک ڈول سے پانی لے کر کھلی کی تھی، انہوں نے کہا: میں نے عتبان بن مالک انصاریؓ سے اور پھر بنی سالم کے ایک اور صاحب سے سنا، انہوں نے بیان کیا: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا: جو بندہ بھی قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔

قال: سمعت عتبان بن مالک الأنصاری ثم أحد بنی سالم محمود بن الربیع فرماتے ہیں کہ میں نے عتبان بن مالک انصاری اور پھر بنو سالم کے ایک شخص سے سنا، أحد بنی سالم میں دو احتمال ہیں:

① یہ مرفوع ہے اور اس کا عطف ”محمود“ پر ہے ای: أخبرني محمود بن الربيع ثم أحد بنی سالم امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے محمود بن الربیع اور بنو سالم کے ایک شخص نے حدیث سنائی ہے، اس شخص سے حصین بن محمد انصاری مراد ہیں جو قبیلہ بنو سالم کے سرداروں میں سے تھے، امام زہری نے ایک دوسری روایت میں اس کی تصریح کی ہے۔

② دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا عطف ”الأنصاري“ پر ہے اور یہ منصوب ہے یعنی سمعت عتبان الأنصاری، وأحد بنی سالم..... اب اس صورت میں دو مطلب ہو سکتے ہیں: الف)..... محمود بن الربیع فرما رہے ہیں کہ میں نے عتبان اور بنو سالم کے ایک شخص سے حدیث سنی، گویا کہ ان کے دو شیخ ہیں ایک عتبان، دوم احد بنی سالم، اور ”أحد بنی سالم“ سے حصین بن محمد مراد ہیں جو تابعی ہیں جب کہ محمود بن الربیع صحابی ہیں۔ صحابی تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔

ب)..... اور ”ثم أحد بنی سالم“ کو ”الأنصاري“ کے لئے عطف تفسیری بھی بنا سکتے ہیں، یعنی یہ

حدیث میں نے عتبان سے سنی، جو انصاری ہیں اور قبیلہ بنو سالم کے ایک فرد ہیں، عتبان بن مالک کا تعلق بھی قبیلہ بنو سالم سے ہے (۲)۔

۶۰۶۰ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ ، إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ أَحْتَسِبَهُ ، إِلَّا الْجَنَّةَ ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا کوئی عزیز اور محبوب میں دنیا سے اٹھالوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔

صَفِي (صاد کے فتح، فاء کے کسرہ اور یاء کی تشدید کے ساتھ) وہ شخص جو آدمی کو محبوب ہو، جیسے بیٹا، بھائی، مخلص دوست (۳)۔

اِحْتَسَبَهُ : احتساب کہتے ہیں، ثواب اور اجر کی نیت کرنا، ”إلا الجنة“ کا تعلق ”مال العبدی المؤمن.....“ سے ہے (۴)۔ کوئی بھی کام اگر آخرت کے اجر اور ثواب کی نیت اور ارادے سے کیا جائے تو اسے حدیث کی اصطلاح میں احتساب کہتے ہیں۔

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے ”من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر“ یعنی جو بھی شخص رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان اور آخرت کے اجر کی نیت سے، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ اس حدیث کے اندر بھی احتساب کے معنی اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے کے ہیں۔

(۲) عمدة القاري: ۵۷/۲۳

(۳) عمدة القاري: ۵۸/۲۳، وفتح الباري: ۲۹۲/۱۱

(۴) عمدة القاري: ۵۸/۲۳، وفتح الباري: ۲۹۲/۱۱

## ۷- باب : ما یُخَذَرُ مِنَ زَهْرَةِ الدُّنْیَا وَالتَّنَافُسِ فِیْهَا .

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس ترجمہ الباب سے مقصد یہ ہے کہ دنیا کی چمک دمک، کشش اور دنیا کے حرص و ہوس اور اس میں مقابلہ کرنے سے بچنا چاہیے۔

۶۰۶۱ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ الْمُسَوَّرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ ، وَهُوَ حَلِيفُ لَبْنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، كَانَ شَهِدَ بَلْرَاحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِأُتِي بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالِحَ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ ، فَوَافَقَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ وَقَالَ : (أَطْنُكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ) . قَالُوا : أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (فَأَبْشِرُوا وَأَمَلُوا مَا يَسْرُكُمُ ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَّفَسُوهَا كَمَا تَنَفَسُوهَا ، وَتُلْهِيَكُمُ كَمَا أَلْهِمْتُ) . [ ر : ۲۹۸۸ ]

حضرت مشور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ جو بنی عامر بن لؤی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بحرین والوں کا جزیہ لانے کے لئے بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کر لی تھی، اور ان پر علماء بن حضرمی کو امیر مقرر کیا تھا، جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین کا جزیہ کا مال لے کر آئے تو انصار نے ان کی آمد کا سنا اور صبح کی نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے لگے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آگئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور

فرمایا کہ میرا خیال ہے، ابو عبیدہ کی آمد کے متعلق تم نے سن لیا ہے اور یہ بھی کہ وہ کچھ لے کر آئے ہیں؟ انصار نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ! حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں خوشخبری ہو تم اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی، خدا گواہ ہے، فقر و محتاجی وہ چیز نہیں ہے جس سے تمہارے متعلق میں ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر اس طرح کشادہ کر دی جائے جس طرح ان لوگوں پر کر دی گئی تھی، جو تم سے پہلے تھے اور تم بھی اس کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اسی طرح کوشش کرو جس طرح وہ کرتے تھے اور وہ تمہیں بھی اسی طرح غافل کر دے جس طرح انہیں غافل کیا تھا۔

سند کے اندر تین تابعی ہیں، موسیٰ بن عقبہ، ابن شہاب اور عروہ بن زبیر، دو صحابی ہیں، حضرت مسور بن محزمہ اور عمرو بن عوف..... یہ سب مدنی ہیں (۱)۔

حضرت علاء بن الحضرمی کا نام عبد اللہ بن مالک بن ربیعہ ہے۔

ما الفقر أخصی علیکم: الفقر منصوب ہے، ما أضمر عامله علی شریطة التفسیر کے قبیل سے ہے اور اس کو مبتدأ بنا کر مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں ”أخصی“ کا مفعول بہ محذوف ہوگا، اس صورت میں بوجہ اشتغال وہ ”الفقر“ میں عمل نہیں کر سکے گا، لہذا ”الفقر“ کا فعل ناصب مقدر ہوگا، جو کہ ”أخصی“ ہے، جب کہ دوسری صورت میں ”الفقر“، ”ما“ کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا اور خبر جب جملہ ہو تو اس میں چونکہ عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس لئے ”أخصی“ کا مفعول بہ مقدر مانا گیا، جو ضمیر غائب ہے اور ”الفقر“ کی طرف راجع ہے، تقدیری عبارت یوں ہے: ”ما الفقر أخصی علیکم“ (۲)۔

۶۰۶۲ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْبِ ، عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : (إِنِّي فَرَطُكُمْ ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَقَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، أَوْ مَقَاتِيحَ الْأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا) . [ر : ۱۲۷۹]

(۱) فتح الباری: ۲۹۴/۱۱، عمدۃ القاری: ۵۹/۲۳

(۲) عمدۃ القاری: ۶۰/۲۳، فتح الباری: ۲۹۵/۱۱

حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو جنگ احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح مردے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تم سے آگے جاؤں گا اور میں تم پر گواہ ہوں گا، واللہ! میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں یا (فرمایا کہ) زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں اور واللہ! میں تمہارے متعلق اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ مجھے تمہارے متعلق اس کا خوف ہے کہ تم دنیا میں اس کے حصول کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے۔

ابوالخیر کا نام مرشد بن عبد اللہ ہے۔

۶۰۶۳ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ) . قِيلَ : وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : (زَهْرَةُ الدُّنْيَا) . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ ، فَقَالَ : (أَيُّ السَّائِلِ) . قَالَ : أَنَا . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَقَدْ حَمِدْنَاكَ حِينَ طَلَعَ لَدَيْكَ . قَالَ : (لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّيْبُ يُقْتَلُ حَبَطًا أَوْ يُلْمُ ، إِلَّا آكَلَةَ الْخَضِرِ ، أَكَلْتُ حَتَّى إِذَا أَمْنَدْتُ خَاصِرَتَاهَا ، اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ ، فَأَجْتَرَّتْ وَنَلَطَتْ وَبَالَتْ ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ . وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعِمَّ الْمَعُونَةُ هُوَ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) .

[ر : ۸۷۹]

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے متعلق سب سے زیادہ اس بات سے خوف کھاتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ زمین کی برکتیں تمہارے لئے نکال دے گا، پوچھا گیا، زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ فرمایا



کہ دنیا کی چمک دمک، اس پر ایک صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا بھلائی، برائی کو لائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ پیشانی کو صاف کرنے لگے اور دریافت فرمایا: پوچھنے والے صاحب کہاں ہیں؟ پوچھنے والے نے کہا: میں ہوں۔

ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اس سوال کا حل ہمارے سامنے آ گیا تو ہم نے ان صاحب کی تعریف کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائی تو بھلائی ہی لاتی ہے، لیکن یہ مال سرسبز اور خوشگوار گھاس کی طرح ہے، اور جو چیزیں بھی بہار کے موسم میں اُگتی ہیں، وہ حرص کے ساتھ زیادہ کھانے والوں کو ہلاک یا ہلاکت کے قریب کر دیتی ہیں، سوائے اس جانور کے جس نے پیٹ بھر کھایا، یہاں تک کہ جب اس کی دونوں کوکھیں بھر گئیں تو اس نے سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کر لی اور پھر پاخانہ پیشاب کر دیا اور اس کے بعد پھر لوٹ کے کھالیا۔

اور یہ مال بھی بہت شیریں ہے، جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق میں خرچ کیا تو وہ بہترین ذریعہ ہے اور جس نے اسے ناجائز طریقہ سے حاصل کیا تو وہ اس شخص جیسا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔

لقد حمدناہ حين طلع ذلك: یعنی ابتداء میں تو ان کا سوال ہمیں اچھا نہیں لگا کیونکہ ان کا سوال سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے (ہم سمجھے کہ آپ ناراض ہو گئے) لیکن جب بات واضح ہوئی تو ہم نے ان کی تعریف کی، طلع بمعنی ظہر ہے۔

خَضِرَةٌ: خاء کے فتح اور ضاد کے کسرے کے ساتھ ہے بمعنی سرسبز و شاداب۔

يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ: حَبَطٌ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ کے پھول جانے کو کہتے ہیں۔

حَبَطَتِ الدَّابَّةُ: جانور نے اس قدر کھایا کہ پیٹ پھول کر مر گیا (۳)۔

(۳) حَبَطَتِ الدَّابَّةُ حَبَطًا: إذا أصابت مرعى طيباً، فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ، فتموت (النهاية في غريب

یَلِمْ: یعنی موسمی بہار جو سبزہ اگاتا ہے، وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے مار دیتا ہے یا مارنے کے قریب کر دیتا ہے۔

آ كِلَّةُ الْخَضِرَةِ: آكِلَّة: اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے: کھانے والا جانور۔  
 اِمْتَدَّاتٌ خَاصِرَةٌ: یعنی اس کے دونوں طرف پھیل گئے اور خوب سیدھا ہو گیا۔  
 اِجْتَرَّتْ: جگالی کرنا، کھائے ہوئے گھاس چارہ کو نکال کر دوبارہ چبانا۔  
 نَلَطَّتْ: گوبر کرنا (۴)۔

ان هذا المال خضرة حلوة.....

خَضِرَةٌ اور حُلُوَّةٌ مؤنث ہے اور مال مذکر ہے جب کہ اسم اِن اور اس کی خبر میں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے۔

اس لئے عبارت میں مختلف تاویلات کی گئی ہیں:

- ① ایک یہ کہ مال سے مراد ”الحياة بالمال“ ہے اور خضرة اس کی خبر ہے۔
- ② دوم یہ کہ مال سے دنیا مراد ہے اور وہ مؤنث ہے۔
- ③ سوم یہ کہ اس سے تشبیہ مقصود ہے، أي: المال كالبقلة الخضرة الحلوة (۵)۔

فقال رجل يا رسول الله أوياتي الخير بالشر.....

ایک شخص نے عرض کیا، کہ یا رسول اللہ! کیا بھلائی اپنے ساتھ برائی بھی لائے گی۔ یعنی ملکی فتوحات و اقتدار کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو جو مال غنیمت اور ساز و سامان حاصل ہوگا، وہ تو ہمارے لئے خدا کی نعمت ہوگی، اور ویسے بھی جائز وسائل و ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت اور رزق وغیرہ کی وسعت و فراخی ایک اچھی چیز ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی عطا کی ہوئی نعمت اور ایک اچھی چیز ہمارے لئے برائی و فتنہ اور ترک طاعات کا

(۴) لغات کی تشریح کے لئے دیکھیے، عمدة القاري: ۶۲/۲۳، وفتح الباري: ۲۹۷/۱۱

(۵) إرشاد الساري: ۴۲۸/۱۳، فتح الباري: ۲۹۷/۱۱

سبب و ذریعہ بن جائے۔

فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً، أو يُلِمَّ إلا  
أكله الخضر.....

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اپنے ساتھ برائی نہیں لاتی، یعنی جائز ذرائع سے مال و دولت کا حاصل ہونا اور رزق میں وسعت و فراخی اور خوشحالی کا نصیب ہونا، بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی برائی پیش نہیں آتی، بلکہ اصل میں برائی کا پیش آنا ان عوارض کی وجہ سے ہوتا ہے جو دولت مندی اور خوشحالی کے وقت لاحق ہو جاتے ہیں۔ جیسے بخل و اسراف اور حد اعتدال سے تجاوز کرنا۔

اور اس کی مثال موسم بہار ہے جو زمین کے پیٹ سے گھاس وغیرہ اگاتا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اچھا اور فائدہ مند ہوتا ہے، البتہ اس سے نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب کوئی چوپایہ اس کو ضرورت سے زائد کھائے اور بسیار خوری کے سبب ہلاکت میں مبتلا ہو جائے۔

چنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ موسم بہار جو سبزہ اگاتا ہے وہ حقیقت میں تو بھلائی و فائدہ کی چیز ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی نقصان و برائی لے کر زمین کے پیٹ سے نہیں آگتا۔ مگر وہ جانور کو اس کا پیٹ پھلا کر ماردیتا ہے، اور اگر وہ مرتا نہیں تو مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی جو جانور اس سبزہ کو کھانے میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے، وہ اس سبزہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فعل یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے ضرر و ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یوں کہ کھانے والے جانور نے اس سبزہ کو اس طرح کھایا کہ جب بسیار خوری کی وجہ سے اس کی دونوں کوکھیں پھول گئیں تو وہ سورج کے سامنے بیٹھ گیا، جیسا کہ جانور کی عادت ہوتی ہے کہ جب بد ہضمی کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے تو وہ دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کا پیٹ گرمی پا کر نرم ہو جاتا ہے اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے، باہر نکل آتا ہے، پھر جب پتلا گوہر اور پیشاب کر کے وہ اپنا پیٹ ہلکا کر لیتا ہے تو چراگاہ کی طرف چل کر سبزہ چرنے لگتا ہے۔

## فراوانی دولت کب نعمت ہے؟

وان هذا المال خضرة حلوة..... مذکورہ مثال اور اس کی مطابقت بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”یہ مال وزر بڑا سبز تازہ اور نرم و دلکش ہے“ کہہ کر اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کے مال وزر، اس کی محبت اور اس کے مصارف کے تعلق سے انسانوں کے حالات و خیالات مختلف ہوتے ہیں، کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو محض ضرورت و حاجت کے بقدر مال و اسباب کے حصول پر اکتفا کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لئے بھی جائز و درست وسائل و ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے پاس جو مال و اسباب اور روپیہ پیسہ ہوتا ہے، اس کو وہ اچھے مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔

لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کی حرص و طمع کسی بھی حد پر قناعت نہیں کرتی، وہ نہ صرف یہ کہ ضرورت و احتیاج سے زائد مال و زر حاصل کرنے کی سعی و کوشش کرتے ہیں، اور اس کے جوڑنے میں لگے رہتے ہیں، بلکہ اس کے حصول میں جائز و ناجائز کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتے۔ سخت سے سخت برائی کا ارتکاب کر کے اور حرام ذرائع کو اختیار کر کے دولت سمیٹتے رہتے ہیں۔

اس کے علاوہ ان کے پاس جو مال و دولت اور روپیہ پیسہ ہوتا ہے، اس کو حقداروں پر اور ان مصارف میں خرچ نہیں کرتے، جو خدا کی خوشنودی کا باعث ہوتے ہیں، اور مال و دولت سے متعلق ان کی یہ حرص و طمع ان کو اس شخص کی مانند بنا دیتی ہے جو کھاتا رہتا ہے، مگر غلبہ حرص کی وجہ سے شکم سیر نہیں ہوتا، یا ان کی حالت اس شخص کی سی ہو جاتی ہے جو استسقاء کا مریض ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی سیراب نہیں ہوتا اور جتنا پانی پیتا ہے، اسی قدر پیاس بھڑکتی ہے اور پیٹ پھولتا جاتا ہے۔

۶۰۶۴ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا حَمْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي زُهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) - قَالَ عِمْرَانُ : فَمَا أَدْرِي : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَنْدُرُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ . [ ر : ۲۵۰۸ ]

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو اس کے بعد ہوں گے، حضرت عمران نے بیان کیا کہ مجھے نہیں معلوم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ارشاد کو دو مرتبہ دہرایا یا تین مرتبہ، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے، لیکن ان سے گواہی طلب نہیں کی گئی ہوگی، وہ خیانت کریں گے اور ان پر سے اعتماد جاتا رہے گا، وہ نذر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹا پاپھیل جائے گا۔

ويظهر فيهم السَّمَنُ: سَمَنٌ مَوْتَايَةٌ كَوَقْتِهِ هِيَ، سَمَنٌ تَرْمِذِيٌّ كِي رَوَايَتِهِ فِي هِيَ: "ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَيَحْبُونَ السَّمَنَ" (٦). یعنی: "اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، جو موٹے ہوں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔"

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ إِنْ اللَّهُ يَبْغِضُ الْحَبْرَ السَّمِينِ (٧) یعنی اللہ جل شانہ کو موٹا آدمی پسند نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد صرف جسم کا موٹا پانہیں ہے، بلکہ مقصد تعیش اور عیش و عشرت میں مبتلا ہونا ہے۔ یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو عیش و عشرت کو اور آوارگی کو پسند کریں گے۔ چونکہ عموماً موٹا پاپا بھی لاپرواہی اور عیش و عشرت کے نتیجے میں ہوتا ہے، اس لئے حدیث میں اس کا ذکر آ گیا ہے۔

٦٠٦٥ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( خَيْرُ النَّاسِ قُرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ : تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانُهُمْ ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتُهُمْ . ) [ ر : ٢٥٠٩ ]

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا، جو اس کے بعد

(٦) سنن الترمذی، أبواب الفتن، باب ماجاء في القرن الثالث، رقم الحديث: ٢٢٢١

(٧) الکاف الشاف في تخريج أحاديث الکشاف علی حاشيته: ٤٤/٢، والجامع لأحكام القرآن: ٣٧/٧ (سورة الأنعام)

ہوں گے اور اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی گواہیاں ان کی قسموں سے آگے  
رہیں گی اور قسمیں گواہیوں سے (یعنی جھوٹی گواہیاں دینے کے شوقین ہوں گے)۔

عبدان: عبداللہ بن عثمان مروزی کا لقب ہے، ابو حمزہ کا نام محمد بن میمون ہے۔

عبیدہ: (عین کے فتح اور باء کے کسرہ کے ساتھ ہے) ان کے والد کا نام قیس ہے۔

ثم یجی من بعدہم قوم تسبق شہادتہم

مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے لوگوں میں تقویٰ نہیں ہوگا، وہ خوفِ خدا سے عاری ہوں گے،

جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم کھانے کے لئے ہر شخص تیار ہوگا۔

۶۰۶۷/۶۰۶۶ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ

قَالَ : سَمِعْتُ خُبَابًا ، وَقَدْ آكْتَوَى يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ نَدَعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ ، إِنْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضَوْا ، وَلَمْ تَنْقُضْهُمُ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ ،

وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ .

قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے

ہوئے سنا اور اس دن ان کے پیٹ میں سات داغ لگائے گئے تھے: نبی کریم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے لئے موت کی

دعا کرتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند صحابہ گزر گئے اور دنیا نے ان کے

اعمال خیر میں سے کچھ نہیں گھٹایا تھا، اور ہم نے دنیا سے اتنا کچھ حاصل کیا کہ مٹی کے سوا

اس کی کوئی جگہ نہیں۔

(۶۰۶۷) : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ :

أَتَيْتُ خُبَابًا ، وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ ، فَقَالَ : إِنْ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنْقُضْهُمْ الدُّنْيَا شَيْئًا ،

وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا ، لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ . [ر : ۵۳۴۸]

قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اپنے باغ کی چارہ یواری بنوارہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھی جو گزر گئے، دنیا نے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی، لیکن ہم نے ان کے بعد اتنا حاصل کیا کہ مٹی کے سوا ان کے رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ملتی۔

۶۰۶۸ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ خَبَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَصَّهُ . [ ر : ۱۲۱۷ ]

حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔

ہجرت کا واقعہ یہاں بیان نہیں کیا، وہ باب الہجرة إلى المدينة میں گزر چکا ہے، اس میں ہے: ”فوقع أجرنا على الله، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً مِنْهُمْ مَصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ.....“ (۸)۔

۸- باب : قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ . إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ » / فاطر : ۵ ، ۶ /

جَمَعَهُ سَعْرٌ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : الْغُرُورُ : الشَّيْطَانُ .

”اے لوگو! بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں

بتلانہ کر دے اور اللہ کے بارے میں شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے، بے شک شیطان

تمہارا دشمن ہے اور اسے تم دشمن بنائے رکھو، یقیناً وہ اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ

جہنمی بن جائے۔“

قال مجاهد: الغرور: الشيطان.....

مجاہد نے آیت کریمہ میں ”الغرور“ کی تفسیر شیطان سے کی ہے، فریابی نے اس تعلق کو موصولاً نقل کیا ہے (۱)۔

غرور درحقیقت ہر اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جو انسان کو دھوکے میں مبتلا کرے، مال، شہوت جاہ اور شیطان، سب پر غرور کا اطلاق ہو سکتا ہے اور شیطان چونکہ اس باب میں سب سے آگے ہے، اس لئے اسے ”غرور“ کا مصداق قرار دیا گیا ہے (۲)۔

۶۰۶۹ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ ابْنَ أَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِطَهْرٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ ، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ ، غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) . قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (لَا تَعْتَرُوا) . [ر : ۱۵۸]

ابن ابان کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے وضو کا پانی لے کر آیا، آپ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ نے اچھی طرح وضو کیا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی جگہ وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا پھر فرمایا کہ جس نے اس جیسا وضو کیا اور مسجد میں آکر دو رکعت نماز پڑھی، پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: دھوکہ میں نہ آ جانا۔

لَا تَغْتَرُوا: یعنی اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ نماز سے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے تو

(۱) إرشاد الساري: ۴۲۳/۱۲

(۲) إرشاد الساري: ۴۲۳/۱۲



گناہوں سے احتیاط نہ برتی جائے، کیونکہ نمازوں سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اگر بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے تو وہ مقبول نماز ہی سے معاف ہوں گے اور قبولیتِ صلوة کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔

### ۹- باب : ذهاب الصالحین .

وَيُقَالُ : الذَّهَابُ الْمَطْرُ .

۶۰۷۰ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَبَّانٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ ، أَوْ التَّمْرِ ، لَا يَبَالِيَهُمُ اللَّهُ بِالْأَلَةِ ) .  
قال أبو عبد الله : يُقَالُ حُفَالَةٌ وَحَثَالَةٌ . [ ر : ۳۹۲۵ ]

حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے فرمایا، نیک بندے یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے، اور جو کے بھوسے کی طرح

ناکارہ قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرے گا۔

امام بخاری فرماتے ہیں: حُفَالَةٌ اور حَثَالَةٌ ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔

يقال: الذهاب: المطر..... امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذهاب کے معنی بارش کے آتے

ہیں۔ اس لفظ کو ذهاب الصالحین کی مناسبت سے امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔

(۱) قال ابن بطال: ذهاب الصالحين من أشراط الساعة، إلا إنه إذا بقى الناس في حفالة كحفالة الشعير أو التمر؛ فذلك إنذار بقيام الساعة وفناء الدنيا، وهذا الحديث معناه الترغيب في الاقتداء بالصالحين والتحذير من مخالفة طريقهم خشية أن يكون من خالفهم ممن لا يباليه الله ولا يعبا به. وبألة: مصدر باليت محذوف منه الياء التي هي لام الفعل، وكان أصله «بالية» فكروها ياءً قبلها كسرة، لكثرة استعمال هذه اللفظة في نفى كل ما لا يحفل به، وتقول العرب أيضاً في مصدر باليت مبالاة كما تقول بالة. والحفالة: سفلة الناس وأصلها في اللغة ما تتساقط من قشور التمر والشعير وغيرهما، والحثالة والحشافة مثله.

(وانظر شرح ابن بطال للبخاري: ۱۰/۱۶۱)

۱۰- باب : ما يَتَّقِي مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ .

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : « إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ » /التغابن : ۱۵/ .

### ترجمہ الباب کا مقصد

اس باب میں مال کے فتنے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے (۱)، مال اگر جائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور جائز مصارف میں استعمال کیا جائے تو اللہ کی نعمت ہے لیکن ناجائز طریقے سے مال آجائے یا مال غلط مصارف میں استعمال ہونے لگے یا وہ انسان کے گناہوں کا ذریعہ بننے لگے، تو فتنہ اور بڑی آزمائش ہے۔

۶۰۷۱ : حَدَّثَنِي بَيْحِي بْنُ يُونُسَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (تَعَسَّ عَبْدُ الدِّيَّانَرِ ، وَالذَّرْهَمُ ، وَالْقَطِيفَةُ ، وَالْحَمِيصَةُ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ) . [ ر : ۲۷۳۰ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا: دینار و درہم کا غلام، عمدہ ریشمی کپڑے اور چادر کا غلام تباہ ہو جائے اگر اس کو دیا جائے تو خوش ہوتا ہے اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔

ابو حصین کا نام عثمان بن عاصم ہے، حصین (حاء کے فتنہ اور صا د کے کسرہ کے ساتھ) ہے۔

القَطِيفَةُ : کپڑا۔ الحَمِيصَةُ : سیاہ چادر، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا کا اس قدر

گرویدہ اور اسیر ہو کہ دنیا ہی اس کی خوشی اور ناراضگی کا اول و آخر سبب ہو، دنیا کی کوئی چیز ملے تو خوش، نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے، دنیا کے ایسے گرویدہ غلام کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔

(۱) قال ابن بطال رحمه الله: "معنى الفتنه في كلام العرب: الاختبار والابتلاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفِتْنَتَاكَ﴾

﴿طه: ۴۰﴾ أي: اختبرناك، والفتنة: الإمالة عن القصد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ كَادُوا لِيَفْتَنُونَكَ﴾

[الإسراء: ۷۳] أي: ليميلونك، والفتنة أيضاً: الإحراق من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾

[الذاريات: ۱۳] أي: بحرقون، هذا قول ابن الأنباري. والاختبار والابتلاء بجمع ذلك كله، وقد أخبر الله

تعالى عن الأموال والأولاد أنها فتنة. (شرح ابن بطال: ۱۰/۱۶۲).

۶۰۷۳/۶۰۷۲ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَأَبْتَنَى ثَالِثًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ) .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا اور انسان کے پیٹ کو مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔

ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.....

ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی سے بھر سکتا ہے، مٹی، موت سے کنایہ ہے یعنی جب تک وہ زندہ رہتا ہے مال کی خواہش اس کو رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آجائے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”كناية عن الموت، لاستلزامه الامتلاء، كأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتى يموت (۲)۔“

(۶۰۷۳) : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : (لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنْ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلُهُ ، وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ) .  
قال ابن عباس : فلا أدري من القرآن هو أم لا .  
قال : وسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْبَرِ .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال (بھیڑ بکری وغیرہ) کی پوری وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اسے ویسی ہی ایک اور وادی مل جائے اور انسان کی آنکھ کو مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور جو اللہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس کی توبہ

قبول کرتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں۔

قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا؟..... حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ حدیث قرآن کریم کا حصہ ہے، (جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے) یا نہیں؟

قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر..... قال كفاعل عطاء ہے، اور یہ ماقبل سند کے ساتھ متصل ہے، عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو یہ حدیث منبر بیان کرتے ہوئے سنا، چنانچہ اگلی روایت میں ہے: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته.....

٦٠٧٤ : حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : ( لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلَأً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا ، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا ، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ) .

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر انسان کو ایک وادی سونا بھر کے دے دی جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا، اگر دوسری دی جائے تو تیسری کا خواہش مند رہے گا اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔

ابو نعیم کا نام فضل بن دکین ہے۔

٦٠٧٥ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ) .

وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنْ أَبِي قَالَ : كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ ، حَتَّى نَزَلَتْ : « أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ » .

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ وہ دو ہو جائیں اور اس کا منہ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔

اس حدیث کے اندر ”فاه“ یعنی فم کا ذکر ہے، پہلی روایت میں ”بطن“ اور ”عین“ کا ذکر آیا ہے، علامہ عینی اور قسطلانی رحمہما اللہ لکھتے ہیں:

”ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه بقريظة علامة الانحصار على التراب؛ إذ غيره يملؤه أيضا، بل هو كناية عن الموت؛ لأنه مستلزم للامتلاء، فكأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتى يموت، فالغرض من العبارات كلها واحد، ليس فيها إلا التفنن في الكلام“ (۳)۔

یعنی: ”یہاں متعین طور پر جسم کا کوئی عضو مراد نہیں ہے بلکہ یہ موت سے کنایہ ہے، حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دنیا سے انسان اس وقت تک سیر نہیں ہوتا، جب تک اس کی موت نہ آجائے، تمام عبادتوں کا مقصد ایک ہے سوائے کلام کے تنوع کے اور کوئی مقصد نہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وهذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث، وأما إذا تحدث فهو من تصرف الرواة، ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة، والبطن بمعناه، وأما النفس فعبر بها عن الذات، وأطلق الذات وأراد البطن من باب إطلاق الكل، وإرادة البعض ..... وأما بالنسبة إلى الفم، فلكونه طريق الوصول إلى الجوف، وأما العين، فلأنها الأصل في الطلب؛ لأنه يرى ما يُعجبه، فيطلبه؛ ليحوزه إليك، وخص البطن في أكثر الروايات؛ لأن أكثر ما يطلب المال؛ لتحصيل المستلذات، وأكثرها تكرار الأكل والشرب“ (۴)۔

(۳) عمدة القاري: ۶۹/۲۳، وإرشاد الساري: ۴۳۸/۱۳

(۴) فتح الباري: ۳۰۸/۱۱، وإرشاد الساري: ۴۳۹/۱۳

”یہ تو ضیح اس وقت درست ہے جب حدیث کے الفاظ مختلف واقع ہوں۔ پھر استلاء یعنی بھرنے کی نسبت پیٹ کی طرف کرنا واضح ہے۔ بطن کے معنی بھی یہی ہیں اور نفس بول کر شخص اور ذات مراد لیا جاتا ہے۔ ذات بول کر بطن یعنی پیٹ مراد لینا یہ ”اطلاق الکل و ارادة البعض“ کے قبیل سے ہے۔ یعنی کل بول کر جز مراد لینا اور نم یعنی منہ کی طرف اس کی نسبت اس بناء پر ہے کہ منہ کے ذریعے سے پیٹ تک چیز پہنچتی ہے اور آنکھ کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ طلب اور تلاش میں آنکھ اصل ہے اور اکثر روایات میں بطن یعنی پیٹ کا ذکر ہے، اس لئے کہ اکثر جو مال طلب کیا جاتا ہے، وہ لذت حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اور لذت کی بہت سی صورتیں کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہیں۔“

وقال لنا أبو الوليد.....

ابو الولید ہشام بن عبد الملک طیالسی امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، وہ حضرت ابی بن کعب سے نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث (لو كان لابن آدم واديان من مال.....) کو ہم قرآن کا حصہ سمجھتے تھے، یہاں تک سورۃ تکاثر نازل ہوگئی، تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ قرآن نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ سورۃ تکاثر میں حدیث کا یہ مفہوم بہت بلیغ طریقے سے بیان کر دیا گیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ قرآن کریم کی آیت تھی، جب سورۃ تکاثر نازل ہوئی تو اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی لیکن اس کا حکم اب بھی باقی ہے (۵)۔

فائدہ..... تعلیقات کے سلسلے میں امام بخاری کا ایک منہج

امام بخاری رحمہ اللہ تعلیقات ”قال فلان“ کہہ کر ذکر فرماتے ہیں لیکن جہاں ”قال لنا.....“ کہا ہے، ظاہر ہے وہ تعلق نہیں، بلکہ موصول ہے، یہاں پر ”قال لنا أبو الوليد“ فرمایا ہے، یہ بھی موصول ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری یہ اسلوب وہاں اختیار کرتے ہیں، جہاں متن حدیث ان کی شرط کے مطابق نہ ہو، یا سند کا کوئی دوسرا راوی ان کی شرط کے مطابق نہ ہو، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”قوله: ”قال لنا“ ظاهر في الوصل، وإن كان بعضهم قال: إنها للإجازة، أو للمناولة، أو لمذاكرة، فكل ذلك في حكم الوصول، وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالا. والذي ظهر لي بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يأتي بهذه الصيغة، إلا إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتاب، كأن يكون ظاهره الوقف، أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج“ (۶).

### ۱۱- باب : قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : (هَذَا الْمَالُ خَيْرَةٌ حُلْوَةٌ).

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» / آل عمران : ۱۴ .  
قَالَ عُمَرُ : اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيْنَتَهُ لَنَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ .

آیت کریمہ کا ترجمہ ہے:

”خوشنما معلوم ہوتی ہے (اکثر) لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی (مثلاً) عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے، نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے، (یا دوسرے) مویشی ہوئے اور زراعت ہوئی (لیکن) یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیوی زندگی کی اور انجام کار کی خوبی (کی چیز) تو اللہ ہی کے پاس ہے (جو موت کے کام آئے گی)۔“

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ دنیا کی ان مرغوب چیزوں کو انسان کے لئے

مزین کر دینا بھی ایک فعلِ خداوندی ہے، جو بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے، اور بعض آیات جن میں اس قسم کی تزئین کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ﴿زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ ان میں ایسی چیزوں کی تزئین مراد ہے جو شرعاً اور عقلاً بُری ہیں، یا تزئین کا وہ درجہ مراد ہے جو حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے برا ہے، ورنہ مباحات کو مزین کر دینا مطلقاً برا نہیں، بلکہ اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں، اسی لئے بعض آیات میں اس تزئین کو صراحۃً حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ابھی بیان کیا گیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و حکمت سے انسان کے لئے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اور اس کی چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی مالک و خالق کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے، پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا، دنیا کی مرغوبات اس کے لئے سبکِ راہ بننے کے بجائے سبکِ میل بن کر فلاحِ آخرت کا ذریعہ بن گئیں اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لئے یہی چیزیں حیاتِ آخرت کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئیں اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لئے عذاب ہی بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ہے: ﴿فَلَا تَعْبِجْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ یعنی: ”آپ ان کافروں کے مال اور اولاد سے متعجب نہ ہوں کیونکہ ان نافرمانوں کو مال، اولاد دینے سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ یہ اموال و اولادِ آخرت میں تو ان کے لئے عذاب بنیں گے ہی، دنیا میں بھی رات دن کی فکروں اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں۔“



الغرض دنیا کی جن چیزوں کو حق تعالیٰ نے انسان کے لئے مزین اور مرغوب بنا دیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کرنا دنیا و آخرت کی فلاح ہے اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلو اور انہماک جس کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے، باعثِ حکمت ہے، مولانا رومی رحمہ اللہ نے اس کی کیا اچھی مثال بیان فرمائی ہے۔

آب اندر زیرِ کشتی پشتی است      آب در کشتی ہلاکِ کشتی است  
یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کے مانند ہے اور اس میں انسان کا قلب ایک کشتی کی طرح ہے، پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہے تو کشتی کے لئے مفید اور معین اور اس کے مقصدِ وجود کو پورا کرنے والا ہے اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے مال و متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پالیں، اس کے لئے دین و دنیا میں معین و مددگار ہیں، اور جس وقت چاہیں اس کے دل پر چھا جائیں تو دل کی ہلاکت ہیں (۱)۔

قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا.....

سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے مختلف دنیوی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لئے مزین کر دیا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اے اللہ! جن چیزوں کو تو نے ہمارے لئے مزین بنایا ہے انہیں دیکھ کر اور پا کر سوائے خوش ہونے کے ہمارے لئے کوئی چارہ نہیں، اے اللہ! میں تجھ سے، اس کو اپنے صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی دعا کرتا ہوں۔“

اس تعلق کو دارقطنی نے موصولاً نقل کیا ہے اور اس میں تفصیل ہے کہ جب فتوحات شروع ہوئیں تو حضرت عمرؓ کے پاس مشرق سے مال آیا، حضرت عمرؓ نے کھول کر دیکھا تو اس میں زیورات، جواہر اور دیگر ساز و سامان تھا، حضرت عمرؓ رونے لگے، لوگوں نے پوچھا، امیر المؤمنین! آپ کیوں رورہے ہیں، یہ تو مال غنیمت

ہے، فرمانے لگے: جس قوم پر یہ فتح حاصل ہوئی، یہ مال ان کو قتل کرنے اور بے آبرو کرنے کے بعد ہی حاصل ہوا، مقصد یہ تھا کہ وہ بغیر جنگ و قتال کے اسلام قبول کر لیتے تو یہ نوبت نہ آتی..... پھر جب وہ مال تقسیم کرنے لگے تو قرآن کریم کی یہ آیت ﴿زین لسناس.....﴾ تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ دنیاوی اشیاء ہمیں بھی محبوب ہیں، اے اللہ! ان کے شر سے مجھے بچا اور مجھے توفیق دے کہ میں اسے صحیح مصرف میں خرچ کر سکوں (۲)۔

۶۰۷۶ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ : ( هَذَا الْمَالُ ) . وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ لِي : ( يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ) . [ ر : ۱۳۶۱ ]

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا، پھر میں نے مانگا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا، پھر میں نے مانگا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا، پھر فرمایا کہ اے حکیم! یہ مال سرسبز اور خوشگوار ہے، پس جو شخص اسے نیک نیتی سے لیتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔

ثم قال: "إن هذا المال، وربما قال سفیان: قال لي: ويا حكيمة: إن هذا المال....." (۳)۔

یعنی راوی سفیان کو شک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے "إن هذا المال خضرة حلوة....."

(۲) إرشاد الساري: ۴۴۱/۱۳

(۳) وظاهر السياق أن حكيمة قال لسفيان، وليس كذلك؛ لأنه لم يدره، فإن بين وفاة حكيمة ومولد سفيان نحو الخمسين سنة، وإنما المراد أن سفيان رواه مرة بلفظ: "ثم قال: (أى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) إن هذا المال" ومرة بلفظ: "ثم قال لي: يا حكيمة....." (فتح الباري: ۳۱۳/۱۱، وإرشاد الساري: ۴۴۲/۱۲)

فرمایا ”یا حکیم! ان هذا المال خضرة حلوة.....“ فرمایا، قال لي: يا حکیم..... یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے حکیم.....

## ۱۲ - باب : ما قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ .

انسان جو مال اللہ کے راستے اور خیر کے کاموں میں خرچ کر کے اپنے لئے ذخیرہ آخرت بنا دے، وہی اس کا ہے اور اس کے کام آئے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

۶۷-۶ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (أَيْكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ) . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، قَالَ : (فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا آخَرَ) .

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال عزیز ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے اپنے مال زیادہ عزیز نہ ہو، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے (موت سے) پہلے (اللہ کے راستے میں خرچ) کیا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا (۱)۔

(۱) قال ابن بطال في شرحه:

فإن قيل: هذا الحديث يدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه لوارثه، وهذا يعارض قوله ﷺ لسعد: «إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس».

قيل: لا تعارض بينهما، وإنما خص النبي ﷺ سعدًا على أن يترك مالا لورثته؛ لأن سعدًا أراد أن يتصدق بماله كله في مرضه، وكان وارثه ابنته والابنة لا طاقة لها على الكسب، فأمره ﷺ بأن يتصدق منه بثلثه ويكون باقية لابنته وليت مال المسلمين، وله أجر في كل من يصل إليه من ماله شيء بعد موته.

## ۱۳ - باب : الْمُكْتَرُونَ هُمُ الْمُقْلُونَ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ» /هود: ۱۵، ۱۶ .

مکترون سے مالدار لوگ ہیں جن کے پاس دولت کی کثرت ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ اجر و ثواب میں کم تر ہوں گے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں سورۃ ہود کی دو آیات ذکر فرمائیں، جن کا ترجمہ ہے:

”جو شخص (اپنے اعمال خیر سے) محض حیاتِ دنیوی (کی منفعت) اور اس کی رونق (حاصل کرنا) چاہتا ہے (جیسے شہرت و نیک نامی و جاہ اور ثوابِ آخرت حاصل کرنے کی اس کی نیت نہ ہو) تو ہم ان لوگوں کے (ان) اعمال (کی جزاء) ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں کچھ کی نہیں ہوتی (یعنی دنیا ہی میں ان کے اعمال کے عوض ان کو نیک نامی اور صحت و فراغ عیش و کثرتِ اموال و اولاد عنایت کر دیا جاتا ہے جب کہ ان کے اعمال کا اثر ان کے اضرار پر غالب ہو اور اگر اضرار غالب ہوں تو پھر یہ اثر نہیں مرتب ہوتا، یہ تو دنیا میں ہو اور با آخرت میں، سو) یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ (ثواب وغیرہ) نہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب (کاسب) ناکارہ (ثابت) ہوگا۔“

آیات کریمہ کی مناسبت، باب سے ظاہر ہے کہ جو لوگ دنیا چاہیں گے، دنیا ان کو مل جائے گی، لیکن

آخرت کے اجر سے وہ محروم رہیں گے!

= و حدیث ابن مسعود إنما خاطب به ﷺ أصحابه في صحتهم ونبه به من شخّ على ماله، ولم تسمح نفسه بإنفاقه في وجوه البر أن يتفق منه في ذلك؛ لئلا يحصل وارثه عليه كاملاً موفراً، ويخيب هو من أجره، وليس فيه الأمر بصدقة المال كله فيكون معارضاً لحدیث سعد، بل حدیث عبد الله بمحمل يفسره حدیث سعد، ويدل على صحة هذا التأويل ما ذكره أهل السير، عن ابن شهاب أن أبا لبابة قال: «يا رسول، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأتخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال: يجزئك الثلث، فلم يأمره بصدقة ماله كله. (شرح ابن بطلان: ۱۰/ ۱۲۳، ۱۲۵)

٦٠٧٨ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهَبٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ ، فَالْتَمَسْتُ فَرَأَيْتِي ، فَقَالَ : (مَنْ هَذَا) . قُلْتُ : أَبُو ذَرٍّ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ ، قَالَ : (يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَ) . قَالَ : فَامَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً ، فَقَالَ : (إِنَّ الْمَكْرِبِينَ هُمُ الْمُقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا ، فَفَنَحَّ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا) . قَالَ : فَامَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً ، فَقَالَ لِي : (أَجْلِسْ هَا هُنَا) . قَالَ : فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ ، فَقَالَ لِي : (أَجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ) . قَالَ : فَأَنْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ ، فَلَبِثْتُ عِنِّي فَأَطَالَ اللَّبْثُ ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ : (وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى) . قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ ، مَنْ تَكَلَّمَ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ ، مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا ؟ قَالَ : (ذَلِكَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ ، قَالَ : بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ : يَا جَبْرِيلُ ، وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ : نَعَمْ) . قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ : (نَعَمْ ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ) . قَالَ النَّضْرُ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ رُفَيْعٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ : بِهَذَا .

قال أبو عبد الله : حديث أبي صالح ، عن أبي الدرداء ، مرسل لا يصح ، إنما أردنا للمعرفة ، والصحيح حديث أبي ذر .

قيل لأبي عبد الله : حديث عطاء بن يسار ، عن أبي الدرداء ؟ قال : مرسل أيضًا لا يصح ، والصحيح حديث أبي ذر ، وقال : أضربوا على حديث أبي الدرداء هذا : إذا مات قال : لا إله إلا الله ، عند الموت . [ر : ٢٢٥٨]

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز میں باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ اس سے میں سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی رہے، اس لئے میں چاندنی کی چھاؤں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مڑے اور مجھے دیکھ کر دریافت فرمایا، کون صاحب ہیں؟ میں نے عرض کی، ابوذر! اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مجھے قربان کرے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوذر یہاں آؤ۔

ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو لوگ (دنیا میں) زیادہ مال و دولت جمع کئے ہوئے ہیں، قیامت کے دن وہی کم مایہ ہوں گے، سو ان کے جہنمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے دائیں بائیں، آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو۔

حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ پھر میں تھوڑی دیر تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں بیٹھ جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہموار زمین پر بٹھا دیا جس کے چاروں طرف پتھر تھے اور فرمایا ”یہاں اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک میں تمہارے پاس لوٹ کے آؤں“۔

ابوذرؓ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھریلی زمین کی طرف چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، آپ وہاں رہے اور دیر تک وہیں رہے، پھر میں نے آپ سے سنا آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لارہے تھے واین سرق واین زنی..... ”چاہے چوری کی، چاہے زنا کیا ہو“ ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی! اللہ مجھے آپ پر قربان

کرے، اس پتھریلی زمین کے کنارے آپ کس سے گفتگو فرما رہے تھے، میں نے تو کسی دوسرے کو آپ سے گفتگو کرتے دیکھا نہیں تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت جبریل علیہ السلام تھے، پتھریلی زمین (حرہ) کے کنارے مجھ سے ملے اور کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، میں نے عرض کی اے جبریل! اگرچہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے پھر عرض کی، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے شراب بھی پی ہو۔

### سند کی وضاحت

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت ذکر فرمائی ہے، اس کی سند میں ہے ”عن عبدالعزیز بن رفیع عن زید بن وہب.....“ عبدالعزیز زید بن وہب سے ”عن“ کے ساتھ نقل کر رہے ہیں، نصر بن شمیل کی اس روایت میں شعبہ کے تین شیخ ہیں اول حبیب بن ابی ثابت، دوم سلیمان اعمش اور سوم عبدالعزیز بن رفیع اور یہ تینوں ”عن“ کی بجائے ”حدثنا زید بن وہب بهذا“ یعنی تصریح تحدیث کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔ بھذا سے حدیث مذکور مراد ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ قتیبہ بن سعید کے طریق میں اگرچہ عنعنہ ہے، عبدالعزیز بن رفیع، ”عن“ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، لیکن شعبہ کی روایت میں تحدیث کی تصریح ہے۔

### ایک اعتراض اور اس کا جواب

اسماعیلی نے امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کیا ہے کہ شعبہ کے طریق میں مکشورین اور مقلین والا حصہ نہیں، صرف ”من مات لا یشرک باللہ.....“ والا حصہ ہے، ایسی صورت میں قتیبہ بن سعید اور شعبہ دونوں کی روایات کو ایک کیسے کہا جاسکتا ہے۔

شارحین نے اس کا جواب یہ دیا کہ درحقیقت حضرت ابو ذرؓ کی یہ حدیث تین باتوں پر مشتمل ہے:

۱ ایک مکثرین اور مقلین والی بات۔

۲ دوم مایسرنی أن عندي مثل أحد ذہبا (جیسا کہ اگلے باب کی روایت میں آرہا ہے)۔

۳ سوم من مات لا یشرك باللہ شیئاً۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تینوں باتیں، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمائی ہیں۔

ان میں سے ہر بات پر ”حدیث“ کا اطلاق ہو سکتا ہے، اگرچہ پوری حدیث تین الگ الگ باتوں پر

مشتمل ہے (۱)۔

قال أبو عبد اللہ: حدیث أبي صالح، عن أبي الدرداء مرسل لا یصح إنما أردنا

للمعرفة، والصحيح حدیث أبي ذر

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”أبو صالح عن أبي الدرداء“ والی حدیث مرسل ہے اور صحیح نہیں

ہے، صحیح حدیث ابی ذر ہی ہے، اس کا تذکرہ ہم نے اس لئے کیا تا کہ صحیح صورت حال اور حقیقت واضح اور معلوم

ہو سکے، إنما أردنا للمعرفة، أي: إنما أردنا أن نذكره للمعرفة بحاله.

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت کی تفصیل آپ کے سامنے آگئی، اگلے باب میں یہ روایت آرہی

ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے خوش خبری سنائی ہے کہ ”من مات

لا یشرك باللہ شیئاً دخل الجنة..... وإن سرق وإن زنی“.

ٹھیک اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے حضرت ذکوان ابوصالح نے نقل فرمائی ہے۔

حضرت ابوذرؓ سے یہ روایت زید بن وہب نقل فرما رہے ہیں، سلیمان اعمش نے اپنے شیخ زید بن

وہب سے پوچھا کہ مجھے تو یہ بات پہنچی ہے کہ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء

رضی اللہ عنہ کو سنائی تھی اور وہ اس کے راوی ہیں، تو زید بن وہب نے کہا کہ مجھے حضرت ابوذرؓ ہی نے یہ حدیث

مقام ربذہ میں سنائی تھی (ابو الدرداء نے نہیں) تو سلیمان اعمش نے کہا کہ ابوصالح نے مجھے حضرت ابو الدرداء

رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی حدیث نقل فرمائی ہے (۲)۔

(۱) إرشاد الساري: ۴۴۵/۱۳، وفتح الباري: ۳۱۷/۱۱، وعمدة القاري: ۷۹/۲۳

(۲) فتح الباري: ۳۲۲/۱۱، وعمدة القاري: ۷۸/۲۳



امام بیہقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں، اگرچہ معنوی لحاظ سے دونوں کا مفہوم ایک ہے، لیکن دو الگ الگ موقعوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا (۳)۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں حدیثوں کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صحیح حدیث ابی ذر ہے اور ابوصالح ذکوان نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی جو روایت نقل کی ہے، وہ مرسل ہے، صحیح نہیں ہے۔

لیکن صاحب تلویح نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس محاکمہ پر تنقید کی ہے اور فرمایا ہے کہ امام نسائی نے یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے (۴)۔

قیل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء، قال: مرسل أيضاً لا يصح

والصحيح حديث أبي ذر، وقال: اضربوا علي حديث أبي الدرداء

امام بخاری رحمہ اللہ سے عطاء بن یسار کی اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا، جو انہوں نے حضرت

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے نقل فرمائی ہے، اور جس کی تخریج امام نسائی رحمہ اللہ نے کی ہے، اس کے الفاظ ہیں:

”إنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يقص على المنبر

يقول: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ فقلت: وإن زنى، وإن سرق يارسول

الله، فقال: وإن زنى وإن سرق، فأعدت، فأعاد، فقال في الثالثة، قال: نعم،

وإن رغم أنف أبي الدرداء“ (۵)۔

یعنی: ”حضرت ابودرداء فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو

منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ یعنی جو شخص اپنے

(۳) فتح الباری: ۱۱/۳۲۳، إرشاد الساری: ۱۳/۴۴۵

(۴) إرشاد الساری: ۱۳/۴۴۵، وعمدة القاری: ۲۳/۷۹

(۵) السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب التفسیر، سورة الرحمن: ۶/۴۷۸، (رقم الحدیث: ۱۱۵۶)

رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اس کے لئے دو جنتیں ہیں، تو میں نے کہا کہ اگرچہ اس نے زنا، چوری کی ہو یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا چوری کی ہو، میں نے دوبارہ کہا، آپ نے دوبارہ یہ ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ ابودرداء کی ناک خاک آلود ہو جائے۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی مرسل ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح حدیث، حدیث ابی ذر ہے، فرمایا، حضرت ابوالدرداء کی اس حدیث پر لیکر کھینچ دو یعنی اسے چھوڑ دو۔ ”إذ مات، قال: لا إله إلا الله عند الموت..... کیونکہ وہ مرسل ہے۔“

### نسخوں کا فرق..... یہاں دو نسخے ہیں:

① پہلے نسخے میں ”إذ مات، قال: لا إله إلا الله عند الموت“ کے الفاظ ہیں، ہم نے جو نسخہ متن کے طور پر اختیار کیا ہے، اس میں ”إذ مات“ ہے، اس صورت میں ”اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا.....“ سے حضرت ابوالدرداء کی حدیث کی طرف اشارہ ہے، حضرت ابوالدرداء کی حدیث کے یہ الفاظ نقل کر کے امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابودرداء کی یہ حدیث ”إذ مات، قال: لا إله إلا الله.....“ پر خط کھینچو اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ مرسل ہے۔

② دوسرا نسخہ ہے ”هذا، إذا تاب، قال: لا إله إلا الله عند الموت“ ہندوستانی نسخے میں ”إذا تاب“ کے الفاظ ہیں، اس نسخے کے مطابق اضربوا على حديث أبي الدرداء پر بات ختم ہوگئی اور هذا إذا تاب، قال: لا إله إلا الله عند الموت..... یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے، حدیث باب پر تبصرہ ہے، حدیث باب میں ہے کہ جس شخص نے ”لا إله إلا الله.....“ کہہ دیا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب اس نے ان گناہوں سے توبہ کر لی ہو اور موت کے وقت کلمہ طیبہ کہہ دیا ہو، ظاہر ہے توبہ سے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ایسا شخص جنت میں جائے گا!

یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تاویل ہے، دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ تو بہ نہ بھی کیا ہو، تب بھی جنت میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد داخل ہوں گے، ”دخل الجنة“ سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ حضرت نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”قوله: قال أبو عبد الله: ”هذا إذا تاب، وقال: لا إله إلا الله، عند الموت“..... لما استشكل المصنف النجاة، مع إرتكاب الزنا، والسرقة، حملة على أن المراد من الزنا، والسرقة الذي قد تاب منه، فإذا تاب منه قبل الموت، وقال الكلمة، فذلك يدخل الجنة؛ لأن الكافر يدخلها أبداً حتى يلج الجمل في سم الخياط، وإذا كان المؤمن العاصي داخلها، ولو بعد التعذيب يسيراً، صح الإطلاق في التعبير، فالدخول في الجنة، أو تحريم النار عليه، كله بالنظر إلى حال الكافر، ولما تعلم الناس المسألة في المؤمن المسرف، وتقررت في أذهانهم، صارت عندهم كالبدیهی، فزعموه أنها لا تحتاج إلى تنبيه، مع أنه لو لم يعلمنا لما علمنا ﴿وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله﴾ فهذا هو المراد عندي، والله تعالى أعلم بالصواب“ (۶).

بہر حال عطاء بن یسار کی روایت کو بھی امام بخاری نے غیر صحیح، مرسل قرار دیا۔

لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کو قابل اشکال قرار دیا، وہ فرماتے ہیں کہ عطا کی روایت مرسل نہیں، کیونکہ عطاء ابن یسار کی سماعت ابو درداء سے ثابت ہے، جیسا کہ ابن ابی حاتم اور طبرانی اور بیہقی کی روایت میں ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”قد وقع التصريح بسماع عطاء بن يسار له من أبي الدرداء في رواية

ابن أبي حاتم في تفسيره، والطبراني في معجمه، والبيهقي في شعبه“ (۷).

(۶) فيض الباري: ۴/۲۵۰

(۷) فتح الباري: ۱۱/۳۲۳

۱۴ - باب : قول النَّبِيِّ ﷺ : (مَا بَسُرُنِي أَنْ عِنْدِي مِثْلُ أَحَدٍ هَذَا ذَهَبًا) .

۶۰۷۹ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ ، فَاسْتَقْبَلَنَا أَحَدٌ ، فَقَالَ : (يَا أَبَا ذَرٍّ) . قُلْتُ : لَيْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (مَا بَسُرُنِي أَنْ عِنْدِي مِثْلُ أَحَدٍ هَذَا ذَهَبًا ، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إِلَّا شَبْنَا أَرْضَهُهُ لِدَيْنٍ ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) . عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ ، ثُمَّ مَشَى ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) . ثُمَّ قَالَ لِي : (مَكَانَكَ لَا تَبْرَحُ حَتَّى آتِيكَ) . ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدْ أَرْفَعَهُ ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَّضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي : (لَا تَبْرَحُ حَتَّى آتِيكَ) . فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى آتَانِي ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : (وَهَلْ سَمِعْتَهُ) . قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : (ذَلِكَ جِبْرِيلُ آتَانِي ، فَقَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ) . [ر : ۲۲۵۸]

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے پھرے علاقہ میں چل رہا تھا، اسی دوران احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو ذر! میں نے عرض کی حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس اس احد کے برابر سونا ہو اور اس پر تین دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں ایک دینار بھی باقی رہ جائے، سو اس تھوڑی سی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے رکھ چھوڑوں، بلکہ میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں، اپنی دائیں بائیں اور پیچھے (یعنی ہر طرف خرچ

کروں)، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا، زیادہ مال رکھنے والے ہی قیامت کے دن کم مایہ ہوں گے سوا اس شخص کے جو اس مال کو اس طرح دائیں، بائیں اور پیچھے سے خرچ کرے اور ایسے لوگ کم ہیں۔

پھر مجھ سے فرمایا، یہیں ٹھہرے رہو، یہاں سے اس وقت تک نہ جانا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، اسکے بعد میں نے آواز سنی جو بلند تھی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی دشواری نہ پیش آگئی ہو، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کا ارشاد یاد آ گیا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، چنانچہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، میں وہاں سے نہیں ہٹا۔

میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں نے ایک آواز سنی تھی، مجھے خطرہ بھی محسوس ہوا، لیکن پھر آپ کا ارشاد یاد آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے سنا تھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں، فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو وہ جنت میں جائے گا میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو، انہوں نے کہا کہ ہاں، اگرچہ اس نے زنا اور چوری ہی کیوں نہ کی ہو (۱)۔

(۱) قال ابن بطال: فی هذا الحدیث أن المؤمن لا ینبغی له أن یتمنی كثرة المال إلا بشریطة أن یسلطه الله علی إنفاقه فی طاعته اقتداءً بالنبی ﷺ فی ذلك.

وفیه: أن المبادرة إلى الطاعة أفضل من التوانی فیها، ألا تری أن النبی ﷺ لم یحب أن یتقی عنده من مقدار جبل أحد ذہباً، لو كان له، بعد ثلاث إلا دینار یرصده لمدین.

وفیه: أن النبی ﷺ كان ینبغی له أن یتمنی كثرة مال الله لکثرة مواساته بقوته وقوت عیاله، وإشاره علی نفسه أهل الحاجة، والرضا بالتقلل والصبر علی خشونة العیش، وهذه سیرة الأنبیاء والصالحین، وهذا کله یدل علی أن فضل المال فی إنفاقه فی سبیل الله لا فی إمساکه وإتخاره. (شرح ابن بطال: ۱۰/۱۲۶)

## تمضي علي ثالثة

اس میں ”ثالثة“ سے ”ليلة ثالثة“ مراد ہے، باب کی اگلی روایت میں ہے: ”أن لا تمر علي ثلاث ليال“. أرصده لِدِين: یعنی وہ جو میں نے قرض اتارنے کے لئے رکھا ہوا..... إلا أن أقول به في عباد الله: مگر جو میں اللہ کے بندوں میں خرچ کروں، أقول به سے انفاق مراد ہے، إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذا: مگر جو اس طرف، اُس طرف خرچ کرتا ہو، من قال یعنی: صرف المال في حقه.

٦٠٨٠ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاتَةَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ، لَسَرَّيْنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِذَيْنِ ) . [ر: ٢٢٥٩]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ تین دن بھی مجھ پر اس حال میں نہ گزرنے پائیں کہ میرے پاس کچھ بھی باقی بچے، سو اس معمولی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے رکھ لوں۔

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الخيرات، وأنه كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا بحيث إنه لا يحب أن يبقى في يده شيء من الدنيا، إلا لإنفاقه فيمن يستحقه، وإما لإرصاده لمن له حق“ (٢).

یعنی: ”اس میں بھلائی کے راستوں میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، نیز اس امر پر اکتسایا گیا ہے کہ انسان دنیا میں زہد کے اعلیٰ درجہ کو اختیار کرے، اس طور پر کہ وہ یہ

خواہش رکھے کہ اس کے ہاتھ میں جتنی دنیا اور مال و دولت ہے، وہ اسے مستحق لوگوں پر خرچ کرے یا صاحبِ حق کے حق کی ادائیگی کے لئے اسے تیار رکھے۔

### ۱۵۔ باب : الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ .

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُؤْتُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ - إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى - هُمْ لَهَا عَامِلُونَ» / المؤمنون : ۵۵ - ۶۳ / .  
 قَالَ ابْنُ عَبَّيْنَةَ : لَمْ يَعْمَلُوهَا ، لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا .

جیسا کہ ترجمہ الباب سے واضح ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب میں حدیث کے الفاظ ذکر کئے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ اصل مالدار کی مالداری ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر ۵۵ سے لے کر آیت نمبر ۶۳ تک یعنی آٹھ آیتوں کو ترجمہ الباب میں ذکر فرمایا۔ وہ آیتیں یہ ہیں:

﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ﴾ ○ ﴿نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ○ ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ ○ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ ○ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ ○ ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ ○ ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ ○ ﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ○ ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ ○

ترجمہ: ”یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و اولاد دیتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں (یہ بات ہرگز نہیں) بلکہ یہ لوگ (اس ڈھیل دینے کی وجہ) نہیں جانتے (یعنی یہ ڈھیل تو ان کو بطور استدراج کے دی جا رہی ہے، جو انجام کار ان کے لئے اور زیادہ عذاب کا سبب بنے گی، کیونکہ ہماری مہلت اور ڈھیل دینے

سے یہ اور مغرور ہو کر سرکشی اور گناہوں میں زیادتی کریں گے اور عذاب زیادہ ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو لوگ (اللہ کی راہ میں) دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور (باوجود اللہ کی راہ میں دینے اور خرچ کرنے کے) ان کے دل اس سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں (دیکھئے وہاں جا کر ان صدقات کا کیا ثمرہ ظاہر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دینا حکم کے موافق نہ ہو مثلاً مال حلال نہ ہو یا نیت اللہ کے لئے خالص نہ ہو اور نیت میں اخلاص کامل نہ ہونا اور مال کا حرام ہونا ہمیں معلوم نہ ہو تو اُلٹا اس پر مواخذہ ہونے لگے تو جن لوگوں میں یہ صفات ہوں) یہ لوگ اپنے فائدے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں اور (یہ اعمال مذکورہ کچھ سخت بھی نہیں جن کا کرنا مشکل ہو کیونکہ) ہم کسی کو اُس کی وسعت سے زیادہ کام کرنے کو نہیں کہتے (اس لئے یہ سب کام آسان ہیں اور اس کے ساتھ اُن کا اچھا انجام اور ثمرہ یقینی ہے کیونکہ) ہمارے پاس ایک دفتر (نامہ اعمال کا محفوظ) ہے جو ٹھیک ٹھیک (سب کا حال) بتلا دے گا اور لوگوں پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔ (یہ تو اوپر مومنین کی حالت سُنی مگر کفار ایسے نہیں ہیں) بلکہ (برعکس) ان کفار کے قلوب اس دین کی طرف سے (جس کا ذکرِ بایاتِ رَبِّہم میں ہے) جہالت (اور شک) میں (ڈوبے ہوئے) ہیں (جن کا حل اوپر بھی معلوم ہو چکا فَذَرْنَهُمْ فِی غَمَرْتِهِمْ) اور اس (جہالت و انکار) کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی (بُرے بُرے) عمل ہیں جن کو یہ (مسلل) کرتے رہتے ہیں۔

قال ابن عُیَیْنَةَ: لم يعملوها لا بد من أن يعملوها

قرآن کریم کی آیت کریمہ ﴿مَنْ دُونَ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ کے بارے میں حضرت سفیان بن

عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے وہ برے اعمال جو انہوں نے اب تک نہیں کئے، وہ بھی ضرور کریں گے اور یوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔



۶۰۸۱ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ : حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (لَيْسَ الْغَنِيُّ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَصِ ، وَلَكِنَّ الْغَنِيَّ غَنَى النَّفْسِ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غناء اور مالداری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ اصل غناء یہ ہے کہ دل بے نیاز ہو۔

### آیات کریمہ اور حدیث میں مناسبت

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں سورۃ مومنوں کی جو آیات کریمہ ذکر فرمائی ہیں، حدیث باب کے ساتھ ان کی مناسبت بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیات سے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ مال فی نفسہ، کسی خیر اور نفع کی چیز نہیں، بلکہ اس کی نافعیت، اس کے متعلق کے اعتبار سے ہے، وہ اگر اسے صحیح مصرف میں استعمال کرے گا تو صحیح اور بہتر مصرف کی وجہ سے اس کی نافعیت اور بہتری واضح اور ظاہر ہوگی، اسی طرح زیادہ مال کے مالک ہونے سے آدمی غنی نہیں بن جاتا جب تک وہ دل کا غنی نہ ہو، دل کا غنی ہوگا تو وہ اسے صحیح اور ضروری مصارف میں خرچ کرے گا، اور اگر دل کا فقیر ہے تو وہ مال خرچ کرنے سے کترائے گا اور یوں وہ مال اس کے دین و دنیا کے کام نہیں آئے گا (۱)۔

### ۱۶- باب : فَضْلُ الْفَقْرِ .

۶۰۸۲ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ : (مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا) . فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خُطِبَ أَنْ يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ ، قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

(مَا رَأَيْتُكَ فِي هَذَا) . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشْفَعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلِّ الْأَرْضِ مِثْلِ هَذَا) . [ر : ۴۸۰۳]

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صاحب سے جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ ان (گزرنے والے) صاحب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ معزز لوگوں میں ہے، اور بخدا اس قابل ہیں کہ اگر یہ پیغام نکاح بھیجیں تو ان سے نکاح کر دیا جائے، اگر یہ سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے۔

حضرت سہل فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گزرے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! یہ صاحب مسلمانوں کے غریب طبقہ سے ہیں اور اس قابل ہیں کہ اگر نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان کا نکاح نہ کیا جائے، اگر سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر کچھ کہیں تو ان کی بات نہ سنی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، یہ (غریب) شخص اس (امیر) جیسے دنیا بھر کے انسانوں سے بہتر ہے۔

یہ حدیث، کتاب النکاح میں گزر چکی ہے۔

۶۰۸۳ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ : عَلَيْنَا خَبَابًا فَقَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، مِنْهُمْ مُضْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمْرَةَ ، فَإِذَا غَطَيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِدْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَبْنَعَتْ لَهُ نَمْرَتُهُ فَهِيَ يَهْدِيهَا . [ر : ۱۲۱۷]

حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لئے ہجرت کی، چنانچہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ رہا، پس ہم میں سے کوئی تو گزر گیا اور اپنا اجر اس دنیا میں نہیں لیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہی میں سے تھے، آپ جنگ احد کے موقع پر شہید ہوئے تھے، اور ایک چادر چھوڑی تھی (اس چادر کا آپ کو کفن دیا گیا تھا) اس چادر سے ہم اگر آپ کا سر ڈھکتے تو آپ کے پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کا سر ڈھک دیں اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی محنت کا پھل دنیا میں بار آور ہو گیا اور وہ اس سے چین رہے ہیں۔

ابو اہل حضرت شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، يَهْدُبُهَا: يَقْطَعُهَا، هَدَبَ كَمَا مَعْنَى يَهْلُ خُضَّةٍ

کے آتے ہیں۔

۶۰۸۴ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (أَطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَأَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ) .

تَابِعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ . وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

[ر : ۳۰۶۹]

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں رہنے والے اکثر غریب تھے اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو اہل میں رہنے والیاں اکثر عورتیں تھیں۔

ابو الولید ہشام بن عبد الملک طیلسی اور ابو رجاء عمران بن تمیم عطار دی کی کنیت ہے۔

تابعہ ایوب و عوف

ابو رجاء کی متابعت ایوب سختیانی اور عوف نے کی ہے، ایوب کی متابعت امام نسائی نے اور عوف کی

متابعت امام بخاری نے موصولاً نقل کی ہے (۲)۔

وقال صخر وحماد بن نجييع عن أبي رجاء عن ابن عباس  
صخر بن جويره اور حماد بن نجيع کی تعلق کونساى نے موصولاً نقل کیا ہے (۳)، ان دونوں نے یہ روایت  
حضرت ابن عباسؓ سے نقل کی ہے۔

۶۰۸۵ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ،  
عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ ، وَمَا أَكَلَ خَبْزًا مَرَّقًا  
حَتَّى مَاتَ .

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے  
کبھی خوان یعنی میز نمائخت پر کھانا تناول نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئی۔  
”خوان“ میز نمائخت کو کہتے ہیں، جس پر مالدار لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔  
علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”هو ما يؤكل عليه الطعام، وهو من دأب المترفين، وصنع الجبابرة  
المنعهين، لثلا يفتقروا إلى التناول عند الأكل“ (۴)۔  
یعنی: ”خوان اس میز نمائخت کو کہتے ہیں، جس پر کھانا کھایا جاتا ہے، یہ عموماً متکبر  
قسم کے مالدار لوگ استعمال کرتے ہیں، تاکہ کھاتے وقت انہیں سر نہ جھکانا پڑے۔“

☆☆.....☆☆

(۲) عمدة القاري: ۸۶/۲۳، إرشاد الساري: ۴۵۲/۱۳، فتح الباري: ۳۳۷/۱۱

(۳) عمدة القاري: ۸۶/۲۳، إرشاد الساري: ۴۵۲/۱۳، فتح الباري: ۳۳۷/۱۱

(۴) إرشاد الساري: ۴۵۳/۱۳

۶۰۸۶ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ،  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَقَدْ تُوِّبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي رِئِي مِنْ شَيْءٍ بِأَكْلِهِ ذُو كَبِدٍ ،  
إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ بِلِي ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ ، حَتَّى طَالَ عَلِيٌّ ، فَكَلَّمْتُهُ فَقَنِي . [ ر : ۲۹۳۰ ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہماری الماری میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کسی جاندار کے کھانے کے قابل ہوتی سوا تھوڑے سے جو کے جو میری الماری میں تھے، میں اس میں سے کھاتی رہی، بہت دن ہو گئے تو میں نے انہیں تولا، آخر وہ بھی ختم ہو گئے۔  
رَفِّ لَکْرِي وَغَيْرِهِ كِي الْمَارِي كِي كَقِي هِي - ذُو كَبِدٍ : كَلْبِي وَالآ - مراد اس سے جاندار ہے۔

## معاش کے اعتبار سے مومن کی تین حالتیں

معاش کے اعتبار سے ایک مومن کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں:

① پہلی حالت فقر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب فقر کی فضیلت پر قائم فرمایا ہے، اور اس باب میں جتنی روایات ذکر فرمائی ہیں، ان تمام روایات میں فقر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، فقر و غربت والی تھی، جیسا کہ روایات باب سے واضح ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا اور اکثر حضرات صحابہ کی زندگی بھی فقیرانہ اور درویشانہ تھی۔

② دوسری حالت مالداری اور فراوانی دولت و معاش کی تھی، پہلی حالت جہاں صبر کی ہے، یہ دوسری حالت ایک مومن کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر و حمد کا موقع فراہم کرتی ہے، بہت ساری احادیث میں مالدار کی فضیلت وارد ہوئی ہے:

☆..... کتاب الوصایا میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت گزری ہے، جس میں ہے:

”إِنَّكَ أَنْ تَدْعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

فِي أَيْدِيهِمْ“ (۵). یعنی: ”تو اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو یہ اس سے

بہتر ہے کہ تو ان کو محتاج اور فقیر چھوڑ کر جائے۔“

☆..... حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ وہ

اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

”أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك“ (۶). یعنی: ”کچھ مال بچا

کے رکھا کرو، اس میں تمہارے لئے خیر ہے۔“

☆..... اسی طرح ابھی کتاب الدعوات میں ”ذهب أهل الدثور بالأجور“ والی روایت گزر چکی

ہے، جس کے آخر میں ہے ”ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء“.

☆..... حضرت عمرو بن العاصؓ کی روایت امام احمد رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے: ”نعم المأل الصالح

للمرء الصالح“ (۷). یعنی: ”وہ حلال مال کیا ہی خوب ہے، جو نیک شخص کے پاس ہو۔“

ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمن کے پاس مال و دولت کی فراوانی، اس کے حق میں ایک

مفید چیز ہے، کیونکہ مال و دولت کی فراوانی، اس کے لئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع

فراہم کرے گی اور دین کے بہت سارے کام اس کے ذریعے کر سکے گا۔

۶ ایک تیسری حالت درمیان کی حالت ہے کہ انسان نہ مالدار ہے، نہ فقیر محتاج ہے، بلکہ اس کی

ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور بقدر ضرورت اس کے پاس مال و دولت موجود ہے، اس حالت کو ”کفاف“ کہتے

ہیں، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں اور علامہ ابن بطلال نے شرح بخاری میں اس حالت کو سب سے بہتر

قرار دیا، کیونکہ اس میں فقر اور مالداروں دونوں کے فتنوں سے سلامتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں

اور فقر و غربت کے فتنے سے پناہ مانگی ہے (۸)۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مرفوع روایت نقل کی ہے،

(۶) صحیح بخاری، کتاب الوصایا، باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز،

(رقم الحدیث: ۲۷۵۷)

(۷) مسند احمد: ۶/۹۵، رقم الحدیث: ۱۷۹۱۵

(۸) فتح الباری: ۱۱/۳۳۱، وشرح ابن بطلال: ۱۰/۱۷۰-۱۷۴

اس کے الفاظ ہیں:

”قد أفلح من أسلم، وُرُزِقَ كفافاً وَقَنَعَهُ اللَّهُ بما آتاه“ (۹). یعنی: ”وہ شخص کامیاب ہے جس نے اسلام قبول کیا، اسے بقدر ضرورت روزی دی گئی اور اس نے قناعت اختیار کی۔“

اسی طرح اگلے باب میں روایت آرہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللهم ارزق آل محمد قوتا“۔ یعنی: ”اے اللہ! آپ آل محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو بقدر ضرورت رزق عطا فرما۔“

امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ایک مرفوع روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اس میں ہے: ”ما من غني ولا فقير إلا ودَّ يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قُوتاً“ (۱۰). یعنی: ”قیامت کے روز ہر مالدار اور فقیر شخص یہ تمنا کرے گا، کاش! اسے صرف بقدر ضرورت دنیا دی جاتی۔“

ان روایات سے معاش کی تیسری حالت جو فقر و غنا کے درمیان اور بین بین ہے، کی بہتری اور افضلیت معلوم ہوتی ہے۔

## فقر افضل ہے یا مالداری؟

اس پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا فقر و احتیاج جس پر انسان صبر نہ کر سکے، اور جو آدمی کے دین و ایمان کے لئے خطرے کا باعث ہو اور جو اللہ کی طاعت انسان سے بھلا دے، اس سے وہ مالداری اور غنا افضل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے شکر و طاعت کے ساتھ ہو۔

اسی طرح یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ مالداری اور فراوانی دولت جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور عجب

(۹) صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب فی الکفاف والقناعة: ۲/۷۳۰، رقم الحدیث: ۱۰۴۵، و سنن ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب القناعة: ۲/۱۳۸۶، رقم الحدیث: ۴۱۳۸، و لفظہ: قد أفلح من هُدِيَ إلى الإسلام، وُرُزِقَ الكفاف، و قنع به، وفتح الباري: ۳۳۱/۱۱

(۱۰) سنن ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب القناعة: ۲/۱۳۸۷، رقم الحدیث: ۴۱۴۰

وفاخر میں مبتلا کر دے، انسان کے لئے فتنہ ہے، اس کے مقابلے میں وہ فقر و تنگدستی ہزار درجہ بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کے صبر و طاعت کے ساتھ ہو (۱۱)۔

البتہ فقر صبر و تقویٰ کے ساتھ ہو اور مال داری شکر و تقویٰ کے ساتھ ہو تو تب ان دونوں میں کون سا افضل و رائج ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے:

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہیں، یعنی کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں (۱۲)۔  
ابوالقاسم قشیری اور امام طبری وغیرہ کا خیال ہے کہ فقر کے مقابلہ میں غنا اور مال داری افضل ہے، مطرف بن عبد اللہ کا قول ہے:

”لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر“ (۱۳)۔ یعنی:

”عافیت کے ساتھ مال داری اور شکر مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں فقر کی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں اور صبر کروں۔“

اور جب اس کی ظاہر ہے کہ انسان کے لئے شکر کرنا زیادہ آسان ہے، بہ نسبت صبر کرنے کے۔

علامہ ابن الجوزی اور جمہور صوفیاء، غنا اور مال داری کے مقابلے میں فقر کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں مجاہدہ نفس ہے جو ترقی منازل کے لئے مفید ہے، علامہ ابن الجوزی نے فرمایا، مال داری کا فتنہ، فقر کے فتنہ سے بڑھ کر ہے (۱۴)۔

(۱۱) فتح الباری: ۳۳۱/۱۱

(۱۲) إرشاد الساري: ۴۵۳/۱۳، وفتح الباري: ۳۳۲/۱۱، قال ابن بطلال: ”فأي الرجلين أفضل: المبتلى بالفقر، أو المبتلى بالغنى إذا صلحت حال كل واحد منهما؟ قيل: السؤال عن هذا لا يستقيم؛ إذ قد يكون لهذا أعمال سوى تلك المحنة يفضل بها صاحبه والآخر كذلك، وقد يكون هذا الذي صلح حاله على الفقر لا يصلح حاله على الغنى، ويصلح حال الآخر على الفقر والغنى. فلان قيل: فلان كان كل واحد منهما يصلح حاله في الأمرين، وهما في غير ذلك من الأعمال مستويان، قد أدى الفقير ما يجب عليه في فقره من الصبر والعفاف والرضا، وأدى الغنى ما يجب عليه من الإنفاق، والبذل، والشكر، والتواضع، فأَي الرجلين أفضل؟ قيل: علم هذا عند الله. (وانظر شرح ابن بطلال: ۱۷۳/۱۰)

(۱۳) فتح الباري: ۳۳۳/۱۱

(۱۴) فتح الباري: ۳۳۲/۱۱، إرشاد الساري: ۴۵۴/۱۳



## ۱۷ - باب : كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، وَتَخَلُّبِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا .

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی فقیرانہ اور درویشانہ زندگی کی ایک جھلک دکھائی ہے اور ان احادیث کو ذکر کیا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل بیت یا حضرات صحابہ کی تنگدستی اور فقیری کا پتہ چلتا ہے۔

۶۰۸۷ : حَدَّثَنِي أَبُو نَعِيمٍ بِنَحْوِ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، إِنْ كُنْتُ لِأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ كُنْتُ لِأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى عَلَى طَرِيفِهِمُ الَّذِي يُخْرَجُونَ مِنْهُ ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِشِبَعِي ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِشِبَعِي ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَأَيْتِي ، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِِي ، ثُمَّ قَالَ : ( يَا أَبَا هِرٍّ ) . قُلْتُ : لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( الْحَقُّ ) . وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ ، فَدَخَلَ ، فَاسْتَأْذِنُ ، فَأَذِنَ لِي ، فَدَخَلَ ، فَوَجَدَ لَبْنَا فِي قَدَحٍ ، فَقَالَ : ( مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ) . قَالُوا : أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةٌ ، قَالَ : ( أَبَا هِرٍّ ) . قُلْتُ : لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( الْحَقُّ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي ) . قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ ، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا ، فَسَأَعَنِي ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ ، كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا جَاءَ أَمْرِي ، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ ، وَمَا عَسَى أَنْ يُلْفَعَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بَدًّا ، فَاتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا ، فَاسْتَأْذِنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ، قَالَ : ( يَا أَبَا هِرٍّ ) . قُلْتُ : لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( خُذْ فَأَعْطِهِمْ ) . قَالَ : فَأَخَذْتُ

الْقَدَحَ ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرَوْى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرَوْى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرَوْى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلَّهُمْ ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ ، فَقَالَ : (أَبَا هِرٍّ) . قُلْتُ : لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (بَقِيْتُ أَنَا وَأَنْتَ) . قُلْتُ : صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (أَقْعُدْ فَأَشْرَبْ) . فَفَعَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ : (أَشْرَبْ) . فَشَرِبْتُ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ : (أَشْرَبْ) . حَتَّى قُلْتُ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ : (فَارِنِي) . فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ . [ر : ۵۸۹۲]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم! جس کے سوا اور کوئی

معبود نہیں، میں بھوک کے سبب زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا، میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا، ایک دن میں راستے میں بیٹھ گیا جس سے صحابہ نکلتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے اور میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے کچھ کھلا دیں، وہ چلے گئے اور کچھ نہیں کیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی اور پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے کھلا دیں، وہ بھی گزر گئے اور کچھ نہیں کیا۔

اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے، آپ نے جب مجھے دیکھا تو مسکرائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے دل کی بات سمجھ گئے اور میرے چہرے کو آپ نے تاڑ لیا، پھر آپ نے فرمایا، اباہر! میں نے عرض کی، لیک یا رسول اللہ! فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ اور آپ چلنے لگے، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہولیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اجازت چاہی مجھے اجازت ملی، پھر داخل ہوئے تو ایک پیالے میں دودھ ملا، دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، کہا کہ فلاں یا فلاں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ہدیہ بھیجا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اباہر! میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ! فرمایا کہ اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا لاؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے وہ نہ کسی کے گھر پناہ ڈھونڈتے نہ کسی کے مال میں اور نہ کسی کے پاس۔

جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ وہ صدقہ ان کے پاس بھیج دیتے اور خود اُس میں سے کچھ نہ رکھتے، البتہ جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو انہیں بلا بھیجتے اور خود بھی تناول فرماتے اور انہیں بھی شریک کرتے۔

چنانچہ مجھے یہ بات ناگوار گزری اور میں نے سوچا کہ یہ دودھ ہے ہی کتنا! کہ سارے صفہ والوں میں تقسیم ہو جائے، اس کا تو حق دار میں تھا، اسے پی کر کچھ قوت حاصل کرتا، جب اہل صفہ آئیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے ہی فرمائیں گے اور میں ہی انہیں یہ دودھ دوں گا، مجھے تو شاید اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سوا بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔

چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچائی، اہل صفہ آگئے اور اجازت چاہی، انہیں اجازت مل گئی، پھر وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اباہر! میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ! فرمایا، لو! اور ان سب حضرات کو دو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پیالہ پکڑ لیا اور ایک ایک کو دینے لگا، ایک شخص جب دودھ پی کر سیراب ہو جاتا تو مجھے واپس کر دیتا اور اس طرح دوسرا پی کر مجھے پیالہ واپس کر دیتا، اس طرح میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا، سب لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اباہر! میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ! فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! آپ نے

سچ فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پیو، میں بیٹھا اور دودھ پینے لگا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے کہ اور پیو، آخر مجھے کہنا پڑا، بس! اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب گنجائش نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے ذمے دو، میں نے پیالہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا دودھ خود پی گئے۔

حدثني أبو نعيم من نصف هذا الحديث

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم (فضل بن دکین) نے مجھے یہ حدیث آدھی بیان کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ آدھا حصہ متصل نہیں، بلکہ بغیر سند کے ہے، امام نے آدھے حصے کی تعیین بھی نہیں کی کہ حدیث کا کون سا نصف مراد ہے، اول نصف یا آخر؟

کتاب الاستئذان میں ”باب إذا ادعى الرجل، فجاء، هل يستأذن؟“ کے تحت ابو نعیم سے اس حدیث کا صرف اتنا جزء نقل کیا ہے:

دخلت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فوجد لبنافي قدح، فقال: يا أباهريرة، الحق أهل الصفة، فادعهم إليّ، قال: فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا، فاستأذنوا، فأذن لهم، فدخلوا.....

یعنی: ”میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیالے میں دودھ پڑا ہوا ملا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ! جاؤ، اہل صفہ کو بلا لاؤ، میں اہل صفہ کو بلا لایا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت ملنے پر وہ اندر آئے“.....

لیکن یہ اس طویل حدیث کا صرف ایک جز ہے، نصف نہیں۔

شارحین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام نے بطریق وجادۃ یا بطریق اجازہ بقیہ حصہ کی روایت کی ہے

اور یہ بھی ممکن ہے کہ بقیہ نصف براہ راست سننے کے بجائے کسی ایسے شخص سے سنا ہو، جنہوں نے ابو نعیم سے براہ راست سنا ہو (۱)۔

کان يقول: الله الذي لا إله إلا هو

اس میں لفظ ”اللہ“ منصوب بزعر الخافض ہے اور اس سے پہلے واو قسمیہ مخدوف ہے (۲)۔

۶۰۸۸ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : إِنِّي لَأَبُولُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحَبْلَةِ ، وَهَذَا السَّمُرُ ، وَإِنَّا أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، مَا لَهُ خِلْطٌ ، ثُمَّ أَضْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعْزِرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ ، خَبْتُ إِذَا وَضِلَّ سَعْيِي . [ ر : ۳۵۲۲ ]

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے بیان کیا کہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلائے، ہم نے اس حال میں گزارا ہے کہ غزوہ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز جملہ کے پتوں اور اس بول کے درخت کے سوا کھانے کے لئے نہیں تھی اور بکری کی بیگنیوں کی طرح براز کرتے تھے، اب یہ بنو اسد کے لوگ میرے اسلام پر شک کرنے لگے ہیں (اگر ان کی بات درست ہے) پھر تو میں بالکل نامراد رہا اور میری ساری سعی ضائع ہو گئی۔

۶۰۸۹ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْذُ قَدِيمِ الْمَدِينَةِ ، مِنْ طَعَامٍ بَرَّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا ، حَتَّى قَبِضَ . [ ر : ۵۱۰۰ ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

(۱) إرشاد الساري: ۴۵۷/۱۳، وفتح الباري: ۳۴۲/۱۱

(۲) فتح الباري: ۳۴۳/۱۱، إرشاد الساري: ۴۵۵/۱۳، وعمدة القاري: ۸۹/۲۳

گھر والوں کو مدینہ آنے کے بعد کبھی تین دن تک متواتر گیہوں کھانے کے لئے نہیں ملا تھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔

تبعاً یہ فعال کے وزن پر باب مفاعلہ کا مصدر ہے بمعنی پے در پے، مسلسل۔

۶۰۹۰ : حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ، هُوَ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلْتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا أَحَدَاهُمَا تَمْرًا .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل وعیال نے اگر کبھی ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا، تو لازماً اس میں ایک وقت کھجوریں تھیں۔

۶۰۹۱ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ رَجَاءٍ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ ، عَنْ هِشَامِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ ، وَحَشْوُهُ مِنْ لَيْفٍ .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

۶۰۹۲ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَازَهُ قَائِمًا ، وَقَالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ ، وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بَعَيْنِهِ قَطُّ . [ ر : ۵۰۷۰ ]

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا باورچی وہیں موجود ہوتا، آپ فرماتے کہ کھاؤ، میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتلی روٹی تناول فرماتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اور نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی آنکھ سے بھی ہوئی مسلم بکری دیکھی۔

۶۰۹۴/۶۰۹۳ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا يَحْيَى : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : أَخْبَرَنِي أَبِي ،  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا ، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ ،  
إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللُّحْمِ .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے اوپر ایسا مہینہ بھی گزر  
جاتا تھا کہ چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا، ہاں اگر کبھی گوشت آجاتا (تو  
چولہا جلتا تھا)۔

(۶۰۹۴) : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،  
عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ : ابْنُ أُخْتِي ، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ  
إِلَى الْهَلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي آيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ ، فَقُلْتُ : مَا كَانَ  
يُعِيشُكُمْ ؟ قَالَتْ : الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ،  
كَانَ لَهُمْ مَتَانِحُ ، وَكَاتُوا بِمَنْحُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ آيَاتِهِمْ فَيَسْقِينَاهُ . [ ر : ۲۴۲۸ ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے عروہ سے کہا، بیٹے! ہم دو  
مہینوں میں تین چاند دیکھ لیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (کی ازواج) کے  
گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، میں نے پوچھا کہ پھر آپ لوگ زندہ کس چیز سے رہتی تھیں؟  
فرمایا کہ صرف دو کالی چیزوں پر، کھجور پر اور پانی پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ  
انصاری پڑوسی تھے، ان کے یہاں دودھ دینے والے جانور ہوتے تھے، وہ حضور اکرم صلی  
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اپنے گھروں سے دودھ بھیج دیتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ  
علیہ وسلم وہ ہمیں پلا دیتے تھے۔

إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ

دو مہینوں میں ہم تین چاند دیکھتے تھے، تمہارا چاند، تیسرے مہینے کا ہوتا تھا، جو دوسرے ماہ کے ختم ہوتے

ہی دیکھ لیتے تھے (۳)۔

إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ: یہ ”اِنْ“، مخفف من المثقل ہے (۴) اور ”لَنَنْظُرُ“ میں لام فارقہ ہے، یہ ”اِنْ“ تافیر سے فرق کرنے اور جدا کرنے کی غرض سے خبر پر داخل کیا جاتا ہے۔  
 كان لهم منائح: منائح، مُنِيحَة کی جمع ہے، دودھ والی اونٹنی کو کہتے ہیں۔

۶۰۹۵: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ! آل محمد کو اتنی روزی دے، کہ بس وہ زندہ رہ سکیں (۵)۔  
 ابو زرعة کا نام ہر ام بن عمرو بن جریر ہے۔

☆☆.....☆☆

(۳) إرشاد الساري: ۱۳/۴۶۰، وعمدة القاري: ۲۳/۹۵

(۴) قال ابن بطال في شرحه:

”اللهم ارزق آل محمد قوتاً. فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا، والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الآخرة، وإيثاراً لما يبقى على ما يفنى، لتقتدي بذلك أمته، ويرغبوا فيما رغب فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وروى الطبري بإسناده عن ابن مسعود، قال: حبذا المكروهان: الموت والفقر، والله ما هو إلا الغنى والفقر وما أبالي بأيهما ابتليت، إن حق الله في كل واحد منهما واجب، إن كان الغنى فيه التعطف، وإن كان الفقر ففيه الصبر، قال الطبري: فمحنة الصابر أشد من محنة الشاكر، وإن كانا شريفي المنزلة، غير أنني أقول كما قال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ومن فضل قلة الأكل ما روى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إن أهل البيت ليقبل طعامهم فتستتير بيوتهم“.

(شرح ابن بطال: ۱۰/۱۷۹)

(۵) عمدة القاري: ۲۳/۹۵



## ۱۸ - باب : الْقَصْدِ وَالْمَدَاوِمَةِ عَلَى الْعَمَلِ .

## ترجمہ الباب کی وضاحت

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ترجمہ الباب کے اندر دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک قصد و میا نہ روی اور دوم مداومت۔ طاعات و عبادات کے اندر، یہ دونوں وصف شریعت میں مطلوب و محمود ہیں اور ان میں بھی قصد و میا نہ روی چونکہ مداومت اور استقامت کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لئے دونوں کو ساتھ ذکر کیا، اگر حد سے تجاوز اور مبالغہ کر کے کوئی نیک عمل اختیار کیا جائے تو عموماً انسان بالآخر اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی طاقت کے پیش نظر میا نہ روی کے ساتھ اعمال انجام دیئے جائیں تو ذوق و شوق بھی باقی رہتا ہے اور دوام و استقامت بھی حاصل رہتی ہے۔

۶۰۹۷/۶۰۹۶ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَتْ : الدَّائِمُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَيَّ حِينَ كَانَ يَقُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ .

حضرت مسروقؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کون سا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا؟ فرمایا کہ ایسا عمل جو ہمیشہ کیا جائے، مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (رات کو) کب تک نماز پڑھتے رہتے تھے؟ فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سن لیتے، اس وقت تک آپ نماز (تہجد) پڑھتے رہتے تھے۔

عبدان، عبد اللہ بن عثمان بن حیلہ کا لقب ہے، اشعث سے ابن ابی الشعثاء مراد ہیں، ابو اشعثاء کا نام سلیم

بن الا سود محاربی ہے۔

(۶۰۹۷) : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ . [ر : ۱۰۸۰]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل تھا جس پر صاحب عمل ہمیشگی اختیار کرے۔

۶۰۹۸ : حَدَّثَنَا آدَمُ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ ) . قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ( وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَّعَمِدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ، سَدَّدُوا وَقَارِبُوا ، وَأَغْدُوا وَرُوحُوا ، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّبْجَةِ ، وَالْفَصْدَ الْفَصْدَ تَبَلَّغُوا ) . [ر : ۵۳۴۹]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکے گا، صحابہ نے عرض کی اور آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اور مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے، صحیح راستہ پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصہ میں عبادت کیا کرو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی، تو منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔

ابن ابی الذئب کا نام محمد بن عبدالرحمن ہے۔

سَدَّدُوا : صحیح راستہ اختیار کرو۔ علامہ یعنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معناه: اقصدا والسداد أي الصواب (۱)۔

قَارِبُوا : میانہ روی سے چلو۔ کہتے ہیں، قارب فلان في أمورہ: اس نے اپنے معاملات میں میانہ

روی اختیار کی۔ علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: أي اقتصدوا في الأمور كلھما، واتركوا الغلو فیھا

والتقصیر (۲)۔ علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: أي: لا تبغوا الغایة، بل تقربوا منها۔

أَغْدُوا : صبح کو چلو۔ رُوحُوا : شام کو چلو۔

(۱) عمدة القاری: ۲۳/۹۷

(۲) النهاية لابن الاثیر: ۲/۴۳۱

وشیء من الدُّلْجَةِ: اور رات کے کچھ حصے میں چلو، بعض نسخوں میں ”شیئا“ منصوب ہے۔ دُلْجَةُ (دال کے ضمہ اور فتح کے ساتھ) رات کے وقت چلنے کو کہتے ہیں (۳)۔

القَصْدُ القَصْدُ: یہ منصوب علی الاغراء ہے۔ اس کا فعل ”الزَّمُّ“ وجوباً محذوف ہے، یعنی: ”الزَّمُّ القَصْدُ القَصْدُ“، میانہ روی کو لازم پکڑو۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وقد شبه المتعبدين بالمسافرين؛ لأن العابد كالمسافر إلى محل إقامته، وهو الجنة وكأنه قال: لا تستوعبوا الأوقات كلها بالسير، بل اغتصموا أوقات نشاطكم، وهو أول النهار وآخره، وبعض الليل، وارحموا أنفسكم فيما بينهما، لئلا ينقطع بكم“ (۴)۔  
یعنی: ”یہاں عبادت گزاروں کو مسافروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ عابد مسافر کی طرح ہے، اس کی منزل جنت ہے، گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام وقت عبادت میں مت لگایا کرو، بلکہ اپنے نشاط کے اوقات کو غنیمت سمجھو اور اوقات نشاط دن کا اول و آخر حصہ اور رات کا کچھ حصہ ہے، ان کے درمیانی اوقات میں اپنے اوپر رحم کیا کرو، تاکہ رک نہ جاؤ اور کوئی عمل تم سے چھوٹ نہ جائے۔“

۶۰۹۹: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (سَدُّوْا وَقَارِبُوا، وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ). [۶۱۰۲]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ صواب اور میانہ روی اختیار کرو اور جان لو کہ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر بیشکی اختیار کی جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔

(۳) النهاية لابن الأثير: ۵۷۸/۱

(۴) إرشاد الساري: ۴۶۳/۱۳

۶۱۰۰ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَرَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ ؟ قَالَ : (أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ) . وَقَالَ : (أَكْفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ) .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، فرمایا کہ جس پر بھی تنگی اختیار کی جائے، اگرچہ وہ کم ہی ہو اور فرمایا، اُن کاموں کو اپنے سرلوہ جن کی تم میں طاقت ہو۔

ما تطيقون: اس میں ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، أي: قدر طاقتکم اور ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، أي:

الذي تطيقونه.

۶۱۰۱ : حَدَّثَنِي عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ ﷺ ، هَلْ كَانَ يَخْصُ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ ؟ قَالَتْ : لَا ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً ، وَأَيْكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَطِيعُ . [ ر : ۱۸۸۶ ]

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، میں نے پوچھا، ام المؤمنین! نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا، کیا آپ نے عمل کے لئے کچھ دن مخصوص کر رکھے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل میں بھی تنگی ہوتی تھی اور تم میں کون ہے جو ان اعمال کی طاقت رکھتا ہے، جن کی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھتے تھے۔

کان عملہ دیمۃ: یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل دائمی ہوتا تھا، دیمۃ اصل میں مسلسل برسنے والی ہلکی بارش کو کہتے ہیں۔ حدیث شریفہ کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ایسا نہیں تھا کہ

چند دنوں تک آپ کوئی عمل مسلسل کرتے رہیں اور اس کے بعد اس کو مستقلاً چھوڑ دیا بلکہ آپ کے معمولات میں ایک استقامت اور ایک ہمیشگی ہوا کرتی تھی، اگرچہ بعض مخصوص اوقات اور مخصوص ایام میں آپ مختلف اعمال انجام دیا کرتے تھے، وہ اس کے منافی نہیں ہیں، یہاں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوام اور معمولات میں آپ کی استقامت کو بتلانا مقصود ہے (۵)۔

۶۱۰۲ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانِ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ ،  
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (سَدُّوْا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ،  
فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ) . قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : (وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ  
يَتَعَمَّلَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ) .  
قَالَ : أَظْنُهُ : عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .

(۵) قال ابن بطال:، إن قول عائشة: إن النبي لم يكن يخص شيئاً من الأيام بالعمل؛ يعارضه قولها: ما رأيت رسول الله أكثر صياماً منه في شعبان. قيل: لا تعارض بين شيء من ذلك، وذلك أنه كان كثير الأسفار في الجهاد، فلا يجد سبيلاً إلى الصيام الثلاثة الأيام من كل شهر، فيجمعها في شعبان، ألا ترى قول عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم فهذا بين أنه كان لا يخص شيئاً من الزمان؛ بل كان يوقع العبادة على قدر نشاطه، و فراغه لذلك من جهاده وأسفاره، فيقل مرةً ويكثر أخرى، هذا قول المهلب وقد قيل في معنى كثرة: صيامه في شعبان وجوه آخر قد ذكرتها في باب صوم شعبان في كتاب الصيام.

فإن قيل: فما معنى ذكر حديث أنس في هذا الباب؟ قيل: معناه ان يوجب ملازمة العمل وإدماته ما مثل له من الجنة للرغبة، ومن النار للرهبة، فكان في ذلك فائدتان: إحداهما: تنبيه للناس أن يتمثلوا الجنة والنار بين أعينهم إذا وقفوا بين يدي الله، كما مثلها الله لنبيه، وشغله بالفكرة فيهما عن سائر الأفكار الحادثة عن تذكير الشيطان بما يسهيه حتى لا يدرى كم صلى، والثانية: أن يكون الخوف من النار الممثلة والرغبة في الجنة نصب عيني المصلي فيكونا باعثين له على الصبر، والمداومة على العمل المبلغ إلى رحمة الله والنجاة من النار برحمته. (شرح ابن بطال: ۱/ ۱۸۲، ۱۸۳)

وَقَالَ عَفَّانُ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ،  
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : (سَدُّوا وَأَبْشُرُوا) . [ ر : ۶۰۹۹ ]  
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «سَدِيدًا» / النساء : ۹ / : سَدَادًا : صِدْقًا .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ صواب اور میانہ روی اختیار کرو اور تمہیں بشارت ہو، کیونکہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، صحابہ نے عرض کی اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اور میں بھی نہیں، سو اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت و رحمت کے سایہ میں مجھے لے لے۔

### محمد بن زبرقان

محمد بن زبرقان (زاء کے کسرہ، با کے سکون اور راء کے کسرہ کے ساتھ) کی بخاری میں صرف یہی ایک روایت ہے، ائمہ جرح و تعدیل میں سے، ابو حاتم، ابو زرعة، نسائی دارقطنی اور ابن المدینی نے ان کی توثیق کی ہے، ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کو لیا ہے اور کہا ہے، ربما أخطأ، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ان کو ”معروف الحدیث“ کہا ہے (۶)۔

قال: أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة

امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ علی بن عبد اللہ مدینی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے موسیٰ بن عقبہ ابو سلمہ سے براہ راست نقل نہیں کر رہے بلکہ ابو النضر سالم بن ابی امیہ کا درمیان میں واسطہ ہے، ابو النضر، ابو سلمہ سے نقل کر رہے ہیں۔

اوپر متن کی سند میں ”موسیٰ بن عقبہ عن أبي سلمة.....“ ہے، علی بن عبد اللہ کوشک ہے کہ موسیٰ

(۶) فتح الباری: ۳۶۲/۱۱، وإرشاد الساري: ۴۶۵/۱۳، وعمدة القاري: ۹۹/۲۳

تهذيب الكمال: ۲۱۰/۲۵، ثقات ابن حبان: ۴۴۱/۷، الجرح والتعديل: ۷/، رقم الترجمة:

۱۴۱۹، وتاريخ البخاري الكبير: ۱/، رقم الترجمة: ۲۳۹، وتهذيب التهذيب: ۱۶۶/۹

نے یہ روایت ابو سلمہ سے براہ راست نہیں سنی، بلکہ ابو النضر کے واسطے سے سنی ہے۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ عفان بن مسلم کی تعلیق، اس کے متصل بعد ذکر کر کے علی مدینی کے اس وہم کو دور کر دیا، کیونکہ عفان کی روایت میں موسیٰ بن عقبہ نے سماع کی تصریح کر دی ہے، اس میں ہے: ”سمعت أبا سلمة، عن عائشة.....“

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عفان کی تعلیق کو اپنی مسند میں موصولاً نقل کیا ہے (۷)۔

## ایک اشکال اور اس کے جوابات

اس روایت اور ما قبل کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا نیک عمل، اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکے گا، بلکہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سبب داخل ہوگا، گویا کہ اعمال صالحہ، دخول جنت کا سبب نہیں، بلکہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا تو جنت میں داخلہ ملے گا۔ جب کہ قرآن کریم کی آیات سے دخول کا سبب، عمل صالح معلوم ہوتا ہے۔

سورۃ زخرف میں ہے: ﴿وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون﴾

سورۃ نحل میں ہے: ﴿سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾

① اس تعارض کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ جنت کے اندر نفس دخول تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا، جیسا کہ احادیث باب میں ہے، البتہ جنت کے مختلف منازل اور درجات میں اعمال کے اعتبار سے داخلہ ہوگا، درجات کی تقسیم، اعمال صالحہ کے اعتبار سے ہوگی، حاصل یہ ہے کہ اعمال صالحہ منازل جنت کے داخلے کا سبب ہیں اور آیت کریمہ ﴿ادخلوا الجنة.....﴾ میں مضاف ”منازل“ مخدوف ہے، ہی: ”ادخلوا منازل الجنة“ (۸)۔

② بعض حضرات نے کہا کہ دنیا کے اندر اعمال صالحہ کی توفیق، اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے، اس لئے دخول جنت کا سبب اگرچہ عمل صالح ہے (جیسا کہ آیات کریمہ میں ہے) لیکن عمل صالح کا سبب اللہ کا فضل و کرم اور توفیق ہے، اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو عمل صالح نہ ہوتا، اور عمل صالح نہ ہوتا تو جنت میں داخل

(۷) فتح الباری: ۱۱/۳۶۲

(۸) إرشاد الساري: ۱۳/، وفتح الباري: ۱۱/۳۵۷، وعمدة القاري: ۲۴/۹۷

بھی نہ ملتا (۹)۔

وقال مجاهد: سدادا سديدا؛ صدقا

مجاہد فرماتے ہیں کہ سداد اور سدید کے معنی صدق اور راست بازی کے ہیں، سورۃ نساء کی آیت ﴿قولا سديدا﴾ آیا ہے، طبرانی نے اس تعلق کو موصولا نقل کیا ہے (۱۰)۔

۶۱۰۳ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ ، ثُمَّ رَفِيَ الْمِنْبَرَ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ قَبْلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : (قَدْ أَرَيْتُ الْآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمْ الصَّلَاةَ ، الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قُبُلِ هَذَا الْجِدَارِ ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ) . [ ر : ٤٠٩ ]

حضرت ہلال بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھے اور اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس وقت جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے جنت اور دوزخ دکھائی گئی، اس کی شکلیں اس دیوار کے آگے بنا دی گئی تھیں۔ آج کی طرح میں نے خیر اور شر کبھی نہیں دیکھا۔

## باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت

باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت بیان کرتے ہوئے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وفي هذا الحديث تنبيه المصلي على أن يُمَثَّلَ الجنة والنار بين

عَيْنَيْهِ، ليكونا شاغلين له عن الأفكار الحادثة عن تذكّر الشيطان ومن مثلهما

(۹) فتح الباري: ۳۵۷/۱۱

(۱۰) فتح الباري: ۳۶۳/۱۱



بین یدیه بعثه ذلك على المواظبة على الطاعة، والكف عن المعصية، وبهذا تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة (۱۱).

یعنی: ”اس حدیث میں نمازی کو اس بات پر تشبیہ کی گئی ہے کہ جنت اور دوزخ کو اپنے پیش نظر رکھے، تاکہ یہ دونوں اس کو شیطان کی یاد دلانے والے افکار سے ہٹائے رکھے، جو شخص جنت اور دوزخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا تو یہ اسے اللہ کی طاعت پر دوام اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا باعث بنے گا، اس تقریر سے حدیث اور ترجمہ الباب میں مطابقت حاصل ہو جائے گی۔“

یعنی حدیث میں اگرچہ مداومت فی العمل اور میانہ روی کا ذکر نہیں ہے، جس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا ہے، لیکن چونکہ جہنم اور جنت کو پیش نظر رکھنا مداومت اور میانہ روی کا باعث اور ذریعہ بن سکتا ہے اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اس باب کے تحت ذکر فرمائی۔

حدیث باب، کتاب الصلوٰۃ میں باب رفع البصر إلى الأمام کے تحت گزر چکی ہے۔

## ۱۹ - باب : الرَّجَاءُ مَعَ الْخَوْفِ .

”رجاء“ امید کو کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم کی امید کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دامن گیر رہنا چاہیے، صرف امید ہی امید انسان لگائے رکھے تو انسان بے عملی اور مکر و فریب کا شکار ہو سکتا ہے، اور صرف خوف بغیر امید کے انسان مایوسی تک پہنچاتا ہے (۱)۔

بعض علماء نے فرمایا کہ خوف اور رجاء ایک مؤمن کے لئے پرندے کے دو پروں کے برابر ہیں دونوں پڑھیک ہوں تو پرواز ہو سکتی ہے اور اگر کسی ایک میں خرابی یا کوتاہی ہو تو پرواز نہیں ہو سکتی (۲)۔

(۱۱) إرشاد الساري: ۴۶۶/۱۱، نیز دیکھئے، فتح الباري: ۳۶۳/۱۱

(۱) فتح الباري: ۳۶۳/۱۱، عمدة القاري: ۱۰۱/۲۳، إرشاد الساري: ۴۶۷/۱۳

(۲) إرشاد الساري: ۴۶۷/۱۳

اس لئے علماء اور اسلاف میں یہ جملہ مشہور ہے ”الإيمان بين الخوف والرجاء“ (۳)۔  
 بعض علماء نے لکھا ہے کہ جوانی اور صحت کے زمانے میں خوف کا غلبہ رہنا اور بڑھاپے اور ضعف  
 و کمزوری میں رجاء اور امید کا غلبہ بہتر رہتا ہے (۴)۔

## حضرت مدنی رحمہ اللہ کی رائے

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ خوف و رجاء کے متعلق اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

”مسئلہ مذکورہ میں کچھ غلطی ہے، خواہ آپ کی یادداشت یا استاد کے بیان میں متحقق

نہ ہوئی ہو، ایمان کو ہمیشہ ”بین الخوف والرجاء“ ہونا چاہیے، ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا

وطمعاً﴾ نص قرآنی ہے اور اس معنی پر مختلف آیات صریحہ موجود ہیں، مگر حالت زندگی میں

غلبہ، خوف کا ہونا چاہیے اور قرب موت میں غلبہ، رجاء کا ہونا چاہیے..... لقولہ علیہ

السلام في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي. وقال سبحانه تعالى:

﴿أَفَأَمِّنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ ○ ﴿أَوْ أَمِّنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ

أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ ○ ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ

إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ﴾ ○ وقال: ﴿وَلَا تَيْسَسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ.....﴾ (۵)۔

حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اپنے اس مکتوب کے اندر ابتدا میں جن تین آیات کا ذکر فرمایا ہے، ان

میں اللہ جل شانہ کے عذاب سے خوف کا بیان ہے اور آخری آیت میں مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو معلوم  
 ہوا کہ ایمان، خوف اور رجاء دونوں کا نام ہے۔

☆☆.....☆☆

(۳) بعض حضرات نے اس کو حدیث کہا ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔

(۴) فتح الباری: ۳۶۴/۱۱

(۵) معارف مدنی، ص: ۱۹۷۔

وَقَالَ سُفْيَانُ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ: «لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ» /المائدة: ۶۸/ .

سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت ﴿قل یا اهل الكتاب لستم على شيء.....﴾ سے زیادہ بھاری مجھ پر اور کوئی آیت نہیں، کیونکہ اس آیت میں قرآن کے سارے احکام کے مکلف بنانے کا حکم ہے، آیت کریمہ میں اہل کتاب سے خطاب ہے یعنی اے اہل کتاب! جب تک تم توریت، انجیل اور تمہارے رب کی طرف سے نازل کئے گئے قرآن پر عمل قائم نہیں کرو گے تم کسی راہ پر نہیں رہو گے۔

### ترجمہ الباب سے آیت کریمہ کی مناسبت

ترجمہ الباب سے آیت کریمہ کی مناسبت بیان کرتے ہوئے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ووجه المناسبة للترجمة أن الآية تدل على أن من لم يعمل بما

تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم تحصل له النجاة، ولا ينفعه رجاؤه من غير

عمل ما أمر به“ (۶)۔

یعنی: ”ترجمہ الباب کے ساتھ اس کی مناسبت اس طور پر ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے مقتضی پر عمل نہ کیا تو اسے نجات نہیں ملے گی اور نہ عمل کے بغیر محض امید و رجاء اس کے کام آئے گی۔“

۶۱۰۴ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ : (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً ،

وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَنَاسَ  
مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ .

[ر : ۵۶۵۴]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن پیدا کیا تو اس کے سو حصے کئے  
اور اپنے پاس ان میں ننانوے رکھے، اس کے بعد تمام مخلوق کے لئے صرف ایک حصہ رحمت  
کا بھیجا، پس اگر کافر کو وہ تمام رحمتیں معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو وہ جنت سے  
مایوس نہ ہو اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو وہ دوزخ  
سے بے خوف نہ ہو (۷)۔

### ترجمۃ الباب سے حدیث کی مناسبت

یہ حدیث وعد اور وعید دونوں پر مشتمل ہے، رجاء وعد کا تقاضہ کرتا ہے اور خوف کا تعلق وعید سے ہے یعنی  
اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، ان کی امید کرنا اور جس عذاب کا ذکر کیا ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس  
طرح حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب سے واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ومطابقة الحديث للترجمة أنه اشتمل على الوعد والوعيد

المقتضيين للرجاء والخوف، فمن عَلِمَ أن من صفات الله تعالى الرحمة لِمَنْ

أراد أن يرحمه والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو

(۷) قال الحافظ ابن حجر: والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء حتى  
لا يكون مفرطاً في الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين: لا يضر مع الإيمان شيء، ولا في الخوف بحيث  
لا يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة، إذ مات عن غير توبة في النار، بل يكون  
وسطاً بينهما كما قال الله تعالى: ﴿يَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّهِ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ۷۵] ومن تتبع دين الإسلام  
وجد قواعده أصولاً، وفروعاً كلها في جانب الوسط. (فتح الباري: ۱۱/۳۶۶)

رحمته، ولا یأس من رحمته من یخاف انتقامه، وذلك باعث علی مجانبة  
السيئة، ولو كانت صغيرة، وملازمة الطاعة، ولو كانت قليلة“ (۸).

## ۲۰- باب : الصَّبْرُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ .

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» / الزمر: ۱/  
وَقَالَ عُمَرُ : وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ .

صبر کے تین معنی مشہور ہیں:

ایک صبر علی الطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی پر استقامت اختیار کرنا۔

دوم صبر فی المصیبت یعنی مصیبت کے وقت شکوہ و شکایت نہ کرنا اور راضی بالقضاء رہنا۔

سوم صبر عن المحصیة یعنی گناہوں سے بچے رہنا (۱)..... یہاں ترجمہ الباب میں صبر عن محارم اللہ سے یہ

تیسرے معنی مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، ان سے بچنا اور اجتناب کرنا۔

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے

پورا پورا دیا جائے گا۔

وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر

یعنی ہم نے صبر کے سبب بہترین زندگی پائی، حضرت عمرؓ کی اس تعلیق کو امام احمد نے کتاب الزہد میں

موصولاً ذکر کیا ہے (۲)۔

۶۱۰۵ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ

اللَّيْثِيُّ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ

(۸) فتح الباري: ۱۱/۳۶۵، ۳۶۶

(۱) إرشاد الساري: ۱۳/۴۷۰

(۲) إرشاد الساري: ۱۳/۴۶۹

بَسَّأَلَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ :  
 (مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَدَّخِرُهُ عَنْكُمْ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِيفْ يُعْفِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ  
 اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَلَنْ تُعْطُوا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ) . [ر : ۱۴۰۰]

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند انصاری صحابہ نے رسول اللہ  
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگا، اور جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگا،  
 آپ نے اسے دیا، یہاں تک کہ جو مال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ ختم  
 ہو گیا آپ نے حضرات صحابہ کو سب کچھ اپنے ہاتھ سے دے کر ختم کیا اور پھر فرمایا کہ جو بھی  
 اچھی چیز میرے پاس ہوگی میں اسے تم سے بچا کے نہیں رکھ سکتا، البتہ جو تم میں (سوال سے)  
 بچتا رہے گا اللہ بھی اسے محفوظ رکھے گا اور جو صبر کرے گا، اللہ بھی اسے صبر دے گا اور جو بے  
 نیازی اختیار کرے گا اللہ بھی اسے بے نیاز بنا دے گا، تمہیں صبر سے بڑھ کر اور اس سے  
 زیادہ وسیع کوئی بھی بھلائی نہیں دی گئی۔

یہ حدیث اس سے پہلے کتاب الزکوٰۃ میں گزر چکی ہے۔

۶۱۰۶ : حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ بَحْبِیْ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَلَاقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ  
 الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ ، أَوْ تَنْتَفِخَ ، قَدَمَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ ،  
 فَيَقُولُ : (أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) . [ر : ۱۰۷۸]

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
 وسلم اتنی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدموں میں ورم آجاتا یا کہا کہ آپ کے پاؤں پھول  
 جاتے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی جاتی (کہ آپ کی خطائیں تو معاف  
 ہیں) تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

حتی ترم أو تنتفخ قدماه..... ترم: ورم (علی وزن ورت یرث) کے معنی ہیں: پھول

جانا، ورم آجانا، راوی کو شک ہے کہ ترم قدماء کہا..... یا تنتفخ قدماء کہا.....

## ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت

باب کے ساتھ حدیث کی مطابقت بیان کرتے ہوئے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه صبر على الطاعة، حتى

تورمت قدماء (۳). یعنی: ”حدیث کی ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت بایں طور ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طاعت خداوندی پر اس قدر صبر و استقامت کا مظاہرہ

فرمایا کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک پھول گئے۔“

## صبر کے بارے میں بزرگوں کے چند اقوال

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی

تکلیف اور مصیبت کا ذکر اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ کرے (۴)۔

ایک مشہور بزرگ احنف کی بیٹائی جاتی رہی لیکن انہوں نے چالیس سال تک کسی سے اس کا ذکر نہیں

کیا (۵)۔

شقیق بلخی فرماتے ہیں غیر اللہ کے سامنے اپنی کسی مصیبت کی شکایت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی عبادت

وطاعت میں کبھی حلاوت نہیں پاسکے گا (۶)۔ قرآن کریم میں صبر کا لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے۔

ذیل میں ہم صبر کے متعلق تفصیل نقل کرتے ہیں جس میں قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں صبر مختلف

مفہیم میں استعمال ہوا ہے، ان کی وضاحت کی گئی ہے:

(۳) إرشاد الساري: ۴۷۰/۱۳

(۴) إرشاد الساري: ۴۷۱/۱۳

(۵) إرشاد الساري: ۴۷۱/۱۳

(۶) إرشاد الساري: ۴۷۱/۱۳

## قرآن کریم کی آیتوں میں وارد صبر کے مختلف معانی

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعُرْسِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (۷).

صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے تو پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ اُن کے نزدیک بے بسی و بے کسی کی تصویر ہے، اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب ہی انتقام نہ لے سکتا ہیں، لیکن کیا واقعہ ایسا ہی ہے؟ ”صبر“ کے لغوی معنی روکنے، اور سہارے کے ہیں یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا، اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا اور یہی صبر کی لغوی حقیقت بھی ہے، یعنی اس کے معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے نہیں، بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرأت اور ثباتِ قدر کے ہیں۔

حضرت موسیٰ اور حضرت علیہما السلام کے قصہ میں ایک ہی آیت میں تین جگہ یہ لفظ آیا ہے، اور ہر جگہ یہی معنی مراد ہیں۔ حضرت حضرت علیہ السلام کہتے ہیں:

﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ

خبراً﴾ (۸)، یعنی: ”تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور کیسے اس بات پر صبر کر سکتے ہو،

جس کا علم تمہیں نہیں۔“

حضرت موسیٰ جواب میں فرماتے ہیں: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ (۹) یعنی: ”اگر خدا نے

چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔“

اس صبر سے مقصود لاعلمی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل میں اضطراب اور بے

چینی کا پیدا نہ ہونا ہے، کفار اپنے بیٹھبروں کے سمجھانے کے باوجود پوری تندہی اور مضبوطی کے ساتھ اپنی بت پرستی

پر قائم رہتے ہیں، تو اس کی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یوں کرتا ہے:

(۷) سورة احقاف: ۴

(۸) سورة كهف: ۹

(۹) سورة كهف: ۹



﴿إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ (۱۰). یعنی: ”یہ شخص (پیغمبری کا دعویٰ) تو ہم کو اپنے خداؤں (بتوں) سے ہٹا ہی چکا تھا، اگر ہم اُن پر صابر (ثابت) نہ رہتے۔“

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ (۱۱) یعنی: ”اور اگر وہ ذرا صبر کرتے (یعنی ٹھہر جاتے) یہاں تک کہ تم (اے رسول) نکل کر ان کے پاس آتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا۔“

قرآن پاک میں صبر کا لفظ اسی ایک معنی میں مستعمل ہوا ہے، گو حالات کے تغیر سے اس کے مفہوم میں کہیں کہیں ذرا ذرا فرق پیدا ہو گیا ہے، بایں ہمہ ان سب کا مرجع ایک ہی ہے، یعنی ثابت قدمی اور استقامت، صبر کے یہ مختلف مفہوم جن میں قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا ہے، حسب ذیل ہیں:

### وقت مناسب کا انتظار کرنا

پہلا یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پر جسے رہ کر کامیابی کے وقت کا انتظار کرنا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شروع میں لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ پیش کی، تو عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں سرگرم جولان ہو گیا۔ ہر طرف سے عداوت اور دشمنی کے مظاہرے ہونے لگے اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر مخالفین اور رکاوٹیں پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت بشریت کے اقتضاء سے آپ کو اضطراب ہوا اور کامیابی کی منزل دور نظر آنے لگی، اس وقت تسلی کا یہ پیام آیا کہ اضطراب اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی سے اپنے کام میں لگے رہیں، خدا آپ کا نگہبان ہے، خدا کا فیصلہ اپنے وقت پر آئے گا، فرمایا:

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (۱۲). یعنی: ”(اے رسول) تو

(۱۰) سورة فرقان: ۴

(۱۱) سورة حجرات: ۱

(۱۲) سورة طور: ۲

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔“  
﴿فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا﴾ (۱۳)، یعنی: تم ثابت قدم رہ کر منتظر  
رہو، یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔“

﴿واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحکمین﴾ (۱۴) یعنی: ”اور ثابت  
قدم رہ کر منتظر رہ، یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر  
ہے۔“ ﴿فاصبر إن العاقبة للمتقین﴾ (۱۵)، یعنی: ”ثابت قدم رہ کر وقت کا منتظر رہ،  
بلاشبہ آخر کار کامیابی پر ہیزگاروں ہی کی ہے۔“

اس انتظار کی کشمکش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی بے کسی، بے چارگی اور بے بسی پاؤں کو ڈگمگا  
رہی ہو، اور دوسری طرف باطل کی عارضی شورش اور ہنگامی غلبہ دلوں کو کمزور کر رہا ہو، حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی  
کی پوری توقع رکھنی چاہیے۔ ﴿فاصبر إن وعد اللہ حق﴾ (۱۶)، یعنی: ”ثابت قدمی کے ساتھ منتظر رہ بے  
شک خدا کا وعدہ سچا ہے۔“

ایسا نہ ہو کہ وعدہ الہی کے ظہور میں اگر زرادیر ہو تو مشکلات سے گھبرا کر حق کا ساتھ چھوڑ دو، اور باطل  
کے گروہ میں مل جاؤ۔

﴿فاصبر لحکم ربك ولا تطع منهم آثما أو کفوراً﴾ (۱۷)، یعنی:  
”اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی سے منتظر رہ، اور ان (مخالفین میں) سے کسی گنہگار  
یا کافر کا کہانہ مان لے۔“

(۱۳) سورة اعراف: ۱۱

(۱۴) سورة یونس: ۱۱

(۱۵) سورة هود: ۴

(۱۶) سورة روم، سورة مومن: ۸، ۶

(۱۷) سورة دهر: ۲

## بے قرار نہ ہونا

صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مصیبتوں میں اضطراب اور بے قراری نہ ہو، بلکہ ان کو خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی جھیلا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ان کو دور فرمادے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدح فرمائی: ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ﴾ (۱۸)، یعنی: ”اور جو مصیبت میں صبر کریں۔“

حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے جھوٹی خبر سن کر کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھالیا، فرماتے ہیں: ﴿بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ (۱۹)، یعنی: ”بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، تو بہتر صبر ہے اور خدا سے اس پر مدد چاہی جاتی ہے، جو تم بیان کرتے ہو۔“

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے مصر میں روک لئے جانے کا حال سن کر کہتے ہیں: ﴿بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلٌ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ (۲۰)، یعنی: ”بلکہ تمہارے دلوں نے گھڑ لیا ہے، تو بہتر صبر ہے، غمغریب خدا ان سب کو ساتھ لائے گا۔“

حضرت ایوب علیہ السلام نے جسمانی اور مالی مصیبتوں کو جس رضا و تسلیم کے ساتھ پامردی سے برداشت کیا، اس کی مدح خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (۲۱) یعنی: ”ہم نے بے شک ایوب کو صابر پایا، کیسا اچھا بندہ، وہ خدا کی طرف رجوع ہونے والا ہے۔“

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے شفیق اور مہربان باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن رکھ کر فرماتے ہیں:

﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (۲۲)،

(۱۸) سورة حج: ۳۵

(۱۹) سورة يوسف: ۱۸

(۲۰) سورة يوسف: ۸۳

(۲۱) سورة ص: ۴۴

(۲۲) سورة صافات: ۱۰۲

یعنی: ”اے باپ جو تجھے کہا جاتا ہے، وہ کرگزر، خدا نے چاہا تو مجھے صابروں میں سے پائے گا۔“

### مشکلات کو خاطر میں نہ لانا

صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ منزل مقصود کی راہ میں جو مشکلیں اور خطرے پیش آئیں، دشمن جو تکلیفیں پہنچائیں اور مخالفتیں جو طعن و طنز کریں، ان میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے اور ان سے بدل اور پست ہمت ہونے کے بجائے اور زیادہ استقلال اور استواری پیدا ہو، بڑے بڑے کام کرنے والوں کی راہ میں یہ روڑے اکثر اٹکائے گئے مگر انہوں نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے۔

اس قسم کے مواقع اکثر انبیاء علیہم السلام کو پیش آئے، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس اعلیٰ مثال کی پیروی کا حکم ہوا: ﴿فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم﴾ (۲۳) یعنی: ”(اے محمد!) تو بھی اسی طرح پامردی کر جس طرح پختہ ارادہ والے پیغمبروں نے کی، اور ان (مخالفتوں) کے لئے جلدی نہ کر۔“

حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے بیٹے کو یہ نصیحت سنائی گئی کہ حق کی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض پوری استواری سے ادا کر اور اس راہ میں جو مصیبتیں پیش آئیں ان کا مردانہ وار مقابلہ کر:

﴿وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر علی ما أصابک إن ذلک

من عزم الأمور﴾ (۲۴)، یعنی: ”نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک اور جو مصیبت پیش

آئے اس کو برداشت کر، یہ بڑی پختہ باتوں میں سے ہے۔“

کفار عذاب الہی کے جلد نہ آنے یا حق کی ظاہری بے کسی و بے بسی کے سبب سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے دل و زطنوں سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، حکم ہوا کہ ان طعنوں کی پروانہ کر اور نہ ان سے دل کو اداس کر، بلکہ اپنی دھن میں لگا رہ، اور دیکھ کہ تجھ سے پہلے پیغمبروں نے کیا کیا۔ ﴿اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود﴾ (۲۵)، یعنی:

(۲۳) سورة احقاف: ۳۵

(۲۴) سورة لقمان: ۱۷

(۲۵) سورة ص: ۱۷

”ان کے کہے پر صبر کرو اور ہمارے بندہ داؤد کو یاد کرو۔“

اس قوتِ صبر کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے لو لگائی جائے اور اس کی طاقت پر بھروسہ کیا جائے۔ ﴿فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس﴾ (۲۶)، یعنی: ”تو ان کے کہنے پر صبر کرو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرو۔“

نہ صرف یہ کہ مخالفوں کے اس طعن و طنز کا دھیان نہ کیا جائے بلکہ اس کے جواب میں ان سے لطف و مروت برتا جائے، فرمایا: ﴿و اصبر علی ما یقولون و اھجر ہم هجراً جمیلاً﴾ (۲۷)، یعنی: ”ان کے کہنے پر صبر کرو، اور ان سے خوبصورتی سے الگ ہو جاؤ۔“

### درگزر کرنا

صبر کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز اور جو بدخواہی سے پیش آئے اور تکلیفیں دے، اس کے تصور کو معاف کیا جائے، یعنی تحمل اور برداشت میں اخلاقی پامردگی دکھائی جائے، قرآن پاک کی کئی آیتوں میں صبر اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿و ان عاقبتہم فعاقبوا بمثل ما عو قبتہم بہ و لئن صبرتم لہو خیرٌ

للصابرين ۵ و اصبر و ما صبرك إلا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما

یمرکون﴾ (۲۸)، یعنی: ”اور اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی، اور البتہ

اگر صبر (برداشت) کرو تو صبر کرنے والوں کے لئے یہ بہتر ہے اور تو صبر کرو، اور تیرا صبر کرنا

نہیں، لیکن خدا کی مدد سے، اور ان کا غم نہ کرو اور نہ ان کی سازشوں سے دل تنگ ہو۔“

یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے، مسلمانوں کو اس بہادری کی تعلیم بار بار دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ صبر و برداشت کمزوری سے یا دشمن کے خوف سے یا کسی اور سبب سے نہ ہو، بلکہ صرف خدا کے لئے ہو:

(۲۶) سورۃ ق: ۳۹

(۲۷) سورۃ مزمل: ۱۰

(۲۸) سورۃ نحل: ۱۲۶-۱۲۷

﴿والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلوة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ویدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبی الدار﴾ (۲۹)، یعنی: ”اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی ذات کے لئے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے چھپے اور علانیہ (راہ خدا میں) خرچ کیا اور برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، ان کے لئے آخرت کا انجام ہے۔“

فرشتے ان کو مبارک باد دیں گے اور کہیں گے: ﴿سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار﴾ (۳۰)، یعنی: ”تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا، تو آخرت کا انجام کیا اچھا ہوا۔“

ایک خاص بات اس آیت میں خیال کرنے کے لائق ہے، کہ اس کے شروع میں چند نیکیوں کا ذکر ہے، صبر، نماز، خیرات، برائی کی جگہ بھلائی مگر فرشتوں نے اس مومن کے جس خاص وصف پر اس کو سلامتی کی دعادی، وہ صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہے کیونکہ یہی اصل ہے جس میں یہ جو ہر ہوگا وہ عبادت کی تکلیف بھی اٹھائے گا، مصیبتوں کو بھی جھیلے گا اور دشمنوں کی بدی کا جواب نیکی سے بھی دے گا، چنانچہ ایک اور آیت میں اس کی تشریح بھی کر دی گئی ہے کہ درگزر اور بدی کے بدلہ نیکی کی صفت اس میں ہوگی، جس میں صبر ہوگا۔

﴿ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي

بینک وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما یلقها إلا الذین صبروا وما یلقها إلا ذوحظ عظیم﴾ (۳۱)، یعنی: ”بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دو، تو یکبارگی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، وہ قریبی دوست سا ہو جائے گا، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو ملتی ہے جو بڑی قسمت والا ہے۔“

جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد برپا کرتے رہتے ہیں ان پر خدا کا عذاب ہوگا، اس لئے ایک صاحب عزم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پر ظلم کریں تو بہادری سے اس کو برداشت

(۲۹) سورة رعد: ۲۲

(۳۰) سورة رعد: ۲۳

(۳۱) سورة حم سجده: ۳۴-۳۵

کرے اور معاف کر دیے، فرمایا:

﴿إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلَمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ولَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۳۲﴾، یعنی: ”راستہ انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لئے پردرد عذاب ہے، اور البتہ جس نے برداشت کیا، اور بخش دیا، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔“

### ثابت قدمی

صبر کا پانچواں اہم مفہوم لڑائی پیش آجانے کی صورت میں میدان جنگ میں بہادرانہ استقامت اور ثابت قدمی ہے، قرآن پاک نے اس لفظ کو اس مفہوم میں بارہا استعمال کیا ہے اور ایسے لوگوں کو جو اس وصف سے متصف ہوئے، صادق القول اور راست باز ٹھہرایا ہے، کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا، پورا کیا، فرمایا:

﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ﴿۳۳﴾، یعنی: ”اور صبر کرنے والے (ثابت قدمی دکھانے والے) مصیبت میں اور نقصان میں اور لڑائی کے وقت، وہی ہیں جو سچ بولے اور وہی پرہیزگار ہیں۔“

اگر لڑائی آپڑے تو اس میں کامیابی کی چار شرطیں ہیں، خدا کی یاد، امام وقت کی اطاعت، آپس میں اتحاد و موافقت اور میدان جنگ میں بہادرانہ صبر و استقامت۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ﴿۳۴﴾، یعنی: اے ایمان والو! جب تم کسی دستہ سے مقابل ہو، تو

(۳۲) سورة شوری: ۴

(۳۳) سورة بقرہ: ۲۲

(۳۴) سورة انفال: ۶

ثابت قدم رہو، اور اللہ کو بہت یاد کرو، تاکہ فلاح پاؤ، اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم سست ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر دکھاؤ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

حق کے مددگاروں کی ظاہر قلتِ تعداد کی تلافی اسی صبر و ثبات کی روحانی قوت سے ہوتی ہے، تاریخ کی نظر سے یہ مشاہدے اکثر گزرے ہیں کہ چند مستقل مزاج اور ثابت قدم بہادروں نے فوج کی فوج کو شکست دے دی ہے، اسلام نے یہ نکتہ اسی وقت اپنے جانثاروں کو سکھادیا تھا، جب ان کی تعداد تھوڑی اور دشمنوں کی بڑی تھی:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۗ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (۳۵).

یعنی: ”اے پیغمبر! ایمان والوں کو (دشمنوں کی) لڑائی پر ابھار، اگر یہ بیس صبر کرنے والے (ثابت قدم) ہوں تو وہ دوسو پر غالب ہوں گے، اور اگر سو ہوں تو کافروں میں سے ہزار پر غالب ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اس کو معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر سو صبر کرنے والے (ثابت قدم) ہوں تو دوسو پر غالب ہوں گے اور اگر ہزار (صبر والے) ہوں تو دو ہزار پر خدا کے حکم سے غالب ہوں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں (ثابت قدموں) کے ساتھ ہے۔“

میدانِ کارزار میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی عددی قلت کی پروا نہ کریں، اور صبر و ثبات کے ساتھ اپنے سے دو چند کا مقابلہ کریں، اور تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، حضرت طالوت اور جالوت کے قصہ میں بھی اسی نکتہ کو ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے:

﴿قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَو



اللہ کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ۝ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبراً وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴿۳۶﴾.

یعنی: ”جالوت کے ساتھیوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کی فوج کے مقابلہ کی طاقت نہیں، انہوں نے جن کو خیال تھا کہ خدا سے ملنا ہے، یہ کہا کہ بسا اوقات تھوڑی تعداد کے لوگ خدا کے حکم سے بڑی تعداد کے لوگوں پر غالب آئے ہیں، اور خدا صبر و ثبات دکھانے والوں کے ساتھ ہے، اور جب یہ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلہ میں آئے، تو بولے، اے ہمارے پروردگار! ہم پر صبر بہا اور ہم کو ثابت قدمی بخش اور ان کافروں کے مقابلہ میں ہم کو نصرت عطا کر۔“

اللہ تعالیٰ نے کمزور اور قلیل التعداد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی یہی شرط رکھی ہے، اور بتا دیا ہے کہ خدا انہیں کا ہے جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے بھروسہ پر مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے: ﴿ثم إن ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا﴾ (۳۷)، یعنی: ”پھر تیرا پروردگار ان کے لئے ہے جنہوں نے ایذا پانے کے بعد گھر بار چھوڑا، پھر لڑتے رہے اور صبر و ثبات کے ساتھ ٹھہرے رہے۔“

دنیا کی سلطنت و حکومت ملنے کے لئے بھی اسی صبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آپڑا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلا سبق یہ سکھایا:

﴿قال موسىٰ لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين﴾ (۳۸)، یعنی: ”موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا، کہ خدا سے مدد

(۳۶) سورة بقره: ۲۴۹-۲۵۰

(۳۷) سورة نحل: ۱۱۰

(۳۸) سورة اعراف: ۱۲۸

چاہو اور صبر و استقامت سے کام لو، بے شک زمین خدا کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے اس کا مالک بناتا ہے، اور انجام پر ہمیز گاروں کے لئے ہے۔“

چنانچہ بنی اسرائیل مصر و شام و کنعان کی آس پاس بسنے والی بت پرست قوموں سے تعداد میں بہت کم تھے، لیکن جب انہوں نے ہمت دکھائی، اور بہادرانہ استقامت اور صبر اور ثابت قدمی سے مقابلے کئے تو ان کی ساری مشکلیں حل ہو گئیں، اور کثیر التعداد دشمنوں کے زخموں میں پھنپھنے رہنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت پر قابض اور دوسری قوموں پر حکومت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اسی ایک لفظ میں ظاہر کیا ہے، فرمایا:

﴿وَأورثنا القوم الذین کانوا یتضعفون مشارق الأرض ومغاربها  
التي بارکنا فیها وتمت کلمة ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا  
ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرضون﴾ (۳۹).

یعنی: ”اور ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اس زمین کی وراثت بخشی جس میں ہم نے برکت نازل کی ہے، اور تیرے پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر و ثبات کے سبب سے پوری ہوئی اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے کاموں کو اور تعمیروں کو برباد کر دیا۔“

اس سے ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم فرعون جیسی طاقت کے سامنے اس لئے سر بلند ہوئی کہ اس نے صبر اور ثابت قدمی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی بابرکت زمین کی حکومت عطا فرمائی، چنانچہ اسی کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر یوں فرمائی:

﴿وجعلنا منهم أئمةً یهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا  
یوقنون﴾ (۴۰)، یعنی: ”اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے، جب انہوں نے صبر کیا اور ہمارے حکموں پر یقین رکھتے تھے۔“

آیت بالانے بنی اسرائیل کی گزشتہ پیشوائی کے دو سبب بیان کئے ہیں، ایک احکام الہی پر یقین اور دوسرے ان احکام کی بجا آوری میں صبر اور ثبات قدم، یہی دو باتیں دنیا کی ہر قوم کی ترقی کا سنگ بنیاد ہیں، پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے کا پختہ یقین اور پھر ان اصولوں کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو خوشی خوشی جھیل لینا۔

غزوة احد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی بلکہ ستر مسلمان خاک و خون میں لتھڑ کر راہ خدا میں جانیں دیتے ہیں، بعض مسلمانوں میں اس سے افسردگی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس حزن و ملال کے ازالہ کے لئے پچھلے پیغمبروں کی زندگی کی روداد ان کو سناتا ہے:

﴿وَكَايِنٍ مِّن نَّبِيٍّ قَاتِلٍ مَّعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (۴۱)۔

یعنی: ”اور کتنے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا کے طالب لڑے ہیں، پھر خدا کی راہ میں تکلیف اٹھا کر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ ان کے دل بودے ہوئے، اور اللہ ثابت رہنے والوں (صابرین) کو دوست رکھتا ہے اور وہ یہی کہتے رہے کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہوں کو اور کام میں ہماری زیادتی معاف کر، اور ہمارے قدم ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔“

اس آیت پاک نے غلط فہمیوں کے ان تہہ بہ تہہ پردوں کو چاک کر دیا ہے، جو صبر کی اصل حقیقت کے چہرہ پر پڑے ہیں، اور بتا دیا کہ صبر دل کی کمزوری، بے بسی کی خاموشی اور بے کسی کے مجبورانہ درگزر کا نہیں، بلکہ دل کی انتہائی قوت و ہمت کی بلندی، عزم کی استواری اور مشکلات اور مصائب کے خدا کو بھروسہ پر خاطر میں لانے کا نام ہے۔

ایک صابر کا کام یہ ہے کہ مخالف حادثوں کے پیش آجانے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے اور

اپنے مقصد پر جمار ہے اور خدا سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی گزشتہ ناکامی کے تصور کو جو اس کی کمی (ذنب) یا زیادتی (اسراف) سے سرزد ہوا ہے، معاف فرمائے اور اس کو مزید ثبات قدم عطا کر کے حق کے دشمنوں پر کامیابی بخشے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے لئے مسلمانوں کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، ایک تو خدا کی طرف دل لگانا اور دوسرے مشکلات پر صبر و استقامت سے قابو پانا۔

دنیا کی فتح یابی کے ساتھ آخرت کا عیش بھی جس کا نام جنت ہے، انہی کے حصہ میں ہے، جن کو یہ پامردی، دل کی مضبوطی اور حق پر ثبات قدم کی دولت ملی، حق کی راہ میں مشکلات کے پیش آنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ان سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے، اور دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہیں، چنانچہ فرمایا:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ﴾ (۴۲)، یعنی: ”کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے (آزماکر) ان کو الگ نہیں کر دیا، جو لڑنے والے ہیں، اور جو ثابت قدم (صابر) ہیں۔“

## ضبط نفس

اشخاص اور قوموں کی زندگی میں سب سے نازک موقع وہ آتا ہے جب وہ کسی بڑی کامیابی یا ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں، اس وقت نفس پر قابو رکھنا اور ضبط سے کام لینا مشکل ہوتا ہے، مگر یہی ضبط نفس کا اصلی موقع ہوتا ہے، اور اسی سے اشخاص اور قوموں میں سنجیدگی، متانت، وقار اور کردار کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔

دنیا میں غم و مسرت اور رنج و راحت تو عام ہیں، ان دونوں موقعوں پر انسان کو ضبط نفس اور اپنے آپ پر قابو کی ضرورت ہے، یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے نشہ میں اس میں فخر و غرور پیدا نہ ہو، اور غم و تکلیف میں وہ اداس اور بددل نہ ہو، دل کے اندر دونوں عیبوں کا علاج صبر و ثبات اور ضبط نفس ہے، انسانی فطرت کے خالق کا کہنا ہے:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَازْدَلَيْنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمْنَا وَإِنَّا لَهُ لَكَفُورٌ﴾

أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور O إلا  
الذين صبروا وعملوا الصلحت أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ﴿٤٣﴾.

یعنی: ”اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے کسی مہربانی کا مزہ چکھائیں، پھر اس  
سے اس کو اتار لیں تو وہ ناامید اور ناشکر ہو جاتا ہے اور اگر کوئی مصیبت کے بعد اس کو نعمت کا  
مزہ چکھائیں تو کہتا ہے کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ شادمان اور نازان ہے،  
لیکن وہ جنہوں نے صبر (یعنی نفس پر قابو) رکھا اور اچھے کام کئے یہ لوگ ہیں جن کے لئے  
معافی اور بڑا انعام ہے۔“

### ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا

ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پر صبر و پامردی سے ایک معنی میں بڑھ کر وہ صبر ہے، جو کسی فرض کو عمر بھر  
پورے استقلال اور مضبوطی سے ادا کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے مذہبی فرائض و احکام کو جو بہر حال نفس پر  
سخت گزرتے ہیں، عمر بھر پوری مضبوطی سے ادا کرتے رہنا بھی صبر ہے، ہر حال اور ہر کام میں خدا کے حکم کی  
فرمانبرداری اور عبودیت پر ثباتِ نفسِ انسانی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اسی لئے حکم ہوا:

﴿رب السموات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته﴾ (٤٤)

یعنی: ”آسمان کا پروردگار اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے سب کا، تو اس کی  
بندگی کر اور اس کی بندگی پر ٹھہرا رہ (صبر کر)۔“

ایک اور آیت میں نماز پڑھتے رہنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی اس کی تاکید رکھنے کے سلسلہ میں ہے:

﴿وامرأهك بالصلاة واصطبر عليها﴾ (٤٥)، یعنی: اپنے گھر والوں کو

نماز کا حکم کر اور آپ اس پر قائم رہ۔ یعنی تمام عمر یہ فریضہ پابندی کے ساتھ ادا ہوتا رہے۔

(٤٣) سورة هود: ١٠-١١

(٤٤) سورة مريم: ٦٥

(٤٥) سورة طه: ١٣٢

حسب ذیل آیتوں میں غالباً صبر اسی مفہوم میں ہے وہ لوگ جو خدا کے سامنے حاضری کے دن سے ڈرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے:

﴿فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا﴾ وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً ﴿(۴۶)، یعنی ”تو اللہ نے ان کو اس دن کی برائی سے بچالیا اور ان کو تروتازگی و شادمانی سے ملایا اور ان کے صبر کرنے (یعنی احکام الہی پر ٹھہرے رہنے) کے سبب سے باغ اور ریشمی لباس بدلہ میں دیا۔“

وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک کام کریں، فریب کے کاموں میں شریک نہ ہوں، بے ہودہ اور لغو کاموں کے سامنے سے ان کو گزرنا پڑے تو بزرگی کے رکھ رکھاؤ سے گزر جائیں اور خدا کی باتوں کو سن کر اطاعت مندی سے اس کو قبول کریں اور اپنی اور اپنی اولاد کی بہتری اور پیشوائی کی دعائیں مانگیں، ان کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی یہ بشارت سناتا ہے:

﴿اولئك يجزون الغرفة بما صبروا﴾ (۴۷)، یعنی: ”ان کو بہشت کا بالا

خانہ بدلہ میں ملے گا کہ وہ صبر کرتے رہے۔“

ان دونوں آیتوں میں صبر کا مفہوم یہی ہے کہ نیک کاموں کو باخاطر اور تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خوشی خوشی عمر بھر کرتے رہے اور بری باتوں سے باوجود اس کے کہ ان میں ظاہری خوشی اور آرام ہے، بچتے رہے، راتوں کو نرم بستروں سے اٹھ کر خدا کے آگے سر بسجود ہونا، صبح کو خواب سحر کی لذت سے کنارہ کش ہو کر دو گانہ ادا کرنا، الوان نعمت کی لذتوں سے محروم ہو کر روزے رکھنا، تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خطرناک موقعوں پر بھی سچائی سے باز نہ آنا، قبولِ حق کی راہ میں شداؤ کو آرام و راحت جان کر جھیل لینا، سود کی دولت سے ہاتھ اٹھالینا، حسن و جمال کی بے قید لذت سے متمتع نہ ہونا، غرض شریعت کے احکام کی بجا آوری اور پھر اس پر عمر بھراستواری اور پائیداری، صبر کی بہت ہی کڑی منزل ہے، اور اسی لئے ایسے صابروں کی جزا بھی خدا کے ہاں بھاری ہے۔ ان آیات پاک کی اس تشریح میں وہ حدیث یاد آتی ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا:

”حجبت (حفت) الجنة بالمكارة وحجبت النار بالشهوات“ (۴۸).

یعنی: ”جنت ناخوشی کے کاموں، اور دوزخ نفسانی لذتوں کے کاموں سے ڈھانپی گئی ہے۔“

یعنی نیکی کے ان کاموں کا کرنا جن کا معاوضہ جنت ہے، اس وقت دنیا میں نفس پر شاق گزرتا ہے اور گناہوں کے وہ کام جن کی سزا دوزخ ہے اس وقت دنیا میں بڑے پر لطف اور لذت بخش معلوم ہوتے ہیں، اس عارضی وہنگامی ناخوشی یا خوشی کی پروا کیے بغیر احکامِ الہی کی پیروی کرنا بڑے صبر اور برداشت کا کام ہے، کسی قارون کے خزانہ مال و دولت کی فراوانی اور اسبابِ عیش کی بہتات کو دیکھ کر اگر کسی کے منہ میں پانی نہ بھر آئے اس وقت بھی مالِ حرام کی کثرت کے لالچ کے بجائے، مالِ حلال کی قلت کو صبر کر کے خوشی کے ساتھ برداشت کر لے، تو یہ بڑی قوت کا کام ہے، جو صرف صابروں کو ملی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو قارون تھا، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر بہت سے ظاہر پرست لالچ میں پڑ گئے، جن میں صبر و برداشت کا جوہر تھا، ان کی چشمِ بینا اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی، اور ان کو نظر آتا تھا کہ یہ فانی اور آنی جانی چیز کتنے دن کی ہے، خدا کی وہ دولت جو نیکو کاروں کو بہشت میں ملے گی، وہ لازوال، غیر فانی اور جاودانی ہے:

﴿قال الذين يريدون زينة الحياة الدنيا يلبث لنا مثل ما أوتي قارون

إنه لذو حظ عظيم﴾ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن

وعمل صلحا ولا يلقها إلا الصبرون﴾ (۴۹).

یعنی: ”جو لوگ حیات دنیاوی کی آزمائش کے خواہاں تھے، وہ بولے: اے

کاش!..... ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کو دیا گیا، وہ بڑا خوش قسمت ہے اور جنہیں علم

(۴۸) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، رقم الحدیث: ۶۴۸۷، وصحیح

مسلم، کتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها: ۲۱۷۴/۴، رقم الحدیث: ۲۸۲۲

(۴۹) سورة قصص: ۷۹-۸۰

ملاحظہ انہوں نے کہا تمہارا براہو، اللہ کی جزاء ان کے لئے جو ایمان لایا اور نیک کام کئے، سب سے اچھی چیز ہے اور اس حقیقت کو وہی پاسکتے ہیں، جو صابر ہیں۔“

یہ اجر اور جزا بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اس خزانے سے ملے گی، جو لازوال اور باقی ہے:

﴿مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۵۰)، یعنی: ”جو تمہارے پاس ہے، وہ چک جائے گا، اور جو خدا کے پاس ہے وہ رہ جانے والا ہے، اور یقیناً ہم ان کو جنہوں نے صبر کیا، ان کی مزدوری ان کے بہتر کاموں پر دیں گے۔“

ایک اور جگہ فرمایا کہ نمازیں ادا کیا کرو کہ نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں، اس پیغام میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے نصیحت اور یاد دہانی ہے، اس کے بعد ہے:

﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (۵۱)، یعنی: ”اور صبر کر کہ بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

## صبر کے فضائل اور انعامات

یہ اجر کیا ہوگا، یہ حد اور شمار سے باہر ہوگا۔ ﴿إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (۵۲)، یعنی: ”صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب ملے گا۔“

جن محاسن اور صفات اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ہے، ان میں صبر و برداشت کا بھی شمار ہے:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْقَنَتِينَ وَالْقَاتَاتِ، وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ، وَالْخَشَعِينَ

(۵۰) سورة نحل: ۹۶

(۵۱) سورة هود: ۱۱۵

(۵۲) سورة زمر: ۱۰



والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات، والحفظین  
فروجهم والحافظات، والذاکرین اللہ كثيراً والذاکرات أعد اللہ لهن مغفرة  
وأجرأ عظیماً ﴿۵۳﴾

یعنی: ”بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان دار مرد اور ایمان دار  
عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں اور مشقت سہنے والے مرد  
(صابرین) اور مشقت سہنے والی عورتیں (صابرات) اور (خدا کے سامنے) جھکنے والے مرد  
اور جھکنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار  
مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے  
والی عورتیں، اور خدا کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے  
لئے تیار رکھی ہے، معافی اور بڑا اجر۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے، اس سے انسان کی پچھلی غلطیاں  
حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں اور دین و دنیا کا بڑا سے بڑا اجر اس کے معاوضہ میں ملتا ہے، یہی بشارت ایک  
اور آیت میں بھی ہے:

﴿الذین یقولون ربنا إنا امننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار﴾  
الصبرین والصدیقین والقنتین والمنفقین والمستغفرین بالأسحار ﴿۵۴﴾.

یعنی: ”(جنت اور خدا کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی) جو کہتے ہیں کہ اے  
ہمارے پروردگار! ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب  
سے بچا، اور صبر کرنے والے (یعنی مشکلات کی محنت کو اٹھالینے والے) اور سچ بولنے والے  
اور بندگی میں لگے رہنے والے اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں کو

خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔

اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ بھی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ان کے چار اوصاف گنائے ہیں، جن میں پہلا درجہ صبر، یعنی مشقت سہنے، تکلیف جھیلنے اور پامردی دکھانے کا ہے، دوسرا راستی اور راست بازی کا، تیسرا خدا کی بندگی و عبودیت کا، اور چوتھا راہِ خدا میں خرچ کرنے کا۔

### فتح مشکلات کی کنجی صبر اور دعا

بعض آیتوں میں ان تمام اوصاف کو صرف دو لفظوں میں سمیٹ لیا گیا ہے، دعا اور صبر، اور فرمایا گیا ہے کہ یہی دو چیزیں مشکلات کے طلسم کی کنجی ہیں، یہود جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کے دو سبب تھے، ایک یہ کہ ان کے دلوں میں گداز اور تاثر نہیں رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ پیغامِ حق قبول کرنے کے ساتھ ان کو جو جانی و مالی دشواریاں پیش آئیں، یہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت کے خوگر ہو کر ان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طب روحانی نے ان کی بیماری کے لئے یہ نسخہ تجویز کیا:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (۵۵)، یعنی: ”اور صبر (محنت اٹھانے) اور

دعا مانگنے سے قوت پکڑو۔“

دعا سے ان کے دل میں اثر اور طبیعت میں گداز پیدا ہوگا اور صبر کی عادت سے قبولِ حق کی راہ کی مشکلیں دور ہوں گی، ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانوں کے برخلاف تلواریں اٹھائیں اور مسلمانوں کے ایمان کے لئے اخلاص کی ترازو میں تلنے کا وقت آیا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

ولنبلونکم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والا نفس والثمرات  
وبشر الضبرین ۵ الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنا لله وانا إليه راجعون ۵  
أولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمة وأولئک ہم المہتدون ﴿۵۶﴾.

یعنی: ”اے ایمان والو! صبر (ثابت قدمی) اور دعا سے قوت پکڑو بے شک اللہ  
صبر والوں (ثابت قدم رہنے والوں) کے ساتھ ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جاتے  
ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم کو خبر نہیں، اور ہم تم کو کسی قدر خطرہ اور بھوک اور  
مال و جان اور پیداوار کے کچھ نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر والوں (یعنی ثابت قدم  
رہنے والوں) کو خوشخبری سنا دو جن کو جب کوئی مصیبت پیش آئے تو کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں،  
اور ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یہ لوگ ہیں، ان پر ان کے پروردگار کی شاباش اور  
مہربانیاں ہیں اور یہی ہیں ٹھیک راہ پر۔“

ان آیات نے بتایا کہ مسلمانوں کو کیونکر زندہ رہنا چاہیے، جان و مال کی جو مصیبت پیش آئے اس کو صبر،  
ضبط نفس اور ثابت قدمی سے برداشت کریں، اور یہ سمجھیں کہ ہم خدا کے محکوم ہیں، آخر بازگشت اسی کی طرف  
ہوگی، اس لئے حق کی راہ میں مرنے اور مال و دولت کو لٹانے سے ہم کو دریغ نہ ہونا چاہیے، اگر اس راہ میں موت  
بھی آجائے تو وہ حیات جاوید کی بشارت ہی ہے (۵۷)۔

☆☆.....☆☆

۲۱- باب : «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» / الطلاق: ۳ .  
 وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ : مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ .

### توکل کے لغوی اور اصطلاحی معنی

توکل کے لغوی معنی بھروسہ کرنے اور کسی پر اعتماد کرنے کے آتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں توکل کے معنی ہیں: اسباب اختیار کر کے نتائج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وأصل التوكل الوكول، ويقال: وكتلت أمري إلى فلان، أي:

الجأته إليه، واعتمدت فيه عليه، والمراد بالتوكل اعتقاد مادلت عليه هذه

الآية ﴿وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها﴾ (۱).

یعنی: ”توکل، وکول سے ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے: وکتلت أمري إلى

فلان، یعنی میں نے فلاں شخص کو اپنا معاملہ سپرد کر دیا اور اس معاملہ میں میں نے اس پر

بھروسہ کیا، توکل سے مراد اس آیت کے مدلول کا اعتقاد رکھنا ہے، ﴿وما من دابة في

الأرض إلا على الله رزقها﴾.

یاد رہے کہ توکل اسباب ترک کرنے اور جدوجہد اور کوشش کو چھوڑنے کا نام نہیں۔

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب لکھتے ہیں:

”توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں اور اصطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے

کو کہتے ہیں لیکن کسی بات میں بھروسہ کرنا، کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ جھوٹے

صوفیوں نے ترک عمل، اسباب و تدابیر سے بے پروائی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے

سہارے جینے کا نام توکل رکھا ہے، حالانکہ توکل نام ہے کسی کام کو پورا ارادہ و عزم اور

تدبیر و کوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضروری ہم کو کامیاب فرمائے گا۔

اگر تدبیر اور جدوجہد و کوشش کا ترک ہی توکل ہوتا، تو دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث نہ کرتا اور نہ ان کو اپنی تبلیغ، رسالت کے لئے جدوجہد اور سعی و سرگرمی کی تاکید فرماتا اور نہ اس راہ میں جان و مال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ بدر و احد اور خندق و حنین میں سواروں، تیراندازوں، زرہ پوشوں اور تیغ آزماؤں کی ضرورت پڑتی اور نہ رسول کو ایک ایک قبیلہ کے پاس جا جا کر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی۔

توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی مشکل کام پیش آئے، تو سب سے پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب رائے ایک نقطہ پر ٹھہر جائے تو اس کے انجام دینے کا عزم کر لو، اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تندہی کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارے کام کا حسب خواہش نتیجہ پیدا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھو، اور اس سے مایوس اور بودے نہ بنو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نکلے تو یہ غور نہ ہو کہ یہ تمہاری تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ اور اثر ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم ہوا اور اسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا۔ ال عمران میں ہے:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

”اور کام (یا لڑائی) میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ (اللہ پر) بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہ آسکے گا اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔“

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی، کہ توکل بے وسعت و پائی اور ترک عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے بھروسہ پر چھوڑ دیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے تو کوئی، ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش و مدد کارآمد نہیں ہو سکتی، اس لئے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے، (۲)۔

وقال الربيع بن خثيم: من كل ماضق على الناس  
ربيع بن خثيم جلیل القدر تابعی اور مشہور بزرگ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی صحبت میں رہے اور حضرت ان سے فرمایا کرتے: لوراك رسول الله لأحبك یعنی اگر رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ کو دیکھتے تو آپ سے محبت کرتے (۳)۔

یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾ (جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دے گا) میں مخرج سے مراد نکلنے کا راستہ ہے، یعنی لوگوں کی تنگی سے، اس کے لئے سبیل پیدا ہوگی اور ہر تنگی سے وہ نکل سکے گا۔  
طبرانی نے اس تعلیق کو موصولاً نقل کیا ہے (۴)۔

علامہ عینی رحمہ اللہ نے ربیع بن خثیم کی اس تعلیق کو ”ومن يتق الله.....“ سے متعلق نہیں کیا، بلکہ ”ومن يتوكل على الله فهو حسبه“ سے متعلق مانا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”من كل ماضق أراد ﴿من يتوكل على الله فهو حسبه﴾ من كل ماضق على الناس، وقال الكرماني: من كل ماضق يعني: التوكل على الله عام من كل أمر مضيق على الناس، يعني: لا خصوصية في التوكل في أمر، بل هو جار في جميع الأمور التي تضيق على الناس“ (۵)۔

(۲) سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: ۵/۲۲۷، ۲۲۸

(۳) فتح الباري: ۱۱/۳۷۰، وعمدة القاري: ۲۳/۱۰۵

(۴) فتح الباري: ۱۱/۳۷۰، وإرشاد الساري: ۱۳/۴۷۱

(۵) عمدة القاري: ۲۳/۱۰۵

یعنی: ”مِنْ كَلِّ مَاضِقٍ“ سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہر تنگی سے اس کے لئے کافی ہوگا، علامہ کرمانی کہتے ہیں: ”مِنْ كَلِّ مَاضِقٍ“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کسی خاص امر میں مقصود نہیں ہے، بلکہ تمام ایسے امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جاسکتا ہے، جو لوگوں پر تنگی کا باعث بنتے ہیں۔“

۶۱۰۷ : حَدَّثَنِي إِسْحَقُ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ حُصَيْنَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) . [ ر : ۳۲۲۹ ]

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ستر ہزار افراد بے حساب جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے بدفالی نہیں لیتے اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔  
حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب سے واضح ہے۔

۲۲ - باب : مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلٍ وَقَالَ .

قيل وقال میں دو احتمال ہیں:

① یہ دونوں فعل ہیں، قیل ماضی مجہول اور قال ماضی معروف ہے، دونوں کا آخری حرف جو کہ لام ہے مثنیٰ برفتحہ ہونے کی وجہ سے مفتوح پڑھا جائے گا، مقصد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگوں کی باتیں نقل کرنا، قال کذا وکذا، قیل کذا وکذا (فلاں نے یہ بات کہی، وہ بات کہی، یہ کہا گیا، وہ کہا گیا) یہ مکروہ اور ایک ناپسندیدہ شغل ہے۔ بہت ساری باتیں غلط نقل ہو جاتی ہیں، کئی باتیں بذات خود غلط ہوتی ہیں۔

② دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ دونوں اسم ہیں، قیل اور قال دونوں بطور مصدر استعمال ہوتے ہیں، قال یقول

قَوْلًا وَقِيلًا وَقَالَ..... اس صورت میں ”من قیلٍ وقَالَ“ دونوں معرب اور مجرور ہوں گے اور آخری حرف لام پر تنوین پڑھی جائے گی اور مقصد اس صورت میں بھی واضح ہے کہ زیادہ بولنے اور بے فائدہ بحثیں کرنا پسندیدہ نہیں ہے (۱)۔

۶۱۰۸ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا غَيْرٌ وَاحِدٌ ، مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلَانٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ ، كَاتِبِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ مَعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمَغِيرَةِ : أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْ بِحَدِيثِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمَغِيرَةُ : أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ أَنْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَمَنْعِ وَهَاتِ ، وَعَقُوقِ الْأُمَهَاتِ ، وَوَادِ الْبَنَاتِ . وَعَنْ هُشَيْمٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ الْمَغِيرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . [ر : ۸۰۸]

حضرت معاویہؓ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ مجھے ایسی حدیث لکھ کر بھیجیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، حضرت مغیرہ نے ان کو لکھا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھتے تھے: ”لا إله إلا الله.....“ اللہ کے سو کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات تین مرتبہ پڑھے۔

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقال

(۱) فتح الباری: ۳۷۱/۱۱، وعمدة القاری: ۱۰۶/۲۳، وإرشاد الساری: ۴۷۳/۱۳.

۶۱۰۸ : (قيل وقال) فعلان ماضيان ، وهما كناية عن حكاية أقاويل الناس . (إضاعة المال) صرفه في غير حقه ومحله . (منع وهات) منع ما وجب من الحقوق وطلب ما ليس بحق . (عقوق الأمهات) الإساءة إليهن وقطع الصلة بهن وعدم الإحسان إليهن ، والعقوق من العق وهو الشق . (وآد البنات) دفنهن وهن أحياء .



(حجت بازی، اور زیادہ سوال کرنے) مال ضائع کرنے، اپنی چیز محفوظ رکھنے اور دوسروں کی چیز مانگتے رہنے، ماؤں کی نافرمانی کرنے اور لڑکیوں کو زندہ درگدر کرنے سے منع کرتے تھے۔

أخبرنا غير واحد، منهم مغيرة و فلان و رجل ثالث أيضاً عن الشعبي  
ہشیم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سے زائد شیوخ نے حدیث سنائی، ان میں ایک مغیرہ بن مقسم ہیں اور  
ایک فلاں ہیں، فلاں سے مجالد بن سعید مراد ہیں، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے (۲)۔  
اور ایک تیسرے آدمی نے بھی..... رجل ثالث سے مراد داؤد بن ابی ہند ہیں، جیسا کہ صحیح ابن حبان  
میں ہے، یا زکریا بن ابی زائدہ یا اسماعیل بن ابی خالد مراد ہیں جیسا کہ طبرانی کی روایت میں ہے (۳)۔  
وعن هشيم أخبرنا عبد الملك..... یہ ما قبل سند کے ساتھ متصل ہے۔

### ۲۳ - باب : حِفْظُ اللِّسَانِ .

وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ) .  
وَقَوْلِهِ تَعَالَى : « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ » / ق : ۱۸ .

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر زبان کی حفاظت کی اہمیت بیان فرمائی۔ امام بیہقی رحمہ اللہ  
نے شعب الایمان میں حضرت ابو جحیفہ کی ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے، اس کے الفاظ ہیں:  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبَى الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟  
قال: فسكتوا فلم يجبه أحد، قال: هو حفظ اللسان". یعنی: زبان کی حفاظت کرنا  
اللہ کے ہاں ایک محبوب عمل ہے (۱)۔

﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ انسان کوئی بھی بات کرتا ہے، ایک نگہبان تیار فرشتہ

(۲) فتح الباری: ۱۱/۳۷۳، وإرشاد الساري: ۱۳/۴۷۲

(۳) فتح الباری: ۱۱/۳۷۲، وإرشاد الساري: ۱۳/۴۷۲

(۱) شعب الإيمان للبيهقي، باب الرابع والثلاثون، باب في حفظ اللسان: ۴/۲۴۵، رقم الحديث: ۴۹۵۰

اس کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ اس کو ضبط کرتا رہتا ہے، رقیب کے معنی نگہبان اور حافظ کے ہیں، اور عقید کے معنی تیار و حاضر کے ہیں۔

حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ کے نزدیک یہ فرشتہ انسان کی زبان سے نکلنے والے ہر کلمے کو ضبط کرتا ہے (۲)۔

اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت میں ہے کہ صرف وہ کلمات ضبط اور محفوظ کئے جاتے ہیں، جو باعثِ ثواب یا باعثِ عتاب ہوں (۳)۔

ایک اور روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ ضبط اور محفوظ تو سب کلمات کئے جاتے ہیں، زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ لکھا جاتا ہے، البتہ خیر اور شر سے متعلق کلمات باقی رکھے جاتے ہیں اور بقیہ مٹا دیئے جاتے ہیں، سورۃ رعد کی آیت لریمہ ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثَبُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ میں اسی طرف اشارہ ہے (۴)۔

۶۱۰۹ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ : سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ ،  
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ  
أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ) . [ ۶۴۲۲ ]

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لئے جو شخص دونوں چیزوں کے درمیان کی چیز (زبان اور دانت) اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز (شرمگاہ) کی (حفاظت کی) ذمہ داری دے دے گا، میں اس کے لئے جنت کی ذمہ داری دے دوں گا۔

ما بین لحييه

دو چیزوں کے درمیان دو چیزیں ہیں، ایک زبان، دوم دانت۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص مجھے اس بات کی

(۲) فتح الباری: ۱۱/۳۷۴، وعمدة القاري: ۲۳/۱۰۸، وإرشاد الساري: ۱۳/۴۷۳

(۳) إرشاد الساري: ۱۳/۴۷۳، ۴۷۴

(۴) فتح الباری: ۱۱/۳۷۴، وعمدة القاري: ۲۳/۱۰۸، وإرشاد الساري: ۱۳/۴۷۴

ضمانت دے گا کہ وہ اپنی زبان کو حرام باتوں سے بچائے گا اور اپنے دانتوں کو اور منہ کو حرام چکھنے سے محفوظ رکھے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

ما بین رجلیہ

اس سے شرم گاہ مراد ہے یعنی جو شخص اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے گا، شہوت پر قابو پائے گا، اور اس کو حرام سے بچائے گا تو اس کے لئے جنت کی ضمانت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لی ہے۔

۶۱۱۰ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ) . [ ر : ۳۱۵۳ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔

۶۱۱۱ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبَرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ : سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي : النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : ( الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةٌ أَبَاكُمْ ، جَائِزَتُهُ ) . قِيلَ : مَا جَائِزَتُهُ ؟ قَالَ : ( يَوْمٌ وَكَلْبَةٌ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ ) . [ ر : ۵۶۷۳ ]

حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے محفوظ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، مہمانی تین دن کی ہے اور اسی میں مہمان کا جائزہ (انعام) بھی ہے، پوچھا گیا کہ اس کا جائزہ

کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات (کی خاص مہمان نوازی) اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔  
ابوالولید کا نام ہشام بن عبد الملک ہے، ابو شریح کا نام خولید ہے۔

الضيافة ثلاثة ايام: جائزته .....

جائزته مرفوع ہے، یہ مبتدا ہے، خبر مخدوف ہے، اُی منها جائزته اور اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس صورت میں اس کا فعل ناصب محذوف ہوگا، اُی أعطوا جائزته (۵)۔

۶۱۱۲/۶۱۱۳ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَزَةَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، مَا يَتَّبِعُ فِيهَا ، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبَعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک بات کہتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں (کہ کتنی غلط نازیبا بات ہے) جس کی وجہ سے وہ پھسل کے دوزخ میں مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ دور چلا جاتا ہے۔

ابن ابی حازم کا نام عبدالعزیز بن سلمہ بن دینار ہے، یزید کے والد کا نام عبداللہ ہے اور یہ ابن الہباد سے مشہور ہے، سند کے تمام راوی مدنی ہیں اور اس میں یزید، محمد بن ابراہیم اور عیسیٰ بن طلحہ تینوں تابعی ہیں (۶)۔

(۵) إرشاد الساري: ۱۳/۴۷۷، وعمدة القاري: ۲۳/۱۰۹، وقال: "لوصحت الرواية بالرفع كان تقديره: المتوجه عليكم جائزته".

(۶) فتح الباري: ۱۱/۳۸۶، وإرشاد الساري: ۱۳/۴۷۷، وعمدة القاري: ۲۳/۱۰۹.  
۶۱۱۲ : أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ، باب : التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (حفظ اللسان) ، رقم : ۲۹۸۸ .  
(ما يتبع فيها) لا يتدبرها ولا يتفكر في قبحها وما يترتب عليها . (يزل بها) يزلق بسببها ويقرب من دخول النار . (أبعد ما ..) وفي بعض النسخ (أبعد ما) كناية عن عظمها ووسعها ، كذا في جميع نسخ البخاري (أبعد ما بين المشرق) . وفي مسلم (أبعد ما بين المشرق والمغرب) .

أبعد ما بين المشرق

صحیح بخاری کے نسخوں میں اسی طرح واقع ہے، لفظ ”بین“ متعدد چیزوں پر دخول کا تقاضا کرتا ہے اور یہاں صرف مشرق کا ذکر ہے جو ایک ہے، متعدد نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مشرق معنوی لحاظ سے متعدد ہو سکتا ہے، مثلاً گرمی کے زمانے کا مشرق، سردی کے زمانے کے مشرق سے مختلف ہوتا ہے۔

اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر دو متقابلین میں سے ایک کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔

صحیح مسلم کی روایت میں ”أبعد ما بين المشرق والمغرب“..... مشرق مغرب دونوں کا ذکر ہے۔

چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”كذافي جميع النسخ التي وقعت لنا في البخاري، وكذا في رواية

إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه عند أبي نعيم،

وأخرجه مسلم والإسماعيلي من رواية بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد بلفظ

”أبعد ما بين المشرق والمغرب“ وشرحه الكرمانى على ما وقع عند البخاري

فقال: قوله ”ما بين المشرق“ لفظ بين يقتضي دخوله على المتعدد، والمشرق

متعدد معنى؛ إذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء، وبينهما بُعد كبير، ويحتمل

أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر مثل ﴿سراييل تقيكم الحر﴾

[النحل: ٨١] قال: وقد ثبت في بعضها بلفظ ”بين المشرق والمغرب“.

(فتح الباري: ٣٧٦/١٠)

☆☆.....☆☆

(۶۱۱۳) : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ : سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ،  
يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (إِنَّ الْعَبْدَ  
لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ ، لَا يُبْقِي لَهَا بَالًا ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ  
بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، لَا يُبْقِي لَهَا بَالًا ، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
نے فرمایا، بندہ اللہ کی خوشنودی کے لئے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اس کو کوئی اہمیت  
نہیں دیتا، لیکن اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے اور دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ  
زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن  
اس کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں چلا جاتا ہے۔

ابوالنضر کا نام ہاشم بن ابی القاسم ہے، اور ابوصالح، ذکوان سہان کی کنیت ہے۔

### يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

یعنی اس کلمہ کے ذریعے سے وہ جہنم میں گر جائے گا، هَوَى يَهْوِي ..... کے معنی ہیں: اوپر سے نیچے کی  
طرف گرنا۔ قرآن کریم میں ہے: ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ.....﴾

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: ينزل فيها ساقطاً یعنی وہ جہنم میں گر جاتا ہے اور ایک روایت  
میں ہے ينزل بها في النار اس لئے کہ جہنم کے نیچے تک مختلف طبقات و مقامات ہیں۔ بعض لوگوں نے اھوی اور  
هَوَى میں فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ اھوی کے معنی ہیں: قریب سے گرنا، اور هَوَى کے معنی دور سے گرنے کے ہیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: لا يرى بها بأساً يهوي بها في

النار سبعين خريفاً (۷) .

ابن عبدالبر فرماتے ہیں ”هي كلمة السوء عند السلطان الجائر یعنی: ”ظالم بادشاہ کی خوشنودی کی

(۷) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس: ۵۵۷/۴، رقم

الحديث: ۲۳۱۳، تفصيل کے لئے دیکھیے: فتح الباري: ۱۱/۳۷۷، وعمدة القاري: ۲۳/۱۱۰

خاطر گناہ کی بات کہنا مراد ہے۔“

اور عزالدین ابن عبدالسلام فرماتے ہیں:

”هي الكلمة التي لا يُعْرَفُ حُسْنُهَا مِنْ قَبْحِهَا، فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يُعْرَفُ حُسْنُهُ مِنْ قَبْحِهِ“ (۸).

یعنی: ”اس سے وہ کلمہ مراد ہے جس کے اچھے اور برے ہونے کی تمیز نہ ہو سکے، لہذا انسان کے لئے ایسی بات کرنا حرام ہے جس کی خوبی و بدی کی تمیز نہ ہو سکے۔“

### حدیث باب کا مطلب

حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات انسان زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا جملہ ہوتا ہے، اس جملے کی اہمیت اور اس کی عظمت کا کہنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بدولت کہنے والے کے درجات بلند فرمادیتے ہیں۔

اس کے برعکس، بسا اوقات انسان زبان سے کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے، اس کی شاعت اور قباحت کا آدمی کو احساس نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر مشتمل ایک سنگین جملہ ہوتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔

اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان سے نکلنے والے ہر کلمے، ہر جملے کی ادائیگی سے پہلے غور

(۸) فتح الباری: ۱۱/۳۷۶، ۳۷۷، وإرشاد الساری: ۱۳/۴۷۷

قال ابن بطال: قال أهل العلم: هي الكلمة عند السلطان بالبغي والسعي على المسلم، وربما كانت سبباً لهلاكه، وإن لم يرد ذلك الباغي، لكنها آلت إلى هلاكه، فكتب عليه إثم ذلك، والكلمة التي يكتب الله له بها رضوانه الكلمة يريد بها وجه الله بين أهل الباطل، أو الكلمة يدفع بها مظلمة عن أخيه المسلم، ويفرج عنه بها كربة من كرب الدنيا، فإن الله تعالى يفرج عنه كربة من كرب الآخرة، ويرفع بها درجات يوم

القيامة. (شرح ابن بطال: ۱۱/۱۸۹)

کیا جائے اور سوچ سمجھ کر زبان کھولی جائے کہ زبان کے اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کا معاملہ بڑا احساس ہوتا ہے۔ جِزْمہ صغیر، و جِزْمہ کبیر (اس کا وجود چھوٹا لیکن جِزْمہ بڑا ہو سکتا ہے)۔

حضرت سفیان ابن عبد اللہ ثقفی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ! میرے حق میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا: یہ۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے بھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ! نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھیں (۹)۔

(۹) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

ورود في فضل الصمت عدة أحاديث: منها حديث سفیان بن عبد الله الثقفی..... قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: هذا وأخذ بلسانه أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح. وتقدم في الإيمان حديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء: وكف لسانك إلا من خير. وعن عقبه بن عامر: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه.

وفي حديث معاذ مرفوعاً: ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ كف هذا، وأشار إلى لسانه، قلت يا رسول الله وإنما لمواخنون بما نتكلم به؟ قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم أخرجه أحمد، والترمذي، وصححه، والنسائي، وابن ماجه كلهم من طريق أبي وائل عن معاذ مطولاً، وأخرجه أحمد أيضاً من وجه آخر عن معاذ.

وزاد الطبراني في رواية مختصرة: ثم إنك لن تزال سالماً ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أولك. وفي حديث أبي ذر مرفوعاً: عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان أخرجه أحمد، والطبراني وابن حبان، والحاكم، وصححه.

وعن ابن عمر رفعه: من صمت نجا أخرجه الترمذي ورواه ثقات.

وعن أبي هريرة رفعه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أخرجه الترمذي وحسنه.

(فتح الباري: ۱۰/۳۷۴)



## ۲۴ - باب : البكاء من خشية الله .

۶۱۱۴ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي خَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (سَبْعَةٌ يَظِلُّهُمْ اللَّهُ : رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فَقَاصَتْ عَيْنَاهُ) . [ ر : ۶۲۹ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سات طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں پناہ دے گا، (ان میں ایک) وہ شخص ہے جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

## اللہ کی یاد میں رونے کی فضیلت

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے رونے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، حدیث باب واضح ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ریحانہ سے ایک مرفوع روایت نقل فرمائی ہے، اس میں ہے:

”حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله“ (۱) . یعنی:

”اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آبدیدہ ہوگی۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا يلج النار أحد بكي من خشية الله عز وجل حتى يعود اللبن في الضرع“ یعنی جو شخص اللہ کے خوف سے رويا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا (۲)۔

## اللہ کو تنہائی میں یاد کرنے کی صورتیں

ابن ابی جرمة الازدی اندلسی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کا اختصار لکھا اور اس مختصر کی پھر شرح لکھی، جس کا نام انہوں نے ”بہجة النفوس“ رکھا ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے احادیث سے تصوف کے مسائل کا

(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۵/۸۶۱، رقم الحدیث: ۱۷۳۴۵

(۲) مستدرک الإمام الحاکم، کتاب التوبة والإنابة: ۴/۲۸۹، رقم الحدیث: ۷۶۶۷

استنباط فرمایا ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بیحد النفوس کا ترجمہ ”رحمۃ القدوس“ کے نام سے کیا ہے، اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

”یہاں ایک سوال اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرنے سے مراد ظاہری تنہائی ہے یا باطنی یادوں کا مجموعہ؟ ظاہری تنہائی کے معنی تو یہ ہیں کہ اپنی جگہ پر تنہا ہو، اس کے پاس کوئی دوسرا نہ ہو اور باطنی تنہائی کے معنی یہ ہیں کہ اس کے رونے کا سبب صرف اللہ کا خوف ہو اور کوئی سبب نہ ہو اور مجموعہ کی صورت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا بھی نہ ہو اور رونے کا سبب بھی خوف خدا کے سوا کچھ نہ ہو۔

اگر یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہوں تو اس میں شک نہیں کہ یہ حالت زیادہ کامل ہے اور اگر تنہائی پوری ہو، پاس کوئی نہ ہو مگر (اللہ کو یاد کرتے ہوئے) کسی اور خیال سے رونے لگا، اللہ (کے خوف) کی وجہ سے نہیں رویا، نہ اللہ کی یاد سے (محبت میں) رویا تو بالاتفاق یہ حالت وہ نہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ یہ حالت مذموم ہے، کیونکہ یہ دھوکہ (پر مشتمل) ہے، ظاہر تو یہ کر رہا ہے کہ اللہ کی وجہ سے رویا ہے (کیونکہ یاد الہی کے ساتھ گریہ طاری ہوا ہے) لیکن حقیقت میں ایسا نہیں بلکہ آنسو اللہ کو یاد کرتے ہوئے ظاہر میں نکل آئے (مگر جب تنہائی میں رونا فرض کیا گیا تو دھوکہ کے کیا معنی؟ دھوکہ کی صورت تو وہ ہے جب کہ جمع میں ذکر ہو اور اللہ کی یاد سے رویا ہو اور جو صورت شارح نے بیان کی اس میں نہ دھوکہ ہے، نہ ثواب۔)

رہی تیسری صورت کہ جمع میں اللہ کو یاد کر رہا ہو اور دل ماسوائے اللہ سے خالی ہو، ذکر اللہ ہی کے اثر سے آنسو نکلے ہوں تو امید ہے کہ یہ شخص بھی اُن بابرکت لوگوں میں داخل ہے (جن کا حدیث میں ذکر ہے) کیونکہ اس پر بھی باطناً یہ بات صادق ہے کہ اس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا (کیونکہ اس کا باطن ماسوائے خالی تھا اگرچہ ظاہراً مجمع میں تھا) اور جو صورت بطور احتمال کے حدیث کے تحت میں ہو وہاں امید تو (ضرور) ہوتی ہے اگرچہ یقینی صورت وہی ہے جہاں حدیث کا مضمون پورا پایا جاتا ہو اور وہ وہی صذرت ہے جہاں

دونوں باتیں جمع ہوں (یعنی خلوتِ ظاہر بھی، خلوتِ باطن بھی)۔

ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟

یہاں ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ ذکر اللہ سے مراد وہ ذکر ہے جو زبان اور لبوں سے ہو یا وہ جو دل سے ہو، اگرچہ زبان کو حرکت نہ ہو یا جس صورت سے بھی ہو (کیا وہ ہر حال میں) ذکر کہلائے گا؟

جواب یہ ہے کہ ان صورتوں میں سے ہر ایک پر ذکر اللہ صادق آتا ہے جس کی دلیل سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جو صحیح حدیث قدسی میں وارد ہے:

”من ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملاء من الناس ذكرته في ملاء أكثر منهم وأطيب“ یعنی: جس نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا، میں اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا اور جو مجھے جماعت میں یاد کرے گا، میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کروں گا۔“

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ذکر کا لقب دیا ہے اور طفیلی تو اس سے بھی کمتر بہانہ سے امید وابستہ کر لیتا ہے، پھر مذہبِ صوفیہ پر تو ذکرِ قلبی افضل ہے۔

فائدہ..... ذکر کی افضل صورت

حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حضرت حکیم الامت کی بھی یہی تحقیق ہے کہ سب سے افضل ذکر وہ ذکر ہے جس میں ذکرِ لسانی کے ساتھ ذکرِ قلبی جمع ہو، تنہا ذکرِ قلبی اگرچہ افضل ہے مگر مختلف فیہ ہے، دوسرا تجربہ یہ ہے کہ تنہا ذکرِ قلبی دیر تک نہیں رہتا، کچھ دیر کے بعد دل ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ شخص دھوکہ میں رہتا ہے کہ میں ذکرِ قلبی کر رہا ہوں، البتہ اگر کسی کا دل ذکرِ قلبی میں غیر حق کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو تو اس کو ذکرِ لسانی کی ضرورت نہیں، اگر اس سے تشویش ہوتی ہو، خوب سمجھ لو (۱)۔“

(۱) مسند الإمام احمد بن حنبل: ۳/۳۳۳، رقم الحدیث: ۸۶۳۵

(۲) رحمة القدوس ترجمة بهجة النفوس، ص: ۳۰

## ۲۵- باب : الخوف من الله .

۶۱۱۵ : حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ  
 حَدِيفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ( كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ :  
 إِذَا أَنَا مُتُّ فَخَذُونِي فَذُرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمِ صَائِفٍ ، فَفَعَلُوا بِهِ ، فَجَمَعَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ :  
 مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ : مَا حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ ، فَغَفَرَ لَهُ . [ ر : ۳۲۹۲ ]

حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں کا ایک شخص جس کا گمان اپنے اعمال کے متعلق خراب تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے گرم دن میں اٹھا کر دریا میں بکھیر دینا، اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جمع کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ جو تم نے کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے اس پر صرف تیرے خوف نے آمادہ کیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔

ربعی (راء کے کسرہ، باء کے سکون اور عین کے کسرہ کے ساتھ) ہے، ان کے والد کا نام حراش (بکسر الحاء) ہے۔

یسعی الظن بعمله

اپنے عمل کے بارے میں وہ شخص بدگمان تھا، صحیح ابن حبان میں ہے کہ یہ شخص کفن چورتھا (۱)۔  
 ذرُونِی: یہ باب تفعیل سے امر حاضر معروف کے جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ تَذْرِیة: ہو میں اڑانا، متفرق کرنا۔ یوم صائف: گرم دن۔

اس کے خیال میں تھا کہ جب اس کے جسم کے ذرات سمندر کے اندر اس طرح بکھر جائیں گے تو وہ عذاب سے بچ جائے گا!

اگلی روایت میں اس واقعہ کی مزید تفصیل ہے!

۶۱۱۶ : حَدَّثَنَا مُوسَى : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ : سَمِعْتُ أَبِي : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ  
 الْغَافِرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَجُلًا : (فِي مَنْ كَانَ سَلْفًا ،  
 أَوْ قَبْلَكُمْ ، آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا - يَعْنِي أَعْطَاهُ - قَالَ : فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِنِسْبِهِ : أَيُّ أَبٍ كُنْتُ  
 لَكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرٌ أَبٍ ، قَالَ : فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا - فَسَرَهَا قَتَادَةُ : لَمْ يَدْخِرْ - وَإِنْ يَقْدَمُ  
 عَلَى اللَّهِ بَعْدَهُ ، فَانظُرُوا فَإِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ، حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحَمًا فَاسْحُقُونِي ، أَوْ قَالَ :  
 فَاسْهَكُونِي ، ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي فِيهَا ، فَأَخَذَ مَوَائِقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ - وَرَبِّي -  
 فَفَعَلُوا ، فَقَالَ اللَّهُ : كُنْ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟  
 قَالَ : مَخَافَتِكَ ، أَوْ فَرَقُ مِنْكَ ، فَمَا تَلَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ .

فَحَدَّثْتُ أَبَا عُمَانَ فَقَالَ : سَمِعْتُ سَلْمَانَ ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ : (فَأَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ) . أَوْ كَمَا  
 حَدَّثَ .

وَقَالَ مُعَاذٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ،  
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . [ ر : ۳۲۹۱ ]

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
 وسلم نے (پچھلی امتوں کے) ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و اولاد عطا  
 فرمائی تھی، فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے پوچھا،  
 باپ کی حیثیت سے میں تمہارے لئے کیسا رہا؟ لڑکوں نے کہا کہ آپ بہترین باپ ہیں،  
 پھر اس شخص نے کہا کہ اس نے اللہ کے پاس کوئی نیکی نہیں جمع کی ہے، (قتادہ نے "لسم بیئتر"  
 کی تفسیر "لسم یدخر" سے کی ہے) کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ  
 اسے عذاب دے گا (اس نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ) دیکھو جب میں مرجاؤں تو میری  
 لاش کو جلا دینا اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو مجھے پیس دینا اور کسی تیز ہوا کے دن مجھے اس میں  
 اڑا دینا، اس نے اپنے لڑکوں سے اس پر عہد لیا، چنانچہ لڑکوں نے اس کے ساتھ وہی معاملہ

کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جا۔ چنانچہ آدمی کھڑا نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا: میرے بندے! تم نے یہ جو حرکت کی ہے، اس پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ تیرے خوف نے، اللہ تعالیٰ نے رحم کر کے، اس (اس کے گناہوں) کی تلافی فرمادی۔

### فاسحقونی أو قال: فاسهکونی

سحق اور سهق دونوں کے معنی کوٹنے اور پینے کے ہیں۔

فأذرونی: باب نصر سے ذرا — ذرواً، اور باب ضرب سے ذری — ذریاً اور باب افعال سے أذری — إذراء اور تفعیل سے ذری — تذرية..... سب کے ایک ہی معنی ہیں: ریزہ ریزہ کرنا، ریزہ ریزہ کر کے ہوا کے رخ پر چھوڑ دینا (۲)۔

فما تلافاه أن رحمه الله..... علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”کلمة: ماء، موضولة، وکلمة: أن مصدرية أي: الذي تلافاه أي:

تدارکہ بأن رَحِمَهُ، أي بالرحمة، والضمير المنصوب في ”تلافاه“ يرجع إلى عمل الرجل، ويجوز أن يكون ما نافية، وکلمة الاستثناء محذوفة على مذهب من يجوز حذفها أي: ما تلافاه إلا أن رَحِمَهُ“ (۳)۔

یعنی: ”یہاں ”ما“ موصولہ اور ”أن“ مصدریہ ہے، معنی یوں ہوئے: ”الذی تلافاه وتدارکہ بالرحمة“ اور ”تلافاه“ کی ضمیر منصوب کا مرجع عملِ رجل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس آدمی کے عمل کی تلافی کر دی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”ما“ نافیہ ہو اور حرف استثناء محذوف ہو، یہ ان حضرات کے مسلک پر ہے جو حرف استثناء کے حذف کو جائز سمجھتے ہیں، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے: ما تلافاه إلا أن رَحِمَهُ یعنی: اللہ نے اس کی بد عملی کی تلافی کر دی، اس پر رحم فرماتے ہوئے۔

(۲) إرشاد الساري: ۴۷۹/۱۳، وفتح الباري: ۳۸۰/۱۱، وعمدة القاري: ۱۱۱/۲۳، ۱۱۲

(۳) عمدة القاري: ۱۱۴/۲۳

فأخذ موأثيقهم على ذلك وربى

موأثیق، میثاق کی جمع ہے، عہد کو کہتے ہیں، یعنی اس شخص نے سب سے عہد لیا اور ان سے کہا کہ تم میں سے ہر ایک ”وربی لأفعلن کذا.....“ کہے۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ خبر دینے والے نے قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم! اس شخص نے سب سے عہد لیا، خبر دینے والا قسم کھا کر بتلانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچا ہے (۴)۔

وقال معاذ:.....

معاذ بن معاذ کی اس تعلیق کو امام مسلم رحمہ اللہ نے موصولاً نقل کیا ہے (۵)۔ حدیث باب عقبہ بن عبد الغافر، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ”عن“ کے ساتھ نقل کر رہے ہیں اور اس تعلیق میں سماع حدیث کی تصریح ہے!

قالوا: خیر أب:.....

خیر أب کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس صورت میں اس کا عامل ناصب ”کنت“ مقدر ہوگا، أي: کننت خیر أب اور مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اس صورت میں یہ مبتدا محذوف ”أنت“ کی خبر ہوگا، أي: أنت خیر أب (۶)۔

مخافتك أو فرق منك

راوی کو شک ہے کہ مخافتك کہا یا فرق منك کہا، فَرَّقَ (فاء اور راء کے فتح کے ساتھ) بمعنی خوف ہے۔

ایک اشکال اور اس کے جوابات

اس شخص نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد اس کا جسم جلانے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں بکھیر دیا جائے تاکہ آخرت کا حساب اس سے نہ ہو سکے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب سے بچنے کے لئے

(۴) إرشاد الساري: ۴۸۰/۱۳، وعمدة القاري: ۱۱۴/۲۳

(۵) عمدة القاري: ۱۱۴/۲۳، وإرشاد الساري: ۴۸۰/۱۳

(۶) عمدة القاري: ۱۱۴/۲۳، وإرشاد الساري: ۴۸۰/۱۳

اس شخص نے یہ تدبیر سوچی، بعض روایتوں میں اس کا یہ قول بھی ہے کہ ”فَوَاللّٰهِ، لئن قَدَرَ اللّٰهُ عَلٰی لِيَعْدُبْنِي“ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد مجھ پر قدرت حاصل کر لی تو مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے ضرور عذاب دیں گے..... اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جاہل تھا، اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اگرچہ اس کا جسم ریزہ ریزہ کر کے ہواؤں کے رخ پر بکھیرا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ناواقف شخص کی کیسی مغفرت کر دی گئی؟

① اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ شخص مرنے سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں پر نادم ہو گیا تھا، والندمة: التوبة: ندامت توبہ ہے، اس ندامت اور توبہ کی وجہ سے اس کی مغفرت کی گئی، جہاں تک ”فَوَاللّٰهِ، لئن قدر اللّٰهُ عَلٰی لِيَعْدُبْنِي“ والی روایت کا تعلق ہے، اس میں ”قدر“ کے معنی تنگ کرنے کے ہیں، قدر کے معنی قادر ہونے کے بھی آتے ہیں اور تنگ کرنے کے بھی آتے ہیں، سورۃ طلاق آیت ۷ میں ہے: ﴿وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ اور سورۃ فجر، آیت: ۱۶، میں ہے: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ اس میں ”قدر“ کے معنی تنگ کرنے کے ہیں، تو اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تنگی کی اور فرسخی کا معاملہ نہیں فرمایا تو مجھے عذاب دیں گے..... اس تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہالت کا سوال پیدا نہیں ہوتا!

② اور اگر ”فَوَاللّٰهِ، لئن قدر اللّٰهُ عَلٰی.....“ کو قدرت کے معنی میں بھی مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے یہ جملہ اپنی جہالت کی بناء پر غلطی سے کہہ دیا اور جہالت کی بناء پر ایسی غلطی قابل عفو ہو سکتی ہے۔

③ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شدت خوف کی وجہ سے، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، وہ اس کو سمجھ نہیں سکا، شدت خوف کی بناء پر بے سمجھی میں اس نے یہ جملہ کہا، جو قابل عفو ہے، حدیث میں آتا ہے جہنم سے نکل کر جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے: ”إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعِشْرَةَ أَمْثَالِهَا“ آپ کے لئے دنیا اور اس جیسی دس گنا جنت ہے تو وہ فرط مسرت اور حد درجہ خوشی میں آ کر دو مرتبہ کہہ دے گا ”یَا رَبُّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ“ (یعنی اے میرے رب! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں)..... یہ کلمہ کفر ہے لیکن خوشی سے مغلوب ہو کر اس کی زبان سے یہ جملہ نا سمجھی میں نکلا، اس لئے اس کو کفر نہیں کہا جائے گا، اور وہ



قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔

اسی طرح اس شخص کا ”لئن قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِي“ کہنا بھی شدتِ خوف کے عالم میں تھا، اور نا سمجھی میں اس کی زبان سے یہ نکلا تو عام حالات میں تو اگرچہ یہ کلمہ کفر ہے لیکن خوفِ خداوندی سے مغلوب ہو کر چونکہ اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، اس لئے اس کو اس شخص کے حق میں کفر نہیں کہا جائے گا (۷)۔

## ۲۶ - باب : الإِنْتِهَاءُ عَنِ الْمَعَاصِي .

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر لگنا ہوں اور معاصی سے رکنے کا وجوب بیان فرمایا ہے۔

۶۱۱۷ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ آتَى قَوْمًا فَقَالَ : رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِينِي ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ ، فَالْتَّجَاءُ النَّجَاءَ ، فَطَاعَهُ طَائِفَةٌ فَأَدْجَلُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَفَجَوْا ، وَكَذَبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاَحَهُمْ) . [۶۸۵۴]

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جو کچھ اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے (تمہارے دشمن کا) لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، پس تیزی سے نکلو، اس پر ایک جماعت نے بات مان لی اور وہ لوگ اطمینان کے ساتھ کسی محفوظ جگہ پر نکل گئے اور نجات پائی اور دوسری جماعت نے جھٹلایا اور لشکر نے صبح کے وقت اچانک انہیں آلیا اور تہ تیغ کر دیا۔

(۷) دیکھے، شرح ابن بظال: ۱۰/۱۹۲، ۱۹۳

۶۱۱۷ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : شفقتہ ﷺ علی أمتہ ، رقم : ۲۲۸۳ .  
(الجيش) عسكر العدو مغیراً . (العریان) الذي تجرد من ثوبه ورفعہ بيده إعلاماً لقومه بالغارة عليهم ضرب به النبي ﷺ المثل لأمتہ لأنه تجرد لإندارهم . (فالتجاء النجاء) انجوا بأنفسكم وأسرعوا بالهرب . (فأدجلوا) من الإدلاج ، وهو السير في الليل أو أوله . (مهلهم) تأنيهم وسكيتهم . (فصباحهم) أتاہم صباحاً ، أي بغتة . (فاجتاحهم) استأصلهم وأهلكهم .

ابو اسامہ، حماد بن سلمہ کی کنیت ہے۔

إني أنا النذير العُريَان

عریان کے لغوی معنی ہیں: ننگا، بے لباس، یہاں یا تو یہی معنی مراد ہیں، کسی شخص کو دشمنوں نے پکڑ کر ننگا کر دیا تھا، وہ اپنی قوم کے پاس، اسی حالت میں آ کر دشمنوں کی اطلاع دینے لگا اور ثبوت میں اپنی بے لباسی کو بطور قرینہ و علامت پیش کیا، لوگوں نے اسے خرق عادت اور خلاف معمول حالت میں دیکھ کر اس کی خبر پر یقین کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مثال، اس شخص سے دی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیئے گئے معجزات اور خرق عادت نشانیوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے (۱)۔

بعضوں نے کہا عریان کے معنی فصیح کے آتے ہیں۔ نذیر عریان: وضاحت اور فصاحت کے ساتھ ڈرانے والا (۲)۔

النَّجَاءُ النَّجَاءُ: نجات کے معنی سرعت اور تیزی کے ساتھ چلنے کے ہیں، یہ منصوب علی الاغراء ہے اور فعل محذوف اطلبوا یا الزموا ہے، أي: الزموا النجاء النجاء (۳)۔

فَأَذْجُوا: یہ باب افعال "إدلاج" سے ہے، جس کے معنی رات کے ابتدائی حصہ یا رات میں چلنے کے آتے ہیں (۴)۔

عَلَى مَهْلِهِمْ: مَهْل: وقار اور اطمینان کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ اطمینان اور وقار کے ساتھ راتوں رات نکل گئے۔

صَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ: صَبَّحَ کے معنی صبح کے وقت آنے کے ہیں، أي أُنَاهُمْ صَبَاحاً. لیکن یہ پھر اچانک آنے کے لئے استعمال ہونے لگا۔

اجْتَنَاحَهُمْ: اجتناح: جڑ سے اکھیڑنا اور ختم کرنا۔

(۱) فتح الباری: ۴۸۴/۱۱، وعمدة القاری: ۱۱۵/۲۳، وإرشاد الساری: ۳۸۱/۱۳

(۲) فتح الباری: ۴۸۴/۱۱، وعمدة القاری: ۱۱۶/۲۳

(۳) فتح الباری: ۴۸۴/۱۱، وعمدة القاری: ۱۱۶/۲۳، وإرشاد الساری: ۳۸۱/۱۳

(۴) فتح الباری: ۴۸۵/۱۱، وعمدة القاری: ۱۱۶/۲۳، وإرشاد الساری: ۳۸۱/۱۳

۶۱۱۸ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : (إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَفْعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا ، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبُهُنَّ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا ، فَأَنَا أَخَذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ ، وَأَنْتُمْ تَفَحِّمُونَ فِيهَا) . [ر : ۳۲۴۴]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہوگئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں، اس پر گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے ہی رہے، اس طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کہ اسی میں گرے جاتے ہو۔

ابو الیمان کا نام حکم بن نافع ہے اور ابو الزناد کا نام عبداللہ بن ذکوان ہے۔

جَعَلَ الْفَرَاشَ : یہ فراشہ کی جمع ہے، پروانہ کو کہتے ہیں۔

يَقْتَحِمْنَ : یہ باب افعال سے ہے، اقتحام کے معنی داخل ہونے کے آتے ہیں۔

حُجَزٌ كَمْ : حُجَزٌ (حاء کے ضمہ اور جیم کے فتح کے ساتھ) یہ حُجَزَةٌ کی جمع ہے، معقد ازار یعنی ازار

باندھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، حُجَزٌ کم میں غائب سے خطاب کی طرف التفات ہے (۵)۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں:

”تحقیق التشبيه الواقع في هذا الحديث يتوقف على معرفة معنى

قوله: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَاولئك هم الظالمون﴾ وذلك: أن حدود الله هي

محارمُه ونواهيُه إلا أن حَمَى الله محارمُه، ورأس المحارم حبُّ الدنيا

وزینتها، واستيفاء لذتها، وشهواتها، فشبّه صلى الله تعالى عليه وسلم إظهار تلك الحدود من الكتاب، والسنة باستنقاذ الرجال من النار، وشبّه فشو ذلك في مشارق الأرض، ومغاربها بإضاءة تلك النار ماحول المستوقد، وشبه الناس، وعدم مبالاتهم بذلك البيان، وتعديهم حدود الله، وحرصهم على استيفاء تلك اللذات، والشهوات، ومنعه إياهم عن ذلك بأخذ حجزهم بالفراش التي يفتحمن في النار، ويغلبن المستوقد على دفعهن عن الاقتحام، كما أن المستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاستضاءه والاستدفاء، وغير ذلك، والفراش لجهلها جعلته سبباً لهلاكها، فكذلك القصد بتلك البيانات اهتداء الأمة، واجتنابها ما هو سبب هلاكهم، وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها مقتضية لترديهم، وفي قوله: أخذ بحجزكم، استعارة، مثل حالة منعه الأمة عن الهلاك بحالة رجل أخذ بحجرة صاحبه الذي كان يهوي في مهواة مهلكة.....“ (۶).

یعنی: ”حدیث مبارک میں مذکور تشبیہ کی تحقیق اس آیت کریمہ کے معنی سمجھنے پر موقوف ہے: ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حدود اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حرام کئے ہوئے کام اور چیزیں ہیں، ”حیمی اللہ“ سے بھی ”محارم اللہ“ مراد ہیں، ناجائز اور حرام کاموں کی جڑ، دنیا اور اس کی زیب و زینت سے محبت اور دنیا کی لذتوں کا حصول ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتاب و سنت سے حدود و محارم کے اظہار و بیان کو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے سے تشبیہ دی۔

پھر مشرق و مغرب میں اس کے پھیلاؤ کو آگ کی وجہ سے ارد گرد کی جگہ روشن ہو جانے سے تشبیہ دی اور لوگوں کا ان بیانات کی پرواہ نہ کرنا اور دنیا کی لذتوں کے حصول میں لگے رہنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنا اور آپ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کو ان محارم سے روکنا..... اس کی تشبیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پروانوں کے آگ کی طرف بڑھنے اور انسان کا ان کو آگ میں گھسنے سے روکنے کے ساتھ دی۔

پس جس طرح آگ روشن کرنے والے کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس آگ سے روشنی اور حرارت کا فائدہ حاصل کر سکیں، مگر پروانے اپنی نادانی کے سبب اسی آگ کو اپنی ہلاکت کا سبب بنا دیتے ہیں۔

اسی طرح قرآن و سنت سے محارم اللہ و حدود اللہ کے بیانات کا مقصد امت کی رہنمائی، ان کی خیر خواہی اور جہنم کی آگ میں دخول اور ہلاکت کے اسباب سے اس کو بچانا ہے، مگر لوگ اپنی نادانی کے سبب انہی چیزوں میں منہمک ہیں جو ان کی ہلاکت اور دخول فی النار کا سبب ہیں۔

حدیث کے اس جملہ ”آخِذْ بِحُجْرَتِكُمْ“ میں استعارہ تمثیلیہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو ہلاکت اور جہنم کی وادی میں گرنے سے بچانے کی حالت کو اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی ہے، جو گہری کھائی میں گرنے والے اپنے دوست کو اس کے ازار بند سے پکڑ کر گرنے سے روکتا ہے۔“

### علامہ طیبی رحمہ اللہ کا حاصل کلام

علامہ طیبی رحمہ اللہ کے اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر تین امور کی تشبیہات تین چیزوں کے ساتھ دی گئی ہیں:

① قرآن و سنت کی حدود کے بیان کو، آگ سے بچانے اور نکلنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح آگ جلانے والا شخص اس کے اندر پروانوں کو گرنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح قرآن و سنت کے اندر حدود اللہ کا بیان بھی لوگوں کو ہلاکت سے بچانے اور راہِ نجات کی طرف لانے کے لئے ہے۔

② قرآنی اور نبوی حدود کے عام ہونے کو آگ روشن کرنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح اس

شخص نے آگ جلائی، اس سے روشنی پھیلی، حدود اللہ کا عام ہونا، آگ کی اس روشنی کی طرح ہے جو آگ جلانے سے، اس شخص کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔

۳۲ لوگوں کا حدود اللہ کو پامال کرتے ہوئے لذت پرستی میں مبتلا ہونے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کو روکنے کو تشبیہ دی گئی ہے پر وانوں کے ساتھ جو آگ کو روشن دیکھ کر اس میں گرتے چلے جاتے ہیں، جب کہ آگ جلانے والا وہ شخص انہیں آگ میں گرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔

۶۱۱۹ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ) . [ ر : ۱۰ ]

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان (کے شر) سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور حقیقتاً ہجرت کرنے والا وہ ہے، جو ان چیزوں سے ہجرت کرے (اور چھوڑے) جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، (یعنی گناہوں کو ترک کرنے والا صحیح مہاجر ہے اور ہجرت کا اصل ثواب اور فائدہ اسی کو ملے گا)۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

”المسلم“ میں الف لام عہد خارجی کا ہے اور اس سے کامل مسلمان مراد ہے یعنی کامل مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہوں (۷)۔

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علمی تحقیق کی حد تک تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الف لام عہد کا ہے اور ”المسلم الكامل“ یا ”المسلم الممدوح“ کے معنی میں ہے، لیکن اس صورت میں کلام میں زور باقی نہیں رہتا۔ اگر الف لام کو جنس کے لئے لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ مسلم کے لقب کا وہ شخص حق

دار اور مستحق ہے جس کے ہاتھ پاؤں اور زبان کے شر سے دوسرے محفوظ ہوں اگر کوئی دوسروں کو ایذا اور ضرر پہنچاتا ہے تو وہ موذی اور ضار کہلائے گا، مسلم نہیں کہلائے گا، اس صورت میں تشبیہ اور جر زیادہ ہے۔

یہ بالکل ایسا ہے جیسے اہل عرب ”اہل“ پر ”مال“ کا اور ”عرب“ پر ”ناس“ کا اطلاق کرتے ہیں، ”المال الإبل“، ”الناس العرب“ حالانکہ اہل کے علاوہ مال اور عرب کے علاوہ انسان اور بھی ہیں، لیکن اہل کی اہمیت کو بتانے کے لئے جنس مال کا اور عرب کی اہمیت کو بتانے کے لئے جنس ناس کا اطلاق اہل اور عرب پر کر دیا گیا ہے۔

اسی طرح قاعدہ ہے کہ خانہ کعبہ پر ”بیت“ کا اطلاق اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے، اسی طرح کتاب سیبویہ پر ”الکتاب“ کا اطلاق، یہ بھی اس کی عظمت کے اظہار کے لئے ہے، یہاں بھی الف لام جنس کے لئے لیا جائے اور مطلب یہ ہو کہ جس آدمی کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، گویا یہ تنزیل النقص بمنزلۃ المعدوم کی قبیل سے ہے، کہ مسلمان صرف وہ شخص کہلا سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، یہ عنوان اگر اختیار کیا جائے تو اس سے لوگوں کو تشبیہ ہوگی اور وہ ایذا سے بچنے کا اہتمام کریں گے کہ اگر ہم نے دوسروں کو ضرر یا ایذا پہنچائی تو ہم مسلمان کہلانے کے بھی حق دار نہیں رہیں گے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے (۸)۔

برخلاف پہلی صورت کے کہ اگر وہاں آپ ”المسلم الكامل“ کا ترجمہ کرتے ہیں تو آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھ میں اور بھی بہت نقائص ہیں اگر یہ ایک کوتاہی بھی رہی تو کیا مضائقہ ہے، اس میں اتنا زجر اور تشبیہ نہیں ہوتی، جتنی تشبیہ الف لام کو جنس کا لینے میں ہوتی ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اصل میں یہاں بتانا یہ ہے کہ مسلم ”اسلام“ سے ماخوذ ہے، لہذا مسلم کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچے، یہاں اس علامت کو بیان کرنا مقصود ہے، جس سے انسان کے اسلام پر استدلال کیا جاسکتا ہے اور جس علامت سے اس کو مسلمان سمجھا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسرے اس کے شر سے محفوظ ہوں، کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے (۹)۔

(۸) فیض الباری: ۸۰/۱، وایضاح البخاری: ۱۷۹/۲

(۹) فضل الباری: ۳۲۵/۱

## ایک شبہ اور اس کا جواب

یہاں حدیث کے الفاظ ”المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده“ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کو ایذا نہیں پہنچاتا تو بس وہ مسلمان ہے چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، اسی طرح دیگر فرائض ادا کرے یا نہ کرے، کیونکہ ان میں سے کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ”المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده“ کے ساتھ ”مع مُراعاة باقي الأركان“ کی قید بھی ملحوظ ہے (۱۰)، یعنی یہ نہیں ہے کہ اتنی ہی بات مسلمان ہونے کے لئے کافی ہے بلکہ دوسرے ارکان اسلام کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کا اہتمام ضروری ہے۔

دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں تو صرف اتنی بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان میں یہ سلامتی کا وصف پایا جانا چاہیے، ایک چیز کی اہمیت کی وجہ سے اس کا تذکرہ ہوا ہے، اس سے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ دوسرے احکام و ارکان اسلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور مسلمان ان کی ادائیگی کا مکلف نہیں ہے، اس کا تو یہاں کوئی ذکر نہیں ہے (۱۱)۔

## غیر مسلموں کو ایذا پہنچانے کا حکم

پھر یہاں ”المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده“ میں ”مسلمون“ کی قید پر اشکال ہوتا ہے کہ شر سے حفاظت اہل اسلام کے لئے خاص نہیں، دوسرے انسانوں کو بھی اپنے شر سے بچانا چاہیے، بلکہ ایذا سے تو حیوانات کی حفاظت بھی ضروری ہے، چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے:

”عَذَّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ حَبَسْتَهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ،

قال: فقالوا -والله أعلم-: لا أنتِ أطعمتها ولا سقيتها حين حسبتها، ولا

أنتِ أزلتِها فأكلت من حشاش الأرض“ (۱۲)۔

(۱۰) فتح الباري: ۵۳/۱

(۱۱) إمداد الباري: ۳۲۴/۵۴

(۱۲) صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم ۲۳۶۵، وكتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه..... الخ، رقم ۳۳۱۸، وكتاب أحاديث الأنبياء، باب (بلا ترجمه، بعد باب حديث الغار)، رقم ۳۴۸۲



یعنی: ”ایک عورت کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید رکھا یہاں تک کہ بھوکی مر گئی، جس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی..... اس سے کہا گیا: تو نے اسے قید کے دوران نہ کھلایا نہ پلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے یا حشرات الارض وغیرہ کھا لیتی۔“

اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو بھی ایذا پہنچانے کی ممانعت ہے، پھر ”المسلمون“ کی قید کیوں ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مسلمان کا واسطہ زیادہ تر مسلمانوں ہی سے ہوتا ہے، شب و روز اس کا اختلاط اور ملنا جلنا مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، اس بناء پر ”المسلمون“ کی قید ذکر کی گئی ہے (۱۳)۔ حاصل یہ ہے کہ قید، قیدِ احترازی نہیں، بلکہ قیدِ واقعی ہے، چونکہ ایک مسلمان کی بود و باش، اس کا رہن سہن اور اس کی معاشرت مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے، اس لئے ان کا ذکر کر دیا گیا! کفار کو اذیت پہنچانے، نہ پہنچانے سے متعلق، اس روایت میں کوئی حکم نہیں اور یہ حدیث اس سے خاموش ہے، اس کی الگ تفصیل ہے کہ کفار کی دو قسمیں ہیں: ذمی اور حربی، اگر وہ ذمی ہیں تو ”دِماؤہم کدِ مائنا و اموالہم کما موالنا و اعراضہم کما اعراضنا“ کے اصول کی بناء پر وہ ”المسلمون“ میں داخل ہیں، چاہے وہ حقیقتاً مسلمان نہ ہوں، لیکن ان کو حکماً اہل اسلام میں داخل کیا گیا ہے، اس لئے کہ ان کے دماء، اموال اور اعراض کی حرمت کا وہی حکم ہے، جو مسلمانوں کے دماء، اموال اور اعراض کا حکم ہے۔

کفار اہل حرب کی دو قسمیں ہیں: ایک مصالحن جن سے صلح ہو چکی ہے، دوسرے محاربین جن سے صلح نہیں ہوئی، جن سے صلح ہو چکی ہے ان سے تعرض کی اجازت نہیں ہے، اور صلح کے مطابق ان کے اموال، دماء اور اعراض کی حفاظت کی ذمہ داری ہوگی، لہذا وہ بھی حکماً ”المسلمون“ کی قید میں داخل ہوں گے۔

رہ گئے کفار محاربین جو اہل حرب ہیں اور ان سے کوئی صلح نہیں تو بے شک وہ ایسے ہیں کہ ان کو ضرر اور نقصان پہنچایا جائے گا اور وہ بھی اس لئے تاکہ وہ اسلام کا مقابلہ کرنا اور اسلام کا راستہ روکنا چھوڑ دیں، بس یہ مستثنیٰ

ہوں گے اور باقی دوسرے مستثنیٰ نہیں، وہ حکماً "المسلمون" ہی میں شامل ہیں (۱۴)۔ چنانچہ دوسری روایت میں آتا ہے: "والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم" (۱۵)، یہاں "الناس" کا لفظ عام ہے، اور اس میں مسلمان، ذمی اور حربی مصالِح سب داخل ہیں۔

بہر حال حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں، اپنے کسی قول، اپنے کسی عمل، اپنی کسی ادا اور اپنی کسی حرکت سے، معاشرے کے اندر، دوسروں کے لئے باعثِ اذیت اور باعثِ کلفت نہ ہونا چاہیے کہ یہی اس کے اسلام کی تعلیم اور اس کے پیغمبرِ امن و سلامتی کی تربیت اور حکم ہے!

### من لسانہ ویدہ

لسان کے شر سے سب و شتم، لعن طعن اور بہتان وغیبت سب داخل ہیں، ہر ایک سے بچنا واجب اور ضروری ہے۔ "من لسانہ" فرمایا ہے "من قولہ" نہیں فرمایا، اس لئے کہ لسان سے ایذا پہنچانا بغیر تلفظ اور تکلم کے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آدمی اپنی زبان نکال کر منہ چڑا دیتا ہے اس سے بھی ایذا پہنچتی ہے، تو "لسان" کا لفظ اس لئے استعمال فرمایا تاکہ اس میں تلفظ اور قول بھی شامل ہو جائے اور زبان سے تکلیف و اذیت پہنچانے کی دوسری صورتیں بھی شامل ہو جائیں!

"ویدہ" کا ذکر فرمایا، ہاتھ کے شر میں ضرب اور قتل بھی داخل ہے، دفع اور ہدم بھی، اسی طرح اس میں کتابت بالباطل بھی داخل ہے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایذا تو دوسرے اعضاء سے بھی پہنچائی جاتی ہے، پھر "ید" کی تخصیص کیوں کی گئی؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطنتِ افعال "ید" ہی سے ظاہر ہوتی ہے، اخذ و بطش، وصل و قطع، منع و اعطاء یہ سب ہاتھ سے ہوتے ہیں، یعنی اکثر و بیشتر افعال "ید" کے ذریعہ چونکہ کئے جاتے ہیں، اس لئے اس کا ذکر فرمایا

(۱۴) راجع للاستزادة: فضل الباري: ۳۲۵/۱، وعمدة القاري: ۱۳۳/۱

(۱۵) سنن النسائي: ۲/۲۶۶، كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة المؤمن، وجامع الترمذي، كتاب الإيمان،

باب ماجاء أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، رقم: ۲۶۲۷

دیا، دوسرے اعضا سے احتراز مقصود نہیں ہے۔

یایوں کیسے کہ قبض علی مال الغیر کو چونکہ ”ید“ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو قتل و ضرب وغیرہ کے ساتھ اس نقصان کو قبض علی مال الغیر کی صورت میں ہوتا ہے، شامل کرنے کے لئے یہاں ”ید“ کا عنوان اختیار کیا گیا ہے (۱۶)۔

### تقدیم لسان کی وجہ

یہاں یہ سوال کیا گیا ہے کہ ”لسان“ کو ”ید“ پر کیوں مقدم کیا گیا، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ عام بھی ہے اور تام بھی ہے۔ اس لئے کہ ہاتھ سے تو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو آپ کے سامنے ہو اور عموماً یہی ہوتا ہے، جب کہ زبان سے اس آدمی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو غیر حاضر ہو، یہاں موجود نہ ہو، یا بے چارہ فوت ہو چکا ہو، یا پیدا ہی نہ ہوا ہو، چونکہ زبان کا شرعاً عام اور تام ہے اسی لئے کہا جاسکتا ہے:

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا التِّيَامُ

وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

زبان سے جو زخم لگایا جاتا ہے، وہ کبھی منڈل نہیں ہوتا بلکہ ہرارتتا ہے، جب کہ ہاتھ کا زخم کچھ عرصے کے بعد درست ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا (۱۷)۔

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

یہاں بھی وہی صورت ہے کہ یا تو آپ الف لام کو عہد کے لئے لیں گے اور ”مہاجر“ سے ”مہاجر“ کا مل“ مراد لیں گے۔

یا آپ الف لام کو جنس کے لئے قرار دیں گے اور مطلب یہ ہوگا کہ ہجرت وہی معتبر ہے جس میں گناہ نہ ہو اور مہاجر کہلانے کا مستحق وہی شخص ہے جو گناہ چھوڑ دے، اس لئے کہ وطن کو چھوڑنا بذات خود کوئی مطلوب شے

(۱۶) تفصیل کے لئے دیکھئے، فتح الباری: ۱/۵۴، وعمدة القاری: ۱/۱۳۲، ۱۳۳

(۱۷) عمدة القاری: ۱/۱۳۲

نہیں ہے، ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف ہجرت کرنا تو اسی لئے ہوتا ہے کہ سابق وطن کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لئے اس کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف ہجرت کی جاتی ہے تو ہجرت کا اصل مقصد گناہ کو ترک کرنا ہے، پس اگر کوئی شخص ترک وطن کر کے دارالاسلام کی طرف آ گیا ہے مگر گناہوں کا ارتکاب پھر بھی کر رہا ہے تو وہ مہاجر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔

پھر ”المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ“ کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دراصل مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے تھے تو انصار کی طرف سے ان کے لئے ایثار کا مظاہرہ ہوتا تھا، وہ اپنے اموال بھی ان کو پیش کرتے تھے اور بعض اوقات اگر انصاری کی کئی بیویاں ہوتی تھیں تو وہ ان کو بھی پیش کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جس کو پسند کرو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لینا، تو اس لئے آپ نے تنبیہ کرنے لئے کہ ہجرت میں ان چیزوں کو مطلب و مقصود نہ بنالینا، ورنہ ہجرت کا عمل ضائع ہو جائے گا، فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو، اس سے ہجرت کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور ہجرت حقیقیہ بھی شامل ہوگی۔

ایک بات یہ بھی تھی کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو قلق اور افسوس تھا کہ ہم پہلے اگر اسلام لے آتے تو ہمیں بھی ہجرت کی فضیلت حاصل ہوتی، جو بڑی اہم فضیلت تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لو لا الهجرة لکنتم امرءاً من الأنصار“ (۱۸)۔

اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میری تمنا اور آرزو ہوتی کہ میں بھی ایک انصاری ہوتا لیکن ہجرت کی فضیلت کی وجہ سے میں یہ تمنا نہیں کرتا۔ تو وہ حضرات جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور ہجرت کا شرف انہیں حاصل نہ ہوا، ان کو افسوس تھا، ان کی تسلی اور اطمینان قلب کے لئے فرمایا کہ حقیقی ہجرت تو یہ ہے کہ گناہوں سے ہجرت اختیار کی جائے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کیا جائے اور اس فضیلت کو تم اب بھی حاصل کر سکتے ہو، ان حضرات کی تسلی اور اطمینان کے لئے گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا (۱۹)۔

(۱۸) راجع: صحیح البخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: لو لا الهجرة لکنتم امرءاً من الأنصار، رقم ۳۷۷۹، و کتاب التمني، باب ما يجوز من اللغو، رقم ۷۲۴۴، ۷۲۴۵، و جامع الترمذی، کتاب المناقب، باب فضل الأنصار و قریش، رقم ۳۷۹۹۔

(۱۹) فتح الباری: ۱/۵۴، و إرشاد الساری: ۱/۹۴

## ہجرت کا حکم

ہجرت کی ایک قسم ظاہری ہے اور ایک قسم باطنی (۲۰)۔

ہجرت ظاہرہ کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی کسی دارالکفر میں رہتا ہے اور وہاں حکم اسلام کو ادا کرنے کی اس کے لئے گنجائش نہیں چھوڑی گئی تو اس کے لئے ہجرت کرنا فرض ہے اور اگر وہاں احکام اسلام کو ادا کرنے میں کوئی خلل اندازی نہیں کی جاتی تو اس کے لئے ہجرت فرض تو نہیں ہے، لیکن پسندیدہ اور مستحب پھر بھی ہے، اس لئے کہ مسلمانوں کا ایک جگہ پر جتنا زیادہ اجتماع ہوگا، اتنا ہی وہ اسلام اور اہل اسلام کے حق میں زیادہ مفید ہوگا۔

ہجرت کی دوسری قسم جو ہجرت باطنہ ہے، اس کو ہجرتِ حقیقیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت من الذنوب والمعاصی، کیونکہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جو ہجرت ہو رہی ہے، یہ بذاتِ خود کوئی مقصود نہیں، یہ تو اس لئے ہے تاکہ گناہوں سے اور احکام اسلام کے ترک سے آدمی بچا رہے، اس لئے ہجرت من الذنوب والمعاصی، ہجرتِ حقیقیہ اور ہجرت باطنہ ہے، ظاہر ہے یہ ہجرت سب پر لازم اور ضروری ہے (۲۱)۔

۲۷ - باب : قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِحْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) .

۶۱۲۰ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِحْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) . [۶۲۶۱]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہوتا وہ جو میں جانتا ہوں تو تم ہنتے کم اور روتے زیادہ! (یعنی اللہ

تعالیٰ کے عذاب کی جو ہولناکیاں میرے مشاہدے اور علم میں ہیں، وہ تمہیں معلوم ہو جائیں

تو تم کوہنسی ہی نہ آتی اور بکثرت روتے رہتے)۔

عُقَيْل (عین کے ضمہ اور قاف کے فتح کے ساتھ) ان کے والد کا نام خالد ہے۔

(۲۰) فتح الباری: ۵۴/۱

(۲۱) مزید تفصیل کے لئے دیکھئے، کشف الباری، کتاب الإیمان: ۲۷۷/۲

۶۱۲۱ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) .  
[ ر : ۴۳۴۵ ]

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ (۱)۔

اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کی طرف نکلے، تو دیکھا کہ

کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ موت کو بکثرت یاد کیا کرو، قسم ہے اس ذات کی! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہیں وہ ہولناکیاں معلوم ہو جائیں جو مجھے معلوم ہیں تو تم ہنسو گے کم اور روؤ گے زیادہ۔

(۱) قال ابن بطال:

روى سنيد، عن هشيم، عن كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر قال:

«خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، فإذا قوم يتحدثون ويضحكون، قال: أكثروا ذكر الموت، أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً.»

وخشية الله إنما تكون على مقدار العلم به، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ۲۸]، ولما لم يعلم أحد كعلم النبي ﷺ لم يخش كخشيتيه، فمن نور الله قلبه وكشف الغطاء عن بصيرته، وعلم ما حياه الله من النعم، وما يجب عليه من الطاعة والشكر، وأفكر فيما يستقبل من أهوال يوم القيامة، وما يلقي العباد في تلك المواقف من الشدائد، وما يعاينوه من مساعلة الله عباده عن مشاقيل الذر، وعن الفتيل والقطمير كان حقيقاً بكثرة الحزن وطول البكاء، ولهذا قال أبو ذر: لو تعلمون العلم ما ساغ لكم طعام ولا شراب، ولا نتم على الفرش، ولا اجتنبتم النساء، وخرجتم إلى الصدقات تجارون وتبكون.

وقال عبد الله بن عمرو: ابكوا، فإن لم تجدوا بكاءً فبكاوا، فلو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره، ولبكى حتى ينقطع صوته. وقال الفضيل: بلغني عن طلحة أنه ضحك يوماً فوثب على نفسه، وقال: فيم تضحك، إنما يضحك من قطع الصراط، ثم قال: آليت على نفسي ألا أكون ضاحكاً حتى أعلم متى تقع الواقعة، فلم ير ضاحكاً حتى صار

إلى الله. (وانظر شرح ابن بطال: ۱۰/۱۹۵)

## ۲۸- باب : حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ .

۶۱۲۲ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ) .  
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔

## جہنم اور خواہشاتِ نفسانی

جہنم شہوات اور لذتوں کے ساتھ ڈھک دی گئی ہے، شراب، زنا اور دوسرے ناجائز لذت پرستی کے کام جہنم تک پہنچانے والے ہیں، اس کے مقابلے میں جنت جن کاموں اور امور سے حاصل ہوتی ہے، ان میں نفس کا مجاہدہ اور مشقت ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں تفصیل آئی ہے، جس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے مرفوعاً نقل کیا ہے:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ، فَقَالَ: انظُرْ إِلَيْهَا، قَالَ فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فُحِّفَتْ بِالنَّمَكَارِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانظُرْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ، فَيَدْخُلُهَا، فَأَمَرَ بِهَا فُحِّفَتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ“ (۱).

یعنی: ”اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم پیدا فرمائی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام

کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا اسے دیکھ کر آؤ، وہ دیکھ کر واپس آئے تو عرض کیا: تیری عزت کی قسم! اس کے متعلق تو جو بھی سنے گا، اس میں داخل ہو کر ہی رہے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے مجاہدات اور پر مشقت اعمال سے ڈھک دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو اس کے دیکھ کر آنے کا حکم دیا، اس بار جب وہ دیکھ کر واپس آئے تو عرض کیا: تیری عزت کی قسم! مجھے خدشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دیکھ کر آنے کا حکم دیا، جہنم دیکھ کر جب وہ واپس آئے تو عرض کیا: تیری عزت کی قسم! اس کے متعلق جو بھی سنے گا، اس میں داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات اور لذتوں کے ساتھ ڈھکنے کا حکم دیا، پھر ان سے دوبارہ اس کو دیکھ کر آنے کا حکم دیا، اب کی بار جب وہ دیکھ کر واپس آئے تو عرض کیا: تیری عزت کی قسم! مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی بھی نہ بچ سکے گا۔“

۲۹- باب : (الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ) .

۶۱۲۳ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ) .

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح دوزخ بھی۔

## جنت ایک قدم کے فاصلے پر

مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے تو جنت قریب ہے اور اس کی نافرمانی کی جائے تو جہنم قریب ہے، علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ تصحیح نیت کر کے طاعت اختیار کی جائے تو جنت کا ملنا آسان ہے، اور نفسانی خواہش کی موافقت کر کے نافرمانی اختیار کی جائے تو جہنم میں گرنا



آسان ہے (۱)۔

۶۱۲۴ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَصْدَقُ نَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ) . [ ر : ۳۶۲۸ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سچا شعر جسے شاعر نے کہا ہے، یہ ہے: اِلا کُلُّ شَیْءٍ مَا خَلَا اللّٰہَ بَاطِلٌ  
 ”ہاں! اللہ کے سوا تمام چیزیں بے بنیاد ہیں۔“  
 غندر کا نام محمد بن جعفر ہے۔

### ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت

روایت کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا ہر شیء باطل ہے، علامہ یعنی فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی طاعت اور قرب کا ذریعہ نہ بنے، وہ باطل ہے اور اس میں مشغول رہنا، اپنے آپ کو جنت سے دور کرنا ہے، حالانکہ جنت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اللہ کی اطاعت والے امور میں مشغول ہونا، جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے، وہ جہنم جو جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے..... علامہ یعنی رحمہ اللہ نے یہ مناسبت بیان کر کے لکھا: ”إِنَّهُ مِنَ الْفَيْضِ إِلَهِي الَّذِي وَقَعَ فِي خَاطِرِي.....“ یعنی: ”یہ مناسبت الہامی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے میرے دل میں آئی“ (۲)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دوسری حدیث کی مناسبت واضح نہیں، پھر مناسبت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ترجمہ الباب اور پہلی حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ طاعت اختیار کی جائے اور معصیت سے بچا جائے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص طاعت اختیار نہیں کرے گا، وہ کسی دنیوی کام کی وجہ سے ایسا کرے گا اور دنیا کا ہر کام باطل اور فانی ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے، لہذا عقل کا تقاضا ہے

(۱) فتح الباری: ۳۹۰/۱۱

(۲) عمدة القاري: ۱۲۰/۲۳، وإرشاد الساري: ۴۸۶/۱۳، ۴۸۷

کہ فانی کو باقی پر ترجیح نہ دی جائے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

”مناسبة هذا الحديث الثاني للترجمة خفية، وكان الترجمة لما تضمنت ما في الحديث الأول من التحريض على الطاعة ولو قلت والزجر عن المعصية ولو قلت فيفهم أن من خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة في أمر من أمور الدنيا، وكل ما في الدنيا باطل كما صرح به الحديث الثاني، فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي“ (۳).

۳۰- باب : لِيَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَلَا يَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ .

۶۱۲۵ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس وقت کسی ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجہ ہے۔

اعرج کا نام عبد الرحمن بن مہز مہز ہے، اور ابو الزناد کا نام عبد اللہ بن ذکوان ہے۔

## ایک ایمان افروز اصول

اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے زندگی کا ایک مؤمنانہ اصول بیان فرمایا ہے کہ مال و دولت کے سلسلے میں انسان کو اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے برتر کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے اس لئے کہ دنیوی اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھے گا تو اپنی حالت پر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور برتر کی طرف دیکھے گا تو دنیوی حرص و ہوس میں اضافہ ہوگا اور شکر کی طرف توجہ نہیں رہے گی، یہ دنیا کسمپرسی، بے کسی اور تنگ دستی کے واقعات

سے بھری پڑی ہے اور بہت خستہ حال شخص بھی اپنے سے زیادہ خستہ حال کو تلاش کرے گا، تو اسے مل جائے گا۔  
البتہ دین اور اللہ کی طاعت کے سلسلے میں معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے کہ انسان اپنے سے برتر کی طرف نظر کرے تو اس کے ورع و تقویٰ اور شوقِ عبادت میں یہ اضافے کا ذریعہ بنے گا، اور اپنی دینی حالت اگر اچھی ہے تو اس پر عُجب پیدا نہیں ہوگا۔

چنانچہ عمر بن شعیب سے ایک مرفوع حدیث منقول ہے، اس میں ہے:

”خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا: مَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ“ (۱)۔

یعنی ”دو خصلتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ جل شانہ اسے شاکر و صابر لکھ دیں گے، ایک یہ کہ آدمی دنیا میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے اور اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے اس کو اس کم تر پر فوقیت عطا فرمائی ہے، دوسری یہ کہ آدمی اپنے دین میں اپنے سے برتر کی طرف دیکھے اور اس کی اتباع کرے۔“

علامہ ابن بطل رحمہ اللہ، بخاری شریف کی شرح میں حدیثِ باب کے متعلق لکھتے ہیں:

”وهذا حديث جامع لمعاني الخير، وذلك أن العبد لا يكون بحال من عبادة ربه مجتهداً فيها؛ إلا وجد من هو فوقه في ذلك، فمتى طلب نفسه باللحاق بمن هو فوقه استقصر حاله التي هو عليها، فهو أبدأ في زيادة تقربه من ربه، ولا يكون على حالة خسيصة من دنياه إلا وجد من أهلها من هو أحسن منه حالاً، فإذا تأمل ذلك وتفكره وتبين نعم الله عليه؛ علم أنها وصلت إليه تصل إلى كثير من خلقه، فضله الله بها من غير أمر أوجب ذلك له على خالقه، ألزم نفسه من الشكر عليها أن وفق لها ما يعظم به اغتباطه في معاده (۲)۔“

(۱) إرشاد الساري: ۴۸۷/۱۳، سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب: ۴/۶۶۵، رقم الحديث: ۲۵۱۲، ولفظه: خصلتان من كانتا فيه كتب الله شاكراً صابراً، ومن لم تكونا فيه، لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً، من نظر في دنياه إلى من هو فوقه فاقتنى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه، فحمد الله على ما فضل به عليه كتب الله شاكراً صابراً.....

(۲) شرح ابن بطل: ۱۹۹/۱۰

۳۱- باب : مَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ أَوْ سَيِّئَةٍ .

۶۱۲۶ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا جَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ  
الْعَطَارِدِيُّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
قَالَ : قَالَ : (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ ، فَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا  
كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا وَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى  
سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أضعافٍ كَثِيرَةٍ ، وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ،  
فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً) . [ر : ۷۰۶۲]

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی ہیں اور پھر  
انہیں واضح کر دیا ہے، پس جس نے نیکی کا ارادہ کیا، لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے  
اس کے لئے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا ہے اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو  
اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک نیکیاں لکھی ہیں اور اس سے بھی  
بڑھا کر اور جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے  
اپنے یہاں ایک نیکی لکھی ہے اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اپنے یہاں  
اس کے لئے صرف ایک برائی لکھی ہے۔

## قصہ و ارادہ کے پانچ مراحل

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نیکی اور گناہ کے قصہ اور ارادہ کا حکم بیان فرمایا ہے۔ حضرات علماء  
نے قصہ و ارادہ کے پانچ مراتب بیان کئے ہیں، ان میں سے صرف آخری مرتبہ جمہور علماء کے نزدیک قابل  
مواخذہ ہے، باقی صورتوں میں مواخذہ نہیں۔

① ھا جس : یہ قصہ و ارادہ کا پہلا درجہ ہے، کہ کسی گناہ کا اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا خیال بے اختیار

دل و دماغ میں آکر گزر جائے، اسے ہا جس کہتے ہیں، اور ہوا کے جھونکے کی طرح آنے والے اس طرح کے خیال پر کوئی مواخذہ نہیں۔

② خاطر: کسی برائی کا خیال دل میں آکر ٹھہر جائے اور قرار حاصل کرے جس کی وجہ سے ایک خلیجانی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن اس خیال پر عمل کرنے، نہ کرنے کے متعلق کوئی ارادہ پیدا نہ ہو، اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں۔

③ حدیث النفس: یہ قصد و ارادہ کا تیسرا درجہ ہے، کہ دل میں خیال آکر ٹھہرے اور عمل کرنے اور نہ کرنے کی طرف بھی توجہ ہوئی لیکن تردد کی وجہ سے عمل یا ترک، کسی طرف جھکاؤ نہیں ہوا اور وہ خیال جاتا رہا..... اس مرحلہ پر بھی کوئی مواخذہ نہیں۔

④ ہم: یہ قصد و ارادہ کا چوتھا درجہ ہے، کہ دل میں خیال آکر قرار پکڑے اور اس پر عمل کی طرف میلان اور جھکاؤ بھی پیدا ہو، لیکن اس میلان میں ابھی پختگی نہیں..... یہ مرحلہ بھی قابل مواخذہ نہیں۔

⑤ عزم: یہ پانچواں مرحلہ ہے، اس میں دل میں آنے والا خیال صرف قرار ہی نہیں پکڑتا بلکہ اس پر عمل کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ پایا جاتا ہے۔ یہ صورت جمہور علماء کے نزدیک قابل مواخذہ ہے (۱)۔  
کسی نے ان پانچ مراتب کو اس شعر کے اندر بیان کر دیا ہے:

مراتب القصد خمس: هاجسٌ ذكِرَ فحاطرٌ، فحدیثُ النفسِ فاستمِعَا

يَلِيهِ هَمٌّ، فَعَزْمٌ، كُلُّهَا رُفِعَتْ سَوَى الْآخِرِ فِيهِ الْأَخْذُ قَدْ وَقَعَا (۲)

قصد و ارادہ کی جو صورت قابل مواخذہ ہے، وہ عزم والی صورت ہے، جس میں کسی برے خیال اور معصیت پر آمادہ ہونے کا اس قدر پختہ ارادہ کر لیا جائے کہ اگر کوئی خارجی مانع نہ ہو اور اسباب و ذرائع مہیا ہوں تو وہ یقینی طور پر عملی صورت اختیار کر لے اور اس پر عمل کر گزرے۔

(۱) فتح الباری: ۳۹۸/۱۱، وفتح الملہم، کتاب الإیمان، باب إذا همَّ العبد بحسنة كتبت وإذا همَّ بسیئة لم

تکتب: ۹۴/۲، والتعلیق الصبیح، کتاب الإیمان: ۵۹/۱

(۱) وفتح الملہم، کتاب الإیمان، باب إذا همَّ العبد بحسنة كتبت، وإذا همَّ بسیئة لم تکتب: ۹۵/۲

یہ صورت قابل مواخذہ ہے، البتہ اس مواخذہ کی نوعیت عملی طور پر ہونے والے گناہ سے کم ہوگی، یہ گناہ، ارادہ کا ہے، عمل کا نہیں..... یہ جمہور علماء کا مسلک ہے، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اسے فقہاء، محدثین اور جمہور سلف کا مسلک قرار دیا ہے (۳)۔

اس پر صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث سے اشکال ہو سکتا ہے جس کے الفاظ ہیں:

”إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَالِمَ تَعْمَلُ أَوْ

تَتَكَلَّمُ بِهِ“ (۴)۔

یعنی: ”اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے دوسوں کو

معاف کر دیا ہے، الایہ کہ وہ ان پر عمل کر گزریں یا ان کو زبان پر لے آئیں“۔

اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالِمَ يَتَكَلَّمُوا، أَوْ يَعْمَلُوا

بِهِ“ (۵)۔

یعنی: ”اللہ تعالیٰ نے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور وساوس کو معاف

کر دیا ہے، الایہ کہ انہیں زبان پر لایا جائے یا ان پر عمل کیا جائے“۔

صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے، اس میں ہے:

”إِذَا هُمْ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا، فَارْتَبُوهَا

سَيِّئَةً“ (۶)۔

(۳) شرح مسلم للنووي، كتاب الإيمان: ۱/۳۳۰

(۴) صحيح البخاري، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقه والطلاق: ۱/۳۴۳

(۵) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله من حديث النفس: ۱/۳۲۷، رقم: ۳۲۷

(۶) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة.....: ۱/۳۲۹، رقم: ۲۳۰

یعنی: ”صرف ارادہ گناہ پر میرے بندے کا گناہ نہ لکھو، اگر وہ ارادہ عمل میں لے

آیا تو پھر ایک گناہ لکھو“۔

ان احادیث کے ظاہر سے استدلال کر کے بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ جب تک فعل صادر نہ ہو، تو صرف خیال اور عزم کی وجہ سے مواخذہ نہیں ہوگا، امام مازری رحمہ اللہ نے اس کو اکثر فقہاء اور محدثین کا مسلک قرار دیا (۷)۔

جو حضرات عزم سید پر مواخذہ کے قائل ہیں، وہ ان احادیث کو ان صورتوں پر محمول کرتے ہیں۔ جب عزم نہ ہو، صرف دل میں خیال آجائے، امام ابو بکر باقلانی نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اسی مسلک کو حسن قرار دیا، وہ فرماتے ہیں عزم قلب پر مواخذہ کا ہونا نصوص شرعیہ سے ثابت ہے، مثلاً آیت کریمہ میں ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۸)..... اسی طرح ایک دوسری آیت کریمہ میں ہے: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (۹) بدگمانی، حسد، تکبر، کسی مومن کی دل سے تحقیر..... تمام وہ روحانی بیماریاں ہیں، جن کا تعلق دل سے ہے اور ان کے مواخذے پر علماء کا اجماع ہے (۱۰)۔

بعض احادیث سے بھی صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا اگر کسی نے عزم کر لیا تو اس پر مواخذہ ہے۔

## تعارض روایات اور اس کا حل

امام احمد رحمہ اللہ نے ابو کبشہ انمارئیؓ سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، جس میں ہے: دنیا چار آدمیوں کے لئے ہے، اس میں ہے:

”عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا، وَلَمْ يَرِزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَعْمَلُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ“

(۷) دیکھئے: شرح مسلم للنووي، كتاب الإيمان: ۳۳۰/۱

(۸) سورة النور: ۱۹

(۹) سورة الحجرات: ۱۲

(۱۰) مذکورہ تفصیل کے لئے دیکھئے، شرح مسلم للنووي، كتاب الإيمان: ۳۳۰/۱

لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَرَى اللَّهُ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ  
الْمَنَازِلِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَرِزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا، لَعَمِلْتُ  
فِيهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ، فَهَمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ“ (۱۱).

یعنی: ”جس بندے کو اللہ نے مال دیا، مگر علم نہ دیا ہو اور وہ اپنے مال میں بغیر  
علم کے ایسا تصرف کرتا ہے کہ اس کی بابت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ اسے صلہ رحمی میں  
خرچ کرتا ہے اور نہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حق سمجھتا ہے، تو یہ بدترین درجے میں ہے اور  
وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہو اور نہ علم، مگر اس کی خواہش ہو کہ اس کے پاس اگر  
مال ہوتا تو وہ بھی اس پہلے والے شخص کی طرح اس مال میں تصرف کرتا تو ان دونوں کا گناہ  
برابر سہا ہے۔“

اس حدیث اور حدیث باب میں بظاہر تعارض ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا حل یہی نکالا کہ  
مسند احمد کی اس حدیث کو عزم پر محمول کیا جائے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِالتَّنْزِيلِ عَلَى حَالَتَيْنِ: فَتَحْمَلُ الْحَالَةُ الْأُولَى  
عَلَى مَنْ هَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ هَمًّا مَجْرَدًا مِنْ غَيْرِ تَصْمِيمٍ، وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مَنْ  
صَمَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ، وَأَصْرًا عَلَيْهِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَاقِلَانِيُّ“ (۱۲).

یعنی: ”ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ان کو دو حالتوں  
پر محمول کیا جائے، پہلی حالت کو اس شخص پر محمول کیا جائے جو گناہ کا ارادہ کرے مگر وہ ارادہ  
مصمم اور پختہ نہ ہو اور دوسری حالت کو اس شخص پر محمول کیا جائے جو گناہ کا عزم مصمم کرے،  
جیسا کہ باقلانی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔“

(۱۱) مسند الإمام أحمد: ۴/۲۳۱

(۱۲) فتح الباري: ۱۱/۳۲۵



اسی طرح ایک دوسری مشہور حدیث ہے:

”إِذَا تَقَى الْمُسْلِمَانِ بَسِيفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، قِيلَ: هَذَا

الْقَاتِلُ، فَمَا بِالْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ“ (۱۳).

یعنی: ”جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آجائیں (اور

ایک قتل ہو جائے) تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے، کسی نے عرض کیا: یہ تو قاتل

ہے، مگر مقتول کا کیا قصور؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ بھی اس قاتل کو قتل کرنے

کا سخت خواہش مند تھا۔“

اس حدیث سے بھی عزم گناہ پر مواخذے کی صراحت معلوم ہو رہی ہے۔

### حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی تحقیق

لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ابوکبشہ انماری اور ان دوسری نصوص کے بارے میں فرمایا

کہ ان میں عزم اور مراقب قصد کا ذکر نہیں، بلکہ یہ درحقیقت اخلاقی بیماریاں ہیں اور یہ الگ چیز ہیں،

حضرت لکھتے ہیں:

”قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعَزْمِ فِي شَيْءٍ

حَتَّى يَسْتَدِلَّ بِهِ مَنْ يَقُولُ بِالْمَوْأَخَذَةِ بِالْعَزْمِ، فَإِنَّ مَدْلُولَ حَدِيثِ أَبِي كَبْشَةَ،

إِنَّمَا هُوَ التَّحَشُّرُ عَلَى فَوَاتِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَفُقْدَانِ أَسْبَابِهَا، وَهَذَا مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ

النَّفْسَانِيَّةِ الَّتِي تُلْحَقُ بِالْمَلَكَاتِ: كَالْحَسَدِ، وَالْعُجْبِ، وَالنَّفَاقِ، وَالْكِبْرِ،

وغيرها وكذلك حُبُّ شُبُوعِ الْفَاحِشَةِ، وَإِسَاءَةُ الظَّنِّ بِاللَّهِ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ

مِنْ مَرَاتِبِ الْقَصْدِ، بَلْ هُمَا مِنْ جِنْسِ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ وَالْمَلَكَاتِ الرَّدِيئَةِ الَّتِي

يُؤَاخَذُ بِهَا الْعَبْدُ بِالْإِتْفَاقِ، فَيُظْهِرُ عَلَى هَذَا رَكَاكَةَ الْإِحْتِجَاجِ بِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ.....﴾ وقوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ.....﴾ على المواخِذِ بالعزم“ (۱۴).

یعنی: ”میرا خیال ہے، ابوبکھہ انماری کی حدیث کا تعلق عزم سے ہے ہی نہیں کہ اس سے عزم پر مواخذہ کرنے پر استدلال کیا جاسکے، بلکہ اس حدیث کا مدلول و مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو سکنے اور معصیت کے وسائل و اسباب موجود نہ ہونے پر افسوس و حسرت کرتا ہے اور یہ کیفیات نفسانیہ سے تعلق رکھتا ہے، جو برے اخلاق، مثلاً: حسد، عجب، نفاق، تب کرو غیرہ کے حکم میں ہیں، اسی طرح بے حیائی کے پھیلاؤ کی خواہش اور اللہ تعالیٰ اور مومنین کے متعلق بدگمانی بھی مراتبِ قصد میں سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ اخلاقِ ذمیرہ اور برے ملکات کی جنس سے ہیں جس پر بالاتفاق انسان کا مواخذہ کیا جاتا ہے، اس تفصیل سے یہ بات واضح اور ظاہر ہوگئی کہ عزم پر مواخذہ کے سلسلے میں آیت کریمہ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ.....﴾ اور آیت کریمہ: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ.....﴾ سے استدلال کرنا کس قدر ضعیف اور رکیک ہے۔“

عزم کی دو قسمیں: فائدہ..... بعض حضرات نے عزم کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں:

① ایک وہ جن کا تعلق صرف دل سے ہے اور اعضاء و جوارح سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، جیسے شک، حسد، بغض وغیرہ۔

② دوم وہ جن کا تعلق جوارح سے ہے، مثلاً زنا، چوری وغیرہ..... علماء کا ذکر کردہ اختلاف اس دوسری قسم میں ہے، یعنی ایک شخص نے ایسی برائی کا دل سے ارادہ کیا جس کا تعلق جوارح سے ہے، مثلاً چوری، زنا وغیرہ کا تو اس کا مواخذہ ہوگا یا نہیں؟..... بعض علماء کے نزدیک جب تک عملی شکل اختیار نہ کر لے، مواخذہ نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے اس برائی کے ارتکاب کا عزم اور پختہ ارادہ ہی کیوں نہ کر لیا ہو اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ پختہ ارادے کی صورت میں مواخذہ ہوگا (۱۵)۔

(۱۴) فتح الملہم، کتاب الإیمان: ۹۴/۲

(۱۵) فتح الملہم، کتاب الإیمان: ۹۵/۲

## ۳۲- باب : مَا يُتَّقَىٰ مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ .

## گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے

گناہوں کو معمولی اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس طرح انسان کے دل میں گناہوں کی سنگینی اور شاعت ختم ہو جاتی ہے اور انسان بڑے بڑے گناہوں کا عادی ہونے لگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا: يَا عَائِشَةُ، إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا“ (۱)۔ یعنی: اے عائشہ! جو گناہ چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، ان سے بھی بچئے، اس لئے کہ اللہ کی طرف سے ان کی باز پرس ہوگی۔“

۶۱۲۷ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ ، عَنْ غِيْلَانَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :  
إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا ، هِيَ أَدْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ  
مِنَ الْمَوْبِقَاتِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : يَعْني بِذَلِكَ الْمُهْلِكَاتِ .

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم لوگ بہت سے اعمال کرتے ہو اور وہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ معمولی ہوتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ”موبقات“ سمجھتے تھے۔

ابو عبد اللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ موبقات سے مراد ہیں: ہلاک کرنے والے گناہ۔

مہدی سے مہدی بن میمون مراد ہے، اور غیلان سے غیلان بن جریر مراد ہیں، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حافظ ابن حجر نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں اس کی وضاحت کی ہے (۲)، اگرچہ فتح الباری میں

(۱) فتح الباری: ۱۱/۴۰۰

(۲) ہدی الساری، الفصل السابع: ۴۹۰

انہوں نے غیلان بن جامع لکھا ہے لیکن مقدمہ والا قول ہی صحیح ہے (۳)۔ تاہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں غیلان بن جریر ہی لکھا ہے (۴)، ممکن ہے قسطلانی کے پاس جو نسخہ تھا، اس میں ”ابن جامع“ لکھا ہو! علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وكان الصحابة يعدون الصغائر من الموبقات لشدة خشيتهم لله ولم تكن لهم كبائر، والمُحَقَّرَات إذا كَثُرَتْ، صارت كبائر للإصرار عليها“ (۵)۔  
یعنی: ”حضرات صحابہ، خوف خدا کی وجہ سے چھوٹے گناہوں کو بھی مہلک گناہ سمجھتے تھے، بڑے گناہ تو ان کے تھے ہی نہیں، چھوٹے گناہوں کی بھی جب کثرت ہو جائے تو وہ بڑے بن جاتے ہیں۔“

### ۳۳- باب : الْأَعْمَالُ بِالْخَوَائِمِ ، وَمَا يُخَافُ مِنْهَا .

#### اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے

اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے، انسان کے خاتمہ کے وقت اس کا عمل کیسے رہا؟ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، ایک شخص ساری زندگی گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہا، لیکن آخر عمر میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور خیر کی توفیق دے دی اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، تو وہ ایک کامیاب اور بامراد انسان ہے، اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ساری زندگی اللہ کی طاعت میں مصروف رہا، لیکن آخر میں کسی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ نہیں ہوا، تو یہ ناکام اور نامراد ہے، اس لئے انسان کو اپنے خاتمے کے بارے میں بڑا فکر مند رہنا چاہیے اور سوء خاتمہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اصل اعتبار خاتمہ ہی کا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب سے، اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے.....

جس شخص کو اپنے خاتمہ اور عاقبت کی فکر رہے گی، وہ اپنے اعمال کے بارے میں عجب اور خود پسندی

میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔

(۳) إرشاد الساري: ۱۳/۴۹۰

(۴) دیکھئے، فتح الباري: ۱۱/۴۰۰

(۵) عمدة القاري: ۲۳/۱۲۳

۶۱۲۸ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ الْأَلْهَانِيُّ الْحِمِصِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ ، فَقَالَ : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ) . فَتَبِعَهُ رَجُلٌ ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ ، فَاسْتَعَجَلَ الْمَوْتَ ، فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، فَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ ، عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لِمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ ، عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا ) . [ ر : ۲۷۴۲ ]

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرکین سے جنگ میں مصروف تھا، یہ شخص مسلمانوں کے صاحب مال و دولت لوگوں میں سے تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جہنمی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے، اس پر ایک صاحب اس شخص کے پیچھے ہو گیا، وہ شخص مسلل لڑتا رہا اور آخر زخمی ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ جلدی مر جائے، چنانچہ اپنی تلوار کی دھارا اپنے سینے کے درمیان رکھ کر اس پر اپنے آپ کو ڈال دیا اور تلوار اس کے شانوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ بسا اوقات لوگوں کی نظر میں اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، ایک دوسرا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جہنم کے کام کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے (کیونکہ آخری زندگی میں صالح ہو جاتا ہے)۔ اور اعمال کا اعتبار تو خاتمہ پر ہے۔

ابوغسٹان کا نام محمد بن مطرف ہے۔

ذبابۃ : تلوار کی دھارا، یہ حدیث کتاب الجہاد میں باب لایقال فلان شہید کے تحت گزر چکی ہے،

حدیث شریف میں جس آدمی کا ذکر ہے، اس کا نام قزمان (بضم القاف) تھا۔

## ۳۴- باب : العزلة راحة من خلط السوء .

عزلة: (بضم العين وسكون الزاء) خلوت اور تنہائی کو کہتے ہیں۔

خلاط: خلیط کی جمع ہے، خلیط کی جمع خلطاء بھی آتی ہے، علامہ یعنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ

مصدر بھی ہو سکتا ہے، خلیط سے مراد دوست اور ساتھی ہیں۔ سوء: (سین کے فتح کے ساتھ) بمعنی برا (۱)۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ خلوت نشینی اور تنہائی میں برے مصاحبین اور غلط قسم کے لوگوں کی

صحبت سے انسان محفوظ رہتا ہے۔

امام حاکم نے حضرت ابو ذر سے روایت نقل کی ہے، ”الوحدة خیر من جلیس السوء.....“ (۲)۔

یعنی: تنہائی، برے ساتھی سے بہتر ہے۔

ترجمۃ الباب کے جو الفاظ ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جسے ابن ابی شیبہ نے موصولاً ذکر

فرمایا ہے (۳)۔

## خلوت نشینی کے فوائد

خلوت نشینی کے بڑے فوائد ہیں، انسان بری صحبت سے اور لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے، خلوت

نشینی اختیار کرنے والا لوگوں کے شر سے اور لوگ اس کی اذیت سے محفوظ ہوتے ہیں، عبادت کے لئے دل جمعی کے

ساتھ وقت مل جاتا ہے اور لغو اور فضول باتوں سے آدمی بچا رہتا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا قول مشہور ہے:

”مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة“ (۴)۔ یعنی: ”خلوت نشینی کی

مشقت، لوگوں کے اختلاط کے مدارات کے مقابلے میں آسان ہے۔“

(۱) فتح الباری: ۴۰۲/۱۱، وعمدة القاری: ۱۲۵/۲۳

(۲) فتح الباری: ۴۰۲/۱۱، مستدرک الإمام الحاکم، کتاب معرفة الصحابة: ۳۸۷/۳، رقم الحدیث:

(۳) فتح الباری: ۴۰۲/۱۱

(۴) فتح الباری: ۴۰۲/۱۱، وإرشاد الساری: ۴۹۴/۱۳

چنانچہ حدیث باب کے اندر مجاہد کے بعد سب سے افضل اُس شخص کو قرار دیا ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول رہے۔

## خلوت افضل ہے یا اختلاط

خلوت نشینی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ اختلاط اور مل جل کر رہنا..... اس سلسلے میں تفصیل ہے، کوئی شخص اگر لوگوں کے ساتھ رہ کر، ان کی تکالیف پر صبر نہ کر سکتا ہو اور اپنی اذیت رسانی سے، دوسرے مسلمانوں کو بچا نہ سکتا ہو تو اس کے لئے عزلت اور خلوت نشینی بہتر ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص لوگوں میں رہ کر اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اختلاط افضل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کی زندگی خلوت نشینی کی نہیں تھی بلکہ لوگوں میں رہ کر اپنے اور ان کے دین کی حفاظت فرماتے ہیں، دعوت و تبلیغ، درس و تدریس اور دین کے کئی شعبوں کی خدمت الگ تھلگ رہ کر نہیں ہو سکتی۔

دراصل انسانوں کے مزاج کا فرق ہوتا ہے، بعض آدمی زود رنج ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے مزاج میں انفعالیات بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہر واقعہ اور معمولی سے بات سے حد سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے برعکس کچھ لوگوں کے مزاج میں صبر و تحمل زیادہ ہوتا ہے، اور وہ واقعات و حوادث سے، حد سے زیادہ اثر قبول نہیں کرتے..... خلوت نشینی اور اختلاط کی افضلیت بھی ہر آدمی کے مزاج کے اعتبار سے ہوگی، بنیادی چیز اپنے دین کی حفاظت ہے، جس شخص کا دین جس حالت میں محفوظ رہ سکتا ہے، اس کے لئے وہی حالت افضل اور بہتر ہوگی۔ حدیث باب میں عزلت نشینی کی جو فضیلت ہے، یہ علی الاطلاق نہیں، بلکہ اس شخص کے لئے ہے کہ جس کے دین کی حفاظت عزلت نشینی میں ممکن ہو (۵)، عام حالات میں اختلاط ہی افضل ہے، ایک روایت میں ہے:

”المسلم الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم خير من المسلم

الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم“ (۶)۔

(۵) راجع للتفصيل: فتح الباري: ۴۰۴/۱۱

(۶) عمدة القاري: ۱۲۵/۲۳

یعنی: ”وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی اذیت پر صبر کرتا ہے، بہتر ہے، اس مسلمان کے مقابلے جو لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا اور نہ ہی لوگوں کی تکلیف دینے پر صبر کرتا ہے!“

۶۱۲۹ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ :

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .  
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ،  
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟  
قَالَ : ( رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشُّعَبِ : يَعْبُدُ رَبَّهُ ، وَيَدْعُ النَّاسَ  
مِنْ شَرِّهِ ) .

تَابِعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسَلِيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَالنُّعْمَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .  
وَقَالَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .  
وَقَالَ يُونُسُ وَأَبْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ  
النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . [ ر : ۲۶۳۴ ]

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ! کون شخص سب سے اچھا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعہ جہاد کیا اور وہ شخص جو کسی گھائی میں ٹھہرا ہوا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے چھوڑ دیتا ہے یعنی اپنے شر سے انہیں محفوظ کر دیتا ہے!

### سند کی وضاحت

سند کے اندر تحویل ہے، تحویل سے پہلے والی روایت میں ”قيل يا رسول الله.....“ کے الفاظ ہیں، سوال کرنے والے کا ذکر نہیں اور تحویل کے بعد محمد بن یوسف فریابی کی روایت میں ”جاء أعرابي إلى النبي“



صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال: یارسول اللہ.....“ کے الفاظ ہیں، اس میں سوال کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، کہ ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں آیا، حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا (۷)۔

ورجل فی شُعب من الشُعاب

شُعب (شہین کے کسرے اور عین کے سکون کے ساتھ) گھائی اور وادی کو کہتے ہیں، شعاب اس کی جمع ہے۔

یدع الناس من شره

لوگوں کو اپنے شر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی اذیت کی وجہ سے لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، اور انہیں اپنے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ وَدَعَّ يَدْعُ کے معنی چھوڑ دینے کے آتے ہیں۔ علامہ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ اس کا ماضی اور مصدر استعمال نہیں ہوتا (۸)۔

تابعه الزبيدي، وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري

یعنی شعیب بن ابی حمزہ کی متابعت ان تین راویوں نے کی ہے، محمد بن الولید زبیدی کی متابعت کو امام مسلم نے، سلیمان بن کثیر کی روایت کو امام ابوداؤد نے، اور نعمان بن راشد کی متابعت کو امام احمد نے موصولاً نقل کیا ہے (۹)۔

وقال معمر: عن الزهري، عن عطاء أو عبید اللہ عن أبي سعيد عن النبي ﷺ  
معمر بن راشد کی اس تعلق کو امام احمد نے موصولاً نقل کیا ہے، اس میں امام احمد کو شک ہوا کہ زہری نے عطاء بن یزید سے نقل کیا یا عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ سے (۱۰)۔

وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض

أصحاب النبي ﷺ

یونس بن یزید کی تعلق کو امام زہلی نے ”زہریات“ میں اور عبد الرحمن بن خالد بن مسافر کی تعلق کو بھی

(۷) فتح الباری: ۴۰۳/۱۱

(۸) النهاية: ۸۳۴/۲

(۹) إرشاد الساري: ۴۹۳/۱۳

(۱۰) إرشاد الساري: ۴۹۳/۱۳

امام زہلی نے ”زہریات“ میں اور یحییٰ بن سعید کی تعلیق کو بھی امام ذہلی نے موصولاً نقل کیا ہے (۱۱)۔  
لیکن ان تینوں نے صحابی کا نام نہیں لیا، بلکہ ”عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
وسلم“ کہا ہے۔

علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شاید ”بعض اصحاب“ سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہی مراد  
ہیں (۱۲)۔

۶۱۳۰ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ ، عَنْ  
أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ  
زَمَانٌ ، خَيْرٌ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ ، يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ) .  
[ ر : ۱۹ ]

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب ایک مسلمان کا سب سے بہتر  
مال بھیڑ بکریاں ہوں گی، وہ انہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے  
گا، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لئے فتنوں سے فرار اختیار کرے گا۔

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ .....

اس میں اشارہ کر دیا کہ خلوت نشینی اور لوگوں سے الگ رہنے کی یہ فضیلت آخری زمانے میں ہوگی  
کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جہاد مطلوب تھا اور جہاد، خلوت نشینی کے ساتھ نہیں  
ہوسکتا (۱۳)۔

شَعَفَ الْجِبَالِ : پہاڑ کی چوٹیاں، یہ شعفة کی جمع ہے۔

(۱۱) إرشاد الساري: ۴۹۳/۱۳

(۱۲) راجع: شرح الكرمانی للبخاری: ۱۶/۲۳

(۱۳) إرشاد الساري: ۴۹۳/۱۳

مواقع القَطْر: بارش کے مواقع، مراد اس سے وادیوں کے دامن ہیں۔ یفر بدینہ: اسی بسبب دینہ۔ یعنی وہ اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے لوگوں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وفیه أن اعتزال الناس عند ظهور الفتن والهرب عنهم أسلم للدين من مخالطتهم“ (۱۴)۔

یعنی: ”فتنوں کے ظاہر ہونے کے زمانے میں لوگوں سے الگ رہنا دین کے لئے زیادہ باعث سلامتی ہے، ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کے مقابلے میں!“  
ابن بطل رحمہ اللہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وذكر علي بن معبد عن عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة، عن الحسن يرفعه إلى رسول الله ﷺ قال: «يأتى على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه، إلا من فرّ بدينه من شاهق إلى شاهق وحجر إلى حجر، فإذا كان كذلك لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله، فإذا كان كذلك حلت العزلة، قالوا: يا رسول الله، كيف تحمل العزلة وأنت تأمرنا بالتزويج؟ قال: إذا كان كذلك كان هلاك الرجل على يدي أبيه، فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدي زوجته، فإن لم تكن له زوجة كان هلاكه على يدي ولده، فإن لم يكن له ولد كان هلاكه على يدي القرابات والجيران. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يعبرونه بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق، فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها». (۱۵)

یعنی: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین دار پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ کر ہی اپنے دین کی حفاظت کر سکے گا، ایسی صورت حال میں خلوت نشینی جائز ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! خلوت نشینی کیسے جائز ہے، آپ تو ہمیں شادی کا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ

(۱۴) عمدة القاري: ۲۳/۱۲۷، ۲۰/۲۰۴

(۱۵) شرح ابن بطل: ۱۰/۲۰۴

صورت حال ہوگی تو آدمی اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر اس کے والدین نہیں ہوں گے تو اپنی بیوی کے ہاتھوں تباہ ہوگا، اگر بیوی نہیں ہوگی تو اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر بیٹا نہیں ہوگا تو اپنے رشتے داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں برباد ہوگا۔

لوگوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ اسے طعنہ دیں گے، تنگ دستی اور غربت کا عار دلائیں گے اور اسے ایسی چیزوں کا مکلف بنائیں گے جو اس کی طاقت سے باہر ہوں گی تو وہ ان کے مطالبات اور خواہشات پوری کرنے کے لئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا“ ۱۶۔

مطلب یہ ہے کہ اس کے یہ رشتہ دار اس کو غربت و تنگ دستی کا طعنہ دیں گے اور اسے مجبور کریں گے کہ وہ مال و دولت اور سامانِ عیش و عشرت کسی بھی طریقے سے مہیا کرے اور وہ ان کے مطالبات پورے کرنے کے لئے ناجائز طریقوں سے مال و دولت کمانے کی بھاگ دوڑ میں لگ جائے گا اور یوں اپنے دین کی بربادی کا ذریعہ بنے گا۔

### ۳۵- باب : رَفْعِ الْأَمَانَةِ .

#### ترجمہ الباب کا مقصد

جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی اور خیر القرون سے دوری ہوگی، بہت سے فتنے پیدا ہوں گے اور دیانت و امانت لوگوں سے ختم ہوتی چلی جائے گی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں رفع امانت یعنی امانت اٹھانے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔

۶۱۳۱ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ ،  
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِذَا ضُبِعَتِ  
الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ) . قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : (إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ  
أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ) . [ر : ۵۹]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، (جب لوگوں سے) امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو، پوچھا، یا رسول اللہ! امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ فرمایا، جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔

یہ حدیث کتاب العلم کی ابتداء میں گزر چکی ہے، اس میں ذکر کردہ امانت سے یا تو اس کا عام مفہوم مراد ہے جو خیانت کی ضد ہے اور یا اس سے امانت کا وہ مفہوم مراد ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.....﴾ (۱) میں ہے۔ اس کی تفصیل اگلی حدیث کے تحت آرہی ہے۔

إِذَا وُضِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ

اس میں امر سے مراد خلافت، امارت، قضاء وغیرہ ہے، جو دین سے متعلق امور ہیں (۲)، مقصد یہ ہے کہ معاملات جب نااہل لوگوں کے حوالے کئے جائیں گے اور ان کے پاس مناصب آئیں گے تو وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اس میں خیانت کریں گے، ایمانی تقاضوں کو پامال کریں گے، تو یہ قرب قیامت کی علامت ہوگی۔ چنانچہ شارح بخاری، ابن بطل رحمہ اللہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنَوَاتٌ خِدَاعَاتٌ يَصْدُقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيَكْذِبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَخُونُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ الرَّوْبِيضَةُ، قِيلٌ: وَمَا الرَّوْبِيضَةُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ التَّافَهُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ“.

یعنی: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں دھوکہ دہی بہت عام ہوگی، اس میں جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی اور سچے کی تکذیب کی جائے گی، خیانت کرنے والے کے پاس امانت رکھی جائے گی اور امین شخص خیانت کرے گا اور روبیضہ بولے گا، پوچھا گیا، روبیضہ کیا ہے؟ فرمایا، معمولی شخص یعنی عام لوگوں کے معاملات میں ایک معمولی شخص بھی اپنی رائے کا اظہار کرے گا۔

(۱) الأحزاب: ۷۳

(۲) إرشاد الساری: ۱۳/۴۹۴

علامہ بطل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان میں سے اکثر علامتیں ہم نے دیکھ لی ہیں اور جو بچ گئی ہیں وہ بھی زیادہ دور نہیں (۳)۔

۶۱۳۲ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ : حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ : (أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ) . وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ : (بِنَامِ الرَّجُلِ النَّوْمَةُ ، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ بِنَامِ النَّوْمَةِ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ ، كَجَمْرِ دَخَرَجْتُهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَيْطُ ، فَتَرَاهُ مُتَبَرِّأً وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يُتَبَايَعُونَ ، فَلَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ ، فَيُقَالُ : إِنَّ فِي بَيْتِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ : مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِنْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ) .

وَلَقَدْ آتَى عَلِيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ : فَمَا كُنْتُ أَبَايَعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا .

قَالَ الْفَرَبْرِيُّ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : حَدَّثْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ بْنَ عَاصِمٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ يَقُولُ : قَالَ الْأَضْمَعِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو وَغَيْرُهُمَا : جَذْرُ قُلُوبِ الرِّجَالِ : الْجَذْرُ الْأَصْلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْوَكْتُ أَثَرُ الشَّيْءِ الْبَسِيرُ مِنْهُ ، وَالْمَجْلُ أَثَرُ الْعَمَلِ فِي الْكُفِّ إِذَا غُلِظَ . [ ۶۶۷۵ ، ۶۸۴۸ ]

(۳) شرح ابن بطلال: ۲۰۵/۱۰

۶۱۳۲ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: رفع الأمانة (الحديث ۶۴۹۷)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الفتن، باب: إذا بقي في حثالة من الناس (الحديث ۷۰۸۶)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاتقاء بسنن رسول الله ﷺ (الحديث ۷۲۷۶) مختصراً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الفتن، باب: ما جاء في رفع الأمانة (الحديث ۲۱۷۹)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن، باب: ذهاب الأمانة (الحديث ۴۰۵۳).

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو حدیثیں ارشاد فرمائیں، ایک تو دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دی گئی، پھر انہوں نے اسے قرآن سے جانا، پھر سنت سے جانا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا، فرمایا کہ آدمی ایک نیند سوئے گا اور وہ (اسی میں) امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، اور اس کا اثر آبلہ کی طرح باقی رہ جائے گا، جیسے آگ کی چنگاری تمہارے پاؤں میں پڑ جائے اور اس کی وجہ سے پاؤں پھول جائے، تم اسے ابھرا ہوا دیکھو گے، حالانکہ اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا، کہا جائے گا کہ بنو فلاں میں ایک امانت دار شخص ہے، کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے، کتنا بلند حوصلہ ہے، اور کتنا بہادر ہے!!..... حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان (امانت) نہیں ہوگا۔ میں نے ایک ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ اس کی پروا نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کرتا ہوں، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کو اسلام (بے انصافی سے) اسے روکتا تھا، اور اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا تھا، لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔

حدثنا رسول الله ﷺ حدیثین، رأیت أحدهما وأنا أنتظر الآخر

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے دو حدیثیں بیان فرمائیں، ایک کو تو میں نے دیکھ لیا اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں، پہلی حدیث ہے: ”إن الأمانة نزلت فی جذر قلوب الرجال.....“ اور دوسری حدیث ہے ”وینام الرجل فتقبض.....“

إن الأمانة نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ اور گہرائی میں اتری، پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا، پھر سنت سے سیکھا۔ جذر کے معنی جڑ ہیں۔

## امانت سے کیا مراد ہے؟

اس میں امانت سے یا تو اس کے مشہور معنی مراد ہیں، یعنی کسی کے حق اور ملکیت میں خیانت نہ کرنا اور یا اس سے مراد وہ امانت ہے جو سورہ احزاب کی آیت کریمہ ﴿انما عرضنا الأمانة.....﴾ میں وارد ہے، یعنی وہ تمام شرعی ذمہ داریاں جو ہر مکلف پر عائد کی گئی ہیں، اور جو عہد و پیمانہ اس سے لیا گیا ہے (۴)۔

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں:

”اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ایک خاص امانت مخلوق کی کسی نوع میں رکھنے کا ارادہ جو اس امانت کو اگر چاہے تو اپنی سعی و کسب اور قوت بازو سے محفوظ رکھ سکے اور ترقی دے سکے۔ تاکہ اس سلسلہ میں اللہ کی ہر قسم کی شہون و صفات کا ظہور ہو۔ مثلاً اس نوع کے جو افراد امانت کو پوری طرح محفوظ رکھیں اور ترقی دیں، ان پر انعام و اکرام کیا جائے۔ جو غفلت یا شرارت سے ضائع کر دیں، ان کو سزا دی جائے اور جو لوگ اس بارے میں قدرے کوتاہی کریں، ان سے عفو و درگزر کا معاملہ ہو۔

میرے خیال میں یہ امانت ایمان و ہدایت کا ایک تخم ہے جو قلوب بنی آدم میں بکھیرا گیا۔ جس کو ”ما بہ التکلیف“ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ”لا ایمان لمن لا أمانة له“ یعنی (جس شخص میں امانت کی صفت نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے)..... اسی کی نگہداشت کرنے سے ایمان کا درخت اُگتا ہے، گویا بنی آدم کے قلوب، اللہ کی زمینیں ہیں، بیج بھی اسی نے ڈال دیا ہے، بارش برسانے کے لئے رحمت کے بادل بھی اس نے بھیجے جن کے سینوں سے وحی الہی کی بارش ہوئی (۵)۔

آدمی کا فرض یہ ہے کہ ایمان کے اس بیج کو جو امانت الہیہ ہے، ضائع نہ ہونے دے بلکہ پوری سعی و جہد سے اس کی پرورش کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی یا غفلت سے بجائے درخت اگنے کے بیج بھی ختم ہو جائے اسی کی طرف اشارہ ہے..... حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ”إن الأمانة نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن.....“ یہ امانت وہی تخم ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے

(۴) فتح الملہم، کتاب الإیمان، باب رفع الأمانة من بعض القلوب: ۱۰۹/۲، ومرقاۃ المفاتیح، کتاب الفتن:



دلوں میں ڈالا گیا۔ پھر علوم قرآن و سنت کی بارش ہوئی جس سے اگر ٹھیک طور پر انتفاع کیا جائے تو ایمان کا پودا اُگے، بڑھے، پھولے، پھلے اور آدمی کو اس کے ثمرہ شیریں سے لذت اندوز ہونے کا موقع ملے۔ اگر انتفاع میں کوتاہی کی جائے تو اسی درخت کے ابھرنے اور پھولنے پھلنے میں نقصان رہے یا بالکل غفلت برتی جائے تو سرے سے تخم بھی برباد ہو جائے۔ یہ امانت تھی جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو دکھلائی۔ مگر کس میں استعداد تھی جو اس عظیم امانت کو اٹھانے کا حوصلہ کرتا، ہر ایک نے بزبان حال یا بزبان قال، ناقابل برداشت ذمہ داریوں سے ڈر کر انکار کر دیا کہ ہم سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا۔ خود سوچ لو کہ نجر انسان کے کون سی مخلوق ہے جو اپنے کسب و محنت سے اس تخم ایمان کی حفاظت و پرورش کر کے ایمان کا شجر بار آور حاصل کر سکے۔ فی الحقیقت عظیم الشان امانت کا حق ادا کر سکتا اور ایک افتادہ زمین کو جس میں مالک نے تخم ریزی کر دی تھی، خون پسینہ ایک کر کے باغ و بہار بنا لینا اسی ظلم و جہول انسان کا حصہ ہو سکتا ہے، جس کے پاس قابل زمین موجود ہے اور محنت کر کے کسی چیز کو بڑھانے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔

”ظلم“ و ”جہول“، ظالم و جاہل کا مبالغہ ہے۔ ظالم و جاہل وہ کہلاتا ہے جو بالفعل، عدل و علم سے خالی ہو مگر استعداد و صلاحیت ان صفات کے حصول کی رکھتا ہو، پس جو مخلوق ابتدائے فطرت سے علم و عدل کے ساتھ متصف ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی یہ اوصاف اس سے جدا نہیں ہوئے، مثلاً ملائکہ اللہ یا جو مخلوق ان چیزوں کے حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی (مثلاً زمین، آسمان، پہاڑ وغیرہ) ظاہر ہے کہ دونوں اس امانت الہیہ کے حامل نہیں بن سکتے۔

بے شک انسان کے سوا ”جن“ ایک نوع ہے جس میں فی الجملہ استعداد اس کے تحمل کی پائی جاتی ہے اور اسی لئے ﴿وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون﴾ میں دونوں کو جمع کیا گیا، لیکن انصاف یہ ہے کہ ادائے حق امانت کی استعداد ان میں اتنی ضعیف تھی کہ حمل امانت کے مقام میں چنداں قابل ذکر اور درخور اعتناء نہیں سمجھے گئے، گو یا وہ اس معاملہ میں انسان کے تابع قرار دیئے گئے جن کا نام مستقل طور پر لینے کی ضرورت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب“ (۲)۔

بعضوں نے کہا کہ اس سے ایمان مراد ہے (۶)، کیونکہ حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں: ”و ما فی قلبہ

مثقال حبة من خردل، من إيمان“.

امانت کا دل کی جڑ میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے دل میں ایمان قبول کرنے

کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے اور ایک نورِ ایمان و ہدایت اس کو مہیا کیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت ﴿فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا﴾ (۷) میں ہے اور حدیث شریف میں ہے: ”کل مولود یولد علی

فطرته.....“ (۸).

مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے مؤمنین کے دلوں میں اولاً نور ہدایت اور حق قبول کرنے اور

پہنچانے کی صلاحیت پیدا فرمائی، پھر اس کے ذریعے، قرآن و حدیث کے احکام کو انہوں نے جانا اور مانا۔

ینام الرجل، فتقبض الأمانة من قلبه

یہ دوسری حدیث ہے، جس کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا انتظار

ہے، پہلی حدیث کا، تو انہوں نے عہد نبوی میں حضرات صحابہؓ کی صورت میں مشاہدہ کر لیا تھا..... ایک آدمی

سو جائے گا، تو امانت اس کے دل سے اٹھالی جائے گی، اس سے یا تو حقیقی سونا مراد ہے اور یا غفلت سے کتنا یہ

ہے کہ قرآن و حدیث اور اللہ کے احکام سے غافل اور لاپرواہ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں امانت اٹھالی

جائے گی۔

اگر حقیقۃً سونا مراد ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ آدمی سوکراٹھے گا تو خود بخود اس کے دل سے امانت اور ایمان

داری کی کیفیت ختم ہو چکی ہوگی اور دل پر سیاہی اور کدورت طاری ہوگی، گویا کہ بے دینی کی ایک اضطراری حالت

اس پر طاری ہو چکی ہوگی۔

اور اگر سونے سے مراد حقیقۃً سونا نہیں، بلکہ دین سے غفلت مراد ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن و سنت

سے بے رخی اختیار کرے گا، گناہوں میں مبتلا ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امانت اور ایمان اٹھائے جائیں

(۶) مرقاة المفاتیح، کتاب الفتن: ۶/۱۰

(۷) سورة الروم: ۳۰

(۸) سنن أبی داود، کتاب السنۃ، باب فی ذراری المشرکین: ۴/۳۲۹، رقم الحدیث: ۴۷۱۴

گے (۹)..... یہ دوسرے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔

فیظَلْ أَثْرَهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ

وکت یعنی نقطہ کے نشان کی طرح اس کا نشان باقی رہ جائے گا، وکنت (واو پر فتح اور کاف کے سکون کے ساتھ) اس نقطے کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں مختلف رنگ کا ہو، مثلاً سیاہ کے اندر سفید یا سفید چیز میں سیاہ نقطہ، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

الْوَكْتُ ..... النقطۃ فی الشیء من غیر لونه، أو هو السواد الیسیر أو

اللون المحدث المخالف للون الذي كان قبله“ (۱۰)۔

ثم ینام النومة، فتقبض، فیبقى أثرها مثل المَجْلِ

پھر دوبارہ سوئے گا تو امانت اٹھالی جائے گی اور اس کا نشان آبلے کی طرح باقی رہ جائے گا۔

مَجْل (میم کے فتح اور جیم کے سکون کے ساتھ) کے معنی ہیں: آبلہ، کام کرتے ہوئے ہاتھ کی جو کھال سخت ہو جاتی ہے، جس کو گٹھا بھی کہتے ہیں اس پر بھی مجل کا اطلاق ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب دین کی مزید غفلت بڑھے گی تو امانت کا تھوڑا بہت حصہ جو رہ گیا تھا، وہ بھی اٹھا لیا جائے گا اور صرف ابھرے ہوئے آبلے کی طرح اس کا نشان رہ جائے گا جو ابھرا ہوا نظر آتا ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔

كَجَمْرٍ ذَخَرَ جَتَّهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَفِطَ، فتراه مُنْتَبِراً، ولس فیہ شیء

یعنی جیسے کہ تم آگ کے انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑھکا دو اور اس سے آبلہ پڑ جائے تو وہ آپ کو ابھرا ہوا نظر آئے گا لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔

نَفِطَ باب سَمْع سے ہے اور اس کے معنی ہیں: آبلہ پڑنا، کام کی وجہ سے ہاتھ میں گھٹا نکل آنا۔

منتبرا: أی: مرتفعاً، یہ باب افتعال سے صیغہ اسم فاعل ہے، انتبرا کے معنی ارتقاع اور بلندی کے

(۹) مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح: ۶/۱۰

(۱۰) إرشاد الساری: ۴۹۶/۱۳

آتے ہیں (۱۱)۔

لفظ اور فتراہ میں ضمیر ”رُجُل“ کی طرف راجع ہے اور رَجُل مَوْنُثِ سَمَاعِی ہے، جب کہ ضمیر مذکر کی ہے، ضمیر اور مرجع میں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مطابقت نہیں۔

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ضمیر کا مرجع عضو، یا وہ موضع رَجُل ہے جس پر چنگاری ڈالی گئی ہے، اس اعتبار سے اس کو مذکر ذکر کیا گیا ہے (۱۲)۔

### حدیث کی تمثیل کی وضاحت

اس حدیث شریف میں جو مثال پیش کی گئی ہے، حضراتِ محدثین نے اس کے مختلف وضاحتی مطلب بیان کئے ہیں:

① جب آدمی شریعت سے غافل ہو جائے گا اور گناہوں میں مبتلا ہوگا تو دل کے اندر ایمان کا نور کم ہو جائے گا اور جب وہ اپنا جائزہ لے گا تو اپنے دل کے اندر ”وکت“ یعنی ایک نقطے کی مقدار کے سوا نورِ امانت و ایمان میں سے کچھ بھی نہیں پائے گا، پھر جب دوبارہ سوئے گا یعنی دین کے احکام کی طرف سے مزید غافل ہوگا اور گناہوں اور معاصی میں ابتلاء پڑھے گا تو نورِ امانت کا رہا سہا بقیہ حصہ بھی غائب ہو جائے گا اور صرف ایک آبلہ نما نشان رہ جائے گا جو ابھرا ہوا نظر آتا ہے لیکن اندر سے صالح مواد سے خالی اور سوائے ناکارہ پانی کے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی طرح یہ شخص اگرچہ ظاہرِ اصالح و نیک ہی کیوں نظر نہ آئے لیکن اندر سے ایمان و امانت اور آخرت کے مفید اعمال میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا.....

خلاصہ یہ کہ ایمان کا نور تدریجاً اور آہستہ آہستہ ختم ہوگا، غفلت کے پہلے مرحلے میں، امانت کا نور کم ہوگا اور صرف ایک نقطے کے بقدر یہ نور باقی رہے گا اور غفلت کے دوسرے مرحلے میں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور صرف اس کا ”رُجُل“ کی طرح ایک نشان رہ جائے گا..... اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان و امانت کا حقیقی

(۱۱) عمدة القاري: ۱۲۹/۲۳، وإرشاد الساري: ۴۹۶/۱۳

(۱۲) عمدة القاري: ۱۲۹/۲۳، وإرشاد الساري: ۴۹۶/۱۳، ومرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح،

نور اگر ختم ہو جائے گا لیکن بہر حال اس کا ایک نشان، ایک علامت اور ایک اثر باقی رہے گا، اگرچہ وہ وکت کے ایک نقطہ کے بقدر یا محل کے نشان کی طرح کیوں نہ ہو! چنانچہ علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”و حاصله أن القلب يخلو عن الأمانة، بأن تزول عنه شيئاً فشيئاً، فإذا زال جزء منها، زال نورها، وحلفتة ظلمة كالوكت، وإذا زال شيء آخر منه، صار كالمجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إذا بعد مدة، ثم شبه زوال ذلك النور بعد ثبوته في القلب، وخروجه منه، واعتقابه إياه بجمرة تدرجه على رجلك حتى يؤثر فيها شهر يزول الجمر، ويبقى النفط“ (۱۳).

مطلب یہ ہے کہ جن اہل ایمان کے قوائے فکر و عمل پر غفلت و بے حسی طاری ہو جائے گی اور گناہوں کے ارتکاب کی صورت میں دین شریعت کے ساتھ ان کا تعلق نہایت کمزور پڑ جائے گا، ان کے دلوں سے ”امانت“ جاتی رہے گی، چنانچہ جب اس کا ایک حصہ زائل ہو جائے گا تو ان کے دلوں میں سے اس کا نور بھی زائل ہو جائے گا اور اس کی جگہ ”وکت“ کی طرح ظلمت و تاریکی پیدا ہو جائے گی اور اس کی مثال ایسی جیسے کسی چیز میں اس کا مخالف رنگ نمودار ہو جائے (مثلاً سیاہ چیز میں سفید رنگ کا نمودار ہونا) اور جب دین و شریعت سے متعلق غفلت و کوتاہی اور بڑھ جائے گی اور گناہوں کا ارتکاب پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو نور امانت کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا، اس میں سے کچھ اور زائل ہو جائے گا اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کے کسی حصہ پر مجل (یعنی آبلہ یا گٹھے کا نشان) جو اتنا گہرا اور اس قدر سخت ہوتا ہے کہ جلد زائل نہیں ہوتا، پس دوسری مرتبہ جو تاریکی پیدا ہوگی وہ پہلی مرتبہ پیدا ہونے والی تاریکی سے زیادہ پھیلی ہوئی اور گہری ہوگی۔ مذکورہ صورت حال کو اس مثال کے ذریعہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ قلب انسانی میں ایمان و امانت کے نور کا پیدا ہونا اور پھر نکل جانا یا دلوں میں اس نور کا جگہ پکڑنا اور پھر اس کے زائل ہو جانے کے بعد

تاریکی کا آجانا ایسی تشبیہ رکھتا ہے جیسا کہ کوئی آگ کا انگارہ لے کر اس کو اپنے پیر پر ڈال لے اور انگارہ پیر سے زائل ہو جائے اور پھر جلی ہوئی جگہ پر آبلہ پڑ جائے۔“

۲ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ آدمی جن دین سے غافل اور گناہوں اور معاصی میں مبتلا ہوگا تو اس کی وجہ سے ایمان اس کے دل سے تدریجاً اٹھایا جائے گا، جب ایمان کا ایک جز زائل ہوگا تو اس کا نور بھی ختم ہوگا اور اس کی جگہ ظلمت لے لے گی، جو پہلے مرحلے میں دکت کے بقدر ہوگی، پھر جب ایمان کا بقیہ حصہ ختم ہوگا تو وہ ظلمت مجل (آبلے کے نشان) کی طرح ہوگی، چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وقال شارح من علما لنا: يريد أن الأمانة ترفع عن القلوب عقوبة لأصحابها على ما اجترحوا من الذنوب، حتى إذا استيقظوا من منامهم، لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه، ويبقى فيه أثر تارة مثل الوكت وتارة مثل المجل“ (۱۴).

صاحب مظاہر حق نے اس مطلب کی وضاحت یوں کی ہے:

”اس ارشاد گرامی کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں امانت کا نور پیدا کیا، تاکہ وہ اس کی روشنی میں فلاح کے راستہ پر چلیں اور دین و شریعت کے پیروکار بنیں، لیکن جب وہ لوگ اس نعمت سے بے پرواہ ہو جائیں گے، دین و شریعت کے بارے میں غفلت و کوتاہی میں پڑ جائیں گے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان لوگوں سے یہ نعمت واپس لے لے گا، بایں طور کہ ان کے دل میں سے امانت نکل جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں گے تو محسوس کریں گے کہ ان کے قلب کی وہ حالت نہیں ہے جو امانت کی موجودگی میں پہلے تھی، البتہ ان کے دلوں میں اس امانت کا نشان باقی رہے گا جو کبھی وکت کی طرح ہوگا اور کبھی مجل کی طرح ہوگا۔ پس ”مجل“ اگرچہ مصدر ہے لیکن یہاں اس سے مراد نفس آبلہ ہے اور یہ (یعنی مجل) پہلی مرتبہ

(یعنی وکت) سے کمتر درجہ ہے، کیونکہ ”وکت“ کے ذریعہ اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ اگرچہ امانت دل میں سے نکل جائے گی مگر نشان کی صورت میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہے گا“ (۱۵)۔

ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان،  
ایک شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ کس قدر عقل مند، ظریف (خوش طبع) اور چست و ہوشیار ہے،  
حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر ایمان نہیں ہوگا۔

یعنی ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں مدح و تعریف کے پیمانے بدل جائیں گے، کسی کی تعریف عمل صالح، ایمان اور نیکی کی بناء پر نہیں کی جائے گی بلکہ عقل و ظرافت اور چالاکی و مکاری، لوگوں کی مدح و تعریف کا ذریعہ بنے گی، چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وحاصله أنهم يمدحونه بكثرة العقل والظرافة، والجلادة،

ويتعجبون منه، ولا يمدحون أحداً بكثرة العلم النافع، وصلاح العمل

الصالح“ (۱۶)۔

ما أعقله، ما أظرفه..... تعجب کے صیغے ہیں۔ أجلده، جلادة سے ہے جس کے معنی چستی و چالاکی کے ہیں۔

وما في قلبه..... یعنی اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا، اس میں یا تو اصل ایمان کی نفی ہے اور یا کمال ایمان کی نفی ہے (۱۷)، پہلی صورت میں کافر اور دوسری صورت میں فاسق ہوگا۔

ولقد أتى عليّ زمان وما أبالي أيكم بايعة

یعنی ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جس میں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس شخص کے ساتھ معاملہ اور

(۱۵) مظاہر حق جدید: ۴/۸۲۸

(۱۶) مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الفتن: ۱۰/۸

(۱۷) مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الفتن: ۱۰/۸

خرید و فروخت کرنا ہے (کیونکہ لوگوں میں امانت اور دیانت داری عام تھی) تو یہ فکر نہیں رہتی کہ کوئی شخص معاملہ کر کے مکر جائے گا اور میرا حق نہیں دے گا۔

بابت سے خرید و فروخت کے معاملات مراد ہیں (۱۸)۔

لئن کان مسلماً رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه  
یعنی اگر وہ مسلمان ہوگا (جس کے ساتھ میں نے معاملہ کیا) تو اس کا اسلام میرا حق مجھے لوٹا دے گا یعنی  
اس کا اسلام اس کو مجبور کرے گا کہ وہ مجھے میرا حق لوٹا دے۔ ابوذر کے نسخے میں ”بالاسلام“ ہے (۱۹)، یعنی وہ  
اسلام کی وجہ سے میرا حق مجھے لوٹا دے گا اور اگر نصرانی ہوگا تو اسلام کا ساعی اور عامل مجھ پر میرا حق لوٹا دے گا۔  
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”رده علي ساعيه: أي واليه الذي أقيم عليه لينصف منه، وأكثر ما  
يستعمل الساعي في ولاة الصدقة، ويحتمل أن يراد به هنا الذي يتوكل قبض  
الجزية“ (۲۰)۔

یعنی ساعی سے مراد وہ والی اور حاکم ہے جو حصول انصاف کے لئے مقرر کیا گیا  
ہے، ساعی کا لفظ اکثر صدقہ وصول کرنے والے والیوں اور عاملوں کے لئے استعمال ہوتا  
ہے، یہاں اس سے وہ شخص بھی مراد ہو سکتا ہے جس کو جزیہ وصول کرنے پر مقرر کیا گیا ہو۔

فأم اليوم، فما كنتُ أباعُ إلا فلانا وفلانا

لیکن آج میں صرف فلاں فلاں شخص کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں (کہ ان پر مجھے اعتماد ہے اور وہ دیانت  
دار ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دو آدمیوں کے نام لئے ہوں لیکن راوی نے وہ نام ذکر نہیں کئے، بلکہ فلاں فلاں  
کہہ دیا)۔

(۱۸) فتح الباری: ۴۰۶/۱۱، عمدۃ القاری: ۱۳۰/۲۳، إرشاد الساری: ۴۹۶/۱۳

(۱۹) فتح الباری: ۴۰۶/۱۱، عمدۃ القاری: ۱۳۰/۲۳، إرشاد الساری: ۴۹۶/۱۳

(۲۰) فتح الباری: ۵۰۶/۱۱



قال الفربري قال أبو جعفر: حدثت أبا عبد الله.....

فربری کا نام محمد بن یوسف ہے اور ابو جعفر کا نام محمد بن حاتم ہے، یہ امام بخاری کے وراق اور کاتب تھے، ابو عبد اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی کنیت ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو احمد بن عاصم بلخی سے اور انہوں نے ابو عبید قاسم بن سلام سے سنا کہ امام اصمعی اور ابو عمر نے لفظ ”جذر“ کی تشریح کی کہ ہر چیز کے اصل کو جذر کہتے ہیں، امام اصمعی کا نام عبد الملک بن قریب ہے اور ابو عمر و مشہور قاری ہیں: ”و غیر ہما“ سے سفیان ثوری مراد ہیں، البتہ ابو عمر و کے نزدیک ”جذر“ جیم کے کسرے کے ساتھ ہے اور امام اصمعی کے نزدیک ”جذر“ جیم کے فتح کے ساتھ ہے۔ اور و سخت کسی شی کے ہلکے نشان کو کہتے ہیں اور منجل ہتھیلی میں کام کی وجہ سے پڑنے والے نشان کو کہتے ہیں۔

قال الفربري..... کی یہ عبارت ”ابو ذرعن مستملی“ کے نسخے میں ہے، باقی نسخوں میں نہیں (۲۱)۔

۶۱۳۳ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : (إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمَائَةِ ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً) .

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال اونٹ کی سی ہے، سو میں بھی ایک مشکل سے سواری کے قابل ملتا ہے۔

(۲۱) مذکورہ تفصیل کے لیے دیکھئے، فتح الباری: ۴۰۶/۱۱، عمدۃ القاری: ۲۳، /، إرشاد الساری: ۴۹۶/۱۳

(۶۱۳۳) أخرجه الترمذي في كتاب الأمثال، باب ماجاء في مثل آدم وأجله وأمله (رقم الحديث: ۲۸۷۲)

وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: قوله ﷺ الناس كإبل مائة، رقم: ۲۵۴۷.

(راحلة) الجمال النجيب الذي يصلح لسير الأسفار ولحمل الأثقال. ومعنى الحديث: يأتي زمان يكون الناس فيه كثيرين، ولكن المرضي منهم والذي يلتزم شرح الله عز وجل قليل، شأن الإبل الكثيرة التي تبلغ المائة، ولا تكاد يوجد منها واحدة تصلح للركوب والانتفاع بها. أو المراد: أن الناس دائماً شأنهم هكذا، الصالح فيهم قليل.

## کالابل المائة

”ابل“ کا لفظ عرب سواونٹوں کے لئے استعمال کرتے تھے، کہتے تھے، لفلان ابل یعنی فلاں کے سو اونٹ ہیں۔ ولفلان ابلان: یعنی اس کے دو سواونٹ ہیں، لیکن چونکہ لفظ ”ابل“ سو کے معنی میں زیادہ مشہور نہیں، اس لئے حدیث کے اندر ”الابل“ کے بعد ”المائة“ کا اضافہ کر دیا، المائة، الابل کی تفسیر و توضیح کے طور پر ہے (۲۲)۔

راحلة میں تا، تانیث کی نہیں، بلکہ یہ تا مبالغہ ہے، اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس پر سواری کی جاتی ہے۔ راحلة اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اسم مفعول کے معنی میں ہے (۲۳)۔

## حدیث شریف کے دو مطلب

علامہ خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے دو مطلب حضرات محدثین نے بیان فرمائے ہیں:

① ایک یہ کہ تمام لوگ، دین کے احکام کے سلسلے میں برابر سرابر ہیں اور اس میں کسی کو، کسی پر کوئی فوقیت و فضیلت یا ترجیح حاصل نہیں، جیسے سواونٹ عموماً برابر سرابر ہوتے ہیں اور سب تقریباً بار برداری کے قابل ہوتے ہیں، لیکن سواری کے قابل نہیں ہوتے۔ حاصل یہ کہ دین میں لوگوں کی برابری اور مساوات کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے (۲۴)۔

(۲۲) فتح الباری: ۴۰۷/۱۱، وعمدة القاری: ۱۳۱/۲۳، إرشاد الساری: ۴۹۷/۱۳

(۲۳) فتح الباری: ۴۰۷/۱۱، وعمدة القاری: ۱۳۱/۲۳، إرشاد الساری: ۴۹۷/۱۳

(۲۴) وفی شرح مسلم للنووی، کتاب فضائل الصحابة: ۳۱۷/۱۶

قال ابن قتیبة: الراحلة النجیبة المختارة من الإبل للركوب وغيره، فهي كاملة الأوصاف. فإذا كانت في إبل عرفت. قال: ومعنى الحديث: أن الناس متساوون ليس لأحد منهم فضل في النسب، بل هم أشباه كالإبل المائة. وقال الأزهری: الراحلة عند العرب: الجمل النجیب، والناقة النجیبة. قال: والهاء فيها للمبالغة، كما يقال: رجل فهامة ونسابة. قال: والمعنى الذي ذكره ابن قتیبة غلط. بل معنى الحديث: أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها، والرغبة في الآخرة قليل جداً، كقلة الراحلة في الإبل. هذا كلام الأزهری، وهو أجود من كلام ابن قتیبة، وأجود منهما قول آخرین: أن معناه المرضي الأحوال من الناس، الكامل الأوصاف، الحسن المنظر، القوي على الأحمال والأسفار. سميت راحلة؛ لأنها ترحل. أي: يجعل عليها الرجل فهي فاعلة بمعنى مفعولة، كعيشة راضية. أي: مرضية ونظائره.

۲ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں قابل، باصلاحیت اور صاحبِ فضل و تقویٰ بہت کم ہوتے ہیں، ناکارہ لوگوں کی کثرت ہوتی ہے جس طرح اونٹوں میں، سواری اور کام کے قابل بمشکل ایک اونٹنی ملتی ہے، اسی طرح کام کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں (۲۵)۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس دوسرے مطلب کو اس انداز سے بیان کیا کہ ایسا شخص جو لوگوں کے بوجھ اٹھائے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرے اور ان کی خدمت کرے، بہت کم ملتا ہے (۲۶)۔

علامہ ابن بطل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ تو بہت ہیں لیکن اچھے لوگ کم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں سے خیر القرون کے لوگ مراد نہیں کیونکہ ان کی فضیلت کی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے! بلکہ بعد میں آنے والے لوگ مراد ہیں، جب قحط الرجال ہوگا، وہ لکھتے ہیں:

”وهذا الحديث إنما يراد به القرون المذمومة في آخر الزمان،

ولذلك ذكره البخاري في رفع الأمانة، ولم يرد به أصحابه وتابعيهم؛ لأنه قد

شهد لهم بالفضل (۲۷)۔

## ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت

ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت بیان کرتے ہوئے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ومناسبة الحديث للترجمة من حيث إن الناس كثيرون والمرضي

منهم قليل كالراحلة في المائة من الإبل، وغير المرضي هو من ضيِّع

الفرائض، وقد فسر ابن عباس الأمانة بالفرائض (۲۸)۔

یعنی: ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت اس طرح ہے کہ لوگوں کی

کثرت ہے لیکن اچھے لوگوں کی کمی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اور جو بہت ہیں انہوں نے

(۲۵) فتح الباری: ۴۰۷/۱۱، وعمدة القاری: ۱۳۰/۲۳-۱۳۱، وإرشاد الساری: ۴۹۷/۱۳

(۲۶) فتح الباری: ۴۰۷/۱۱

(۲۷) شرح ابن بطل: ۲۰۶/۱۰

(۲۸) إرشاد الساری: ۴۹۷/۱۳

فرائض و واجبات کو ضائع کر دیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے امانت کی تفسیر فرائض سے کی ہے۔“

حاصل یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے کہ برے لوگوں کی کثرت ہوگی اور ظاہر ہے برے لوگوں میں امانت و دیانت نہیں ہوتی اور ترجمۃ الباب میں رفع امانت ہی کا ذکر ہے۔

### ۳۶ - باب : الرِّبَاءِ وَالسُّمْعَةِ .

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دکھاوے اور شہرت کی مذمت بیان فرمائی ہے۔

### ریا کی تعریف

ریا کی تعریف ہے: ”إظهار العبودية للناس ليحمدوه“ یعنی لوگوں کے سامنے اپنی عبادت اور بندگی کا اظہار کرنا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، ریا کہلاتی ہے۔

اور سُمْعَةُ (سین کے ضمے اور میم کے سکون کے ساتھ) لوگوں کو سنانے اور بتانے کی غرض سے کوئی کام کرنا، ریا کا تعلق حاسہ بصر سے اور سمعہ کا تعلق حاسہ سمع سے ہے (۱)۔

بہر حال ”ریا“ روایت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں نیک اور اچھا بنا کر

(۱) فتح الباری: ۴۰۸/۱۱، وعمدة القاري: ۱۳۱/۲۳، قال الإمام الغزالي رحمه الله: ”علم أن الرياء مشتق من الرؤية، والسُّمْعَةُ مشتقة من السماع. وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير، إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات، وتطلب بالعبادات، واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها. فحد الرياء هو: إرادة المنزلة بطاعة الله عز وجل. فالمرائي هو العابد، والمرأي له هم الناس المطلوب رؤيتهم لطلب المنزلة في قلوبهم، والمرأي به هو الخصال التي قصد المرائي إظهارها، والرياء هو: قصده إظهار ذلك، والمرأي به كثير. ويجمعه خمسة أقسام هي مجامع يتزين به العبد للناس، وهو البدن، والنزي، والقول، والعمل، والاتباع، والأشياء الخارجة. وكذلك أهل الدنيا يراون بهذه الأسباب الخمسة، إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من الطاعات أهون من الرياء بالطاعات.“

پیش کرنا، اپنی عبادت و نیکی کے ذریعہ لوگوں کی نظر میں اپنی قدر و منزلت چاہنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریا کا تعلق عبادت سے ہے اور جو چیزیں عبادت سے متعلق نہ ہوں جیسے کثرت مال و متاع، علم و ذہانت کی فراوانی، اشعار وغیرہ کا یاد رکھنا اور نشانہ بازی کی مہارت وغیرہ تو ان میں دکھاوے کے لئے کئے جانے والے کام کو ریا نہیں کہا جاتا بلکہ وہ افتخار و تکبر اور ناز و گھمنڈ کی ایک قسم کہلاتا ہے۔

اسی طرح (نیکی و عبادت کے) ظاہری اعمال میں بھی اگر کئی کام اس صورت میں لوگوں کو دکھانے کے لئے کئے جائیں جب کہ اس کا مقصد عزت و جاہ کی طلب نہ ہو، جیسا کہ بعض مشائخ اپنے مریدوں کو تلقین و تعلیم، لوگوں کے دلوں کو نیک اعمال کی طرف مائل کرنے اور ان کو اتباع و پیروی کی طرف راغب کرنے کے لئے بعض اعمال اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں تو یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ریا نہیں کہلائے گا، اگرچہ ظاہر میں ان کا وہ عمل ریا کاری معلوم ہو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رياء الصديقين خیر من إخلاص المریدین یعنی اونچے درجہ کے مشائخ اور بزرگوں کا ریا مریدین کے اخلاص (یعنی عدم ریا کاری) سے بہتر ہے۔

یہ بات ملحوظ رہے کہ ریا اصل میں اس کا نام ہے کہ کسی شخص کی ذات میں واقعہ کوئی صفت و کمال ہو اور وہ اپنے اس واقعی وصف و کمال کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرے اور یہ خواہش رکھے کہ لوگ اس کے اس وصف و کمال کو جانیں تاکہ ان کی نظر میں قدر و منزلت اور عزت و وقعت حاصل ہو۔ لیکن جو شخص کسی ایسے وصف و کمال کو اپنی طرف منسوب کر کے لوگوں پر ظاہر کرے کہ جو واقعہ اس کی ذات میں نہیں ہے تو اس کو ریا نہیں بلکہ خالص کذب اور منافقت کہا جائے گا۔

## ریا کی مختلف صورتوں کا حکم

ریاء کی مختلف اقسام اور صورتیں ہیں:

① ریا کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قصد اور حصول ثواب کا ارادہ قطعاً نہ ہو، بلکہ مقصد لوگوں کو دکھانا اور ان کی نظر میں قدر و منزلت حاصل کرنا ہو، جیسا کہ خالص ریا کار لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں اور مختلف قسم کے اوراد و وظائف میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو نہ نماز سے سروکار رکھتے ہیں اور نہ اوراد و وظائف سے، ریا کاری کی یہ قسم سب سے خطرناک ہے اور

اللہ تعالیٰ کے سخت غضب و قہر کے نازل ہونے کا باعث ہے، اس صورت میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل قطعاً باطل ہوتا ہے۔

❷ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نیک عمل کرنے میں دونوں چیزیں ہوں یعنی ثواب کا ارادہ بھی ہو اور ریا کاری اور دکھاوا بھی، لیکن ریا کا پہلو غالب اور ارادہ ثواب کا پہلو کمزور و ضعیف ہو، کہ عمل کو کرنے والا تنہائی میں ہو تو وہ عمل ہی سرے سے نہ کرے اور اگر بالفرض اس عمل پر کسی قسم کے ثواب اور اجر کا ذکر نہ ہوتا تو بھی محض ریا کاری کا جذبہ ہی اس عمل کو اختیار کرنے کا باعث بن جاتا، اس صورت کا بھی وہی حکم ہے جو پہلی صورت کا ہے۔

❸ تیسری قسم یہ ہے کہ نیک عمل کا جذبہ یعنی ارادہ ثواب اور لوگوں کو دکھاوا..... دونوں ہوں، اس طرح کہ ان چیزوں نے مل کر اس کو اس عبادت اور نیکی پر آمادہ کیا لیکن اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو اس کی آمادگی عمل ختم ہو جائے، حاصل یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو اختیار کرنے میں دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہوتا تو اس کو اختیار کرنے کا کوئی داعیہ پیدا نہ ہوتا بلکہ اس عمل کی طرف رغبت اسی صورت میں ہوتی جب کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں۔

اس صورت کے بارے میں بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نفع، نقصان، دونوں برابر ہیں، لیکن احادیث و آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قسم بھی مذموم اور اس صورت میں کیا جانے والا عمل بھی ناقابل قبول ہوتا ہے! کیونکہ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آخری آیات میں ہے: ﴿وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.....﴾ یعنی اس میں شرک سے مفسرین کے نزدیک ریا ہی ہے کیونکہ حدیث کے اندر ریا کو ”شرکِ خفی“ کہا گیا ہے (۲)۔

❹ چوتھی قسم یہ ہے کہ نیک عمل کا جذبہ، ارادہ ثواب اور دکھاوا دونوں ہوں لیکن ثواب کی نیت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ارادہ، راجح اور غالب ہو۔

اس صورت کو بالکل باطل نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس صورت میں اختیار کیا جانے والا عمل نیت و ارادہ کے اعتبار سے ثواب اور عتاب دونوں کا یکساں طور پر باعث ہوتا ہے کہ ارادہ و نیت میں جس قدر اخلاص یا عدم اخلاص ہوگا، اسی کے مطابق ثواب یا عتاب ہوگا، اس صورت میں یہ بھی دیکھا جاسکتا

ہے کہ قصد عمل میں ریا کاری کی جو آمیزش ہے جو اگرچہ ثواب کے ارادہ و نیت سے کمتر اور ضعیف ہے وہ کب پیدا ہوئی ہے؟ اگر ریا کاری کی آمیزش ابتدائے عمل میں ہوئی ہے تو یہ صورت زیادہ بری کہلائے گی اور اگر عمل کے درمیان پیدا ہوئی ہے تو یہ صورت پہلی صورت سے کم برائی کی حامل ہوگی اور اگر یہ عمل کرنے کے بعد آئی ہے تو یہ صورت دوسری صورت سے بھی کم بری قرار دی جائے گی اور اس کی وجہ سے اختیار کیا جانے والا عمل باطل نہیں کہلائے گا۔

اسی طرح ایک فریق یہ بھی ملحوظ رکھا جائے کہ ریا کاری کا جذبہ اگر پختہ قصد و عزم کی صورت میں ہے تو اس میں زیادہ برائی ہوگی اور اگر محض ایک خیال کی صورت میں ہو اور اس خیال ہی کی حد تک محدود رہا، آگے کچھ نہ ہو تو یہ صورت حال نقصان دہ نہیں کہلائے گی۔

بہر حال حقیقت یہ ہے کہ ریا ایک ایسا جذبہ ہے جس سے پوری طرح خلاصی نہایت دشوار ہے اور ہر حالت میں حقیقی اخلاص کا پایا جانا بہت مشکل، اسی لئے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر خوش ہونا ریا کے پائے جانے کی علامت ہے، اسی طرح تنہائی میں کوئی عمل کرتے وقت بھی دل میں ریا کا خیال آجائے تو وہ بھی ریا ہی کہلائے گا۔ خدا اس سے اپنی پناہ میں رکھے اور بہر صورت اخلاص عطا فرمائے کہ اس کی مدد و توفیق کے بغیر اس دولت کا ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔

### یہ صورت ریا کاری کی نہیں

علماء نے ایک خاص صورت و حالت اور بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرے اور کسی عبادت و طاعت میں مصروف ہو اور لوگ اس کو وہ نیک کام اور عبادت و طاعت کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کو چاہیے کہ اس وقت اس بات پر خوشی و مسرت کے جذبات پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور لطف و عنایت سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی اور لوگوں کی نظر میں باعزت بنانے کا یہ سبب پیدا فرمایا کہ گناہوں اور عیوب کی تو پر دہ پوشی فرمائی اور نیک اعمال و اخلاق کو آشکار فرمایا اور ان جذبات مسرت کے ساتھ یہ نیت و قصد رکھے کہ اگر میرے نیک عمل کے اظہار سے دین و طاعات کا چرچہ ہوتا ہے تو لوگ دین کی طرف راغب ہوں گے اور ان کے اندر بھی نیک اعمال کو اختیار کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا، یہ چیز نہ صرف یہ کہ ریا کے حکم میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو محمود

و مستحسن بھی کہا جائے گا۔ چنانچہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وحکم الرياء بغير العبادات حکم طالب المال والجاه، وحکم محض الرياء بالعبادة إبطالها، وإن اجتمع قصد الرياء، وقصد العبادة، أعطي الحكم للأقوى، فيحتمل الوجهين في إسقاط الفرض به، والمصر على إطلاع الغير على عبادته، إن كان لغرض دنيوي كإفضائه إلى الاحترام أو شبهه فهو مذموم، وإن كان لغرض أخروي كالفرح بإظهار الله جميله وستره قبيحه، أو لرجاء الاقتداء به، فمدوح وعليه يحمل ما يحدث به الأكابر من الطاعات، وليس من الرياء ستر المعصية، بل ممدوح، وإن عرض له الرياء في أثناء العبادة، ثم زال قبل فراغها لم يضر، ومتى علم من نفسه القوة أظهر القربة، وقد قيل: اعمل ولو خفت عجباً مستغفراً منه“ (۳)۔

## امام غزالی رحمہ اللہ کے نزدیک ریا کی قسمیں

امام غزالی رحمہ اللہ ریا کی حقیقت اور اس کی اقسام بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں کہ ریا کار پانچ طرح کی چیزوں میں اظہار نمود و نمائش کرتا ہے:

① قسم اول..... بدن میں ریا کاری: بدن میں ریا کاری دین کے بارے میں تو اس طرح ہے کہ بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ دین میں بہت محنت کرتا ہے، دین کا خوف اس پر غالب ہے اور اسے آخرت کا بہت ڈر ہے یا یہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھاتا ہے۔ (یعنی روزے رکھتا ہے) اور زردی رنگ سے وہم ہو کہ شب بیداری کرتا ہے۔

② قسم دوم..... ہیئت اور لباس میں نمود: ہیئت اور لباس میں نمود اور ریا کاری یہ ہے کہ مثلاً سر کے بالوں کو پرانگندہ رکھنا ہو، مونچھوں کو موٹنا، راہ میں گردن ڈال کر چلنا، آہستہ آہستہ حرکت کرنا، سجدہ کا نشان پیشانی پر باقی رکھنا، موٹے کپڑے پہننا، کبیل کی عبا پہننا، اس کے دامن پنڈلیوں کے قریب تک اونچا رکھنا، کپڑوں کو پھٹا ہوا



رکھنا یہ سب باتیں ریا کاری ہیں کہ معلوم ہو کہ یہ شخص تابع سنت اور اللہ کا نیک بندہ ہے۔

جو لوگ لباس سے نمود کرتے ہیں ان کے کئی طبقات ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ کپڑے پھٹے پرانے، میلے موٹے پہنتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ ان کو دنیا کی کچھ پرواہ نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اہل اصلاح اور دنیا داروں دونوں فریقین میں مقبول ہوا چاہتے ہیں اس لئے نہایت باریک عبا اور چادریں اور رنگین پیوند کار وغیرہ تلاش کرتے ہیں تاکہ نہ درویش جائیں اور نہ دنیا دار۔

۳ قسم سوم..... قول میں ریا کاری: اس میں اہل دین کی ریا کاری اس طرح ہے کہ ریا کے لئے وعظ و نصیحت اور حکمت و دانائی کی بات یا اخبار و آثار کا اس لئے یاد کرنا کہ روز مرہ کے محاوروں میں کام آئے۔ سب کے سامنے ریا کاری سے ہونٹ ہلاتے رہنا۔

۴ قسم چہارم..... عمل میں ریا کاری: مثلاً نماز میں ریا کے لئے دیر تک قیام، طویل رکوع اور سجدہ کرنا، گردن جھکائے رکھنا۔

۵ قسم پنجم..... ملنے والوں میں ریا کاری: مثلاً کوئی شخص اس بات کا تکلف خواہاں ہو کہ فلاں عالم یا عابد میری ملاقات کے لئے آئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ شخص بڑا دین دار اور صاحب حیثیت ہے کہ بڑے علماء اور بزرگ اس کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ یا ریا کاری کے لئے بکثرت شیوخ و مرشدین کا تذکرہ کرے تاکہ معلوم ہو کہ بہت سے اکابر سے استفادہ کیا ہے (۴)۔

۶۱۳۴ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا بَحْيٌ ، عَنْ سُفْيَانَ : حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ .  
 وَحَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  
 وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُهُ ، فَذَنُوتُ مِنْهُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 (مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ يَرَانِي يُرَانِي اللَّهُ بِهِ) . [۶۷۳۳]

حضرت سلمہ ابن کہیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جندب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے حضرت جندب کے سوا کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وہ ”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کہتا ہو، چنانچہ میں حضرت جندب کے قریب ہوا تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا خواہش مند ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے مشہور کر دے گا اور جو دکھاوے کے لئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی نمود و نمائش کر دے گا۔

### حدیث کے مختلف مطالب

اس حدیث کے مختلف مطالب بیان کئے گئے ہیں:

① ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو شخص شہرت حاصل کرنے، حصول جاہ و عزت کے لئے اور لوگوں کے دکھاوے کے لئے کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی بری سرشت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا جس کو وہ لوگوں سے چھپاتا ہے اور یوں اس کی رسوائی اور ذلت کا سامان ہو جائے گا یا یہ ایسے شخص کی بری نیت اور غرض کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اور یوں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص اپنے اس نیک عمل میں مخلص نہیں، گویا کہ جس مقصد اور غرض کے لئے اس نے وہ نیک عمل اختیار کیا تھا، وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس کے برعکس اس کی فاسد نیت لوگوں کے سامنے آشکار

۶۱۳۴ : أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ، باب : من أشرك في عمله غير الله (تحريم الرياء) ، رقم : ۲۹۸۶ .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد ، باب الرياء والسمعة (رقم الحديث: ۴۲۰۷)

ہو جائے گی (۵)۔

لیکن اس مطلب پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ ریا کاری کی وجہ سے بہت نیک کام کرتے ہیں اور دنیوی لحاظ سے وہ اس میں کامیاب رہتے ہیں اور ان کی ریا کاری اور بری نیت لوگوں کے سامنے نہیں آتی!

۲ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنا کوئی نیک عمل لوگوں کو سنانے اور دکھانے کے لئے کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس نیک عمل کا ثواب اسے سنا اور دکھا دے گا، لیکن عطا نہیں کرے گا (۶)۔

۳ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص کوئی نیک عمل لوگوں میں مشہور ہونے اور دکھانے کے لئے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کے مطابق اس کا بدلہ اسے دے دے گا اور لوگوں میں اس کے اس عمل کی شہرت ہو جائے گی، لیکن اس عمل کے آخرت میں حقیقی اور لافانی اجر سے وہ محروم رہے گا (۷)، قرآن کریم، سورۃ ہود میں ہے: ﴿مَنْ كَانَ يَرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا نَفَىٰ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسِنُونَ﴾ یعنی جو شخص صرف دنیوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے ہم انہیں ان کے (نیک) اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دے دیں گے اور دنیا میں ان کے اس بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی (لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا)۔

۴ اور ایک معنی یہ بیان کئے گئے کہ جو شخص دنیا کے اندر لوگوں کے دکھاوے اور اپنی شہرت کے لئے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر، اس کی اس فاسد نیت کو سب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ حافظ منذری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

أى: من أظهر عمله للناس رياء، أظهر الله نيته الفاسدة في - حمله يوم

القيامة، وفضحه على رؤوس الأشهاد (۸)۔

(۵) فتح الباري: ۴۰۹/۱۱، عمدة القاري: ۱۳۳/۲۳، إرشاد الساري: ۴۹۸/۱۳

(۶) فتح الباري: ۴۰۹/۱۱، عمدة القاري: ۱۳۳/۲۳، إرشاد الساري: ۴۹۸/۱۳

(۷) فتح الباري: ۴۰۹/۱۱، عمدة القاري: ۱۳۳/۲۳، إرشاد الساري: ۴۹۸/۱۳

(۸) إرشاد الساري: ۴۹۸/۱۳

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس مطلب کو معتد قرار دیا (۹)، کیونکہ آخرت کی تصریح بعض احادیث میں

وارد ہے، چنانچہ مسند احمد اور مسند دارمی میں حضرت ابو ہند دارمی کی مرفوع حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں:

”من قام مقام رياء وسمعة راءى الله به يوم القيامة وسمع به“ (۱۰).

یعنی جو شخص دکھاوے اور لوگوں کو سنانے کے لئے کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے

دن بھی، اس کو دکھلا دے گا اور مشہور کر دے گا (کہ اس نے دکھاوے کے لئے یہ عمل کیا

تھا)۔

اور طبرانی میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں:

”مامن عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء، إلا سمع الله به على

رؤوس الخلائق يوم القيامة“ (۱۱). یعنی: دنیا میں جو بھی شخص ریا کاری اور شہرت

پسندی کے مقام پر رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے، اس کی اس برائی

کی شہرت کر دے گا۔

عن سلمة قال: سمعت جناباً يقول: — ولم أسمع أحداً يقول: قال النبي ﷺ — غيره

یہ سلمہ بن کہیل کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث جناب سے سنی اور ان کے علاوہ کسی اور کو

میں نے ”قال النبي صلى الله عليه وسلم“ کہتے ہوئے نہیں سنا، ان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت

جناب کے علاوہ کسی اور صحابی سے حدیث نہیں سنی، جناب سے، حضرت جناب بن عبد اللہ بجلي بھی مراد ہیں، جو

صغار صحابہ میں سے تھے۔

## شارحین بخاری کا مباحثہ

علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر حضرت جناب کے علاوہ کوئی

(۹) فتح الباری: ۴۰۹/۱۱

(۱۰) فتح الباری: ۴۰۹/۱۱

(۱۱) فتح الباری: ۴۰۹/۱۱

اور صحابی موجود نہیں تھے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”مراده: لم يبق من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينئذ

غيره في ذلك المكان“ (۱۲)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علامہ کرمانی پر اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت جناب کوفہ میں تھے اور ان کی زندگی میں حضرت ابو حنیفہ اور حضرت عبداللہ بن ابی اونی موجود تھے، کیونکہ حضرت ابو حنیفہ نے، حضرت جناب کے چھ سال بعد وفات پائی ہے اور حضرت عبداللہ بن ابی اونی کی وفات ان کے دس سال بعد ہوئی ہے اور حضرت سلمہ نے ان دونوں سے حدیثیں نقل کی ہیں، اس لئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہاں کوئی صحابی موجود نہیں تھے، جیسا کہ علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے سمجھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت جناب سے یہ حدیث سننے کے بعد، انہوں نے کسی اور صحابی سے پھر حدیث نہیں سنی (۱۳)۔

علامہ عینی رحمہ اللہ نے حافظ کے اعتراض کو رد کیا اور کہا کہ کرمانی کے کلام میں ”ذلك المكان“..... سے کوفہ مراد لینے کے بجائے یہ بھی احتمال ہے کہ جس جگہ انہوں نے حضرت جناب سے حدیث سنی، وہ جگہ مراد ہو اور مطلب یہ ہو کہ سماع حدیث کے اس مقام پر کوئی اور صحابی موجود نہیں تھے، علامہ عینی فرماتے ہیں:

”والعجب من هذا القائل يفسر كلام الكرمانى بحسب ما يفهمه ثم يرد عليه“ (۱۴)۔

یعنی تعجب ہے اس قائل پر کہ اپنی فہم کے مطابق کرمانی کے کلام کی تفسیر کرتا ہے اور پھر اس پر رد کرتا ہے۔

فائدہ..... جناب نام کے پانچ صحابہ

جناب نام کے پانچ صحابہ ہیں، جناب بن جنادہ یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر اور مشہور صحابی ہیں..... جناب بن مکین جہنی، جناب بن ضمیرہ جندی، جناب بن کعب عبدی اور جناب بن عبداللہ بجلي، ان ہی سے سلمہ بن کہیل روایت نقل کر رہے ہیں (۱۵)۔

(۱۲) شرح البخاري للكرمانى: ۲۰/۲۳

(۱۳) فتح الباري: ۴۰۸/۱۱

(۱۴) عمدة القاري: ۱۳۲/۲۳

(۱۵) عمدة القاري: ۱۳۲/۲۳

علامہ عینی رحمہ اللہ نے حافظ کے اس قول کو بھی رد کیا ہے کہ حضرت ابو جحیفہ کی وفات، ان کے چھ سال بعد اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کی وفات ان کے دس سال بعد ہوئی، کیونکہ حضرت جندب بن عبداللہ کی سن وفات، مورخین اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی نے نہیں لکھی ہے، ان کی سن وفات معلوم نہیں، تو یہ چھ سال اور دس سال کی تعیین کہاں سے کی گئی (۱۶)۔

علامہ مزنی رحمہ اللہ نے ”تہذیب الکمال“ میں ان کا تذکرہ لکھا ہے اور ان کی سن وفات نہیں لکھی (۱۷)، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ ان کی وفات سن ستر ہجری کی حدود میں ہوئی ہے (۱۸)، واللہ اعلم۔

### ۳۷ - باب : مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ .

اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں مشقت اٹھانے اور مجاہدہ کرنے کی فضیلت اس باب میں بیان کی گئی ہے، اخلاق ذمیرہ سے اپنا تزکیہ کرنا اور اخلاق حسنہ اپنانا، گناہوں سے بچنا اور خواہشات کو چکلائنا یہ سب مجاہدہ فی الطاعت میں داخل ہے (۱)!! ابوعلی دقاق کا قول ہے:

”مَنْ زَيَّنَ ظَاهِرَهُ بِالْمُجَاهَدَةِ، حَسَّنَ اللَّهُ سِرَّاتِهِ بِالْمُشَاهَدَةِ (۲)۔ یعنی

جو شخص اپنے ظاہر کو مجاہدے (والے اوصاف) سے مزین کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو مشاہدہ حق سے مزین کرے گا۔

آیت کریمہ میں ہے: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ.....﴾ [النسازعات: ۴۰] یعنی جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اپنے آپ کو نفسانی

(۱۶) عمدة القاري: ۱۳۲/۲۳

(۱۷) تہذیب الکمال: ۱۳۷/۵، رقم الترجمة: ۹۷۳

(۱۸) سیر اعلام النبلاء: ۱۷۵/۳

(۱) إرشاد الساري: ۵۰۰/۱۳

(۲) إرشاد الساري: ۵۰۰/۱۳

خواہشات سے روکے گا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے اور ایک دوسری آیت کریمہ میں ہے: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.....﴾ (۲) اور جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔

## اہل مجاہدہ کی دس خصلتیں

امام عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے ”غنیۃ الطالبین“ میں اہل مجاہدہ کی دس خصلتیں بیان کی ہیں:

① قسم نہ کھانا (چاہے جھوٹی ہو یا سچی، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر)۔

② جھوٹ نہ بولنا۔

③ وعدہ پورا کرنا۔

④ مخلوق خدا میں سے کسی کی برائی اور اذیت سے بچے رہنا۔

⑤ کسی کو بددعا نہ دینا، چاہے کوئی ظالم ہی کیوں نہ ہو۔


⑥ کسی کے حق میں شرک اور کفر و نفاق کی گواہی نہ دینا۔

⑦ گناہ کی چیزوں کی طرف نہ ظاہر میں نظر کرنا اور نہ ہی باطن میں۔

⑧ کسی پر اپنا بوجھ نہ ڈالنا اور خلق خدا کا بار اپنے سر لینا!

⑨ کسی کی طرف طمع کا ہاتھ نہ بڑھانا۔

⑩ تواضع اختیار کرنا (۳)۔



(۲) سورة العنكبوت: ۶۹

(۳) قال الشيخ عبدالقادر الجیلانی رحمہ اللہ: ”أحد أئمة الصوفية والأعلام: وَالْأَضْلُ فِي الْمَجَاهِدَةِ مَخَالَفَةُ الْهَوَى فَيَفْطَمُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَأْلُوفَاتِ وَالشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ، وَيَحْمِلُهَا عَلَى خِلَافِ مَا تَهْوَى فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ، فَإِنِ انْهَمَكَ فِي الشَّهَوَاتِ، أَلْجَمَهَا بِلِجَامِ التَّقْوَى وَالْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا حَرَنْتَ وَوَقَفْتَ عِنْدَ الْقِيَامِ بِالطَّاعَاتِ وَالْمُؤَافَقَاتِ سَاقَهَا بِسِيَاطِ الْخَوْفِ وَخِلَافِ الْهَوَى وَمَنْعِ الْحِظْوِظِ. (وانظر غنية الطالبين (المترجم) مع فتوح الغيب، ص: ۱۰۲۴)

۶۱۳۵ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا هَمَامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا وَرَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ : ( يَا مُعَاذُ ) . قُلْتُ : لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : ( يَا مُعَاذُ ) . قُلْتُ : لَيْتَكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : ( يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ) . قُلْتُ : لَيْتَكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : ( هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ) . قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ( حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ) . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : ( يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ) . قُلْتُ : لَيْتَكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : ( هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ) . قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ( حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ ) .

[ر : ۲۷۰۱]

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سوائے کجاوہ کی لکڑی کے میرے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ! میں نے عرض کی لبتیک وسعدیک یا رسول اللہ! (اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور تیار ہوں) پھر تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے رہے، پھر فرمایا، یا معاذ! میں نے عرض کی لبتیک وسعدیک یا رسول اللہ! پھر تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا، اے معاذ! میں نے عرض کی، لبتیک وسعدیک یا رسول اللہ! فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا، اے معاذ! میں نے عرض کی، لبتیک وسعدیک یا رسول اللہ! فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ جب بندے یہ



کر لیں تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے، میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔

## حدیث باب کی ایک خصوصیت

**تنبیہ.....** حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وهو من الأحادیث التي أخرجها البخاري في ثلاثة مواضع من شيخ واحد بسند واحد، وهي قليلة جدا في كتابه..... وقد تتبع بعضهم ما أخرج في موضعين بسند واحد، فبلغ عدتها زيادة على العشرين، وفي بعضها تصرف في المتن باختصار منه“ (۴).

یعنی یہ ان احادیث میں سے ہے جن کی تخریج، ایک ہی سند اور متن کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے تین مقامات پر کی ہے اور اس طرح کی احادیث صحیح بخاری میں بہت کم ہیں، ایک ہی سند اور ایک ہی متن کے ساتھ دو مقامات پر تخریج کردہ احادیث کی بعض علماء نے تحقیق کی تو ان کی تعداد بیس سے کچھ اوپر تھی، پھر ان میں سے بعض کے اندر متن میں تھوڑا سا اختصار بھی ہے!

## ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت

ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ذمہ حق بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اس کی عبادت و طاعت کا مجاہدہ کرے، جس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے (۵)۔

(۴) فتح الباری: ۱۱/۱۳

(۵) عمدة القاری: ۲۳/۱۳۳، وإرشاد الساری: ۱۳/۵۰۰

## لیس بینی وینہ إلا آخرۃ الرحل

آخرۃ الرحل: رحل کجاوے کو کہتے ہیں اور آخرۃ..... خاء کے کسرہ اور الف کے ساتھ..... اس لکڑی کو کہتے ہیں جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے۔ یعنی میرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک لکڑی حامل تھی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بالکل قریب بیٹھا تھا، مقصد مبالغہ ہے کہ میں نے آپ سے جو کچھ سنا، وہ بہت قریب سے سنا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وفائدة ذكره: المبالغة في شدة قربه، ليكون أوقع في نفس سامعه

أنه ضَبَطَ مارأوه“ (۶).

## لبیک و سعديک

”لبیک“ مفعول مطلق ہے، اس کا فعل وجوباً محذوف ہے، تقدیری عبارت یوں ہے: ”أَلْبُ لَكَ الْبَابِینِ.....“ فعل کو حذف کر کے مصدر کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، پھر مصدر مزید فیہ کو زوائد کے حذف کرنے کے بعد ثلاثی مجرد کی طرف لوٹا دیا گیا، بعد ازاں لام جارہ کو حذف کر کے مصدر ثلاثی کو کاف ضمیر کی طرف مضاف کر دیا گیا تو ”لبیک“ ہو گیا۔ اس صورت میں یہ ”أَلْبُ بِالْمَكَانِ — الْبَابِ“ سے ماخوذ ہوگا، جس کے معنی ہیں کسی جگہ مقیم ہونا تو ”لبیک“ کا مطلب ہوا: ”میں آپ کی فرمانبرداری پر مقیم اور ثابت ہوں۔“

امام خلیل نحوی کے نزدیک یہ لَبُّ يَلْبُ سے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دار فلان تَلْبُ داری یعنی فلاں کا مکان میرے مکان کے بالقابل ہے۔ لہذا ”لبیک“ کا مطلب ہے: انا مواجھک بما تحب إجابة لك یعنی آپ جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں میں آپ کی مرضی کے مطابق اس کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوں۔

سعديک، سعد متعدی ہے، یہ إسعاد کے معنی میں ہے، یعنی کسی کی مدد کرنا، یہ بھی مفعول مطلق ہے، اس کا فعل بھی وجوباً محذوف ہے، تقدیری عبارت یوں ہے: أسعدك إسعاداً بعد إسعاد یعنی میں آپ کی مدد کے لئے بالکل تیار ہوں۔ لبیک اور سعديک دونوں اگرچہ تشبیہ کے صیغے ہیں مگر تشبیہ پر دلالت کرنے کے لئے نہیں بلکہ کثرت اور تکرار پر دلالت کرنے کے لئے ہے (۷)۔

(۶) فتح الباری: ۱۱/۴۱۱

(۷) تفصیل کے لئے دیکھئے: شرح الجمالی: ۸۷-۸۸، مختار الصحاح، ص: ۵۸۹، والمعجم المفصل فی الإعراب: ۳/۳۸۲

## ۳۸- باب : التواضع

## تواضع کے معنی

تواضع کے کئی ایک معنی بیان کئے گئے ہیں: إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه یعنی جو شخص اس کی تعظیم کا ارادہ کرے، اس کے سامنے اپنے رتبے سے نزول اور فروتنی کو ظاہر کرنا (۱)۔ بعضوں نے کہا ہو تعظیم من فوقه لفضله (۲)۔ یعنی بڑے کی تعظیم اور احترام کرنا اس کے فضل اور فوقیت کی وجہ سے! جنید بغدادیؒ نے فرمایا تواضع خفض الجناح ولین الجانب یعنی نرم مزاجی کا نام ہے۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا، حق کے سامنے جھکنا، حق کو سننا اور قبول کرنا تواضع ہے (۳)۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث مسند احمد میں ہے: "من تواضع لله درجة، رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين" (۴)۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لئے ایک درجہ تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک درجہ رفعت عطا کرے گا اور اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے:

"وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" (۵)۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے جو بھی

تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے۔

امام ابوداؤد نے عیاض بن حمار سے ایک اور روایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ ہیں:

"إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد

(۱) فتح الباري: ۱۴/۱۱، عمدة القاري: ۱۳۴/۲۳، إرشاد الساري: ۵۰۰/۱۳

(۲) فتح الباري: ۱۴/۱۱، عمدة القاري: ۱۳۴/۲۳، إرشاد الساري: ۵۰۰/۱۳

(۳) دیکھئے، عوارف المعارف للسهرودي، الباب الثلاثون في تفاصيل الأخلاق الصوفية: ۴۱۲/۱

(۴) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند أبي سعيد الخدري: ۱۹۱/۴، رقم: ۱۱۷۴۷

(۵) أخرجه الإمام الترمذي في سننه كتاب الزهد، باب التواضع: ۲۸/۴، رقم الحديث: ۲۰۲۹

ولایفخر أحد علی أحد“ (۶)۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی کہ تم تواضع اور عاجزی اختیار کرو اور کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔

۶۱۳۶ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ .

قال : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ ، وَكَانَتْ لَا تُسْبِقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ) . [ر : ۲۷۱۶]

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، جس کا نام ”عضباء“ تھا (کوئی جانور دوڑ میں) اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ پھر ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گیا، مسلمانوں پر یہ بات بڑی شاق گزری اور کہنے لگے کہ عضباء پیچھے رہ گئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ دنیا میں کسی چیز کو بلند نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کو پست بھی کر دیتا ہے۔

## حدیث باب کے دو طریق

یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے دو طریق سے نقل کی ہے:

① ایک طریق میں ان کے شیخ مالک بن اسماعیل، ان کے شیخ زہیر بن معاویہ ہیں اور وہ حمید طویل سے نقل

کرتے ہیں۔

② دوسرے طریق میں امام کے شیخ محمد بن سلام ہیں اور ان کے دو شیخ ہیں، مروان بن معاویہ فزاری اور ابو خالد احمد، یہ دونوں حمید طویل سے نقل کرتے ہیں، حمید پر جا کر دونوں طریق جمع ہو جاتے ہیں ابو خالد کا نام سلیمان بن حیان ہے۔

حدیث باب، کتاب الجہاد میں، باب نائقة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت گزر چکی ہے۔

### ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت

ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت، اس روایت کے دوسرے طرق میں واقع اس جملے کی وجہ سے ہے، ”حق علی اللہ أن لا یرفع شیء نفسه فی الدنیا إلا وضعه“۔ یعنی کوئی بھی ایسی شئی جو دنیا میں اپنا آپ اونچا کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے نیچے کر دے گا۔  
اس حدیث سے رفع اور تکبر کی مذمت اور تواضع کی ترغیب معلوم ہوتی ہے (۷)۔

۶۱۳۷ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ كَرَامَةَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ  
أَبْنُ بِلَالٍ : حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَعْرِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي  
بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اقْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ ، فَإِذَا  
أَحْبَبْتُهُ : كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ  
الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِن سَأَلَنِي لِأَعْطَيْتُهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ  
تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ ، بِكَرِهَةِ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میری طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے سے

جتنا میرے قریب ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہو جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، (جو میں کام کرنا چاہتا ہوں) اس میں مجھے پس و پیش نہیں ہوتا، جیسا کہ مجھے اس مومن کی جان کے بارے میں پس و پیش اور تردد ہوتا ہے جو موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اس کی ناگواری کو پسند نہیں کرتا۔

من عادی لی ولیا، فقد آذنتہ بالحرب

یعنی جو میرے دوست اور ولی سے دشمنی کرے گا، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔

ولـی، فعلیل کے وزن پر ہے اور یہ یا تو اسم مفعول کے معنی میں ہے فعلیل کا وزن مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ولی سے وہ شخص مراد ہے جس کے معاملات اور امور کو اللہ تعالیٰ کی ولایت اور نصرت حاصل ہو۔ سورۃ اعراف آیت ۱۹۶ میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ﴿وہو یتولی الصالحین﴾ یعنی اللہ تعالیٰ ہی صالحین کی ولایت و نصرت کرتا ہے اور انہیں محفوظ رکھتا ہے۔

اور یا یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت پر قدرت و ولایت حاصل ہو اور اس کی عبادات مسلسل جاری ہوں، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”أو هو فعیل مبالغۃ من الفاعل، وهو الذی یتولی عبادة اللہ وطاعته،

فعبادته تجری علی التوالی، من غیر أن یتخللها عصیان“ (۸)۔

جس طرح انبیاء کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح ولی کے لئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے

محفوظ ہونا ضروری ہے (۹)، علامہ عینی رحمہ اللہ ولی کی تعریف لکھتے ہیں:

”هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته“ (۱۰).

من عادى وليا لي “ نہیں کہا بلکہ ”لي“ کو مقدم کہا، اصل میں ”لي“، ”وليا“ کی صفت ہے، اسے مقدم کر کے حال بنایا ہے (۱۱)، اس میں ایک لطیف نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وإنما قال: من عادى لي، ولم يقل: وليا لي، تفخيما لشأن العداوة؛

لأن في الأول إيذانا بأن عداوة ولي، كأنها عداوة الله تعالى، بخلاف الثاني“ (۱۲). یعنی من عادى لي ولياً فرمایا، من عادى ولياً لي نہیں فرمایا، عداوت اور دشمنی کے معاملے کی سنگینی بتلانے کے لئے۔ اس لئے کہ پہلی صورت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی اللہ والے سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری صورت میں یہ نکتہ حاصل نہیں ہوگا۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص میرے ولی کو تکلیف پہنچائے گا، اسے اذیت دے گا تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وإذا ثبت هذا في جانب المعادة، ثبت ضده في جانب الموالة،

فمن وآلى أولياء الله، أكرمه الله.....“ (۱۳).

وما تقرب إلي عبدي بشيءٍ إليّ مما افترضت عليه

یعنی بندہ میری قربت جن چیزوں کے ذریعہ حاصل کرتا ہے، ان میں فرائض سے زیادہ کوئی محبوب چیز میرے نزدیک نہیں، مطلب یہ ہے کہ فرائض پر عمل کر کے اللہ جل شانہ کا جو قرب حاصل کیا جاسکتا ہے،

(۹) إرشاد الساري: ۵۰۲/۱۳

(۱۰) عمدة القاري: ۳۷/۲۳

(۱۱) فتح الباري: ۴۱۶/۱۱، وعمدة القاري: ۱۳۶/۲۳، وإرشاد الساري: ۵۰۲/۱۳

(۱۲) فيض الباري: ۴۲۷/۴

(۱۳) إرشاد الساري: ۵۰۲/۱۳

کسی اور چیز کے ذریعہ، اس سے بڑھ کر قرب حاصل نہیں کیا جاسکتا، نوافل کے ذریعہ بھی اللہ کی قربت اسی وقت حاصل کی جاسکتی ہے، جب فرائض کا اہتمام ہو، فرائض چھوڑ کر، نوافل کا اہتمام کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب کبھی نہیں بن سکتا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں اس کی وضاحت فرمائی ہے (۱۳)۔

ولا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه:

جیسا کہ کہا گیا ہے کہ نوافل سے مراد نوافل مع الفرائض ہے، یعنی ایک شخص فرائض کا تو اہتمام کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کی کثرت بھی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا درجہ پالیتا ہے۔

فإذا أَحَبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ.....

اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں،

(۱۴) ”قولہ: [لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل]، وههنا بحث للصوفية في فضل القرب بالنوافل، والقرب بالفرائض، فقالوا: إن العبد في القرب الأول يصير جارحة لله جل مجده، والله سبحانه نفسه يكون جارحة لعبده في القرب الثاني، وذلك لأن الفرائض مفروضة من الله تعالى على عباده، وليس لهم بد من الإتيان بها، فكانوا فيها كالجارحة للرجل، وأما النوافل، فالعبد يأتي بها بطوعها، من دون عزم عليه، فإذا تقرب بها إلى الله تعالى كان الله له كالجارحة؛ قلت: أما كون الله تعالى جارحة للعبد في القرب بالنوافل، فذلك نص الحديث، وأما ما ذكره في القرب بالفرائض، فلا لفظ له في الحديث، إلا أنهم أخذوه بالمقابلة، والذي تبين لي أن القرب في الفرائض أزيد وأكمل، فإنه يجلب المحبوبة له تعالى من أول الأمر، بخلاف القرب في النوافل، فإنها تجلب المحبوبة تدريجاً، وإن كانت ثمرتها في الانتهاً أيضاً هي المحبوبة، ولكن ما يحصل من النوافل آخراً يحصل من الفرائض أولاً، فأني يستويان، وإليه ترشد ألفاظ الحديث، فانه قال في الفرائض: ما تقرب إليّ عبدي، أحب إليّ مما افترضت عليه، فجعل مفروضه أحب إليه من أول الأمر، وجعل ثمرته القرب، بخلاف النوافل، فإن القرب منها تدريجي، يتدرج العبد إليه شيئاً فشيئاً، وبالجملة أنها في النتيجة سواء، وهي المحبوبة، غير أنها تحصل بالفرائض أولاً، وبالنوافل ثانياً. (فيض الباري: ۴/۴۳۰)



جس سے وہ منتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے.....

### حدیث باب کے مختلف مطالب

ظاہر ہے کہ یہ الفاظ اپنے حقیقی معنی نہیں ہیں، اللہ جل شانہ جسم اور جسم کے لوازمات سے منزہ اور پاک ہے، اس لئے ان کے مجازی معنی مراد لئے گئے ہیں اور مندرجہ ذیل مطالب بیان کئے گئے ہیں:

① اس سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کی طرف اشارہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو محبوب بن جاتا ہے، اس کے یہ اعضا اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید سے چلتے، حرکت کرتے اور کام کرتے ہیں، مشہور صوفی بزرگ ابو عثمان حیری نے اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ”معنی الحدیث: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع، وعينه في النظر، ويده في اللمس، ورجله في المشي“ یعنی میں اس کی حاجتوں کو جلد پوری کر دیتا ہوں، اس کے حاسہ سمع سے سننے میں، اس کی آنکھ سے دیکھنے میں، اس کے ہاتھ سے چھونے میں اور اس کے قدم سے چلنے میں۔ اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی نصرت اور تائید ایسے بندے کو حاصل رہتی ہے (۱۵)۔

② دوسرے معنی یہ بیان کئے گئے کہ سمع اور بصرا اسم مفعول مسموع کے معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ صرف میرا ذکر سنتا، میری قدرتوں کے کرشمے کو دیکھتا ہے اور میری ہی مرضیات میں اس کے ہاتھ پاؤں بڑھتے اور چلتے ہیں (۱۶)۔

③ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں ”حافظ“ کا لفظ بطور مضاف محذوف ہے، تقدیر عبارت ہے: ”كنت حافظ سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يحل سماعه، وحافظ بصره“ یعنی میں اس کے کانوں، اس کی نظر وغیرہ کی حفاظت کرتا ہوں اور یوں وہ گناہ اور نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے (۱۷)۔

④ بعض علماء نے کہا کہ یہ بطور تمثیل ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح آنکھ، ہاتھ اور دیگر جوارح انسان

(۱۵) فتح الباری: ۱۱/۴۱۸، إرشاد الساری: ۱۳/۵۰۳، عمدة القاری: ۲۳/۱۳۸

(۱۶) فتح الباری: ۱۱/۴۱۸، إرشاد الساری: ۱۳/۵۰۳، عمدة القاری: ۲۳/۱۳۸

(۱۷) عمدة القاری: ۲۳/۱۳۸

محبوب ہوتے ہیں اسی طرح میں بھی اسے محبوب ہو جاتا ہوں اور وہ میری نافرمانی نہیں کرتا (۱۸)۔

وما تَرَدُّدٌ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ

میں کسی کام کو کرنے والا ہوتا ہوں، تو مجھے اس میں تردد نہیں رہتا، جس طرح مؤمن کی جان (لینے)

کے بارے میں مجھے تردد ہوتا ہے (۱۹)۔

مقصود یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو مجھے اس میں تردد اور تذبذب نہیں ہوتا کہ یہ کام کرنا چاہیے یا

(۱۸) فتح الباری: ۴۱۸/۱۱

(۱۹) علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس جملے کے متعلق فیض الباری میں بڑا نفیس نکتہ تحریر فرمایا ہے، ذیل میں حضرت کا وہ کلام نقل کیا جا رہا ہے:

قوله: [وما ترددت عن شيء أنا فاعله] لا ريب أن التردد في جنبه تعالى محال، ولكنه جيء به على شأن خاطر عبادة؛ ليعلموا ما قدرهم عند ربهم، وليس له لفظ لمثل هذا الموضع في عالمهم، إلا هو، فحادثهم بحسب مجاري عرفهم، هذا بحسب الجلي من النظر، وعند تدقيق النظر يظهر أن التفاته تعالى إلى أمرين متعارضين هو الذي عني بالتردد، وعبر عنه، فإن الله تعالى يتوجه أولاً إلى توفي العبد، ثم إلى ملالة العبد، من موته، ولا بدله منه في الدنيا، فكأنه مادة التردد للعبد، فإن العبد إذا تردد فيما تتعارض فيه الجهات، فلا يسبح له الترجيح، فيحدث له فيه التردد لامحالة، والله سبحانه بريء عن التردد، ولكنه عبر عنه في اللفظ، لكونه مادته عندهم، وبعبارة أخرى: إن العبد يكره موته، وملك الموت يجيء ليتوفاه، فتحدث صورة التصادم والتقابل، وتلك الصورة سميت بالتردد، وإلا فلا تردد في جنبه تعالى، فإنه فعال لما يشاء، وحاكم لما يريد، ثم إن تلك الصورة أيضاً في المواطن التحتانية، وأما في الفوق، فلا شيء منه، وهذا كما في الحديث: إن البلاء ينزل من السماء، وتصدق الصدقة إليه، فلا يزالان يتصارعان إلى يوم القيامة، حتى لا ينزل هذا، ولا يصعد هذا - أو كما قال - فأمعن النظر فيه، هل يوهم في الظاهر أن الصدقة ترد من القدر شيئاً، والوجه فيه أن هذا التصارع إنما هو في علم الأسباب، وأما عند ربك فقد جف القلم بما هو كائن، وقد علم من قبل أن هذا البلاء، يرد عنه لأجل صدقته، ولما كان رده من صدقته لا بد أن يظهر هذا التعليق أيضاً في موطن، وهو كما في الحديث، فهكذا لا تردد عند ربك أصلاً، ولكن لما كانت مادة التردد مما تتجاذب فيه الجهات، وهي متحققة فيما نحن فيه، عبر عنه بالتردد بحسب هذا الموطن، مع أنه لا تردد عند ربك، فإنه لا صباح عنده، ولا مساء، فافهم.

(فيض الباری: ۴۳۰/۴-۴۳۱)

نہیں، سوائے مومن کی جان لینے کے، کہ اس میں تردد رہتا ہے کہ روح قبض کی جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں.....

ظاہر ہے کہ تردد اور تذبذب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی معنی میں درست نہیں کیونکہ تردد ایک انفعالی کیفیت ہے جو کمزوری کی علامت ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ ہر قسم کی انفعالییت سے پاک اور مڑہ ہے۔ اس لئے یہاں تردد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازاً ہے اور مراد اس سے ان فرشتوں کا تردد ہے جو کسی بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے لئے جاتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے جب فرشتہ گیا اور اجازت چاہی تو انہوں نے فرشتے کو طمانچہ رسید کر دیا تھا اور چونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے تردد کی نسبت اپنی طرف کردی (۲۰)۔

یکرہ الموت و أنا أکرہ مَسَاءَ تہ

مَسَاءَ (میم کے فتح کے ساتھ) مومن موت کو ناپسند کرتا ہے (کہ روح نکلتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے) اور میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں، اس کے دو مطلب بیان کئے ہیں:

① اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مومن، موت کو اس کی سختی اور روح کی جسم سے جدائی کی تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور مجھے اس کی یہ اذیت پسند نہیں، یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مومن کی موت پسند نہیں، کیونکہ موت تو اس کو اللہ سے ملانے والی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ روح قبض ہوتے ہوئے اسے جو طبعی تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے کہا و أنا أکرہ مَسَاءَ تہ (۲۱)۔

② دوسرا مطلب یہ ہے کہ مومن تو موت کو ناپسند کرتا ہے لیکن میں اس کے لئے دنیا میں طویل زندگی کی صعوبتوں اور تکالیف کو ناپسند کرتا ہوں، اس لئے اسے اپنے پاس بلا لیتا ہوں، یعنی مَسَاءَ تہ سے مراد دنیا کی طویل زندگی کی تکالیف اور مصیبتیں ہیں، جب انسان بوڑھا ہوتا اور ازل عمر تک پہنچتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو دنیوی زندگی کی یہ اذیت چونکہ اللہ تعالیٰ کو مومن کے لئے پسند نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں

(۲۰) فتح الباری: ۱۱/۴۲۰، عمدۃ القاری: ۲۳/۳۱۸، إرشاد الساری: ۱۳/۵۰۳

(۲۱) فتح الباری: ۱۱/۴۲۱، عمدۃ القاری: ۲۳/۱۳۸، إرشاد الساری: ۱۳/۵۰۳

جب کہ مؤمن موت کو ناپسند کرتا ہے (۲۲)۔

اس حدیث میں اللہ جل شانہ نے اولیاء اللہ کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا کہ اگر موت کے ٹل جانے کی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اسے بھی ٹال دیتے کہ اللہ جل شانہ کو اپنے ایسے بندے بہت عزیز اور پیارے ہیں!

### حدیث باب پر اعتراض اور اس کا جواب

حدیث باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ الشیخ خالد بن مخلد قسوطانی ہیں، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے ”میزان الاعتدال“ میں مختلف محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل کی آراء ان کے بارے میں نقل کی ہیں، ان میں سے کئی حضرات نے ان کو ضعیف قرار دیا، چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا: ”لہ مناکیر“، امام ابو حاتم نے فرمایا ”یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ“ (۲۳)۔

ابن سعد نے فرمایا ”منکر الحدیث مفرط فی التشیع“ (۲۴) ابن عدی رحمہ اللہ نے ”الکامل فی ضعفاء الرجال“ میں ان کا ذکر کیا اور ان کی دس احادیث نقل کر کے ان سب کو نسبتاً منکر قرار دیا (۲۵)، علامہ ذہبی نے حدیث باب کا ذکر کر کے کہا ”ہذا حدیث غریب جدا“ اگر صحیح بخاری کی ہیبت نہ ہوتی تو محدثین اسے خالد بن مخلد کی منکر احادیث میں شمار کرتے (۲۶)۔

علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری کے علاوہ کسی اور نے ان سے نقل نہیں کیا، شریک بن عبداللہ اس میں متفرد ہیں اور وہ حافظ نہیں، جب کہ اس سند کے علاوہ، کسی اور سند سے یہ حدیث مروی نہیں اور میرا خیال ہے کہ مسند احمد میں یہ نہیں ہے (۲۷)۔

(۲۲) فتح الباری: ۱/۴۲۱، وعمدة القاری: ۲۳/۱۳۸، إرشاد الساری: ۱۳/۵۰۳

(۲۳) دیکھئے: میزان الاعتدال: ۱/۶۴۰، رقم الترجمة: ۲۴۶۳

(۲۴) میزان الاعتدال: ۱/۶۳۰، رقم: ۲۴۶۳

(۲۵) الکامل فی ضعفاء الرجال: ۳/۳۶، رقم: ۵۹۵

(۲۶) میزان الاعتدال: ۱/۶۴۲، رقم: ۲۴۶۳

(۲۷) میزان الاعتدال: ۱/۶۴۲

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسند احمد میں تو یقیناً یہ روایت نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ کسی اور سند سے یہ مروی نہیں، درست نہیں، کیونکہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ مندرجہ ذیل صحابہ سے بھی مروی ہے:

- ① حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا..... ان کی روایت امام احمد اور امام بیہقی نے کتاب الزہد میں اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل فرمائی ہے۔
- ② حضرت ابو امامہ..... ان کی روایت طبرانی اور بیہقی نے زہد میں نقل فرمائی ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔
- ③ حضرت علی رضی اللہ عنہ..... ان کی روایت اسماعیلی نے مسند علی میں نقل کی ہے۔
- ④ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ..... ان کی روایت امام طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔
- ⑤ حضرت انس رضی اللہ عنہ..... ان کی روایت ابو یعلیٰ، بزار اور طبرانی نے نقل فرمائی ہے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔

- ⑥ حضرت حذیفہ..... ان کی روایت امام طبرانی نے نقل فرمائی ہے اور اس کی سند حسن غریب ہے۔
- ⑦ حضرت معاذ بن جبل..... ان کی روایت امام ابن ماجہ نے سنن میں اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل فرمائی ہے اور اس کی سند بھی ضعیف ہے۔

بہر حال اگرچہ انفرادی طور پر یہ سندیں ضعیف ہیں، لیکن سات مختلف صحابہ سے مختلف طرق کے ذریعے اس مفہوم کی حدیث کا منقول ہونا، اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس حدیث کی اصل ضرور ہے (۲۸)۔

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، علامہ ذہبی پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ومر عليه الذهبي في ”الميزان“ وقال: لولا هيبة الجامع لقلت فيه: سبحان الله!، وكان الذهبي لم يتعلم علم المنطق، قلت: إذا صح الحديث، فليضعه على الرأس والعين، وإذا تعالى شيء منه عن الفهم، فليكله إلى أصحابه، وليس سبيله أن يجرح فيه، أما علماء الشريعة فقالوا: معناه أن جوارح العبد تصير تابعة للمرضاة الإلهية، حتى لا تتحرك إلا على ما يرضى به

ربہ، فیذا كانت غاية سمعه وبصره وجوارحه كلها هو الله سبحانه، فحينئذ صح أن يقال: إنه لا يسمع إلا له، ولا يتكلم إلا له، فكأن الله سبحانه صار سمعه وبصره. قلت: وهذا عدول عن حق الألفاظ؛ لأن قوله: كنت سمعه، بصيغة المتكلم، يدل على أنه لم يبق من المتقرب بالنوافل إلا جسده وشبَّحه، وصار المتصرف فيه الحضرة الالهية فحسب، وهو الذي عناه الصوفية بالفناء في الله، أي الانسلاخ عن دوامى نفسه، حتى لا يكون المتصرف فيه إلا هو، وفي الحديث لمعة إلى وحدة الوجود، وكان مشايخنا مولعون بتلك المسألة إلى زمن الشاه عبد العزيز، أما أنا فلست بمتشدد فيها:

ومن عجب أني أحسن إليهم  
وأسأل عنهم دائماً، وهم معي!  
وتبكيهم عيني، وهم في سوادها  
وتشتقهم روحي، وهم بين أضلعي (۲۹)

یعنی: ”حافظ ذہبیؒ نے ”میزان الاعتدال“ میں اس حدیث پر نقد کرتے ہوئے فرمایا: ”اگر صحیح بخاری کا رعب مانع نہ ہوتا تو اس حدیث کے متعلق میں (ظناً) ”سبحان اللہ!“ کہتا..... دراصل حافظ ذہبیؒ علم منطق سے نابلد تھے، میرے خیال میں اگر کسی حدیث کی صحت ثابت ہو جائے تو اسے سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے اور اگر اس کے معنی، مفہوم سے بالا ہوں تو ایسی صورت میں اس کے متعلق دو ٹوک فیصلہ کرتے ہوئے اسے فوراً مسترد کرنا یا اس میں جرح کرنا مناسب طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں معانی حدیث کے ماہرین (فقہاء کرام) کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

چنانچہ علماء شریعت نے اس حدیث کے معنی یوں بیان کئے ہیں: ”بندہ کے اعضاء وجوارح رضائے الہی کے اس درجہ تابع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشاء اور رضا کے بغیر وہ جنبش تک نہیں کرتے اور جب یہ کیفیت اس درجہ پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کے کان، آنکھ اور دیگر جوارح کا اول و آخر مقصد و غایت اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ بن جاتی ہے تو اس وقت یہ

کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ جو سنتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور جو بولتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے، گویا اللہ تعالیٰ اس کے کان اور آنکھ بن جاتے ہیں..... مگر میرے خیال میں اس مطلب اور معنی سے الفاظ حدیث میل نہیں کھاتے، بلکہ اس میں الفاظ کی حق تلفی ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں ”کنٹ سمعہ“ کے الفاظ صیغہ متکلم کے ساتھ آئے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرنے والا بندہ گویا فناء (اور بے اختیار) ہو جاتا ہے اور اس کا تو صرف ظاہری جسم اور بدن ہی نظر آتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے زیر تصرف ہو جاتا ہے اور اس کے تمام بدن سے صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشأ کے مطابق افعال صادر ہوتے ہیں، اس کیفیت کو حضرات صوفیہ ”فناء فی الذات“ یا ”فناء فی اللہ“ سے تعبیر کرتے ہیں، اس حدیث میں مسئلہ وحدۃ الوجود کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ شاہ عبدالعزیزؒ تک ہمارے مشائخ اس مسئلہ میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے رہے ہیں، مگر میں اس بارے میں تشدد سے گریز کرتا ہوں:

..... تعجب ہے میں ہمیشہ ان کے لئے ترستار ہتا ہوں اور ان کے بارے میں

پوچھتا رہتا ہوں حالانکہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں!

۲..... میری آنکھ ان کے لئے آب دیدہ رقی ہے حالانکہ وہ میری آنکھ کی پتلی میں

رہتے ہیں اور میری روح ان کے لئے بے تاب رہتی ہے حالانکہ وہ میری پسلیوں کے

درمیان بستے ہیں (۳۰)۔

(۳۰) حضرت مولانا بد عالم میرٹھی رحمہ اللہ نے فیض الباری کے حاشیہ میں اور ترجمان السنۃ میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے اس کلام کی مزید وضاحت کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

”دوانسانوں کے درمیان مراحل محبت طے کرتے کرتے بسا اوقات ایسے اثرات نظر آنے لگتے ہیں جنہیں ایک اجنبی شخص بھی دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ ضرور ان دو شخصوں میں کوئی ایسا تاثر و مغلوبیت کا تعلق ہے جس نے ان کے ظاہر کو بھی مسخر کر لیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نشست و برخاست کے اوضاع و اطوار سے گزر کر ان کے خط و خال میں بھی صفت ہم رنگی پیدا ہو گئی ہے، جب آرزو کے اتحاد، ارادہ کے اتحاد، جذبات کے اتحاد کے ساتھ ظاہر کا یہ اتحاد بھی نظر آنے لگتا ہے تو اس اتحاد کی صحیح ترجمانی کے =

= لئے لفظ اتحاد کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں ملتا:

من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جمل شدمی  
تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگرم  
متعنی کہتا ہے:

ما الخلل الا من اود بقلبه وأرى بـ طرف لایری بسوائه  
فارسی و عربی کے شعراء نے آثارِ محبت کی ادائیگی کے لئے جس مناسب تعبیر کا انتخاب کیا ہے، وہ لفظ "اتحاد" ہے مگر ان الفاظ سے یہاں کسی کو بھی یہ شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس اتحاد کی وجہ سے ان کی حقیقی اثنینیت باقی نہیں رہتی پھر جب مخلوق کے دائرہ میں ان الفاظ سے یہ کھلی ہوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی تو خالق و مخلوق کے درمیان کسی تعبیری توسع سے عقیدہ کی غلط فہمی کیوں پیدا ہو جاتی ہے، بلاشبہ جب ایک بندہ راہِ عبدیت پر گامزن ہوتا ہے اور فرائض و نوافل کے سبب عجز و نیاز کے قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے تو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اب اس کے ظاہر و باطن کو سلطان الوہیت نے پورا پورا مسخر کر لیا ہے، اگر وہ سنتا ہے تو وہی سنتا ہے جسے خدا نے سننے کا امر کیا ہے، اگر دیکھتا اور بولتا ہے تو وہی دیکھتا اور بولتا ہے جس کی اسے اجازت دی گئی ہے، اگر وہ اپنا ہاتھ یا قدم اٹھاتا ہے تو وہی اٹھاتا ہے جہاں اس کے مولیٰ نے اس کے لئے اٹھانا پسند کیا ہے، اس کے سوا نہ وہ کچھ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ اور کوئی ادنیٰ جنبش کرتا ہے تو اس ربطِ محبت کے لئے لامحالہ وہی الفاظ اختیار کرنے پڑتے ہیں جو اس موقع و محل کے لئے مانوس ہیں پھر جس طرح وہاں ان الفاظ کا کھلا ہوا مطلب صرف اس رشتہٴ محبت کی ترجمانی ہے، اسی طرح یہاں بھی ان الفاظ کا کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ اب یہ بندہ، وادیِ محبت طے کرتا ہوا اپنے مولیٰ کی رضا و تسلیم میں فنا ہو چکا ہے اور اہم شریعت کا اس طرح مطیع و منقاد ہو گیا ہے جیسا کہ ایک شائستہ گھوڑا اپنے سوار کے اشارات کا، نہ اس گھوڑے کی حس و حرکت اپنی ہے نہ اس بندہ کی نقل و حرکت اپنی، دیکھنے میں تو یہ خود دکھتا اور حرکت کرتا ہے اور حقیقت میں اس کی حس و حرکت اس کے مالک ہی کی ہے اس کے جوارح اس کے ارادہ کے مظاہر بنے ہوئے ہیں جب مخلوق کی قوتِ ارادی اس درجہ فنا ہو جاتی ہے کہ اس کا حرکت و سکون دوسرے کے ارادہ کے تابع ہو جائے تو پھر اس کا حکم اسی صاحبِ ارادہ کے تابع ہو جاتا ہے۔ کتنا جیسا خبیث جانور معلم ہو کر جب اپنی قوتِ ارادی فنا کر دیتا ہے اور ہمتن اپنے مالک کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس کے جوارح کا اپنا کوئی حکم باقی نہیں رکھا بلکہ جو اس کے مالک کا حکم ہے اس کا بھی وہی حکم رکھ دیا ہے اسی لئے اگر وہ کتا مسلمان کا ہے تو اس کا شکار حلال ہے اور اگر کافر کا ہے تو اس کا شکار حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درجہ فنایت کے بعد اب یہ شکار اس کتے کا ہے ہی نہیں بلکہ اس کے مالک کا ہے اگر وہ مسلمان تھا تو یہ بھی حلال ہے اسی طرح جب بندہ اپنے ارادہ کو فنا کر دیتا ہے تو پھر یہ اطلاق درست ہو جاتا ہے کہ اس کے سمع و بصر مشیتِ ایزدی کا مظہر بن گئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ فناءِ ارادہ کے اس مرحلہ پر پہنچ کر کس طرح ایک کتا اپنے مالک کا حکم اختیار کر لیتا ہے مگر جب ایک انسان شریعت کی متابعت کی بجائے اس سے ٹکرانے لگتا ہے تو پھر اس کا حکم جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ (ترجمان السنۃ: ۱/۳۱۴)



## ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت

شارحین بخاری نے ترجمۃ الباب کے ساتھ، اس حدیث کی مختلف مناسبتیں بیان فرمائی ہیں:

① علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں نوافل کے ذریعہ قربت خداوندی کے حصول کا ذکر ہے اور یہ تقرب چونکہ انتہائی تواضع اور رب کے حضور حد درجہ عاجزی اختیار کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اس لئے اس مناسبت سے حدیث باب کو باب التواضع کے تحت ذکر فرمایا (۳۱)۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی اس کے قریب قریب بات ارشاد فرمائی ہے کہ روایت کے اندر عبادت اور نماز کا ذکر ہے اور نماز انتہائی درجہ خضوع اور تواضع میں ہوتی ہے، روایت کے اندر اس تواضع پر مرتب ہونے والے ثمرہ یعنی رب کے ہاں قبولیت اور بلندرتبہ کے حصول کا ذکر ہے (۳۲)۔

② حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ترجمۃ الباب ”من عادی لی ولیا.....“ سے سمجھ میں آرہا ہے کیونکہ اس کا تقاضا ہے کہ اللہ والوں کی دشمنی سے بچا جائے اور ان کے ساتھ محبت اور دوستی اور اکرام والا معاملہ اختیار کیا جائے اور بزرگوں کی دوستی اور اکرام، تواضع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا (۳۳)۔

③ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترجمۃ الباب ”من عادی لی ولیا.....“ سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ متواضع شخص کسی سے دشمنی نہیں کرتا، چہ جائیکہ اللہ والوں سے دشمنی کرے، چنانچہ حضرت لکھتے ہیں:

”والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة في قوله: ”من عادی“

لي وليا.....“ فإن المتواضع لا يعادي أحدا، فضلاً عن الأوليا“ (۳۴)۔

(۳۱) شرح الکرمانی للبخاری: ۲۰/۲۳

(۳۲) لامع الدراری: ۷۸/۱۰

(۳۳) فتح الباری: ۴۲۱/۱۱، وإرشاد الساری: ۵۰۴/۱۳

(۳۴) تعلیقات لامع الدراری: ۷۸/۱۰

۳۹- باب : قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : (بُعْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ).

«وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمَحِ الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» / النحل: ۷۷ /

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں قرب قیامت کو بیان کیا ہے، سورۃ نحل کی جو آیت کریمہ ذکر کی ہے، اس کا ترجمہ ہے: قیامت کا معاملہ پلک جھپک کے برابر ہوگا یا اس سے بھی زیادہ کم وقت۔ بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۶۱۳۸ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (بُعْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ) . وَيُسَبِّرُ بِأَصْبَعَيْهِ فَيَمْدُهُمَا .

[ر : ۴۶۵۲]

حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا، میں اور قیامت اتنے قریب قریب بھیجے گئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کے اشارہ سے اس قرب کو بتایا، پھر ان دونوں کو پھیلا یا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ سعید بن محمد بن الحکم بن ابی مریم ہیں، ان کے شیخ ابو غسان ہیں، جن کا نام

محمد بن مطرف ہے اور ابو حازم حضرت سلمہ بن دینار کی کنیت ہے۔

بُعْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ

بُعْتُ: ماضی مجہول واحد متکلم کا صیغہ ہے اور "الساعة" مرفوع ہے، کیونکہ اس کا عطف بُعْتُ کی ضمیر متکلم پر ہے اور ضمیر متصل پر ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لائے بغیر چونکہ اسم ظاہر کا عطف درست نہیں، اس لئے اس کے بعد ضمیر متصل کی تاکید کے طور پر "أنا"، ضمیر منفصل لے آئے، تاکہ اسم ظاہر کا عطف صحیح ہو سکے (۱)۔

بعض حضرات نے اس ترکیب پر اعتراض کیا کہ ضمیر متکلم پر عطف درست نہیں، کیونکہ بعثت الساعة (قیامت مبعوث کی گئی) نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب پہلے سے کوئی چیز موجود ہو اور پھر اسے

بھیجا جائے اور اٹھایا جائے جب کہ قیامت تو آنے والی ہے، پہلے سے موجود نہیں۔

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اس لئے اس کو بمنزلہ موجود قرار دے کر یہ لفظ استعمال کیا گیا (۲)۔

ابوالبقاء عکبری کے نزدیک ”بعثت أنا والساعة“ میں واو ”مع“ کے معنی میں ہے اور الساعة مفعول معہ ہونے کی بناء پر منصوب ہے (۳)۔

لیکن قاضی عیاض نے رفع والی صورت کو احسن قرار دیا ہے (۴)۔

ویشیر بإصبعیه فیمد بہما

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو پھیلا کر اشارہ فرمایا، میں اور قیامت دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہیں، دو انگلیوں سے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی مراد ہے چنانچہ کتاب التفسیر کی روایت میں اس کی تصریح ہے (۵)۔

## حدیث کے دو مطلب

اس حدیث شریف کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں:

① یہ دونوں انگلیاں چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل اور قریب ہیں، اس لئے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ نہیں، اور میرے بعد اس کا وقوع بہت زیادہ دور نہیں، ایک دوسرے کے قریب اور متصل ہیں، درمیان میں نہ کسی اور نبی کو آنا ہے اور نہ ہی کوئی اور امت آئے گی، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، علامہ تورپشتی رحمہ اللہ نے یہ معنی بیان کئے ہیں (۶)۔

(۲) فتح الباری: ۴۲۲/۱۱، وعمدة القاری: ۱۳۹/۲۳، وإرشاد الساری: ۵۰۵/۱۳

(۳) فتح الباری: ۴۲۲/۱۱، وعمدة القاری: ۱۳۹/۲۳، وإرشاد الساری: ۵۰۵/۱۳

(۴) فتح الباری: ۴۲۴/۱۱، وعمدة القاری: ۱۳۹/۲۳، وإرشاد الساری: ۵۰۵/۱۳

(۵) دیکھئے: کشف الباری، کتاب التفسیر: ۷۲۱

(۶) فتح الباری: ۴۲۴/۱۱، وإرشاد الساری: ۵۰۶/۱۳

۲ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان دو انگلیوں میں درمیان والی انگلی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے، اس قلیل اضافہ کی طرف اشارہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں، اس قدر تھوڑا سا فاصلہ ہے، چنانچہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”معنى الحديث أن نسبة تقدم بعثه صلى الله عليه وسلم على قيام

الساعة كنسبة فضل إحدى الأصبعين على الأخرى“ (۷).

اور دونوں معنوں میں باہمی کوئی تضاد نہیں، اتصال کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور قلیل فاصلے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔

۶۱۳۹ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،  
عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ) .

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں (انگلیوں) کی طرح (قریب قریب) بھیجے گئے ہیں۔

۶۱۴۰ : حَدَّثَنِي بَعْجِي بْنُ يُونُسَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ،  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ) . بَعْجِي إِصْبَعَيْنِ .  
تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دو کی طرح بھیجے گئے ہیں، آپ کی مراد دو انگلیوں سے تھی، اس روایت کی متابعت اسرائیل نے ابو حصین سے کی۔

(۷) فتح الباری: ۱۱/۴۲۵، وإرشاد الساري: ۱۳/۵۰۶، قال الكرمانی: قيل: إشارة إلى قرب المجاورة وقيل: إلى تقارب ما بينهما طولاً، وفضل الوسطى على السبابة؛ لأنها أطول بشيء يسير، فالوجه الأول بالنظر إلى العرض والثاني بالنظر إلى الطول. وقيل: ليس بينه وبين الساعة نبي غيره مع التقريب لحينها. (وانظر شرح الكرمانی: ۲۴/۲۲)

تابعه إسرائيل عن أبي حصين

ابو حصين (حاء کے فتح اور صاد کے کسرے کے ساتھ) کا نام عثمان بن عاصم ہے۔

ابوبکر بن عیاش کی متابعت اسرائیل بن یونس نے کی ہے، یہ متابعت اسماعیلی نے موصولاً نقل کی

ہے (۸)۔

#### ۴۰ - باب : طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

یہ باب بلا ترجمہ ہے اور ”کالفصل من الباب السابق.....“ کے قبیل سے ہے، ہم نے جو نسخہ متن کے طور پر اختیار کیا ہے، اس میں مندرجہ بالا الفاظ کے ساتھ ترجمہ الباب ہے، لیکن بہت سارے نسخوں میں یہ باب بلا ترجمہ ہے۔

چنانچہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ اس کے متعلق لکھتے ہیں:

”والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن المصنف ذكره بغير ترجمة

لمناسبة قوله تعالى في الباب السابق: ﴿وما أمر الساعة إلا كلمح البصر.....﴾؛

لِمَا ذكر في حديث الباب من أمور تدل على فجأة القيامة، كقوله صلى الله

تعالى عليه وسلم: لتقوم الساعة، وقد نشر الرجال.....“ (۱)۔

یعنی ”اس ناکارہ کے نزدیک زیادہ مناسب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ

باب، بلا ترجمہ قائم فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے باب میں جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے، ﴿وما

أمر الساعة إلا كلمح البصر﴾ اس کے ساتھ اگلی حدیث کی مناسبت ہے، اس حدیث

میں ایسے امور کا تذکرہ ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اور سابقہ

باب کی آیت کریمہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے!“

(۸) فتح الباری: ۱۱/۴۲۴، وعمدة القاري: ۲۳/۱۴۰، وإرشاد الساري: ۱۳/۵۰۶

(۱) الأبواب والتراجم: ۲/۱۳۲

۶۱۴۱ : حَدَّثَنَا أَبُو الْإِمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَأَاهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَلِكَ حِينَ : «لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا» . وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ نَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِ ، وَلَا يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبِّ لِقِحْتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيظُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْتِي فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا) . [ ر : ۴۳۵۹ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہونے لگے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کے لئے اس کا ایمان نفع بخش نہیں ہوگا، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہوگا.....

پس قیامت آجائے گی اور دو آدمی کپڑا درمیان میں (خرید و فروخت کے لئے) پھیلانے ہوئے ہوں گے، ابھی خرید و فروخت مکمل بھی نہیں ہوئی ہوگی اور نہ ہی انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا (کہ قیامت برپا ہو جائے گی) اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہیں پائے گا۔ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کر رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہ پی پائے گا، قیامت اس حال میں برپا ہوگی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ پائے گا۔

حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ قیامت اچانک قائم ہوگی اور بہت سارے لوگ اپنے مذکورہ اعمال میں مصروف ہوں گے، ابھی کام پورا نہیں کیا ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔

## لِقْحَةُ

(لام کے کسرہ کے ساتھ) دودھ والی اونٹنی۔

وہو یلیط حوضہ

لاط یلیط — لَيْطًا: لَيْطًا، يَانًا، مِنْذِهْرًا يَانًا..... لاط حوضہ إذا مدره أي جمع حجارة

فصيرها كالحوض ثم سد ما بينها من الفرج بالمدر ونحوه (۲)۔

آمنوا أجمعون..... ”أجمعون“ تاکید ہونے کی بناء پر مرفوع ہے، یہ ”آمنوا“ کی ضمیر فاعل کے

لئے تاکید ہے۔

حدیث شریف کے اندر ہے کہ لوگ جب مغرب سے سورج کے طلوع کو دیکھ لیں گے تو اس خرق عادت اور

خلاف معمول واقعے کو دیکھ کر سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ حضرت گنگو، ہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خرق عادت

امور کا صدور تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، حضرات انبیاء کے ہاتھوں

معجزات کا ظہور ہوتا ہے اور حضرات اولیاء کے ہاتھوں کرامات کا ظہور ہوتا ہے لیکن کسی خرق عادت امر کو دیکھ کر سب

لوگ مسلمان ہو گئے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا تو طلوع من مغرب الشمس کو دیکھ کر سب لوگ ایمان کیسے لائیں گے؟

فرمایا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیاطین، اس موقع پر لوگوں کو گمراہ کرنے اور بے راہ روی پر

ڈالنے سے رک جائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد ایمان لانا کسی کے لئے مفید نہیں ہو سکتا، لہذا

لوگوں کو ایمان سے روکنے کی ضرورت نہیں (۳)۔

فائدہ..... قرب قیامت کی بڑی نشانی کا ظہور

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں زمین کے اندر عام حالات کی تبدیلی، جن بڑی

آیات اور نشانیوں کے ذریعے سے واقع ہوگی، ان کا آغاز ”خروج دجال“ سے ہوگا اور حضرت عیسیٰ کی وفات

(۲) إرشاد الساري: ۱۳/۵۱۰

(۳) لامع الدراري: ۱۰/۷۸، والأبواب والتراجم: ۲/۱۳۲

کے ساتھ ان کا اختتام ہو جائے گا اور عالم بالا میں جن بڑی نشانیوں سے تغیر پیدا ہوگا، ان کا آغاز، مغرب سے سورج طلوع ہونے سے ہوگا اور وقوع قیامت کے ساتھ ان کا اختتام ہو جائے گا (۴)۔

چنانچہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ہے ”أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرجت قبل الأخرى، فالأخرى منها قريب“ (۵)۔

امام حاکم نے فرمایا کہ بظاہر مغرب سے طلوع شمس کی نشانی پہلے ظاہر ہوگی اور اس کے بعد خروج دابہ ہوگا (۶)۔

ان نشانیوں کے ظہور کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث طبرانی نے نقل فرمائی ہے:

”إذا خرجت الآيات، طُرِحَتِ الأَقْلَامُ، وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَخَلَصَتِ الحَفْظَةُ، وَشَهِدَتِ الأَجْسَامُ عَلَى الأَعْمَالِ“ (۷)۔

یعنی جب قیامت کی ان نشانیوں کا ظہور ہوگا تو قلم پھینک دیئے جائیں گے، صحیفے پیٹ دیئے جائیں گے، نگرانی کرنے والے فرشتوں کی چھٹی ہو جائے گی اور جسم اعمال پر گواہی دیئے لگیں گے۔

۴۱ - باب : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ.

ترجمہ الباب کی وضاحت

جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ملاقات پسند کرے گا، علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے لگے اور آخرت

(۴) فتح الباری: ۱۱/۲۹۴

(۵) الحدیث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم الحديث: ۲۹۴۱

(۶) إرشاد الساري: ۱۳/۵۰۹

(۷) إرشاد الساري: ۱۳/۵۱۰



کے لئے تیار رہ کر دنیا میں لمبی زندگی کو پسند نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا ایسے بندے سے ملاقات چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمادیتے ہیں (۱)۔

۶۱۴۲ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ) .

قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ : إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ ، قَالَ : ( لَيْسَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بِشْرَ بَعْدَابِ اللَّهِ وَعَقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ) .  
أَخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرُو عَنْ شُعْبَةَ .

وَقَالَ سَعِيدٌ : عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَّارَةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا ازواج مطہرات میں سے کسی اور نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی نہیں پسند کرتیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے بلکہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے، اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں رہتی جو اس کے آگے (اللہ سے ملاقات اور اس کی خوشنودی کا حصول) ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ سے ملاقات کا وہ خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جب

کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دے دی جاتی ہے، اس وقت آنے والے عذاب سے اس کو زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہوتی۔

## دوا لگ الگ چیزیں..... موت اور اللہ کی ملاقات

چونکہ بظاہر معلوم ہو رہا تھا کہ ”لقاء اللہ“ سے موت مراد ہے اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا ازواج مطہرات میں سے کسی اور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، راوی کو شک ہے کہ سوال کس نے کیا؟ بہر حال پوچھا گیا کہ موت تو ہمیں پسند نہیں، گویا کہ اللہ کی ملاقات موت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور موت کو تو ہم ناپسند کرتے ہیں کہیں ہم اللہ کی ملاقات ناپسند کرنے والوں میں داخل تو نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ موت اور اللہ کی ملاقات دوا لگ الگ چیزیں ہیں، چونکہ موت اللہ کی ملاقات کا ایک ذریعہ اور پل ہے، اس لئے اسے بھی ”لقاء اللہ“ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔

حسان ابن اسود رحمہ اللہ کا قول ہے: ”الموت جسر یوصل الحبيب إلى الحبيب“ (۲) یعنی موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔

سورۃ العنکبوت میں ہے: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتِ﴾ (۳) یعنی جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کی طرف سے وقت مقرر آنے والا ہے۔

اختصرہ أبو داود وعمرو، عن شعبة.....

ابوداؤد سلیمان طیالسی نے اس حدیث کا اختصار کیا ہے، امام ترمذی نے اسے موصولاً نقل کیا ہے اور عمرو بن مرزوق کی روایت کو طبرانی نے موصولاً نقل کیا ہے (۴)۔

وقال سعيد عن قتادة..... سعيد بن ابی عروبیہ کی یہ تعلق امام مسلم نے موصولاً نقل کی ہے (۵)۔

(۲) إرشاد الساري: ۱۱۱/۱۳

(۳) سورة العنکبوت: ۵

(۴) فتح الباري: ۴۳۷/۱۱، وعمدة القاري: ۱۴۴/۲۳، وإرشاد الساري: ۵۱۲/۱۳

(۵) فتح الباري: ۴۳۸/۱۱، وعمدة القاري: ۱۴۴/۲۳

۶۱۴۳ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ( مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ) . [ ر : ۷۰۶۵ ]

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔

ابو اسامہ کا نام حماد بن سلمہ ہے، ابو بردہ کا نام حارث یا عامر ہے اور برید کے والد کا نام عبد اللہ بن ابی بردہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اور ان کا نام عبد اللہ بن قیس ہے۔

## ایک اشکال اور اس کا جواب

ایک حدیث کے اندر موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، جب کہ حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لئے موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، علامہ قسطلانی لکھتے ہیں:

”فيه: أن محبة الله لا تدخل في النهي من تمنى الموت؛ لأنها ممكنة مع عدم تمنيه؛ لأن النهي محمول على حال الحياة المستمرة، أما عند الاحتضار، والمعاناة، فلا تدخل تحت النهي، بل هي مستحبة“ (۶)۔

یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت ہونی چاہیے اور وہ موت کے بغیر ممکن نہیں جب کہ دوسری حدیث میں موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں الگ الگ موقعوں کی ہیں، جب زندگی جاری ہو تو اس حالت میں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، نہی اور ممانعت اس حالت پر محمول ہے لیکن موت کا وقت قریب آجائے اور عالم برزخ کا مشاہدہ ہونے لگے تو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے اور یہ خواہش کرنا ممنوع نہیں بلکہ مستحب ہے!

۶۱۴۴ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَاحِبٌ : (إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ يُبْعَثُ) . فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةٌ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ، ثُمَّ قَالَ : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى) . قُلْتُ : إِذَا لَا يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ ، قَالَتْ : فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمُ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَوْلُهُ : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى) . [ ر : ٤١٧١ ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ تندرست تھے۔ فرمایا تھا کبھی کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں رہنے کی جگہ اسے دکھا نہیں دی جاتی، تو پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، تو آپ پر تھوڑی دیر کے لئے غشی طاری ہوگئی، جب افاقہ ہوا تو آپ چھت کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے اور پھر فرمایا، اللہم الرفیق الاعلیٰ میں نے کہا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ترجیح نہیں دے سکتے اور میں سمجھ گئی کہ یہ وہی حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے بیان فرمایا کرتے تھے۔

(وہ حدیث یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دنیا اور آخرت میں کسی نبی کو اختیار نہ دے دیا جائے، اس وقت تک اس نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری کلمہ تھا، جو آپ نے اپنی زبان سے ادا فرمایا، یعنی یہ ارشاد ”اللہم الرفیق الاعلیٰ“۔

فی رجال من اهل العلم یعنی دوسرے اہل علم بھی مجلس میں بیٹھے تھے، ان سب کی موجودگی میں

یہ روایت ہم نے حضرت سعید بن المسیب اور حضرت عروہ بن زبیر سے سنی۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندگی اور موت میں اختیار دیا گیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موت اختیار فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، اس طرح حدیث کی مناسبت باب سے ظاہر ہو جاتی ہے (۷)۔

#### ۴۲ - باب : سَكَرَاتِ الْمَوْتِ .

سکرات، سکرۃ کی جمع ہے، اور سکر کے معنی ہیں ایسی سختی جو عقل و شعور کو ماف کر دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر موت کی شدت اور سختی کو بیان فرمایا ہے۔

۶۱۴۵ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ مَيْمُونٍ : حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ أَبَا عَمْرٍو ، ذَكَوَانَ ، مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ ، أَوْ : عَلْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ - بِشَكِّ عُمَرَ - فَجَعَلَ يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ ، فَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ ، وَيَقُولُ : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ) . ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : (فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى) . حَتَّى قُبِضَ وَمَا لَتْ يَدُهُ .

قال أبو عبد الله : العلبَةُ مِنَ الخَشَبِ ، وَالرَّكْوَةُ مِنَ الأَدَمِ . [ر : ۸۵۰]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (کی وفات کے وقت) آپ کے سامنے ایک بڑا برتن رکھا ہوا تھا، جس میں پانی تھا، عمر کوشبہ (کی وفات کے لئے لفظ رکوۃ کہا تھا یا علبۃ) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرہ پر ملتے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،

بلاشبہ موت کی سختیاں ہیں، پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے، ”فی السرفیق الاعلیٰ“  
یہاں تک کہ آپ کی روح قبض ہو گئی اور دست مبارک جھک گیا۔  
رکوع اور علبہ دونوں کے ایک معنی ہیں: پیالہ، بعضوں نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، رکوع چڑے  
اور علبہ لکڑی کے پیالے کو کہتے ہیں (۱)۔

## موت کی سختیاں

جب انسان کی جان نکلتی ہے تو روح کے جسم سے نکلنے کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، قرآن کریم کی  
چار آیتوں کے اندر موت کی سختیاں بیان کی گئی ہیں:

① سورۃ ق میں ہے: ﴿وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ (۲)۔

② سورۃ انعام میں ہے: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ﴾ (۳)۔

③ سورۃ واقعہ میں ہے: ﴿إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ (۴)۔

④ سورۃ قیامہ میں ہے: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ (۵)۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ابن ابی شیبہ نے موصولاً نقل فرمائی ہے کہ بنی  
اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان آئی اور دو رکعت نفل پڑھ کر دعا کی کہ کوئی مردہ ہمیں موت کے بارے میں بتلا  
دے، ان کی دعا قبول ہوئی، ایک آدمی نے قبر سے سر نکالا اور کہا کہ مجھے مرے ہوئے ایک صدی گزر گئی لیکن  
موت کی کڑواہٹ آج تک محسوس ہو رہی ہے (۶)۔

(۱) عمدة القاري: ۱۴۶/۲۳

(۲) سورۃ ق: ۱۹

(۳) سورۃ الأنعام: ۹۳

(۴) سورۃ الواقعة: ۸۳

(۵) سورۃ القیامۃ: ۲۶

(۶) إرشاد الساري: ۵۱۴/۱۳

اور حلیۃ الاولیاء میں حضرت وائلہؓ کی ایک مرفوع حدیث نقل کی گئی ہے:

”والذي نفسي بيده، لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف“ (۷). یعنی قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، موت کے فرشتے کا مشاہدہ تلوار کی ہزار ضربوں سے زیادہ سخت ہے۔

۶۱۴۶ : حَدَّثَنِي صَدَقَةُ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاءً ، يَأْتُونَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْأَلُونَهُ : مَتَى السَّاعَةُ ، فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ : (إِنْ يَعْشُرُ هَذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ) . قَالَ هِشَامٌ : بَعْنِي مَوْتَهُمْ .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے سب سے کم عمر کو دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے تم پر تمہاری قیامت آجائے گی، ہشام نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد (تمہاری قیامت سے) ان کی موت ہوا کرتی تھی۔

### رجال من الأعراب جفاة

جفاة، جانی کی جمع ہے، جانی ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو سخت طبیعت کا ہو۔ کیونکہ عموماً دیہاتی لوگ سخت طبیعت کے ہوا کرتے تھے، اس لئے ان کے لئے یہاں جفاة کا لفظ استعمال کیا۔ اور بعض نسخوں میں جفاة ہے، جو جانی کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں ایسا شخص جو ننگے پاؤں ہو (۸)۔

(۷) وإرشاد الساري: ۱۳/۵۱۴

(۸) إرشاد الساري: ۱۳/۵۱۴

۶۱۴۶ : أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ، باب : قرب الساعة ، رقم : ۲۹۵۲ .

(جفاة) غليظون في طبعهم لقلة مخالطة الناس . (لا يدركه الهرم) لا يبلغ في حياته الهرم ، وهو الشيخوخة ونهاية العمر . (موتهم) أي فسر ساعتهم بموتهم وانقراض عصرهم ، لأن من مات فقد قامت قيامته .

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جواب علی اسلوب الحکیم تھا اور مطلب یہ تھا کہ ان میں سب سے کم عمر کا جب بڑھا پائے گا تو ایک عہد گزر چکا ہوگا اور سب کی موت آچکی ہوگی اور ہر انسان کی موت کے ساتھ کم از کم اس کی قیامت تو آ ہی جاتی ہے، حدیث مشہور ہے ”من مات فقد قامت قیامتہ“ (۹)۔

حدیث میں چونکہ موت کا ذکر ہے اور ہر موت، اپنی سختیوں اور سکرات کے ساتھ آتی ہے، اس مناسبت سے حدیث کو اس باب کے تحت ذکر فرمایا (۱۰)۔

۶۱۴۸/۶۱۴۷ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالَ : (مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاخٌ مِنْهُ) . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاخُ مِنْهُ ؟ قَالَ : (الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يُسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يُسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ ، وَالشَّجَرُ وَالِدَوَابُّ) .

حضرت ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب سے لوگ جنازہ لے کر گزرے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مستریح او مستراخ منہ“۔ (آرام پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی) صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! ”المستریح والمستراخ منہ“ کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ بندہ مومن دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پا جاتا ہے اور فاجر بندہ سے اللہ کے بندے، شہر، درخت اور چوپائے نجات پاتے ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ اگر مرنے والا اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ دنیا کی زندگی کی تکلیفوں سے راحت پا جاتا ہے اور اگر وہ گناہگار اور نافرمان ہے تو خلق خدا اس کی اذیتوں اور تکالیف سے نجات پالیتی ہے۔

(۹) إتحاف السادة المتقين: ۱۱/۹

(۱۰) عمدة القاري: ۱۴۷/۲۳، وإرشاد الساري: ۱۰۵/۱۳

۶۱۴۷ : أخرجه مسلم في الجنائز ، باب : ما جاء في مستريح ومستراخ منه ، رقم : ۹۵۰ .



امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ اسماعیل بن ابی اویس ہیں اور وہ امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، ابوقتاہہ کا نام حارث ہے اور ربیع راء کے کسرہ کے ساتھ ہے، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہلی بار ذکر فرمائی ہے، اگلی حدیث بھی اسی کا اختصار ہے۔

(۶۱۴۸) : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو  
أَبْنِ حَلْحَلَةَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاخٌ  
مِنْهُ ، الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ) .

حضرت ابوقتاہہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا یا آرام پانے والا ہوتا ہے یا اس سے آرام پایا جاتا ہے۔ مؤمن مستریح یعنی آرام پانے والا ہوتا ہے۔

۶۱۴۹ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ  
حَزْمٍ : سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (يَتَّبِعُ الْمَيْتَ ثَلَاثَةٌ ، فَيَرْجِعُ آثَانُ  
وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ : يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ) .

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، دو تو واپس آجاتی ہیں، صرف ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے، اس کے گھر والے اور مال تو واپس آجاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ پھر مردے کے پاس

(۶۱۴۹) أخرجه مسلم في أوائل الزهد والرقائق، رقم الحديث: ۲۹۶۰، وأخرجه الإمام الترمذي في كتاب

الزهد، باب ماجاء مثل ابن آدم وأهله وماله وعمله: ۵۸۹/۴، رقم الحديث: ۲۳۷۹،

قبر میں ایک خوبصورت چہرے اور خوبصورت لباس پہنے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں خوش خبری ہو، مردہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں اور کافر کے پاس ایک بد شکل شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا بد عمل ہوں (۱۱)۔

اس روایت میں میت کا ذکر ہے اور ہر میت، موت کی سکرات سے گزرا ہوتا ہے، اس لئے اس باب کے تحت اس روایت کو ذکر کیا ہے۔

حمیدی امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور ان کا نام عبداللہ بن زبیر ہے۔

۶۱۵۰ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عَرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ ، غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً ، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ ، فَيُقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيْهِ) . [ ر : ۱۳۱۳ ]

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام اس کے رہنے کی جگہ اسے دکھائی جاتی ہے، خواہ وہ دوزخ ہو یا جنت اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، یہاں تک کہ قیامت آجاتی ہے۔

بوالنعمان کا نام محمد بن الفضل ہے۔ صحاح ستہ میں سے امام بخاری کے علاوہ کسی اور نے یہ حدیث ذکر

نہیں کی۔ والحديث من أفراد البخاری (۱۲)۔

۶۱۵۱ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا) . [ ر : ۱۳۲۹ ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا، اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔

(۱۱) إرشاد الساري: ۱۳/۱۷

(۱۲) إرشاد الساري: ۲۳/۱۸

اس باب کے اندر ذکر کردہ تمام احادیث میں موت یا میت کا ذکر ہے، اس سے سکرات الموت ہیں از خود دلالت ہو جاتی ہے۔

### ۴۳ - باب : نَفْحِ الصُّورِ .

قَالَ مُجَاهِدٌ : الصُّورُ كَهَيْئَةِ البُوقِ . «زَجْرَةٌ» / الصافات : ۱۹ / : صَبِيحَةٌ .  
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : «التَّاقُورِ» / المدثر : ۸ / : الصُّورِ . «الرَّاجِفَةُ» / النازعات : ۶ / :  
النَّفْحَةُ الْأُولَى ، و «الرَّادِفَةُ» / النازعات : ۷ / : النَّفْحَةُ الثَّانِيَةُ .

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں نفخ صور کا ذکر کیا ہے، صور درحقیقت ایک سینگ ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، اس میں پھونک مارنے کو ”نفخ صور“ کہا جاتا ہے، یہ نفخ صور کتنی مرتبہ ہوگا اس میں اختلاف ہے.....

### قیامت کے دن تعدادِ نفحات

قیامت کے دن نفحات کی تعداد میں اختلاف ہے، علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ چار نفحات ہوں گے، پہلا نفخہ ہوگا جس سے تمام زندہ مرجائیں گے، دوسرا نفخہ ہوگا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب کے لئے جمع ہوں گے، تیسرا نفخہ ہوگا جس سے عام بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور چوتھا نفخہ ہوگا جس سے طاری ہونے والی بے ہوشی سے افاقہ ہوگا (۱)۔ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے (۲)۔

مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے ”لامع الدراری“ میں تین (۳) اور ”کوکب الدرری“ میں چار نفحات کا قول اختیار کیا ہے، ایک نفخہ اماتت، دوسرا نفخہ احیاء، تیسرا نفخہ صعقہ اور چوتھا نفخہ افاقہ۔ نفخہ صعقہ اس وقت

(۱) فتح الباری : ۶ / ۴۴۴ ، کتاب أحادیث الانبیاء ، باب وفاة موسیٰ و ذکرہ بعد

(۲) دیکھئے: تفسیر عثمانی : ۶۲۰ ،

(۳) دیکھئے: لامع الدراری : ۵۸ / ۸ ، کتاب الانبیاء

ہوگا جب حساب کے لئے ظہور فرمائیں گے (۴)۔

بعض حضرات نے پانچ نفحات کا قول اختیار کیا ہے، چنانچہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے سورۃ النمل کی تفسیر میں پانچ نفحات ذکر کئے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”ایک بار صور پھنکے گا جس سے خلق مر جائے گی، دوسرا پھنکے گا تو جی اٹھیں گے، اس

کے بعد پھنکے گا تو گھبرا جائیں گے، پھر پھنکے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر پھنکے گا تو

ہوشیار ہوں گے“ (۵)۔

صاحب مجمل نے اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ”وقد سمعنا بمن زاد فی الطنبور نغمة، ولم نسمع بمن زاد فی الصور نفخة“ (۶) یعنی یہ تو ہم نے سنا کہ ساز میں کسی نغمہ کا کسی شخص نے اضافہ کر دیا ہے (کہ ایک نغمہ نیا ایجاد کر دیا ہے) لیکن صور میں نغمہ کے اضافہ کا قول ہم نے کبھی نہیں سنا۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تین کے قول کو ترجیح دی ہے (۷)۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک نغمہ فزع ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ نمل میں ہے، ﴿و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السموات ومن فی الأرض﴾ (۸)۔ اور دوسرا نغمہ صعق ہے اور تیسرا نغمہ بعث ہے ان دونوں کا ذکر سورۃ زمر کی اس آیت کریمہ میں ہے: ﴿ونفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الأرض إلا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ أخرى فإذا ہم قیام ینظرون﴾ (۹)۔

اس کی تائید طبری کی ایک روایت سے ہوتی ہے، اس میں ہے: ”ثم ینفخ فی الصور ثلاث نفحات: نفخة الفزع فیفزع أهل السماء والأرض بحیث تذهل کل مرضعة عما أرضعت، ثم

(۴) تعلیقات لامع الدراری: ۵۹/۸، کتاب الانبیاء

(۵) (دیکھئے: تفسیر عثمانی: ۶۱۲، سورۃ النمل)

(۶) تعلیقات لامع الدراری: ۵۹/۸، کتاب الانبیاء

(۷) دیکھئے: روح المعانی: ۳۸۸/۲۴

(۸) سورۃ النمل: ۸۷

(۹) سورۃ الزمر: ۶۸

نفخة الصعق، ثم نفخة القيام لرب العالمين“ (۱۰)۔ اس روایت میں تین نفحات کا ذکر ہے، لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

جمہور اور علمائے محققین کے نزدیک کل دو مرتبہ نفع صور ہوگا (۱۱)، جن کا تذکرہ سورۃ زمر کی مذکورہ آیت میں کر دیا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ نفع صور ہوگا تو آسمان وزمین کے تمام جاندار بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے ﴿إلا من شاء الله﴾ سے بعض نے حضرت جبرئیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت مراد لئے ہیں، بعض کے نزدیک انبیاء و شہداء مراد ہیں اور بعضوں نے کہا کہ اس سے وہ جاندار مراد ہیں جو نوحہ اولیٰ سے پہلے مر چکے ہوں (۱۲)۔

روایت باب امام بخاری رحمہ اللہ نے ”کتاب احادیث الانبیاء“ میں بھی نقل کی ہے (۱۳)۔

### قال مجاهد: الصور كهيئة البوق

سورۃ زمر میں ہے: ﴿ونفخ في الصور.....﴾ مشہور مفسر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ صور بوق کی شکل کا ہوتا ہے، بوق سینگ کو کہتے ہیں، فریابی نے یہ تعلق موصولاً نقل کی ہے (۱۴)۔

### زَجْرَةَ: صبيحة

سورۃ النازعات کی آیت میں ہے: ﴿فانما هي زجرة واحدة﴾ مجاہد نے اس میں لفظ زجرۃ کی تفسیر صبحہ سے کی ہے، صبحہ کے معنی اگرچہ ایک چیخ کے آتے ہیں لیکن علامہ قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نوحہ ثانیہ ہے، جس طرح سورۃ یس آیت نمبر ۴۹ میں نوحہ اولیٰ کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ﴿ما ينظرون إلا صبيحة واحدة تاخذهم.....﴾ (۱۵)۔

(۱۰) إرشاد الساري: ۵۱۹/۱۳

(۱۱) دیکھئے: تفسیر عثمانی: ۶۲۰

(۱۲) دیکھئے: الجامع لأحكام القرآن: ۲۸۰/۱۵

(۱۳) دیکھئے: صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب احاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وبعده: ۴۴۱/۶

(۱۴) إرشاد الساري: ۵۱۸/۱۳

(۱۵) إرشاد الساري: ۵۱۸/۱۳

حضرت مجاہد کی اس تعلیق کو فریابی نے موصولاً نقل کیا ہے (۱۶)۔

وقال ابن عباس: الناقور: الصور

سورہ مدثر، آیت نمبر ۸ میں ہے: ﴿فَإِذَا تَقَرَّىٰ الْناقورُ﴾ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا

کہ اس آیت میں ناقور سے صور مراد ہے، طبری اور ابن ابی حاتم نے اس تعلیق کو موصولاً نقل کیا ہے (۱۷)۔

الراجفة: النفخة الأولى، والرادفة: النفخة الثانية

سورہ نازعات میں ہے: ﴿يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ، تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ راجفہ سے پہلا فحہ اور رادفہ سے دوسرا فحہ مراد ہے، یہ تعلیق بھی ابن ابی حاتم اور طبری نے

موصولاً نقل کی ہے (۱۸)۔

۶۱۵۲ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ،  
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :  
أَسْتَبَّ رَجُلَانِ : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ : وَالَّذِي أَصْطَفَى مُحَمَّدًا  
عَلَى الْعَالَمِينَ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : وَالَّذِي أَصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ ، قَالَ : فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ  
عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ  
أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ ، فَأَكُونُ فِي أَوَّلِ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مُوسَى  
فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ أَسْتَشَى اللَّهَ) . [ ر : ۲۲۸۰ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو افراد نے آپس میں گالی گلوچ

کیا، ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی، مسلمان نے کہا کہ ”اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی

(۱۶) إرشاد الساري: ۱۳/۵۱۸

(۱۷) إرشاد الساري: ۱۳/۵۱۸

(۱۸) إرشاد الساري: ۱۳/۵۱۸

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہان میں منتخب و برگزیدہ بنایا، یہودی نے کہا کہ ”اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہان میں منتخب و برگزیدہ بنایا“۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان یہودی کی اس بات پر غصے ہو گیا اور اس کے منہ پر طمانچہ مارا، تو یہودی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا اور مسلمان کا معاملہ بیان کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر میری برتری کا دعویٰ نہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے ہوش آئے گا، اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش الہی کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی ان لوگوں میں ہوں گے جو بے ہوش ہوئے تھے، اور پھر مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آگئے تھے، یا ان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس بے ہوشی سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔

أو كان ممن استثنى الله.....

قرآن کریم کی سورہ زمر، آیت ۶۸ میں ہے: ﴿وَنفَخَ فِي الصُّورِ فَمَضَّعَ مِنَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.....﴾ دو مرتبہ نفخ صور ہوگا، پہلی مرتبہ نفخ صور ہوگا تو سب کے ہوش اڑ جائیں گے، جتنے زندہ ہیں وہ سب مرجائیں گے اور جو مر چکے تھے، ان کی ارواح پر بے ہوشی طاری کر دی جائے گی، اس کے بعد دوسرا نفخ صور سے بے ہوش ہونے والوں سے کچھ مستثنیٰ بھی ہوں گے، آیت کریمہ میں ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ سے استثناء کیا گیا۔

مستثنیٰ کون ہوں گے؟ جیسا کہ گزر گیا کہ اس میں مختلف اقوال ہیں:

اول: مردے کہ وہ پہلے ہی سے بے ہوش ہیں، دوم: شہداء، سوم: حضرات انبیاء، چہارم: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہم السلام، پنجم: عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ششم: حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہفتم: علامہ ابن حزم نے فرمایا کہ تمام فرشتے اس سے مراد ہیں (۱۹)۔ علامہ طبری

رحمہ اللہ نے شہداء والے قول کو ترجیح دی ہے۔

۶۱۵۳ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (يَضَعُ النَّاسُ حِينَ يَضَعُونَ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ ، فَأَذًا مُوسَى آخِذًا بِالْعَرْشِ ، فَمَا أَذْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ) .  
رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . [ر : ۲۲۸۰ ، ۲۲۸۱]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے ہوشی کے وقت تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا، اس وقت حضرت موسیٰ عرش الہی کو پکڑے ہوں گے، اب مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ ان میں سے تھے جو بے ہوش ہوئے تھے (یا نہیں)۔

ابو الیمان کا نام حکم بن نافع، ابو الزناد کا نام عبد اللہ بن ذکوان اور اعرج کا نام عبدالرحمن بن ہرمز ہے۔

رواہ أبو سعید.....

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے، کتاب احادیث الانبیاء میں موصولاً نقل فرمائی ہے (۲۰)۔

۴۴ - باب : يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . [ر : ۶۹۷۷]

ترجمۃ الباب کا مقصد

قبض کے معنی کسی چیز کو جمع کرنے اور لپیٹنے کے بھی ہیں اور فنا اور ختم ہونے کے بھی ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا باب سے یہ مقصد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس دنیا کی زمین کو ختم

فرمادیں گے۔ اور حشر کی زمین ایک نئی زمین ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ہے:



## ارض محشر کون سی اور کیسے ہوگی؟

﴿یوم تبدل الأرض غیر الأرض والسموات وبرزو الله الواحد القهار﴾ یعنی: قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجودہ زمین بھی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے حاضر ہوں گے۔

زمین و آسمان کے اندر یہ تبدیلی ذاتی بھی ہو سکتی ہے اور صفاتی بھی، اس کے بدل دینے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت بدل دی جائے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ پوری زمین ایک سطح مستوی بنا دی جائے گی، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت وغیرہ کی، نہ کوئی پہاڑ اور ٹیلہ رہے گا نہ غار اور گہرائی، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ میں ہے: ﴿لا تری فیہا عوجاً ولا امتناً﴾ یعنی تعمیرات اور پہاڑوں کی وجہ سے جو آج کل راستے اور سڑکیں مڑ کر گزرتی ہیں اور کہیں اونچائی ہے کہیں گہرائی، یہ صورت نہ رہے گی بلکہ سب صاف میدان ہو جائے گا۔

اور یہ تبدیلی ذاتی بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل ہی اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین اور اس آسمان کی جگہ دوسرے آسمان بنا دیئے جائیں، اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، بعض احادیث سے صرف صفات کی تبدیلی معلوم ہوتی ہے اور بعض سے ذات کی تبدیلی۔

## اختلاف روایات اور ان میں تطبیق کی صورت

امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت نقل کی ہے:

”تبدل الأرض أرضاً، كأنها فضة، لم یسفک فیہا دم حرام، ولم یعمل علیہا خطیئة“ (۱)۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کی زمین بالکل نئی زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی اور یہ زمین ایسی ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا جس پر کسی کا ناحق خون نہیں گرایا گیا۔

(۱) فتح الباری: ۱۱/۴۵۴، والمستدرک للإمام حاکم، کتاب الأحوال: ۳/۶۱۴، رقم الحدیث: ۸۶۹۹

یہ روایت مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح مروی ہے لیکن اس کا موقوف طریق اصح ہے!

یہاں باب میں آگے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت آرہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ایک ایسی زمین پر اٹھائے جائیں گے جو ایسی صاف و سفید ہوگی جیسے میدے کی روٹی، اس میں کسی کی کوئی علامت (مکان، باغ، درخت، پہاڑ، ٹیلہ وغیرہ کی) کچھ نہ ہوگی، یہی مضمون یہی نے حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے (۲)۔

اس طرح کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر کی زمین اس موجودہ زمین کے علاوہ کوئی اور ہوگی اور جس تبدیلی کا ذکر اس آیت میں ہے، اس سے ذات کی تبدیلی مراد ہے۔

لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی صرف صفات میں ہوگی چنانچہ امام حاکم نے سند قوی کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے:

”تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم لعظمة الرحمن، ثم لا يكون لبشر من بنى آدم إلا موضع قدميه، ثم ادعى أول الناس، فأخبر ساجداً، ثم يؤذن لي في الشفاعة، فأقول: يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض..... فذلک المقام المحمود“ (۳)۔

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ زمین اس طرح کھینچی جائے گی، جیسے چمڑے کو کھینچا جائے جس سے اس کی سلوٹیں اور شکن نکل جائیں (اس کی وجہ سے زمین کے غار اور پہاڑ سب برابر ہو کر ایک سطح مستوی بن جائے گی اور اس وقت تمام اولاد آدم اس زمین پر جمع ہوگی، اس ہجوم کی وجہ سے ایک انسان کے حصہ میں صرف اتنی ہی زمین ہوگی، جس پر وہ کھڑا ہو سکے، پھر محشر میں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، میں رب العزت کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو میں تمام مخلوق کے لئے شفاعت کروں گا (کہ ان کا حساب کتاب جلد ہو جائے) یہی مقام محمود ہے۔

(۲) فتح الباری: ۱۱/۴۵۴

(۳) المستدرک، کتاب الأحوال: ۴/۶۱۴

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں تبدیلی صرف صفت کی ہوگی کہ غار اور پہاڑ اور درخت نہ رہیں گے، مگر ذات زمین یہی باقی رہے گی۔ چنانچہ امام قرطبی نے ابوالحسن بن حیدرہ سے بھی اسی طرح دونوں قسم کی روایات میں تطبیق نقل فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں:

”انه جمع بين هذه الأخبار بأن تبديل السموات والأرض يقع مرتين،

إحداهما تبدل صفاتها فقط، وذلك عند النفخة الأولى..... ثم بين النفختين

تطوى السماء والأرض وتبدل السماء والأرض“ (۴).

یعنی مختلف احادیث کے اندر تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ آسمان اور زمین کی یہ تبدیلی دومرتبہ واقع ہوگی، پہلی مرتبہ صفات کی تبدیلی ہوگی اور یہ فقہ اولیٰ کے وقت ہوگا پھر دونوں کے درمیان کی جو مدت ہے، اس میں آسمان و زمین کو لپیٹ دیا جائے گا اور نئے آسمان اور زمین پیدا ہوں گے تو دوسری مرتبہ کی یہ تبدیلی ذاتی ہوگی۔

یعنی ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے فقہ صورت کے وقت اسی موجودہ زمین کی صفات تبدیل کی جائیں اور پھر حساب کتاب کے لئے ان کو کسی دوسری زمین کی طرف منتقل کیا جائے۔ حضرت عکرمہ رحمہ اللہ کے ایک قول سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس میں ہے:

”بلغنا أن هذه الأرض تطوى وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها

إليها“ (۵). یعنی یہ زمین سمٹ جائے گی اور اس کے پہلو میں ایک دوسری زمین ہوگی، جس

پر لوگوں کو حساب کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔

صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور یہ سوال کیا کہ جس دن یہ زمین بدلی جائے گی تو آدمی کہاں ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے پاس ایک اندھیری میں موجود ہوں گے (۶)۔

(۴) فتح الباری: ۴۵۸/۱۱

(۵) فتح الباری: ۴۵۶/۱۱

(۶) صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب بيان صفة متي الرجل والمرأة، رقم الحديث: ۳۱۵

اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمین سے بذریعہ پل صراط لوگوں کو دوسری طرف منتقل کیا جائے گا اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں متعدد صحابہ و تابعین کے یہ اقوال نقل کئے ہیں کہ اس وقت موجودہ زمین اور اس کے سب دریا آگ ہو جائیں گے، گویا یہ سارا علاقہ جس میں اب دنیا آباد ہے، اس وقت جہنم کا علاقہ ہو جائے گا (۷)۔

بہر حال اس سلسلے میں مختلف روایات وارد ہیں اور بعض روایات بظاہر ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ آخرت کی حقیقت اور صحیح صورت حال کا علم اللہ ہی کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر اور جتنا امت کو بتلادیا، اس پر ایمان لانا فرض و واجب ہے۔

(۷) مولانا شمس الحق افغانی صاحب علوم القرآن میں لکھتے ہیں:

”زمین محشر بھی زمین دنیا سے مختلف ہوگی۔ قرآن مجید میں: ﴿یوم تبدل الأرض غیر الأرض﴾ یعنی جس دن زمین تبدیل کی جائے گی، پہلی زمین سے مختلف..... یہ تبدیلی ذاتی ہوگی یا صفاتی؟ ایک قول یہ ہے کہ ذاتی ہوگی، دوم یہ کہ صرف صفاتی ہوگی، سوم یہ کہ ایک بار صرف صفاتی ہوگی اور دوسری مرتبہ ذاتی۔ قول مختار یہی ہے کہ صرف صفاتی ہوگی۔ بخاری و مسلم میں ہل بن سعد سے مرفوع حدیث ہے ”یسحشر الناس یوم القيامة علی أرض بیضاء عفراء کقرفة النقی لیس فیہا علم لأحد“ اور صحیحین میں ابوسعید خدری سے مرفوع حدیث آئی ہے، تکتون الأرض خبزة واحدة جس کا معنی یہ ہے کہ لوگ ایسی زمین پر اٹھائے جائیں گے جو سفید گندم گونی کی طرف مائل ہوگی، جیسے میدے کی روٹی، اس پر کسی قسم کا نشان نہ ہوگا، ابوسعید کی روایت میں ہے کہ ”ہو جائے گی یہ زمین ایک روٹی“ اور بعض روایات میں جو چاندی کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب سفیدی میں چاندی سے مشابہت ہے، نہ یہ کہ زمین درحقیقت چاندی کی ہوگی۔ بیہقی میں ابن مسعود سے بسند صحیح یہ الفاظ آئے ہیں: تبدل الأرض أرضاً کأنہا فضة، یعنی دنیا کی زمین ایسی زمین کی صورت میں تبدیل ہوگی کہ وہ چاندی کی طرح سفید ہوگی، ابن جریر نے زید بن ثابت سے مرفوعاً حدیث نقل کی ہے: إنہا تکتون یومئذ بیضاء مثل الفضة، یعنی یہ زمین اس دن چاندی کی طرح سفید ہو جائے گی..... راجح صفات کی تبدیلی ہے۔“

(دیکھئے: علوم القرآن، از مولانا شمس الحق افغانی: ۲۳۶)

۶۱۵۴ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا بُونَسُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ :  
 حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (بِقَبْضِ اللَّهِ  
 الْأَرْضَ ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ مَلُوكُ الْأَرْضِ) . [ ر : ۴۵۳۴ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے ہاتھ سے لپیٹ دے گا

اور پھر فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں۔

یہین سے اللہ جل شانہ کی قدرت مراد ہے، یہ حدیث، حدیث صفات میں سے ہے، جس کی تفصیل

آگے ”باب الصراط.....“ کے تحت آ رہی ہے۔

۶۱۵۵ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ،  
 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تَكُونُ  
 الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْرَةً وَاحِدَةً ، يَتَكَفَّوْهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْرَتَهُ فِي السَّفَرِ ،  
 نَزْلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ) . فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ : بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، أَلَا أُخْبِرُكَ  
 بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : (بَلَى) . قَالَ : تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْرَةً وَاحِدَةً ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامَتِهِمْ ؟  
 قَالَ : إِدَامَتُهُمْ بِالْأَمِّ وَنُونٌ ، قَالُوا : وَمَا هَذَا ؟ قَالَ : نَوْرٌ وَنُونٌ ، يَا أَكُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِدِهِمَا  
 سَبْعُونَ أَلْفًا .

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، جسے اللہ تعالیٰ اہل

جنت کی میزبانی کے لئے اس طرح سمیٹ کر رکھ لے گا جس طرح تم سفر کے موقع پر اپنی

روٹی سمیٹ کر رکھتے ہو، پھر ایک یہودی آیا اور بولا، ابو القاسم! تم پر رحمن برکت نازل

کرے، کیا میں تمہیں قیامت کے دن اہل جنت کے سب سے پہلے کھانے کی جس سے ان کی ضیافت کی جائے گی، خبر نہ دوں؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، تو اس نے وہی کہا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین ایک روٹی ہو جائے گی، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے جس سے آپ کے آگے کے دانت دکھائی دینے لگے، پھر پوچھا میں تمہیں اس کے سالن کے متعلق خبر نہ دوں؟ کہنے لگا کہ ان کا سالن ”بالام ونون“ ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا..... بیل اور مچھلی جس کی کبھی کے چھوٹے ٹکڑے کو ستر ہزار افراد کھا کر سیر ہو جائیں گے۔

### تكون الأرض خبزة واحدة

زمین ایک روٹی بن جائے گی، زمین سے دنیا کی زمین مراد ہے۔

يَكْفُوها الجبارُ كما يَكْفِئُ أَحَدُكم خُبْزَتَه في السفر

یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پلٹے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر کے اندر اپنی روٹی پلٹتا ہے، کفًا باب فتح سے ہے، اس کے معنی پلٹنے، الٹنے اور پھیرنے کے آتے ہیں، آٹے کے پیڑے سے جب روٹی بنائی جاتی ہے تو اس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف پھیرتے اور منتقل کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اسی طرح روٹی پکنے کے بعد اس کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر ٹھیک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: أي يُمِيلها مِنْ يَدِ إلی يَدِ حَتَّى تَجْتَمِعَ وَتَسْتَوِي (۸) اور علامہ خطابی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے یعنی خبز الملة الذي يصنعه المسافر؛ فإنها لا تُذْحَى كما تُذْحَى الدُقَاقَةُ، وإنما تُقَلَّبُ على الأيدي حتى تستوي (۹) یعنی روٹی کا پیڑا جس کو مسافر بناتا ہے، کیونکہ وہ چپاتی کی طرح پھیلا ہوا اور سیدھا نہیں ہوتا (بلکہ گول ہوتا ہے) اس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف پھیر پھیر کر سیدھا کر دیا جاتا ہے اور یوں اسے روٹی بن جاتی ہے۔

(۸) شرح مسلم للنووي، كتاب صفات المنافقين، باب نزل أهل الجنة: ۱۷/۱۳۳

(۹) فتح الباري: ۱۱/۴۵۳

فی السّفر سفر کی قید اتفاقی ہے، بعض نسخوں میں سَفْر (سین کے ضمہ اور فاء کے فتح کے ساتھ) ہے، وہ سَفْرَة کی جمع ہے، سفرہ مسافر کے لئے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں اور دسترخوان کو بھی کہتے ہیں (۱۰)۔

نُزْلًا لأهل الجنة

نُزْل (نون اور زاء کے ضمہ کے ساتھ) مہمان کے سامنے جو ما حضر پیش کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔

### حدیث شریف کے دو مطلب

① اس حدیث کو بعض علماء نے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی پر محمول کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ زمین کا روٹی بن جانا اور اہل جنت کا اس سے کھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے تو کوئی بعید نہیں لیکن دوسری روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ زمین آگ بن کر جہنم کا حصہ بن جائے گی تو جنتیوں کے لئے روٹی کا کام کیسے دے گی، اس لئے ”تكون الأرض خبزاً واحدة“ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی پر محمول کیا جانا مناسب ہے کہ بطور تشبیہ و تمثیل کہا گیا کہ زمین روٹی کی طرح سیدھی اور مستوی بنا دی جائے گی چنانچہ اسی باب کے اندر حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ”كقرصة النفي“ کے الفاظ آئے ہیں اس لئے کہا جائے گا کہ روٹی کے ساتھ مثال پیش کر کے زمین کو دو معنوں میں تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک تو اس زمین کی حالت اور ہیئت کا بیان مقصود ہے کہ وہ روٹی کی طرح بالکل سیدھی ہوگی، دوم اہل جنت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو روٹی تیار کی ہے، اس کا بیان ہے کہ وہ زمین کی طرح بڑی اور عظیم ہوگی، چنانچہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”إن هذا الحديث مشكل جدا، لا من جهة إنكار صنّع الله وقدرته على ما يشاء، بل لعدم التوقيف على قلب جرم الأرض من الطبع الذي عليه إلى طبع المطعوم والماكول، مع ما ثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير يوم القيامة نارا، وتنضم إلى جهنم، فلعل الوجه فيه أن معنى قوله: ”خبزاً واحدة“ أي كخبزاة واحدة من نعتها كذا وكذا، وهو نظير مافی حدیث سهل: ”كقرصة النفي“ فضرِب المثل بها، لاستدارتها، وبياضها، فضرِب المثل في

هذا الحديث بخبزة تُشبه الأرض في معنيين: أحدهما بيان الهيئة التي تكون الأرض عليها يومئذ، والآخر بيان الخبزة التي يُهَيَّئُهَا اللَّهُ تَعَالَى نَزْلاً لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وبيان عظم مقدارها ابتداءً واختراعاً (۱۱).

۲ لیکن علامہ طیبی، حافظ ابن حجر اور اکثر علماء کے نزدیک یہ حدیث اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے، وہ فرماتے ہیں یہ زمین روٹی بن جائے گی اور میدان حشر میں حساب سے پہلے جنت میں جانے والے اس سے کھائیں گے، نزلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ کا یہی مطلب ہے کہ اہل جنت اس موقع پر اس سے کھائیں گے (۱۲) اور بعد میں وہ جنت کے اندران کے لئے نزل اور ضیافت بن جائے گی، اس کی تائید حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے جسے امام طبری نے نقل کیا ہے، کہ زمین سفید روٹی بن جائے گی اور مومن اپنے قدموں کے نیچے سے کھائے گا (۱۳)، اسی طرح بیہقی نے حضرت عکرمہ کا قول نقل کیا ہے، ”تبدل الأرض مثل الخبزة یا کُلَّ مِنْهَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَفْزَعُوا مِنَ الْحِسَابِ“ (۱۴).

باقی جہاں تک تعلق ہے ان آثار کا جن میں کہا ہے کہ یہ زمین آگ بن جائے گی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے ”ارض بحر“ مراد ہے یعنی دنیا کے اندر کے جس حصے پر سمندر قائم ہے صرف وہ حصہ آگ بن کر جہنم کے ساتھ ملا دیا جائے گا، چنانچہ امام طبری رحمہ اللہ نے حضرت کعب احبار کا قول نقل کیا ہے جس میں اس کی تصریح ہے، وہ فرماتے ہیں ”یصير مكان البحر ناراً“ حضرت ابی بن کعب سے بھی اس کی صراحت منقول ہے، لہذا دونوں طرح کی روایات میں کوئی تعارض نہیں (۱۵)۔

(۱۱) فتح الباری: ۱۱/۴۵۳-۴۵۴، وشرح الطیبی للمشكاة: ۱/۱۲۹

(۱۲) شرح مشکوة للطیبی، کتاب الفتن: ۱/۱۲۹، وفتح الباری: ۱۱/۴۵۲، وإرشاد الساری: ۱۳/۵۲۲

(۱۳) فتح الباری: ۱۱/۴۵۳، وإرشاد الساری: ۱۳/۵۲۲

(۱۴) فتح الباری: ۱۱/۴۵۳، وإرشاد الساری: ۱۳/۵۲۲

(۱۵) دیکھئے: فتح الباری: ۱۱/۴۵۷، مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے تکرار فتح الملہم میں لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث کے معنی حقیقی کو ترجیح دی ہے، لیکن ان آثار کا جواب نہیں دیا، جن میں زمین کے آگ میں ڈھل جانے کا ذکر ہے، دیکھئے: تکرار فتح الملہم: ۶/۶۰، باب نزل أهل الجنة) حالانکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کردہ جواب دیا ہے لیکن زیر بحث حدیث میں نہیں بلکہ اسی باب کی اگلی حدیث میں مندرجہ بالا جواب دیا ہے۔ شاید حضرت کی نظر وہاں نہیں گئی!



فأتى رجل من اليهود

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کا نام مجھے معلوم نہیں (۱۶)۔

ثورونون

بالام کی تشریح اس نے ثور سے کی ثور بیل کو کہا جاتا ہے اور نون مچھلی کو کہتے ہیں۔

يَاكُلُ مِنْ زَائِدَةَ كَبِدَهُمَا سَبْعُونَ أَلْفًا  
ستر ہزار لوگ بیل اور مچھلی کے زائد حصے سے کھائیں گے۔

زائدة الكبد

جلر کے پاس ایک چھوٹا سا حصہ اور کٹڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یہ بڑا مفید اور عمدہ ہوتا ہے (۱۷)۔  
مسلم شریف کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: "تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون" (۱۸)۔ یعنی اہل جنت کا تحفہ مچھلی کے جلر کا زائد کٹڑا ہے۔

٦١٥٦ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ :  
سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ  
بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ ، كَقَرَصَةِ نَقِيٍّ) . قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ : (لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ) .

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ سفید و صاف تکیہ کی طرح ایک سفید چھٹی زمین پر جمع

(۱۶) فتح الباری: ۱۱/۴۵۴

(۱۷) فتح الباری: ۱۱/۴۵۵

(۱۸) فتح الباری: ۱۱/۴۵۵

٦١٥٦ : أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم ، باب : في البعث والنشور وصفة الأرض ... ، رقم : ٢٧٩٠ .  
(عفراء) بيضاء مشوبة بحمرة . (كقرصة نقي) كرهيف مصنوع من دقيق خالص من الغش والنخالة .  
(معلم) علامة يستدل بها ، أي مستوية لا حذب فيها ولا بناء عليها ولا شيء سواه .

کئے جائیں گے، سہل یا ان کے علاوہ کسی اور نے بیان کیا کہ اس زمین پر کسی کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔

بیضاء عَفْرَاء

سفید مائل بہ سرخی۔ عَفْرَاء: ایسا رنگ جو خالص سفید نہ ہو، بلکہ گندم گوں ہو، بعضوں نے کہا کہ عَفْرَاء خالص سفید رنگ کو کہتے ہیں لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلے قول کو معتد قرار دیا (۱۹)۔

كَفْرُصَةَ النَّقِيِّ

جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، کُفْرُصَةُ روٹی اور نکلیہ کو کہتے ہیں۔ نقی: بروزن ولی میدہ۔

قال سهل أو غيره: ليس فيها مَعْلَم

یہ ما قبل سند کے ساتھ متصل ہے۔ راوی حدیث سہل نے کہا، یا سہل کے علاوہ کسی اور نے کہا..... یعنی روایت کرنے والے کو کہنے والے کے بارے میں شک ہے کہ قائل سہل ہے یا کوئی اور ہے؟

ليس فيها مَعْلَم یعنی اس زمین میں کوئی علامت اور نشان نہیں ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ ”ليس فيها مَعْلَم“ کے الفاظ حدیث مرفوع کا حصہ نہیں بلکہ یہ راوی کی طرف سے بطور تشریح مدرج ہے ”غیرہ“ سے کون مراد ہے، حافظ نے لا علمی ظاہر فرمائی ہے (۲۰)۔

مَعْلَم کے معنی علامت کے ہیں یعنی وہ زمین بالکل برابر ہوگی اس میں کسی تعمیر اور کسی گھر، کوشی وغیرہ کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔

☆☆.....☆☆

## ۴۵ - باب : كَيْفَ الْحَشْرِ .

## حشر کے معنی اور قسمیں

حشر کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں، مرنے کے بعد جب آخرت کی زندگی شروع ہوگی تو قیامت قائم ہونے کے بعد تمام اولین و آخرین، دنیوی زندگی کے حساب کے لئے ایک میدان میں جمع کئے جائیں گے، اسے حشر کہتے ہیں اور یہی سب سے مشہور معنی ہیں۔ بعض شارحین نے حشر کی تین قسمیں لکھی ہیں:

① ایک حشر وہ ہے جو دنیا میں واقع ہوگا اور وہ علامات قیامت میں سے ہے کہ قرب قیامت میں لوگ شام کے علاقوں میں ایک آگ سے بھاگ کر جمع ہوں گے، یہ قیامت سے پہلے، ان دس نشانیوں میں ایک ہے جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔

② دوسرا حشر میدان محشر کا ہے یعنی حشر الأَمْواتِ مِنَ الْقُبُورِ جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے:

﴿وَحَشْرٌ نَاهِمٌ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ . اور ہم سب کو جمع کریں گے اور ان میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔

③ تیسرا حشر جنت و جہنم ہے، یہ حساب کے بعد ہوگا کہ اہل جنت، جنت میں اور جہنمی دوزخ میں جمع کئے جائیں گے! (۱)

۶۱۵۷ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ : رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ ، وَأَثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ ، وَثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ . وَتَحْشَرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ ، ثَقِيلٌ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا ، وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا ، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا ، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا ) .

(۱) تفصیل کے لئے دیکھئے فتح الباری : ۱۱ / ۶۰

۶۱۵۷ : أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ، باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، رقم : ۲۸۶۱ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا حشر تین طرح پر ہوگا، (ایک اس طرح کہ) لوگ رغبت کرنے والے لیکن ڈرتے ہوئے ہوں گے، (دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ) ایک اونٹ پر دو آدمی ہوں گے، کسی اونٹ پر تین ہوں گے کسی پر چار ہوں گے اور کسی پر دس ہوں گے۔ اور (تیسرا گروہ ان کا ہوگا جن کو آگ جمع کرے گی) جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی اس وقت ان کے ساتھ آرام کے وقت موجود ہوگی، جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ رات کے وقت موجود ہوگی، جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ صبح کے وقت موجود ہوگی اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ موجود ہوگی، یعنی وہ جہاں جائیں گے آگ وہاں پہنچے گی۔

وہیب بن خالد، عبد اللہ بن طاوس سے نقل کر رہے ہیں اور عبد اللہ، اپنے والد طاوس بن کیسان سے نقل کر رہے ہیں۔

### یحشر الناس علی ثلاث طرائق

لوگ تین طریقوں سے جمع کئے جائیں گے، یعنی حشر کے وقت لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی، ایک

راغبین راہمین، دوم، اونٹوں پر سوار اور سوم، آگ سے بھاگنے والے!

### حدیث باب میں وارد حشر کا مصداق

اس حدیث شریف میں حشر سے کیا مراد ہے؟ حضرات علماء کا اس میں اختلاف ہے:

① بعض علماء کے نزدیک اس سے حشر آخرت سے مراد ہے اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ لوگ

جب قبروں سے اٹھ کر حشر کی طرف جائیں گے تو ان کی تین قسمیں ہوں گی:

☆..... ایک تو راغبین راہمین یعنی عام مؤمنین ہوں گے جن کو اپنے ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ

تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہوگا، یہ خوف ورجاء والی کیفیت میں ہوں

گے، یہ اصحاب میمنہ ہوں گے۔

☆..... دوم وہ حضرات ہوں گے جو اونٹوں پر سوار ہو کر محشر کا رخ کریں گے، ایک اونٹ پر دو دو، تین تین اور چار چار حسب مراتب سوار ہوں گے، یہ وہ صلحاء ہوں گے جن کا درجہ عام مؤمنین سے بڑھ کر ہوگا۔ ایک اونٹ پر دو دو تین تین بیک وقت سوار ہوں گے کہ وہ اونٹ، ان کا تحمل کر سکے گا، اور یاد دنیا کی طرح باری باری اس پر مختلف تعداد کے یہ حضرات سواری کریں گے (۲)۔

☆..... سوم وہ کافر ہوں گے جن کو آگ ہانکے گی، یہ اصحاب مشأمة ہیں۔ فضل اللہ تورپٹی، علامہ طیبی اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے (۳)۔ مصابیح کی شرح میں علامہ تورپشتی رحمہ اللہ نے بڑا زور دے کر دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ اس سے حشر دنیا مراد نہیں، بلکہ آخرت کا حشر مراد ہے۔

شرح مشکوٰۃ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ، علامہ تورپشتی رحمہ اللہ کے قول کو رد کیا اور کہا کہ اس سے حشر آخرت نہیں، بلکہ دنیا کا حشر مراد ہے جو قرب قیامت میں واقع ہوگا اور جو قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا، لیکن اس کے بعد لکھا کہ یہ ساری تفصیل میں نے اپنے اجتہاد سے لکھی تھی، پھر میں نے صحیح بخاری شریف میں، باب الحشر میں حدیث دیکھی اس میں ”یوم القيامة“ کی تصریح ہے اس میں ہے ”یحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق.....“، ”یوم القيامة“ کی تصریح کے بعد اب گنجائش نہیں کہ اس سے دنیا کا حشر مراد لیا جائے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”هذا ما سنع لى على سبيل الاجتهاد، ثم رأيت في صحيح

البخاري في باب المحشر: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق.....

فعلمت من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام التوربشتي هو الحق الذي لا

محيد عنه“ (۴)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بخاری کی کسی روایت میں ”یوم القيامة.....“ کی تصریح مجھے

(۲) فتح الباري: ۱/۶۱۱

(۳) شرح الطیبی للمشکوٰۃ، کتاب الفتن، باب الحشر: ۱۰/۱۰۹، و فیض الباری: ۴/۴۳۳

(۴) شرح الطیبی للمشکوٰۃ، کتاب الفتن، باب الحشر: ۱۰/۱۶۳

معلوم نہیں ہو سکی (۵)۔

مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نسخوں میں یہ موجود ہے (۶)۔  
حقیقت یہ ہے کہ بعض نسخوں میں یوم القیامۃ کا اضافہ ہے، غالباً حافظ کے پاس جو نسخے تھے، ان میں یہ اضافہ نہیں تھا۔

● لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد حشر آخرت نہیں، بلکہ دنیا کا حشر ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوگا اور جو علامات قیامت میں سے ہے اور جس کا ذکر حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں ذکر فرمائی ہے، اس میں ہے:

”إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال،  
والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، وياجوج  
وماجوج، وثلاثة خسوف..... وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس  
إلى محشرهم“ (۷)..... یعنی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو، اس وقت تک قیامت  
قائم نہیں ہوگی، وہ دس نشانیاں یہ ہیں: دخان، دجال، دابہ، سورج کا مغرب سے نکلنا،  
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور تین خسوف (حسف سے مراد  
زمین کے اندر دھنسا ہے) اور آگ جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف دھکیلے گی۔

اس کے علاوہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن  
العاص کی روایت میں بھی اس حشر کا ذکر ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث کے الفاظ ہیں: ”تبعث نار علی أهل  
المشرق، فتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا“ (۸)۔

(۵) فتح الباری: ۴۶۴/۱۱

(۶) فیض الباری: ۴۳۳/۴

(۷) صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب فی الآیات التبی تکون قبل الساعة: ۲۳۵/۱۸، رقم

الحدیث: ۷۲۱۴

(۸) مستدرک الإمام الحاکم، کتاب الفتن والملاحم: ۵۹۱/۴، رقم الحدیث: ۸۶۴۷

ان روایات کی تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے قریب قعر عدن سے ایک آگ نمودار ہوگی، لوگ اس آگ سے دوسرے علاقوں کی طرف بھاگیں گے اور ان کی تین قسمیں ہوں گی:

① ایک قسم تو ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس سواری اور زاد سفر کا انتظام ہوگا، آنے والے حالات میں ان کو رغبت ہوگی اور پچھلے حالات سے خوف زدہ ہو کر وہ نکلے ہوں گے، حدیث میں راغبین راہبین سے یہی لوگ مراد ہیں۔

② دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو پہلی قسم کے مقابلے میں کم مایہ ہوں گے، سواری اور زاد سفر کا انتظام ان کے پاس معمولی ہوگا اور ایک اونٹ پر دو دو، تین تین اور باری باری سوار ہو کر نکلیں گے!

③ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بالکل انتظام نہیں ہوگا اور وہ جہاں جائیں گے، آگ ان کا پیچھا کرے گی، ”نبیت معہم حیث باتو.....“ سے یہی مراد ہے۔

علامہ خطابی، حافظ ابن حجر نے اس دوسرے قول کو ترجیح دینی ہے کہ اس سے حشر دنیا مراد ہے (۹)۔

پھر اس میں جس آگ کا ذکر ہے، اس کو حقیقت پر محمول کیا ہے اور بعضوں نے اس سے ”نار فتنہ“ یعنی فتنہ کی آگ مراد لی ہے اور یہ مطلب بیان کیا ہے کہ سخت فتنہ اٹھے گا جو شام میں نسبتاً کم اور دوسرے علاقوں میں زیادہ ہوگا، اس لئے لوگ شام کی طرف زیادہ جائیں گے (۱۰)۔

۶۱۵۸ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ،  
عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، كَيْفَ يُحْشَرُ  
الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ ؟ قَالَ : (الْأَنَسَ الَّذِي أَمْسَاهُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمَشِّبَهُ عَلَى  
وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . قَالَ قَتَادَةُ : بَلَى وَعِزَّةُ رَبِّنَا . [ر : ۴۴۸۲]

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض

کی، یا نبی! اللہ کافروں کو ان کے چہروں کے بل کس طرح جمع کرے گا، (قیامت کے دن)

آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ذات جس نے دنیا میں دو پاؤں پر چلایا، اس پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلائے، قنادہ نے فرمایا، ہلی ورینا! کیوں نہیں، ہمارے رب کی عزت کی قسم۔

۶۱۶۱/۶۱۵۹ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قَالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (إِنَّكُمْ مَلَأُوا اللَّهَ حُفَاةَ عُرَاةٍ مُشَاةٍ غُرُلًا) . قَالَ سُفْيَانُ : هَذَا مِمَّا نَعُدُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے (قیامت کے دن) ننگے پاؤں، ننگے بدن اور پیادہ پاملاقات کرو گے، سفیان نے بیان کیا کہ یہ حدیث ان میں سے ہے جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔  
عمر و عمر بن دینار مراد ہیں۔

حُفَاةٌ: حَفِي كِي جَمْعُ هِ، اِيَا شَخْصٍ جُو نِغْلَ پَاؤُنْ هُو۔

عُرَاةٌ: عَارِي كِي جَمْعُ هِ، بَ لِبَاسٍ۔

مُشَاةٌ: مَاشِي كِي جَمْعُ هِ، يَبْدِلُ حَلِي وَالَا۔

غُرُلٌ: اَغْرَلُ كِي جَمْعُ هِ، اِيَا شَخْصٍ جَس كَا خَتْنَهْ هُو اهُو۔

(۶۱۶۰) : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ : (إِنَّكُمْ مَلَأُوا اللَّهَ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرُلًا) .

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور غیر ختنہ شدہ ہو گے۔



## تعارض روایات اور اس کا حل

یہاں روایات باب میں ہے کہ قبروں سے مردے ننگے بدن نکلیں گے، جب کہ امام ابو داؤد اور امام حاکم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے موت کے وقت نئے کپڑے منگوائے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ”ان الميت یبعث فی ثیابہ التي یموت فیہا“ یعنی مردہ انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں اس کی موت آئی ہوگی“ (۱۱)..... اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: ”أحسنوا أكفان موتاكم، فإنهم یحشرون فیہا“ (۱۲) (اپنے مردوں کو اچھا کفن پہنایا کرو کہ اسی کپڑے میں ان کا حشر ہوگا)۔

ان دو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، قبروں سے نکلنے والے مردے، ننگے نہیں ہوں گے بلکہ ملبوس ہوں گے، اس تعارض کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں:

① حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی روایت تو ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ”میت“ سے عام مردہ نہیں مراد، بلکہ شہید مراد ہے، لیکن حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے اسے عام میت پر محمول فرمایا، حاصل یہ کہ احادیث باب میں عام مردوں کے اٹھنے کا حال بیان کیا گیا ہے اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ والی روایت میں شہید کی حالت کا بیان ہے۔

② دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ننگے نکلیں گے اور کچھ لباس میں ہوں گے۔

③ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ شروع میں سب اپنے کفن کے ساتھ ہوں گے، حضرت ابوسعید والی روایت میں اس کا ذکر ہے، بعد میں کفن ہٹا لیا جائے گا اور سب بے لباس ہو کر جائیں گے، روایات باب میں اس بعد والی حالت کا ذکر ہے۔

④ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ثیاب سے اعمال مراد ہیں، قرآن کریم میں ہے: ﴿ولباس التقویٰ ذلک خیر﴾ (۱۳)..... یہ مختلف جوابات دیئے گئے ہیں، لیکن پہلا جواب راجح اور زنی معلوم ہوتا ہے (۱۴)۔

(۱۱) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب ما يستحب من تطهير الميت: ۱۹۰/۳، رقم الحديث: ۳۱۱۴،

وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرک، كتاب الجنائز: ۳۴۰/۱

(۱۲) أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة: ۳۷۳/۳

(۱۳) سورة اعراف: ۲۶

(۱۴) دیکھئے، نسیم الریاض فی شرح شفاء اللقاضي عیاض، فضل فی تفضیله بالشفاعة والمقام المحمود: ۲۰۲/۳

(۶۱۶۱) : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْمَغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ يُخْطَبُ فَقَالَ : (إِنَّكُمْ تُخْشَرُونَ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرُلًا : « كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ » . الْآيَةَ ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، وَإِنَّهُ سَبْجَاءُ بَرِّجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبُّ أَصْحَابِي ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أُحْدِثُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : « وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ - إِلَى قَوْلِهِ - الْحَكِيمُ » . قَالَ : فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ .

[ر : ۳۱۷۱]

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگ قیامت کے دن اس حال میں جمع کئے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم ہوں گے، جس طرح کہ ہم نے تخلیق کی ابتداء کی تھی، اسی طرح لوٹا دیں گے۔ الآیۃ۔ اور تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جسے کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور میری امت کے بہت سے لوگ لائے جائیں گے جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، میں اس پر کہوں گا، اے میرے رب! یہ تو میرے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تیرے بعد کیا نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں، اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے (عیسیٰ علیہ السلام) نے کہا ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ أَنْ تَعَذِّبَهُمْ فَانْهَمَ عِبَادَكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ یعنی کہ جب میں ان میں موجود تھا، اس وقت تک میں ان پر گواہ تھا اور جب آپ نے مجھے اٹھایا تو آپ ہی ان پر نگہبان تھے.....“ (تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے) کہا جائے گا کہ بعد میں وہ لٹے پاؤں لوٹ گئے تھے (یعنی آپ

کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور آپ کے دین برحق پر برقرار نہیں رہے تھے۔

فیقال : إنهم لم يزلوا مرتدين على أعقابهم

اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتد ہونے والے لوگ مراد ہیں، راجح قول یہی ہے (۱۵)۔

۶۱۶۲ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (تُحْشَرُونَ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرُلًا) . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ؟ فَقَالَ : (الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَمَهُمْ ذَلِكَ) .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے جسم غیر ختنہ شدہ اٹھائے جاؤ گے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ! تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتی ہوں گی؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، کہ انہیں اس کا خیال آئے۔

ابوصغیرہ کا نام مسلم قشیری ہے، صغیرہ صاد کے فتح اور غین کے کسرے کے ساتھ ہے اور ابوملیکہ کا نام

زہیر ہے۔

۶۱۶۳ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ عَمْرِوِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَّةٍ ، فَقَالَ : (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) . قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) . قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) . قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ

تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشُّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ .

[۶۲۶۶]

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں تھے، آپ نے فرمایا کیا تم اس پر خوش ہو گے کہ تم لوگ اہل جنت کا ایک چوتھائی ہو گے، ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں، آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا ایک تہائی ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں ..... آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا آدھا حصہ ہو؟ ہم نے کہا، جی ہاں، پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ (امت مسلمہ) اہل جنت کا آدھا حصہ ہو گے اور ایسا اس لئے ہوگا کہ جنت میں مسلمان روح کے سوا اور کوئی داخل نہ ہوگا اور تم لوگ اہل شرک کے درمیان اس طرح ہو جیسے سیاہ نیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں، یا جیسے سرخ نیل کے جسم پر سیاہ بال ہوتے ہیں۔ (یعنی جس طرح سیاہ نیل کے جسم میں کچھ سفید بال ہوں تو وہ اس کے پورے جسم کے مقابلے میں بہت کم اور آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں اسی طرح مشرکین کی نسبت سے تمہاری تعداد بہت کم جہنم میں ہوگی)۔

۶۱۶۴ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ ، فَرَأَى ذُرِّيَّتَهُ ، فَيَقَالُ : هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ ، فَيَقُولُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ : أَخْرِجْ بَعَثْ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ كَمْ أَخْرِجُ ، فَيَقُولُ : أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ) . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، فَمَاذَا يُنْفَى مِنَّا ؟ قَالَ : (إِنَّ أُبَيِّي فِي الْأُمَّمِ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، پھر ان کی نسل انہیں دیکھے گی تو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے جد امجد آدم ہیں، وہ کہیں گے، لبیک وسعدیک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی نسل کے جہنمیوں کو نکال ڈالو، آدم عرض کریں گے، اے رب! کتنوں کو نکالوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر سو میں سے ننانوے کو نکال ڈالو (یعنی ہر سو میں سے ننانوے جہنمی ہوں گے)، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! جب ہم سو میں سے ننانوے نکال دیئے جائیں گے تو پھر باقی کیا رہ جائیں گے؟ ..... حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت اتنی ہی تعداد میں ہوگی جیسے سیاہ نیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں۔ (یعنی میری امت کی تعداد ان جہنمیوں میں بہت قلیل ہوگی)۔

باب کی ان آخری دو حدیثوں میں اگرچہ صراحتاً حشر کا ذکر نہیں لیکن جنت، جہنم کا ذکر ہے۔ جن میں داخل ہونے کا سلسلہ حشر کے فوراً بعد ہوگا، اس مناسبت سے یہ حدیثیں یہاں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ اس حدیث کے تمام راوی مدنی ہیں اور یہ حدیث صرف امام بخاری نے نقل فرمائی ہے (۱۶)۔

۴۶ - باب : قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ» / الحج : ۱ / .

«أَزْفَتِ الْأَزْفَةُ» / النجم : ۵۷ / . «أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ» / القمر : ۱ / .

ان زلزلة الساعة شيء عظیم.....

یہ سورۃ حج کی پہلی آیت کریمہ ہے، پوری آیت ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ انْ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ لوگو! اللہ سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔

## آیت کریمہ میں وارد زلزلہ کا مصداق

اس زلزلے کے بارے میں دو قول ہیں:

① ایک یہ کہ اس سے قیامت سے پہلے آنے والا زلزلہ مراد ہے، جو طلوع شمس من المغرب سے کچھ پہلے ہوگا اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کے طور پر ہوگا، ساء یعنی قیامت کی طرف اس کی نسبت قرب کی وجہ سے کی گئی ہے۔

② دوسرا قول ہے کہ اس سے وقوع قیامت کا زلزلہ مراد ہے (۱۷)، ظاہر ہے جب قیامت ختم ہوگی اور یہ نظام و کائنات مٹائے جائیں گے تو زلزلہ آئے گا اور یہ پہاڑ، زمین، دریا، سمندر سب ختم ہوں گے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”قیامت کے عظیم الشان زلزلے (بھونچال) میں ایک عین مقام قیامت کے وقت یا نختہ ثانیہ کے بعد، دوسرا قیامت سے کچھ بیشتر جو علامات قیامت میں سے ہے اگر یہاں دوسرا مراد ہو تو آیت اپنے ظاہر معنی پر رہے گی اور پہلا مراد ہو تو دونوں احتمال ہیں، حقیقتاً زلزلہ آئے اور دودھ پلانے والی یا حاملہ عورتیں اپنی اس ہیبت پر محسوس ہوں، یا زلزلہ سے مراد وہاں کے احوال و شدید ہوں اور ﴿ویوم ترونہا تذہل کل مرضعة﴾ کو تمثیل پر حمل کیا جائے یعنی اس قدر گھبراہٹ اور سختی ہوگی کہ اگر دودھ پلانے والی عورتیں موجود ہوں تو مارے گھبراہٹ اور شدت ہول کے اپنے بچوں کو بھول جائیں اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں، اس وقت لوگ اس قدر مدہوش ہوں گے کہ دیکھنے والا شراب کے نشہ کا گمان کرے حالانکہ وہاں نشہ کا کیا کام!..... خدا کے عذاب کا تصور اور احوال و شدید کی سختی ہوش گم کر دے گی..... اگر یہ گھبراہٹ سب کو عام ہو تو ﴿لا یحزنہم الفزع الا کبر﴾ میں نفی باعتبار اکثر احوال کے اور یہاں اثبات باعتبار ساعت قلیلہ کے لیا جائے گا اور اگر آیت حاضرہ اکثر ناس کے حق میں ہو سب کے حق میں نہ ہو تو سرے سے اشکال ہی نہیں“ (۱۸)۔

(۱۷) فتح الباری: ۱۱/۴۷۵، وإرشاد الساری: ۱۳/۵۳۱

(۱۸) تفسیر عثمانی، سورة الحج: ۴۴۲

## آزَفَتِ الْأَرْفَةُ: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

آزَفَتِ الْأَرْفَةُ کا ترجمہ امام نے کیا "اقتربت الساعة" یعنی قیامت قریب ہے، آزف باب سجع سے ہے، آزف کے معنی قرب کے ہیں، آزف کذا: قریب ہونا، قیامت کو آزفہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا وقوع قریب ہے (۱۹)، ﴿آزفت الازفة﴾ سورہ نجم کی آیت ۵۷ ہے، ﴿اقتربت الساعة﴾ کو اگرچہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر و ترجمہ کے طور پر ذکر کیا ہے، لیکن یہ سورہ قمر کی پہلی آیت بھی ہے۔

۶۱۶۵ : حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (يَقُولُ اللَّهُ : يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ : لَيْتَكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي بَدَنِكَ ، قَالَ : يَقُولُ : أَخْرِجْ بَعَثَ النَّارِ ، قَالَ : وَمَا بَعَثَ النَّارِ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ ، فَذَلِكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، وَتَنْصَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمَلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سَكَرَى وَمَا هُمْ بِسَكَرَى ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) . فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ : (أَبْشُرُوا ، فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلًا ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنْ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثَلَاثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) . قَالَ : فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنْ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنْ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ) .

[ر : ۳۱۷۰]

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے آدم! آدم علیہ السلام عرض کریں گے، حاضر ہوں تیرے حکم کی بجا آوری کے لئے، تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال دو، آدم

(۱۹) هو من الأرف (بفتح الزاء) وهو القرب، يقال: أرف كذا: أى قرب، وسميت الساعة آرفة، لقربها أو

لضيق وقتها (فتح الباري: ۱۱/۴۷۳)

پوچھیں گے، جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے،..... یہی وہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو نشہ کی حالت میں محسوس کرو گے، حالانکہ وہ واقعی نشہ کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔

صحابہ کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی تو عرض کیا، یا رسول اللہ! پھر ہم میں وہ شخص کون ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، ایک ہزار یا جوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے وہ ایک ہوگا (یعنی جہنم میں جانے والے یا جوج ماجوج میں سے اگر ہزار ہوں گے تو تم میں سے صرف ایک ہوگا.....) پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد و بڑائی بیان کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا آدھا ہو گے، تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلہ میں ایسی ہے، جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی ہوتی ہے یا وہ سفید داغ جو گدھے کے آگے کے پاؤں پر ہوتا ہے۔

رَقْمَةٌ: سفید ٹکڑے کو کہتے ہیں (۲۰)۔

اس روایت میں چونکہ سورۃ حج کی پہلی آیات کا ذکر ہے، اس لئے حدیث اور آیت کی مناسبت ظاہر ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”أشار بهذه الترجمة إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية عند ذكر الحديث“ (۲۱)۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے حسب معمول ترجمۃ الباب سے حدیث باب کے بعض طرق کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نبی

(۲۰) رَقْمَةٌ (بفتح الراء وسكون القاف) وهي قطعة بيضاء، أو شيء مستدير لا شعر فيه (إرشاد الساري: ۱۳/۵۳۴)

(۲۱) فتح الباري: ۱۱/۴۷۲



کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ، اس حدیث کو بیان کرتے وقت پڑھی۔

۴۷- باب : قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : «أَلَا بَظُنُّ أَوْلَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ

النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» / المطففين : ۴ - ۶ /

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : «وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ» / البقرة : ۱۶۶ / قال : الوُصُلَاتُ فِي الدُّنْيَا .

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر سورۃ المطففین کی آیات کریمہ ذکر فرمائی ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے: کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے اس بڑے دن کے لئے، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

وقال ابن عباس : وتقطعت بهم الأسباب : قال : الوُصُلَاتُ فِي الدُّنْيَا

سورۃ بقرہ میں ہے: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ اس سے دنیا کے باہمی تعلقات اور روابط مراد ہیں کہ قیامت کے روز یہ سب منقطع ہو جائیں گے، عبد بن حمید نے اس تعلق کو موصولاً نقل کیا ہے (۱)، الوُصُلَاتُ (واو کے ضمہ کے ساتھ اور صاف پر ضمہ اور سکون دونوں درست ہیں) (۲)، وُضَلَةٌ کی جمع۔ ہے، وُضَلَةٌ باہمی تعلق اور رابطے کو کہتے ہیں۔

۶۱۶۶ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَبَانَ : حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ ، عَنْ

نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ( «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» .

قال : يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ) . [ ر : ۴۶۵۴ ]

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

”یوم یقوم الناس لرب العالمین“ کی تفسیر میں فرمایا کہ ان میں سے ایک اپنے پسینہ میں

شرابور کھڑا ہوگا، کانوں کے آدھے آدھے تک! (یعنی اس کا پسینہ اس کے کانوں کو آدھے آدھے

تک پہنچا ہوگا اور وہ اس میں ڈوبا ہوگا)۔

(۱) فتح الباری : ۱۱ / ۴۷۷ ، وإرشاد الساری : ۱۳ / ۵۳۴

(۲) فتح الباری : ۱۱ / ۴۷۷ ، وعمدة القاری : ۲۳ / ۱۶۹ ، وإرشاد الساری : ۱۳ / ۵۳۴

ابن عون کا نام عبد اللہ ہے۔

رَشْح: پسینے کو کہتے ہیں۔

۶۱۶۷: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانٌ، عَنْ نُورِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (يَعْرِقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینہ میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگوں کا

پسینہ زمین پر ستر ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔

يُلْجِمُهُم: أَلْجَمَهُ الْمَاءُ: جب پانی منہ تک پہنچ جائے، اس وقت کہتے ہیں (۳)۔

اس حدیث میں بعض لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا، کچھ

لوگوں کا معاملہ اس سے ہلکا ہوگا تو پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ لوگوں کا ٹخنوں تک ہوگا، جیسا کہ دوسری

روایات میں تفصیل و تصریح ہے (۴)۔

(۳) عمدة القاري: ۱۷۱/۲۳، إرشاد الساري: ۵۳۵/۱۳

(۴) إرشاد الساري: ۵۳۶/۱۳

”أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْبَعْثِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: ”يَشْتَدُّ كَرْبُ ذَلِكَ

الْيَوْمِ حَتَّى يَلْجَمَ الْكَافِرَ الْعَرَقُ، قِيلَ لَهُ: فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ؟ قَالَ عَلَى الْكَرَاسِيِّ مِنْ ذَهَبٍ وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ“

وَبِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ”الشَّمْسُ فَوْقَ رُؤُوسِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَعْمَالُهُمْ تَظْلِمُهُمْ“ وَأَخْرَجَ ابْنُ

الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَصْنُفِ وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: تَعَطَّى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حَرَّ عَشْرِ سَنِينَ ثُمَّ تَدْنَى مِنْ جَمَاعِمِ النَّاسِ حَتَّى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ فَيَعْرِقُونَ حَتَّى يَرشَحَ الْعَرَقُ فِي الْأَرْضِ

قَامَةً ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَتَّى يَغْرُغَ الرَّجُلُ“ زَادَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي رِوَايَتِهِ ”وَلَا يَضُرُّ حَرَّهَا يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنًا وَلَا مُؤْمِنَةً“.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ ”إِنَّ الرَّجُلَ لِيَفِيضَ عَرَقًا حَتَّى يَسِيحَ فِي الْأَرْضِ

قَامَةً، ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ“ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَصَحَّحَهَا ابْنُ حِبَانَ ”إِنَّ الرَّجُلَ لِيَلْجَمَهُ الْعَرَقُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُولَ: يَا رَبِّ أُرْحَنِي وَلَوْ إِلَى النَّارِ“. (فتح الباري: ۴۷۹/۱۱)

۴۸ - باب : الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

وَهِيَ الْحَاقَّةُ ، لِأَنَّ فِيهَا الثَّوَابَ وَحَوَاقِ الْأُمُورِ . الْحَقَّةُ وَالْحَاقَّةُ وَاحِدٌ ، وَالْقَارِعَةُ وَالْغَاشِيَةُ  
وَالصَّاحَّةُ ، وَالتَّعَابُنُ : غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ .

### ترجمہ الباب کی وضاحت

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے اور اس کی کیفیت سے متعلق احادیث بیان فرمائی ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص مظلوم بن کر اپنا بدلہ نہیں لے سکا تو قیامت کے دن ظالم سے اس کا حق وصول کیا جائے گا اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ظالم کی نیکیاں، مظلوم کو دلائی جائیں گی کہ اس دن نیکی اور عمل صالح کے سوا کوئی چیز کام کی نہیں رہے گی، اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس سے کم کر کے ظالم کے عمل نامے میں ڈال دی جائیں گی، بلکہ جو مومن جہنم سے نجات پا کر جائیں گے وہ بھی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک پل پر جمع ہوں گے، یہ پل جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا، اس پر آپس کی زیادتیوں کی تلافی کی جائے گی اور ظالم سے مظلوم کے لئے بدلہ لیا جائے گا، جب ایک دوسرے کے تمام حقوق اتر جائیں گے تو پاک صاف ہو کر ان مومنین کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔

وهي الحاقّة، لأن فيه الثواب وحواق الأمور، الحقة والحاقّة واحد

ہی کی ضمیر قیامت کی طرف راجع ہے، قیامت کے دن کو ”حاقّة“ کہتے ہیں، اس لئے کہ اس دن میں اعمال کا ثواب متحقق اور ثابت ہوگا اور بہت سارے امور اس میں ثابت ہو جائیں گے، حقہ اور حاقّة دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یہ درحقیقت مشہور امام فراء کی عبارت ہے جو انہوں نے ”معانی القرآن“ میں لکھی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے وہیں سے لی ہے (۱)۔

القارعة، والغاشية والصاخّة..... یہ تینوں بھی قیامت کے نام ہیں:

قارعة: کھٹکھٹانے والی، قیامت کا دن دلوں کو اپنی ہولناکیوں کی وجہ سے کھٹکھٹائے گا، اس لئے اس کو قارعة کہتے ہیں۔

غاشیة: کے معنی ہیں: چھا جانے والی، یہ دن بھی سب لوگوں پر چھا جائے گا، اس لئے اسے غاشیة بھی کہتے ہیں۔

صاخة: صاخة کے معنی ہیں: بہر ابنانے والی، دنیا کے معاملات سے یہ دن لوگوں کو بہر ابنادے گا اور صاخہ کے معنی داہیہ یعنی بڑی مصیبت کے بھی آتے ہیں اور چیخ کے بھی آتے ہیں (۲)۔

### التغابن: غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ

قیامت کے دن کو ”یوم التغابن“ بھی کہتے ہیں، یہ ”غَبْنُ“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں: اپنے حصے اور مراد سے محروم ہو جانا، اہل جہنم کے لئے جنت کے اندر جو گھر بنائے گئے ہوں گے، ان سے وہ محروم رہیں گے اور ان میں جنتی آجائیں گے، غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ کا مطلب یہی ہے کہ اہل جنت، جہنمیوں کے ان گھروں میں آجائیں گے اور ان کو محروم کر دیں گے (۳)۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں قیامت کے پانچ نام ذکر فرمائے ہیں، امام غزالی اور علامہ قرطبی نے روز قیامت کے ناموں کو جمع کیا تو اسی ۸۰ کے قریب، اس کے نام جمع ہوئے جن میں یوم المبح، یوم التواد، یوم الحسرة اور یوم التلاق وغیرہ شامل ہیں (۴)۔

۶۱۶۸ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنِي شَقِيقُ :

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْأَمْوَالِ) . [۶۴۷۱]

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ خون کے بدلہ کا ہوگا۔

(۲) فتح الباری: ۴۸۱/۱۱، إرشاد الساری: ۵۳۶/۱۳، عمدة القاری: ۱۷۲/۲۳

(۳) فتح الباری: ۱۸۱/۱۱، عمدة القاری: ۱۷۲/۲۳، إرشاد الساری: ۵۳۶/۱۳

(۴) فتح الباری: ۱۸۱/۱۱، عمدة القاری: ۱۷۲/۲۳، إرشاد الساری: ۵۳۶/۱۳

یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہلی بار ذکر فرمائی ہے، امام بخاری کے شیخ عمر بن حفص ہیں، وہ اپنے والد حفص بن ثابت سے روایت نقل کر رہے ہیں، شقیق سے شقیق بن سلمہ مراد ہیں، ان کی کنیت ابو اہل ہے اور کنیت سے یہ زیادہ مشہور ہیں، سند کے تمام راوی کوئی ہیں (۵)۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے (۶)۔

### قیامت کے دن پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟

اس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے فیصلہ خون کا کیا جائے گا، یعنی دنیا کی خون ریزی کا محاسبہ اور فیصلہ سب سے پہلے ہوگا، اس کے بعد بقیہ اعمال و دیگر معاملات کے فیصلے ہوں گے۔  
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے محاسبہ نماز کا ہوگا۔  
لیکن دونوں میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے دماء یعنی خون کا فیصلہ اور محاسبہ ہوگا (۷)۔

۶۱۶۹ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) . [ ر : ۲۳۱۷ ]

(۵) فتح الباری: ۱۱/۱۸۲، عمدۃ القاری: ۲۳/۱۷۲، إرشاد الساری: ۱۳/۵۳۷

(۶) الحدیث أخرجه البخاری أيضاً في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ رقم الحدیث: ۶۸۶۴، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحدود، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، رقم الحدیث: ۴۳۵۷، وأخرجه الترمذی في كتاب الديات، باب الحكم في الدماء، رقم الحدیث: ۱۳۹۶، وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم، رقم الحدیث: ۴۰۰۲، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، رقم الحدیث: ۲۶۱۵.

(۷) فتح الباری: ۱۱/۱۸۲، عمدۃ القاری: ۲۳/۱۷۳، إرشاد الساری: ۱۳/۵۳۷

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے (اس دنیا میں) معاف کرائے، اس لئے کہ آخرت میں دینار و درہم نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لئے اس کی نیکیوں میں سے لیا جائے اور اگر اس کے یہاں نیکیاں نہ ہوں تو اس کے مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ (اس لئے بے بسی کے وقت سے پہلے پہلے دنیا میں اپنے معاملات صاف کر دینے چاہئیں)

۶۱۷۰ : حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : «وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ». قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (يُحْطَسُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى فَنَطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا هُدُّوا وَنُقُوا أُذُنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا) . [ر : ۲۳۰۸]

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے، لیکن دوزخ و جنت کے درمیان ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا اور پھر ایک کے دوسرے پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا اور جب کانٹ چھانٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جنتیوں میں ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو دنیا والے گھر کے مقابلہ میں زیادہ بہتر طریقہ پر پہچان لے گا۔

سند کے اندر آیت کریمہ ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ...﴾ کو ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ حدیث کا متن اس آیت کے لئے تفسیر کے درجے میں ہے۔

## قنطرة بين الجنة والنار

جنت اور جہنم کے درمیان پہ پل، یا کوئی الگ پل ہوگا اور یا مشہور پل صراط کا کوئی کونہ ہوگا، علامہ قرطبی نے فرمایا کہ یہ وہ مؤمنین ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے علم میں ہوگا کہ قصاص کی صورت میں ان کی حسنت اور نیکیاں ختم نہیں ہوں گی (۸)۔ یہ حدیث، اس سے پہلے مظالم میں گزر چکی ہے۔

## ۴۹ - باب : مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ .

## قیامت کے دن مناقشہ حساب

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب حدیث کا ایک جملہ لے کر قائم کیا ہے، حدیث، امام نے باب میں ذکر فرمائی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے ساتھ حساب کا مناقشہ کیا گیا اور پوچھ گچھ شروع کی گئی کہ یہ کیوں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا.....

قرآن کریم کی سورۃ الشقاق کی آیت کریمہ میں ہے کہ جن لوگوں کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا حساب آسان ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ قرآن کریم کی درج بالا آیت میں تو حساب کا ذکر ہے اور یہ اصحاب میمنہ ہوں گے جب کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن سے حساب کیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت کریمہ میں ”حساب“ سے صرف پیشی مراد ہے، مناقشہ نہیں، حساب میں جن کا مناقشہ ہوگا، ان کی پکڑ ہوگی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

۶۱۷۲/۶۱۷۱ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي مَلِيكَةَ ،

عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ( مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ ) . قَالَتْ : قُلْتُ : أَلَيْسَ

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : « فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا » . قَالَ : ( ذَلِكَ الْعَرَضُ ) .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے حساب میں کھود کرید کی گئی، اس پر عذاب یقینی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس پر میں نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ ”پھر عنقریب ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا.....“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حساب نجات پانے والوں سے بھی ہوگا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد بس پیشی ہے۔ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ : سَمِعْتُ أَبَانَ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ : مِثْلَهُ .  
وَتَابَعَهُ أَبُو جَرِيحٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمٍ ، وَأَبُو بَرٍّ ، وَصَالِحُ بْنُ رُسْتَمٍ ، عَنْ أَبِي مَلِيكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

عثمان بن الاسود کی متابعت ابن جریج (عبدالملک بن عبدالعزیز) محمد بن سلیم، ایوب سختیانی اور صالح بن رستم نے کی ہے، ابن جریج، محمد بن سلیم اور ایوب سختیانی کی متابعت کو ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں اور صالح بن رستم کی متابعت کو اسحاق بن راہویہ نے موصولاً نقل کیا ہے (۱)۔

(۶۱۷۲) : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَلِيكَةَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنِي عَائِشَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ) . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا» . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنَّمَا ذَلِكَ الْغَرَضُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُدْبَ) . [ر : ۱۰۳]

(۱) فتح الباری: ۴۸۸/۱۱، عمدۃ القاری: ۱۷۵/۲۳، وإرشاد الساری: ۵۴۰/۱۳



حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے بھی قیامت کے دن حساب لیا جائے گا، پس وہ ہلاک ہوا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا ہے کہ..... ”پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے ایک ہلکا حساب لیا جائے گا“..... اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف پیشی ہوگی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس سے بھی حساب میں کھو کر دیکھی گئی، اس پر عذاب یقینی ہے۔

۶۱۷۳ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عَبَّادَةَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : (يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ لَهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا ، أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقَالُ لَهُ : فَذَكَ كُنْتَ سَأَلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ) . [ر : ۳۱۵۶]

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر زمین بھر تمہارے پاس سونا ہو تو کیا اس کو (اپنی نجات کے لئے) فدیہ دو گے؟ وہ کہے گا، ہاں!..... لیکن اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تم سے اس سے بہت معمولی چیز کا (دنیا میں) مطالبہ کیا گیا تھا (اور تم نے اسے بھی پورا نہیں کیا یعنی ایمان و عمل صالح)۔

۶۱۷۴ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي خَيْثِمَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيَكَلُمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، ثُمَّ يَنْظَرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قَدَامَهُ ، ثُمَّ يَنْظَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ) .

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پھر وہ بندہ دیکھے گا تو اس کے آگے کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی، پس تم میں جو شخص بھی آگ سے بچنے کی (اس دنیا میں عمل کر کے) استطاعت رکھتا ہے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعہ (اسے راہ خدا میں خرچ کر کے) ممکن ہو (اس کو بچنے کا سامان کر لینا چاہیے)۔

قَالَ الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اتَّقُوا النَّارَ). ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، ثُمَّ قَالَ: (اتَّقُوا النَّارَ). ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: (اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بَشِقَ تَمْرَةً، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ).  
[ر: ۱۳۴۷]

یہ ماقبل سند کے ساتھ متصل ہے..... حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو! پھر آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو! اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، تین مرتبہ آپ نے ایسا کیا، ہم سمجھے کہ آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو اور جسے یہ بھی نہ ملے تو اسے اچھی بات کے ذریعہ! (جہنم سے بچنا چاہیے)۔

اتقوا النار ولو بشق تمره

آگ سے بچیں اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ ہو:

① اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور کھجور کے چھوٹے سے ٹکڑے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں وہ حرام اور ناجائز نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔

۲ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی کی جس قدر توفیق ملے، نیکی کرنی چاہیے اگر کسی کو کھجور ایک ٹکڑا صدقہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے (۲)۔

اور بظاہر دونوں معنوں میں کوئی تضاد نہیں، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔

## اعراض و أشاح

أشاح کے معنی اعراض کرنے، دور کرنے اور پھیرنے کے آتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ انور پھیرا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آگ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر چہرہ انور کو دوسری طرف ہٹا رہے ہیں.....

## ۵۰- باب : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ .

### جنت میں ستر ہزار کا بغیر حساب داخلہ

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کے لئے بشارت بیان کی ہے، کہ اس امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے!  
”ستر ہزار“ سے عدد معین مراد ہے یا اس سے کثرت مراد ہے کہ بہت سارے لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے کیونکہ ستر کا عدد عربی زبان میں کثرت کے لئے آتا ہے۔

راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے عدد معین نہیں، بلکہ کثرت مراد ہے کیونکہ مسند احمد اور بیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ستر ہزار جنت میں جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اضافے کی دعا کی تو ہر ہزار کے ساتھ ہزار کا اضافہ کیا گیا (۱)۔

ایک دوسری روایت میں ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کا اضافہ ہے (۲)۔

(۲) قال المظھري: ”یعنی إذا عرفتم ذلك، فاحذروا من النار، فلا تظلموا أحداً، ولو بمقدار شق تمره، ويحتمل

أن يراد أن أمامكم النار، فاجعلوا الصدقة جنة بينكم وبينها، ولو بشق تمره“. (إرشاد الساري: ۱۳/۵۴۳)

(۱) فتح الباري: ۱۱/۵۰۰، وإرشاد الساري: ۱۳/۵۴۵

(۲) فتح الباري: ۱۱/۵۰۰، وإرشاد الساري: ۱۳/۵۴۵

اور ایک تیسری روایت میں ستر ہزار سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار کا اضافہ ہے (۳)..... اس طرح یہ تعداد بہت بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بے کنار ہے، امید یہی ہے کہ ان شاء اللہ، اس سے یہی کثیر تعداد ہی مراد ہوگی، اللھم اجعلنا منهم..... یا أرحم الراحمین.....

۶۱۷۵ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو فُضَيْلٍ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ :  
 وَحَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ زَيْدٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ :  
 حَدَّثَنِي أَبُو عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ ، فَأَجِدُ النَّبِيَّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ ،  
 وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْقَوْمُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشْرَةُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ ،  
 فَظَنَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، هُوَ لَأُمَّتِي ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْأَفْقِ ،  
 فَظَنَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قَالَ : هُوَ لَأُمَّتِكَ ، وَهُوَ لَأُمَّةٌ سَبْعُونَ أَلْفًا قَدَّمَاهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ  
 وَلَا عَذَابَ ، قُلْتُ : وَلِمَ ؟ قَالَ : كَانُوا لَا يَكْتُوُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى  
 رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ : أَدْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : (اللَّهُمَّ  
 اجْعَلْهُ مِنْهُمْ) . ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرَ قَالَ : أَدْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : (سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ) .

[ر : ۳۲۲۹]

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، کسی نبی کے ساتھ پوری امت گزری، کسی نبی کے ساتھ چند افراد گزرے، کسی نبی کے ساتھ دس افراد گزرے، کسی نبی کے ساتھ پانچ افراد گزرے، جو ان پر ایمان لائے تھے، اور کوئی نبی تنہا گزرے (کہ ان پر ایک بھی ایمان لانے والا نہیں تھا) پھر میں نے دیکھا تو انسانوں کی بہت بڑی جماعت دور سے نظر آئی، میں نے جبریل سے پوچھا، کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ افق کی طرف دیکھو، دیکھا تو بہت بڑی جماعت کی دھندلی صورتیں دکھائی دے رہی تھیں، فرمایا کہ یہ آپ

کی امت ہے اور یہ ان کے آگے جو لوگ ہیں، ان کی تعداد ستر ہزار ہے، ان سے نہ حساب لیا جائے گا اور نہ ان پر عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، بدشگونی نہیں لیتے تھے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔

پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اٹھ کر بڑھے اور عرض کیا کہ حضور! دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ! انہیں بھی ان لوگوں میں کر دے۔

اس کے بعد ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لئے بھی یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے جا چکا ہے۔

حدیث شریف کی دو سندیں ہیں اور دونوں جا کر حسین بن عبد الرحمن واسطی پر جمع ہو جاتی ہیں۔ پہلی سند میں امام بخاری کے شیخ عمران ابن میسرہ اور شیخ اشیح محمد بن فضیل ہیں اور دوسری سند میں امام بخاری کے شیخ اسید بن زید اور شیخ اشیح ہشیم بن بشیر واسطی ہیں۔

سبقك بها عكاشة.....

اس دوسرے آدمی کے لئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سلسلہ پھر لبا ہو جاتا اور حاضرین میں سے بہت سارے دوسرے حضرات بھی کھڑے ہو کر اپنے لئے دعا کراتے۔

اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عکاشہ نے جب کہا تھا، تو وہ قبولیت کی گھڑی تھی، جو بعد میں نہیں رہی، اس لئے بعد والے سے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں وحی سے آپ نے کہا، باقی کے بارے میں وحی نہیں آئی (۴)۔

۶۱۷۶ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :  
 حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : (يَدْخُلُ  
 الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا ، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :  
 فَقَامَ عَكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني  
 مِنْهُمْ ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ) . ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،  
 أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ ، فَقَالَ : (سَبَقَكَ عَكَاشَةُ) . [ر : ۵۴۷۴]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ  
 علیہ وسلم سے سنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت  
 (جنت میں) داخل ہوگی، جس کی تعداد ستر ہزار ہوگی، ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں  
 گے جیسے چودہویں رات میں چاند روشن ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر عکاشہ بن محسن اسدی رضی  
 اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اپنی چادر جو ان کے جسم پر تھی، اٹھاتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ!  
 اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
 نے دعا کی کہ اے اللہ! انہیں بھی ان میں کر دے، اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے  
 ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ! دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں کر دے، حضور اکرم صلی  
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔

۶۱۷۷ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ  
 ابْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّي سَبْعُونَ أَلْفًا ، أَوْ سَبْعِمِائَةَ أَلْفٍ -  
 شَكَ فِي أَحَدِهِمَا - مَتَّاسِكِينَ ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوْلَاهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ ،  
 وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) . [ر : ۳۰۷۵]

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میری امت کے ستر ہزار یا ستر لاکھ (راوی کو ان میں سے کسی ایک تعداد کی تعیین میں شک تھا) افراد داخل ہوں گے کہ بعض، بعض کو پکڑے ہوئے ہوں گے اس طرح جنت میں اول و آخر سب داخل ہو جائیں گے اور ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔

۶۱۷۸ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا بَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ : يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ ، خُلُودٌ) . [۶۱۸۲]

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت، جنت میں اور اہل جہنم، جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے اہل جہنم! تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جنت! تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔

۶۱۷۹ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ ، وَلِأَهْلِ النَّارِ : يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت! ہمیشہ (یہیں) رہنا ہے تمہیں موت نہیں آئے گی اور اہل دوزخ سے کہا جائے گا کہ اے اہل دوزخ! ہمیشہ یہیں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔

## ۵۱- باب : صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ .

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ رِبَادَةٌ كَبَدِ حُوتٍ) .

[ر : ۶۱۵۵]

«عَدْنٍ» / التوبة: ۷۲ / : خُلْدٍ ، عَدْنَتْ بِأَرْضٍ : أَقَمْتُ ، وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ . «فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ»

/ القمر: ۵۵ / : فِي مَنبِتِ صِدْقٍ .

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کو بیان فرمایا ہے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے اوصاف اور ان کی کیفیت بیان فرمائی ہے، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ تعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے چند باب پہلے ”باب یقبض اللہ الارض.....“ میں موصولاً نقل کی ہے!

عدن : خلد، عدنت بأرض : أقمت، ومنه ألعدن

قرآن کریم میں کئی جگہ ”عدن“ کا لفظ جنت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، سورۃ توبہ میں ہے: ﴿فِي جَنَّةِ عَدْنٍ﴾ یعنی ہمیشگی کے باغات میں، عدنت بأرض کے معنی ہیں میں نے زمین پر قیام کیا، وہاں رہنے لگا، اسی سے مشہور لفظ ”مَعْدِن“ ہے یعنی کان جہاں سے معدنیات سونا چاندی، پیتل وغیرہ نکالا جاتا ہے (۱)۔

فِي مَعْدِنِ صِدْقٍ : فِي مَنبِتِ صِدْقٍ

معدن صدق لوگ بولتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے منبت صدق اور ایک نسخہ میں ”مقعد صدق“ ہے، معدن کی بجائے ”مقعد“ کا لفظ ہے، یہ لفظ سورہ قمر میں جنت کے تذکرے میں واقع ہے ﴿إِنَّ الْمَتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ وَنَهْرٍ﴾ فی مقعد صدق ﴿مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾ سے ایسی مجلس مراد ہے جس میں کوئی لغو اور گناہ نہ ہو، یہاں چونکہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے، اس لئے ”مقعد صدق“ کی مناسبت باب سے واضح ہے، البتہ ابوعبیدہ کے کلام میں ”معدن صدق“ کے معنی منبت صدق لکھے ہیں (۲) اور اس سے پہلے چونکہ عدن کا لفظ آیا ہے تو اس لفظ کی بھی مناسبت ہو جاتی ہے، ویسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ معمولی مناسبتوں سے الفاظ ذکر کر لیتے ہیں، جس کا مشاہدہ آپ نے کتاب التفسیر میں کر لیا ہے۔

(۱) فتح الباری: ۵۱۰/۱۱، عمدة القاري: ۱۸۲/۲۳، إرشاد الساري: ۵۴۸/۱۳

(۲) فتح الباری: ۵۱۰/۱۱، عمدة القاري: ۱۸۲/۲۳، إرشاد الساري: ۵۴۸/۱۳



۶۱۸۰ : حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ الْهَيْمِ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ ) . [ ر : ۳۰۶۹ ]

حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کے رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کے اکثر رہنے والے عورتیں تھیں۔  
ابورجاء کا نام عمران عطارودی ہے، اس حدیث کے تمام راوی بصری ہیں۔

۶۱۸۱ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكَانَ عَامَةٌ مَن دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَةٌ مَن دَخَلَهَا النِّسَاءُ ) . [ ر : ۴۹۰۰ ]

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں اکثر داخل ہونے والے مساکین تھے اور مالدار لوگ (جنت میں داخل ہونے سے) روکے گئے (حساب و قصاص وغیرہ کے لئے) البتہ جہنمیوں کو آگ میں جانے کا حکم دے دیا گیا اور میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ اصحاب الجہد سے مالدار لوگ مراد ہیں۔

۶۱۸۲ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُدْبِحُ ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ :

يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ ، فَيَزِدُّهُمُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَزِدُّهُمُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنَ إِلَى حُزْنِهِمْ) . [ر : ۶۱۷۸]

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت، جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ، دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے اہل جنت! تمہیں موت نہیں آئے گی، اے اہل دوزخ! تمہیں موت نہیں آئے گی، اس وقت جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور دوزخی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔

۶۱۸۳ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ؟ فَيَقُولُونَ : لَيْتَكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ : هَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ نَعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، فَيَقُولُ : أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالُوا : يَا رَبِّ ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ : أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي ، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا) . [۷۰۸۰]

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت! جنتی کہیں گے، ہم حاضر ہیں، اے ہمارے رب! تیری فرمانبرداری کے لئے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا اب تم لوگ خوش ہو؟..... وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم خوش نہیں ہوں گے، اب تو تُو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا ہے جو اپنی مخلوق کے کسی فرد کو بھی نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا، جنتی کہیں گے، اے رب! اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تمہارے لئے اپنے رضوان و خوشنودی کو اتارتا ہوں، اس کے بعد کبھی تم پر

ناراض نہیں ہوں گا (۳)۔

اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کی بڑی نعمت ہے، قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں ہے: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرُ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی مناسبت سے بڑھ کر ہے! (۴)۔

۶۱۸۴ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَرَفْتَ مَنَزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي ، فَإِنَّ بَيْكَ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْسِبْ ، وَإِنْ نَكُنِ الْأُخْرَى تَرَمَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : (وَيُحَلِّكَ ، أَوْ هَبْلَتِ ، أَوْ جَنَّتْ وَاحِدَةً هِيَ ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَبِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ) . [ر : ۲۶۵۴]

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے، وہ اس وقت نو عمر تھے، تو ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ کو معلوم ہے کہ حارثہ سے مجھے کتنی محبت تھی، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی، اور صبر پر اجر کی امید وار ہوں گی، اور اگر کوئی اور بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس کیا پاگل ہو گئی ہو، جنتیں بہت سی ہیں، اور وہ (حارثہ رضی اللہ عنہ) تو جنت الفردوس میں ہے۔

أَوْ هَبْلَتِ : اس میں ہمزہ استفہام کا ہے اور واو عاطفہ ہے، معطوف علیہ محذوف ہے۔

هَبْلَتِ الْمَرْأَةُ : بچہ گم کرنا، یہ صیغہ معروف اور مجہول دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ترکیبی عبارت

ہے: أَفْقَدْتَ عَقْلَكَ وَوَهَبْتَ لِعَنِي مِثْلَهُ كَمَا كَرِهْتَ؟ یعنی میں نے کو مفقود پا کر کیا آپ کی عقل کھو گئی ہے کہ جنت کو نہیں سمجھ پارہے؟

(۳) الحدیث أيضاً أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع أهل الجنة، رقم الحدیث: ۷۵۱۸، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة، فلا يسخط عليهم أبداً، رقم الحدیث: ۷۰۷۰، وأخرجه الترمذي في جامعه، كتاب صفة الجنة، باب محاوره الرب أهل الجنة، وقوله: أحل عليكم رضواني، رقم الحدیث: ۲۵۵۵

(۴) إرشاد الساري: ۵۰۱/۱۳

۶۱۸۵ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا الْفَضِيلُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ،  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ( مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْ الْكَافِرِ مَسِيرَةٌ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ لِلرَّأَكِبِ الْمُسْرِعِ ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
نے فرمایا، کافر کے دونوں شانوں کے درمیان تیز چلنے والے کے لئے تین دن کی مسافت کا  
فاصلہ ہوگا۔

اس حدیث میں، جہنم کا ذکر نہیں، لیکن جہنمی کا ذکر ہے، اس مناسبت سے باب ”صفة النار“ کے ساتھ  
اس کی مطابقت ہو جاتی ہے (۵)۔

۶۱۸۶ : وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ،  
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً ، يَسِيرُ الرَّأَكِبُ فِي ظِلِّهَا  
مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا ) .

یہ ما قبل سند کے ساتھ موصول ہے..... اور ابن اسحاق بن ابراہیم نے  
بیان کیا، انہیں مغیرہ بن سلمہ نے خبر دی، ان سے وہیب نے حدیث بیان کی، ان سے  
ابو حازم نے، ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سوار سو سال تک چلنے کے  
بعد بھی اسے قطع نہیں کر سکے گا۔

قَالَ أَبُو حَازِمٍ : فَحَدَّثْتُ بِهِ التُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ  
قَالَ : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً ، يَسِيرُ الرَّأَكِبُ الْجَوَادُ الْمُضْمَرُ السَّرِيعُ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا ) .

یہ بھی ما قبل سند کے ساتھ متصل ہے..... ابو حازم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ  
حدیث نعمان ابن ابی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو سعید نے حدیث

بیان کی، ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے سایہ میں عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار شخص سو سال تک چلتا رہے گا اور پھر بھی اسے قطع نہیں کر سکے گا۔

۶۱۸۷ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا ، أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ - لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ - مَتَّاسِكُونَ ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، لَا يَدْخُلُ أَوْلَهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ ، وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) . [ر : ۳۰۷۵]

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ستر ہزار یا ستر لاکھ افراد جنت میں جائیں گے، ابو حازم کو یقین نہیں تھا کہ روایت میں کون سا عدد بیان ہوا تھا، ستر ہزار یا ستر لاکھ..... فرماتے ہیں کہ (وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ) ایک دوسرے کو پکڑے ہوں گے، ایک دوسروں کو تھامے ہوں گے ان میں پہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا کہ آخری شخص داخل ہو جائے گا، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔

۶۱۸۸ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْعُرْفَ فِي الْجَنَّةِ ، كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ) . قَالَ أَبِي : فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ فَقَالَ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُهُ وَيَزِيدُ فِيهِ : (كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْعَارِبَ فِي الْأَفْقِ : الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ) .

حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اہل جنت! (اپنے اوپر کے درجوں کے) بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔

میرے والد نے بیان کیا کہ پھر میں نے یہ حدیث نعمان بن ابی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ حدیث بیان کرتے تھے اور اس میں یہ اضافہ کرتے تھے کہ..... ”جیسے تم مشرقی یا مغربی افق میں ڈوبتے ستاروں کو دیکھتے ہو“.....

قال أبي ..... یہ روایت عبدالعزیز بن ابی حازم اپنے والد ابو حازم سے نقل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ابو حازم نے کہا کہ یہ حدیث میں نے نعمان بن ابی عیاش کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنی ہے اور وہ اس میں ”کما تراءون الكوكب.....“ کا اضافہ کرتے ہیں۔

۶۱۸۹ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ . سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا ، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ : أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا ، فَأَيَّتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي ) . [ ر : ۳۱۵۶ ]

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تمہیں روئے زمین پر کوئی چیز میسر ہو تو کیا تم اس کا فدیہ (اس عذاب سے چھوٹنے کے لئے) دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تم سے اس سے بھی معمولی چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا، جب تم آدم کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم اسی پر اصرار کرتے رہے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے، (اس لئے اب عذاب سے تمہیں دو چار ہونا ہی ہے)

۶۱۹۰ : حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : (يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ النَّعَارِيرُ) . قُلْتُ : وَمَا النَّعَارِيرُ ؟ قَالَ : الضَّغَائِيسُ ، وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ ، فَقُلْتُ لِعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ) . قَالَ : نَعَمْ .

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ دوزخ سے شفاعت کے ذریعہ اس طرح نکلیں گے گویا کہ ”نعاریر“ ہوں گے، میں نے پوچھا نعاریر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد صغائیس (یعنی چھوٹے چھوٹے کھیرے مراد ہیں، کھیرے کے ساتھ تشبیہ اس لئے دی ہے کہ کھیرا بہت جلد بڑھتا ہے اور اس پر سفید روئیں بھی ہوتے ہیں تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جہنم سے نکلنے والوں پر اس طرح ہلکے سفید بال ہوں گے) ہے، ان کے منہ جھڑ گئے ہوں گے۔

پھر میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا، ابو محمد! میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جہنم سے شفاعت کی وجہ سے لوگ نکلیں گے، انہوں نے کہا کہ ہاں۔

نعاریر: تُغرور (بروزن عصفور) کی جمع ہے، چھوٹے چھوٹے کھیرے کو کہتے ہیں جن پر روئیں اور چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔

ضغائیس: ضُغْبُوس کی جمع ہے، چھوٹا کھیرا، بعضوں نے کہا یہ ایک خاص قسم کا ساگ ہے (۶)۔

۶۱۹۱ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ،

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، فَيُسَمَّيْنَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ : الْجَهَنَّمِيِّينَ) . [۷۰۱۲]

۶۱۹۰ : أخرجه مسلم في الإيمان ، باب : أدنى أهل الجنة منزلاً فيها ، رقم : ۱۹۱ .

(۶) إرشاد الساري: ۵۵۷/۱۳، والنهية لابن الأثير: ۸۳/۲، والفاثق في غريب الحديث: ۱۶۶/۱

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت جہنم سے اس کے بعد نکلے گی، جب آگ انہیں چھو چکی ہوگی اور پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان لوگوں کو اہل جنت ”جہنمیین“ کہیں گے۔  
سَفْع: آگ کی لپک، جھلنے کا نشان، آگ کی تپش (۷)۔

۶۱۹۲ : حَدَّثَنَا مُوسَى : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، يَقُولُ اللَّهُ : مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خِرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرَجُوهُ ، فَيَخْرُجُونَ قَدْ أَمْتَحَشُوا وَعَادُوا حُمَمًا ، فَيُلْقُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ ، فَيَسْتَبِقُونَ كَمَا تَسْتَبِقُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، أَوْ قَالَ : حَمِيَّةِ السَّيْلِ - وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً . [ر : ۲۲]

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت، جنت میں اور اہل جہنم، جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو تو، اسے دوزخ سے نکال لو، اس وقت لوگ نکالے جائیں گے تو وہ جل کر کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد انہیں ”نہر حیات“ (آب حیات) میں ڈالا جائے گا، تو وہ تروتازہ ہو جائیں گے، جس طرح سیلاب کے ساتھ آنے والا کوڑا کرکٹ کا دانہ اگ آتا ہے، یا راوی نے ”حمیۃ اسیل“ کہا (حمیل اسیل کے بجائے) اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس دانہ سے زرد رنگ کا سکر اہو یا پودا اگتا ہے۔

امتحشوا: وہ جل چکے ہوں گے۔ امتحاش کے معنی جلنے کے ہیں۔

(۷) سَفْعَةُ النَّارِ: آگ اس کی طرف لپکی، دیکھئے، إرشاد الساری: ۵۷/۱۳، والنہایة: ۷۸۳/۱، وعمدة القاری:



حُمَم: حُمَمَةٌ کی جمع ہے، سیاہ کونکہ۔

السَّحْبَةُ: (حاء کے کسرے کے ساتھ) صحرائی بیج کو کہتے ہیں، اس کی جمع ”جَبَب“ آتی ہے اور ایک ”حَبَّة“ (فتح الفاء) اس کے معنی عام دانے کے ہیں، اس کی جمع ”جُبوب“ آتی ہے، یہاں حَبَّة کسرے کے ساتھ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ فوراً اُگ آتا ہے! (۸)۔

في حَمِيلِ السَّيْلِ: سیلاب اپنے ساتھ جو مٹی اور جھاگ وغیرہ لاتا ہے اسے حمیل کہتے ہیں۔

أَوْ قَالَ حَمِيَةَ السَّيْلِ، راوی کو شک ہے کہ ”حَمِيَّة“ کا لفظ کہا، یا حَمِيلِ کا، حَمِيَّة کا ترجمہ ”معظم جبري الماء واشتداده“ کے ساتھ شارحین نے کیا ہے، یعنی جہاں پانی کا بہاؤ تیز اور زیادہ ہو، بعض نسخوں میں حَمِيَّة ہے، جو سیاہ مٹی کو کہتے ہیں (۹)۔

صَفْرَاءُ مُلْتَوِيَّة: زرد اور سکڑا ہوا، ملتویہ کے معنی ہیں: سکڑا ہوا، کمزور۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لسرعة نباته يكون ضعيفا، ولضعفه يكون أصفر ملتويا، ثم بعد ذلك

تشتد قوته“ (۱۰)۔

یہ حدیث، کتاب الایمان میں، باب تفاضل اهل الایمان کے تحت گزر چکی ہے (۱۱)۔

٦١٩٤/٦١٩٣ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ  
أَبَا إِسْحَقَ قَالَ : سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ ، تُوَضَّعُ فِي أَحْمَصِ قَلَمِيهِ جَمْرَةٌ ، يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ) .

(۸) علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”بزر العشب أو البقلة الحمقاء؛ لأنها تنبت سرعاً“. (إرشاد الساري:

٥٥٨/١٣، والنهية: ٤٣٣/١

(۹) عمدة القاري: ١٩١/٢٣، إرشاد الساري: ٥٥٨/١٣

(۱۰) إرشاد الساري: ٥٥٨/١٣

(۱۱) كشف الباري، كتاب الإيمان: ١٠٩/٢

حضرت نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے کم وہ شخص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔  
 أخصص: باطن قدمیه الذی لا یصل إلى الأرض عند المشی (۱۲) یعنی قدم کے نیچے کا وہ حصہ جو چلتے ہوئے زمین سے اوپر رہتا ہے، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہلی بار ذکر فرمائی ہے۔

(۶۱۹۴) : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ ، عَلَى أخصصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمَرْجَلُ بِالْقَمَقْمِ) .

حمرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخیوں میں عذاب کے اعتبار سے سب سے کم عذاب پانے والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پیروں کے نیچے دو انگارے رکھ دیئے جائیں گے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی یا دیگ جوش کھاتی ہے۔  
 قَمَقَم: برتن جس میں عموماً پانی گرم کیا جاتا ہے۔ مرجل اور قَمَقَم دونوں کے ایک ہی معنی ہیں قَمَقَم پانی گرم کرنے والے برتن کے لئے استعمال ہوتا ہے، بعض روایتوں میں واو حرف عطف کے ساتھ ہے۔ المِرجَل والقَمَقَم، زیادہ واضح ہے (۱۳)۔

۶۱۹۵ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ خَبِثَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ : (أَتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ) . [ ر : ۱۳۴۷ ]

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور روئے مبارک پھیر لیا، پھر اس سے پناہ مانگی، اس کے بعد فرمایا کہ دوزخ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعہ ہو سکے، جس کو یہ بھی نہ ملے اسے چاہیے کہ اچھی بات کے ذریعہ (دوزخ سے اپنے کو بچائے)۔

۶۱۹۶ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي حَازِمٍ ، وَالدَّرَّاورِدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ ،  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ،  
وَذَكَرَ عِنْدَهُ عَمَهُ أَبُو طَالِبٍ ، فَقَالَ : (لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ  
مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبِيهِ ، يَغْلِي مِنْهُ أُمَّ دِمَاعِهِ) . [ ر : ۳۶۷۲ ]

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا جناب ابوطالب کا  
ذکر کیا گیا تھا، آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن میری  
شفاعت ان کے کام آجائے اور انہیں جہنم کے کم آگ والے حصے میں رکھا جائے گا، آگ کا  
یہ حصہ صرف ان کے ٹخنوں تک ہوگا لیکن اس سے بھی ان کا بھیجا کھول اور ابل رہا ہوگا!

ضَحْضَاح : تھوڑا سا پانی، یہاں ہلکی آگ مراد ہے، یبلغ کی ضمیر ضحضاح کی طرف راجع ہے!

۶۱۹۷ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُونَ : لَوْ أَسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى  
يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : أَنْتَ الَّذِي خَلَقْتَ اللَّهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ،  
وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، فَأَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا . فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ،  
وَيَقُولُ : أَتُّوا نُوحًا ، أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ،  
أَتُّوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي آتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ،  
أَتُّوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، أَتُّوا عِيسَى  
فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، أَتُّوا مُحَمَّدًا ﷺ ، فَقَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ،  
فَيَأْتُونِي ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاحِدًا ، فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُقَالُ لِي :  
ارْفَعْ رَأْسَكَ : سَلْ نِعْطَةَ ، وَقُلْ يَسْمَعُ ، وَأَشْفَعُ تُشْفَعُ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأُحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ

يُعَلِّمُنِي ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُثُ لِي حَدًّا ، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ فَاقْعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ ، أَوْ الرَّابِعَةِ ، حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ . وَكَانَ قِتَادَةً يَقُولُ عِنْدَ هَذَا : أَيُّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ . [ ر : ۴۲۰۶ ]

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، اس وقت لوگ کہیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے حضور میں کسی کی شفاعت لے جائیں تو سو مند ہو سکتی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی اس حالت سے آرام دے دے۔

چنانچہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ ہی وہ نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ ہماری ہمارے رب کے حضور شفاعت کر دیں، وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، پھر وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔

لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظلیل بنایا تھا، لوگ ان کے پاس آئیں گے، لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔

لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔

لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن یہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ

معاف کر دیئے گئے ہیں۔

چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، اس وقت میں اپنے رب سے اجازت (شفاعت کی) چاہوں گا اور سجدہ میں گرجاؤں گا، اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک چاہے گا مجھے سجدہ میں رہنے دے گا، پھر کہا جائے گا کہ اپنا سراٹھا لو، جو مانگو، دیا جائے گا، کہو، سنا جائے گا، شفاعت کرو، شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنے رب کی اس وقت حمد بیان کروں گا، ایسی حمد جو مجھے اللہ تعالیٰ سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لئے حد مقرر کر دی جائے گی، میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں آؤں گا اور اس طرح سجدہ میں گرجاؤں گا، تیسری یا چوتھی بار..... اور اب (شفاعت کے قبول کئے جانے اور جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے بعد) جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روکا، یعنی مشرکین اور کفار و منافقین جن کے بارے میں ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی جن کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ہے) قتادہ اس موقع پر کہا کرتے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں پر جہنم میں خلود اور ہمیشگی ہے۔

۶۱۹۸ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا بَحْبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ).

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت جہنم سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گی اور جنت میں داخل ہوگی، جن کا نام ”جہنمیین“ رکھا جائے گا۔

(۶۱۹۸) الحدیث أخرجه الإمام الترمذي في باب صفة جهنم، باب منه قصة آخر أهل النار خروجاً..... رقم

الحدیث: ۳۶۰۰، وأبو داود في كتاب السنة، باب في الشفاعة، رقم الحدیث: ۴۷۴۰

۶۱۹۹ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ

أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ نَدْرِ ، أَصَابَهُ غَرْبُ سَهْمٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَلِمْتُ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ لَهَا : (هَبْلَتِ ، أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَنِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى).

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں ایک نامعلوم تیر لگ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ! آپ کو معلوم ہے کہ حارثہ سے مجھے کتنا دلی تعلق تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں اس پر نہیں روؤں گی، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بے وقوف ہوتی ہو، کیا کوئی ایک ہی جنت ہے، جنتیں تو بہت سی ہیں اور حارثہ ”الفردوس الاعلیٰ“ (جنت کے اونچے درجے) میں ہے۔

وَقَالَ : (عَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابٌ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ ،

أَوْ مَوْضِعٌ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لِأَضَاءَتِ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَمَلَّتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا ، وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِي الْخِمَارَ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) . [ ر : ۲۶۳۹ ، ۲۶۵۴ ]

یہ ما قبل سند کے ساتھ متصل ہے..... اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے فاصلہ کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت روئے زمین کی طرف جھانک کے دیکھ لے تو تمام فضا کو منور کر دے اور تمام فضا کو خوشبو سے بھر دے اور اس کا صرف دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

۶۲۰۰ : حَدَّثَنَا أَبُو أَيْمَانَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ ، لِيَزِدَّادَ شُكْرًا ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو بھی داخل ہوگا، اسے اس کے جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، کہ اگر نافرمانی کی ہوتی (تو وہاں اسے جگہ ملتی) تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرنے اور جو بھی جہنم میں داخل ہوگا، اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کئے ہوتے (تو وہاں جگہ ملتی) تاکہ اس کے لئے یہ نظارہ حسرت و افسوس کا باعث ہو۔

۶۲۰۱ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ : ( لَقَدْ ظَنَنْتُ ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَنَّ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَّ مِنْكَ ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ) . [ ر : ۹۹ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ! قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ ابو ہریرہ، میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ حدیث کے متعلق تمہاری بہت زیادہ دلچسپی میں دیکھا کرتا ہوں، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا ہوگا۔

یہ حدیث کتاب العلم میں باب الحرص علی الحدیث کے تحت گزر چکی ہے۔

## شفاعت کی قسمیں

اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی کے جبر و اکراہ کے اپنی طرف سے، خلوص قلب کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہو، اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی سعادت حاصل رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف مواقع پر، مختلف لوگوں کے لئے سفارش فرمائیں گے، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کی پانچ قسمیں تحریر فرمائی ہیں:

① پہلی شفاعت، ”شفاعت عظمیٰ“ ہے، یہ وہ بڑی سفارش ہے جس کا ذکر، حدیث باب میں گزر چکا کہ میدان حشر میں حساب کے لئے لوگ جمع ہوں گے اور حساب شروع نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی ”مقام محمود“ ہے، جس کا ذکر سورہ اسراء کی آیت کریمہ میں ہے: ﴿عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ”مقام محمود“ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس سے مراد شفاعت ہے۔

② بہت سارے لوگ بغیر حساب کے جنت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش سے داخل ہوں گے، یہ شفاعت کی دوسری صورت ہوگی۔

③ کئی لوگوں کا حساب ہو چکا ہوگا اور وہ مستحق عذاب ہوں گے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ عذاب سے بچ کر جنت میں چلے جائیں گے۔

④ چوتھی شفاعت، ان لوگوں کے لئے ہوگی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکال لئے جائیں گے۔

⑤ پانچویں شفاعت، جنتیوں کے درجات سے متعلق ہے کہ بعض مومنین کے لئے، جنت میں بلند درجات والی جنت کی سفارش حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں گے اور آپ کی شفاعت سے ان کے درجات بڑھ جائیں گے! (۱)۔

(۱) دیکھئے، نسیم الرياض فی شرح شفاء القاضی عیاض فصل فی تفضیله بالشفاعة والمقام المحمود:



۶۲۰۲ : حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (إِنِّي لِأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا ، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا ، رَجُلٌ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا ، يَقُولُ اللَّهُ : أَذْهَبَ فَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، فَيَأْتِيهَا ، فَيُحِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى ، فَيَرْجِعُ يَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى ، يَقُولُ : أَذْهَبَ فَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، فَيَأْتِيهَا فَيُحِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى ، فَيَرْجِعُ يَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى ، يَقُولُ : أَذْهَبَ فَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا ، أَوْ : إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا ، يَقُولُ : أَتَسْخَرُ مِنِّي ، أَوْ : تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ) . فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، وَكَانَ يُقَالُ : ذَلِكَ أَذَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً . [۷۰۷۳]

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا، اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہوگا۔ ایک شخص جہنم سے منہ کے بل گر کر نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ جنت کے پاس آئے گا، لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس آئے گا اور عرض کرے گا، اے میرے رب! میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا، اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ پھر آئے گا لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ واپس لوٹے گا، اور عرض کرے گا، اے رب! میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں دنیا اور اس سے دس گنا دیا جاتا ہے، وہ شخص کہے گا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے حالانکہ تو تو شہنشاہ ہے، میں نے دیکھا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس دیئے اور

(۶۲۰۲) الحدیث أخرجه البخاري أيضا في التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، رقم الحديث: ۷۵۱۱، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خروجاً، رقم الحديث: ۴۶۱، والترمذي في أبواب جهنم، باب منه قصة آخر أهل النار خروجاً، رقم الحديث: ۲۵۹۵، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب صفة الجنة، رقم الحديث: ۴۳۳۹

آپ کے آگے کے دانت ظاہر ہو گئے، اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ آدمی جنتی ہے! (ادنیٰ جنتی کو بھی، دنیا سے دس گنا بڑی جنت دی جائے گی اللہ اکبر!)

۶۲۰۳ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ نَوْفَلٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَفَعْتُ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ . [ر : ۳۶۷۰]

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے پوچھا، کیا آپ نے ابوطالب کو کوئی نفع پہنچایا۔

اس حدیث میں صرف سوال ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ نہیں ہے،

کتاب الادب میں یہ روایت گزری ہے، اس میں جواب ہے، پوری حدیث ہے:

”هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك، ويغضب لك؟ قال:

نعم، هو في ضحضاح من النار، لولا أنا، لكان في الدرك الأسفل من

النار“ (۱)۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا

کہ ابوطالب آپ کی حفاظت کرتا اور آپ کے لئے لوگوں سے ناراض اور غصہ ہوتا تھا تو

آپ نے بھی اسے کوئی فائدہ پہنچایا؟ ..... حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ

معمولی آگ میں ہوگا، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے بالکل نچلے حصے میں ہوتا۔“

## ۵۲ - باب : الصراطُ جسرُ جهنم

### پل صراط

جسر (جیم کے کسرہ اور فتح کے ساتھ) پل کو کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر پل

صراط کا ذکر کیا ہے جو جہنم کے اوپر واقع ہے اور اس کو عبور کر کے جنت میں داخلہ ہوگا، یہ پل بال سے زیادہ

باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے (۱)؛ فضیل بن عیاض نے نقل کیا ہے کہ یہ پل پندرہ ہزار سال کی مسافت پر مشتمل ہے، پانچ ہزار سال اترائی کے، پانچ ہزار سال چڑھائی کے اور پانچ ہزار سال سیدھے چلنے کی مسافت ہے (۲)۔

۶۲۰۴ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يُزَيْدٍ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُزَيْدِ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ : (هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ) . قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ) . قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ ، فَيَقُولُ : مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ ، وَيَتَّبِعُ هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا ، فَإِذَا آتَانَا رَبُّنَا عَرَفَانُهُ ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ ، وَيُضْرَبُ جَسْرُ جَهَنَّمَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ ، وَدَعَاءُ الرَّسُلِ يَوْمَئِذٍ : اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ .

(۱) إرشاد الساري: ۵۷۰/۱۳

(۲) إرشاد الساري: ۵۷۰/۱۳، ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، القسم الأول: ۲۱۶/۳

۶۲۰۴ : (تضارون) تضرون أحدًا أو يضركم أحد بمنازعة ومضايقة . (يجيز) يمشي عليه ويقطعه . (به) أي بالجرس الذي على جهنم . قال النووي : مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين ربهم ممكنة . ثم قال : فقد تضافت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة للمؤمنين . قال العيني : روي في إثبات الرؤية حديث الباب وعن نحو عشرين صحابيا . [۱۳۳/۲۳] .

فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ ، وَيُضْرَبُ جَسْرُ  
 جَهَنَّمَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَأَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ ، وَدُعَاءُ الرَّسُولِ يَوْمَئِذٍ : اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ .  
 وَبِهِ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ . قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ،  
 قَالَ : (فَأَنهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ  
 بِأَعْمَالِهِمْ ، مِنْهُمْ الْمُؤْتِقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُخْرَدِلُ ، ثُمَّ يَنْجُو ، حَتَّى إِذَا فَرَعَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ  
 عِبَادِهِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ، مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،  
 أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ  
 مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدْ أَمْتَحَشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ ،  
 فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحَيَةِ فِي حَمِيلِ السَّبِيلِ ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ،  
 قَدْ قَسَيْتِي رِيحُهَا ، وَأَحْرَقْتِي ذُكَاؤُهَا ، فَأَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ ، فَيَقُولُ :  
 لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ  
 عَنِ النَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ : يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ  
 أَنْ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ ، وَيَبْلُغُ ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو ، فَيَقُولُ : لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتَنِي  
 ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيُعْطِي اللَّهُ مِنْ عَهْدِهِ وَمَوَائِقِ  
 أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ ، فَيُقَرَّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ،  
 ثُمَّ يَقُولُ : رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَو لَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ ، وَيَبْلُغُ  
 يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشَقَى خَلْقِكَ ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ ،  
 فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالْدُخُولِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ : تَمَنَّ مِنْ كَذَا ، فَيَتَمَنَّى ، ثُمَّ  
 يُقَالُ لَهُ : تَمَنَّ مِنْ كَذَا ، فَيَتَمَنَّى ، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ ، فَيَقُولُ لَهُ : هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ .  
 قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا .

قال: وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ، حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: (هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (هَذَا لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ: (مِثْلُهُ مَعَهُ). [ر: ۷۷۳]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سورج کے دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے، جب کہ اس پر کوئی بادل نہ ہو؟..... صحابہ نے عرض کی نہیں، یا رسول اللہ! آنحضرت نے دریافت فرمایا، کیا جب کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں چودھویں رات میں چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں، یا رسول اللہ! حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح قیامت کے دن دیکھو گے۔

اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تم میں جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا، وہ اس کے پیچھے جائے۔ چنانچہ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، وہ اس کے پیچھے جائیں گے، جو چاند کی پرستش کرتے تھے وہ اس کے پیچھے جائیں گے، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ ان کے پیچھے جائیں گے اور آخر میں یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے نہ ہوں گے، اور اللہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں گے تجھ سے اللہ کی پناہ، ہم یہیں ہیں اور ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا، جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچان لیں گے، اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے پیچھے چلیں گے اور جہنم کا پل بنا دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں

سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس پل کو پار کرے گا، اور اس دن رسولوں کی یہ دعا ہوگی کہ اے اللہ! سلامتی رکھ، سلامتی رکھ، اور اس پل کے ساتھ سعدان کے کانٹوں کی طرح کانٹے لگے ہوں گے، تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کی، کیوں نہیں، یا رسول اللہ! حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ کانٹے سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے اور اس طرح ان میں سے بعض تو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور بعض کے جسم رائی کے دانے کے برابر کٹ چکے ہوں گے، پھر وہ نجات پا جائے گا۔

آخر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہو جائے گا اور جہنم سے انہیں نکالنا چاہے گا جنہیں نکالنے کی اللہ کی مشیت ہوگی، یعنی وہ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ایسے افراد کو جہنم سے نکال لیں، فرشتے انہیں سجدے کے نشانات سے پہچان لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام قرار دیا ہے کہ ابن آدم کے جسم میں سجدہ کے نشان کی جگہوں کو ختم کرے۔

چنانچہ فرشتے ان لوگوں کو نکالیں گے، یہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان پر پانی چھڑکا جائے گا جسے ”ماء الحیاء“ (زندگی کا پانی) کہتے ہیں۔ اس وقت وہ تروتازہ ہو جائیں گے۔ جیسے سیلاب کے ساتھ بہہ کر آنے والی آلائشوں میں سے دانے کا کوئلہ نکل آتا ہے۔

ایک شخص ایسا باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا اور وہ کہے گا، اے میرے رب! اس کی لپٹ نے مجھے تھلسا دیا ہے اور اس کی تیزی نے مجھے جلا ڈالا ہے، میرا چہرہ آگ کی طرف سے کسی دوسری طرف کر دے، وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا، آخر اللہ تعالیٰ فرمانے گا اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تم دوسری چیز مانگنی شروع

کردو گے، وہ شخص عرض کرے گا نہیں، تیری عزت کی قسم! میں اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔

چنانچہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف پھیر دیا جائے گا، اب اس کے بعد وہ کہے گا، اے میرے رب! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے ابھی یقین نہیں دلایا تھا کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگے گا، افسوس! ابن آدم، تو کتنی وعدہ خلافی کرتا رہتا ہے۔

پھر وہ برابر اس طرح دعا کرتا رہے گا، اور آخر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر میں تمہاری یہ دعا قبول کر لوں تو تم پھر اس کے علاوہ اور چیز تو نہ مانگو گے، وہ شخص کہے گا کہ نہیں، تیری عزت کی قسم! میں اس کے سوا اور کوئی چیز تجھ سے نہیں مانگوں گا وہ اللہ سے عہد و پیمانہ کرے گا، کہ اس کے سوا اور چیز نہیں مانگے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے سے قریب کر دے گا، جب وہ جنت کے اندر کی نعمتوں کو دیکھے گا تو جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ شخص بھی خاموش رہے گا، پھر کہے گا، میرے رب! مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ خاموش رہے گا، پھر کہے گا، میرے رب! مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے یہ یقین نہیں دلایا تھا کہ اس کے سوا تم کوئی چیز نہیں مانگو گے، افسوس! ابن آدم تم کتنے عہد شکن ہو، وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے رب! مجھے اپنی مخلوق کا سب سے بد بخت فرد نہ بنا، وہ برابر دعا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس دے گا، جب اللہ ہنس دے گا تو اسے جنت میں بھی داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔

جب وہ اندر چلا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کرو، چنانچہ وہ اس کی خواہش کرے گا، اس کے بعد پھر کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کرو، چنانچہ وہ پھر اس کی خواہش کرے گا، یہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی۔

اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ تمہاری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں

اور اتنی ہی مزید نعمتیں دی جاتی ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں سب سے آخری داخل ہونے والا ہوگا۔

عطاء بن یزید فرماتے ہیں کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بھی اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کی حدیث میں کسی طرح کی تصحیح و تبدیلی نہیں کی، لیکن جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے اس ٹکڑے تک پہنچے کہ ”تمہاری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ہی مزید نعمتیں دی جاتی ہیں“ تو ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تمہاری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں، اس سے دس گنا مزید نعمتیں دی جاتی ہیں“۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے و مثله معہ (اتنی ہی مزید)..... کے الفاظ یاد ہیں۔

## سند کی وضاحت

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث دو طریق سے نقل کی ہے اور دونوں طریق امام زہری رحمہ اللہ پر جا کر جمع ہو جاتے ہیں۔

① پہلے طریق میں امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ابوالیمان (حکم بن نافع) ہیں، ان کے شیخ شعیب بن ابی حمزہ ہیں اور وہ امام زہری سے نقل کرتے ہیں، امام زہری کے دو شیخ ہیں، سعید بن المسیب اور عطاء بن یزید اس طریق میں امام بخاری اور امام زہری کے درمیان صرف دو واسطے ہیں۔

② دوسرے طریق میں امام بخاری کے شیخ محمود بن غیلان ہیں، ان کے شیخ عبدالرزاق بن ہمام اور ان کے شیخ معمر بن راشد ہیں اور معمر، امام زہری سے نقل کرتے ہیں اور امام زہری عطاء بن یزید سے روایت کرتے ہیں، اس طریق میں امام زہری کے ایک شیخ ہیں، پہلے طریق میں دو تھے، اس طرح اس طریق میں امام بخاری اور امام زہری کے درمیان تین واسطے ہیں، پہلے طریق میں دو واسطے تھے! الفاظ حدیث اسی دوسرے طریق کے ہیں (۳)۔



وبه کلا لیب مثل شَوک السَّعدان

کلا لیب: کَلُوب (بروزن تنور) کی جمع ہے، زنبور، کانٹے دار، لوہا، کانٹا، بہ کی ضمیر ”جر“ کی طرف راجح ہے۔ سَعْدَان: (سین کے فتح کے ساتھ) یہ ایک خاردار پودا ہے۔ شَوک: کانٹا، ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی نفسانی خواہشات، ان کانٹوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا: ”حفت النار بالشہوات.....“ (۴)۔

منهم المُوَبِق بعمله، ومنهم المُخَرِّدَل

مُوَبِق: باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، ہلاک کیا گیا شخص۔ المُخَرِّدَل: بچھاڑا ہوا شخص جس کے اعضاء رائی کے برابر چھوٹے چھوٹے کر کے کٹے ہوئے ہوں، چنانچہ علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”المُخَرِّدَل: المصروع، وما تقطع أعضاؤه أي جعل كل قطعة منه بمقدار خردلة“ (۵) اس سے وہ مومن مراد ہے جو گناہ گار ہو۔

أُمتِحِحُوا: یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور معروف بھی استعمال ہوتا ہے، جل چکے ہوں گے۔

علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں: أی احترقوا، والمُخَش: احتراق الجلد، وظهور العظم (۶)۔

قَشْبِنِي رِيحُهَا: قَشْب کے معنی تکلیف دینے اور برا لگنے کے آتے ہیں، یعنی اس کی ہوا مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ ذِکَاہ: گرمی، تپش (۷)۔

فِيأْتِيهِمْ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ..... اس حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اپنی صورت میں آئیں گے، صورت جسم کے لوازم میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ جسم اور اس کے لوازم سے پاک اور منزہ ہے، یہ صفات تشابہات کہلاتی ہیں اور اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، یہاں اس پر نسبتاً تفصیلی بحث کی جاتی ہے۔

(۴) إرشاد الساري: ۵۷۳/۱۳

(۵) شرح الكرمانی: ۶۱/۲۳، وعمدة القاري: ۲۰۶/۲۳

(۶) النهاية: ۶۳۸/۲

(۷) لغات کی تحقیق کے لئے دیکھیے، شرح الكرمانی: ۶۱/۲۳-۶۲

## مسئلہ صفاتِ تنزیہاتِ باری تعالیٰ

قرآن وحدیث کے اندر اللہ جل شانہ کے لئے ثابت بہت سارے اوصاف ایسے ہیں کہ ان کو اپنے حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا، صحیح نہیں کیونکہ وہ جسم اور لوازم جسم میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم اور اس کے ہر طرح کے لوازم سے پاک ومنزہ ہے، مثلاً: ید، وجہ، ساق، ذات، استواء علی العرش، فوق، تحت..... وغیرہ، بہت سارے الفاظ قرآن وحدیث کے اندر اللہ جل شانہ کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔

ان تمام کلمات کو اپنے ظاہری اور حقیقی معنی پر محمول کر کے بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے ان کو ثابت مانا ہے اور یہ عقیدہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی اسی طرح ید، وجہ اور ساق ہیں جس طرح مخلوق کے لئے ہیں، یہ ایک باطل عقیدہ ہے، جس کو فرقہ مجسمہ اور مشبہ نے اختیار کیا ہے (۸)۔

اس کے بالمقابل، ایک دوسرے فرقہ نے، اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف و صفات کو مسترد کر دیا، ان کے اصل سے انکار کر کے، ان اوصاف کے مجازی معنی بیان کئے اور کہا کہ ان اوصاف کے یہی مجازی معنی یقینی طور پر مراد ہیں! اس فرقے کو معتزلہ اور معطلہ کہا جاتا ہے (۹)۔

## اہل السنّت کا مسلک

اہل السنّت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ اوصاف قرآن وحدیث کے اندر ثابت ہیں اور اللہ جل شانہ جسم، لوازم جسم اور مخلوق کے ساتھ کسی بھی قسم کی مشابہت سے پاک ومنزہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ البتہ اس اجماعی عقیدے کے بعد ان نصوص و صفات کے بارے میں تعبیر و تشریح کا ایک اختلاف اہل السنّت والجماعت میں پایا جاتا ہے جسے آپ تین مسلکوں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

(۸) دیکھئے، شرح المقاصد: ۳/۳۴، المقصد الخامس في الإلهيات، فصل في التنزيهات، وأصول فخر

الإسلام البزدوي: ۱/۹۴، والمسامرة: ۴۴-۵۵

(۹) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام: ۱/۹۴-۹۵، ومجموع فتاوى ابن تيمية، كتاب الأسماء

والصنات: ۵/۲۸، ۴۷، والتمهيد لابن عبد البر: ۷/۱۴۵

① پہلا مسلک: جمہور علماء اہل السنّت کا مسلک یہ ہے کہ یہ نصوص ان تشابہات میں سے ہیں، جن کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہیں اور ہم ان کو ثابت تسلیم کرنے کے بعد، ان کے حقیقی یا مجازی معنی بیان و متعین نہیں کر سکتے، یہ تشابہہ المعنی بھی ہیں اور تشابہہ الکیفیہ بھی ہیں ﴿وما یعلم تاویلہ إلا اللہ﴾ یعنی اس کی تفسیر صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ مسلک تفویض ہے اور یہی جمہور متقدمین اہل السنّت اور ائمہ اربعہ کا مسلک ہے (۱۰)۔

② دوسرا مسلک یہ ہے کہ یہ نصوص اپنی حقیقت پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے شایان شان جو حقیقی معنی اس کے ہو سکتے ہیں، وہی مراد ہیں، اس کی کیفیت، کنہ اور صورت کیا ہوگی؟..... یہ معلوم نہیں، یعنی یہ نصوص صفات معلوم المعنی اور تشابہہ الکیفیہ ہیں، اسی مسلک کی وضاحت میں مشہور مقولہ کہا گیا، "الاستواء معلوم، والکیف مجهول، والسؤال عنه بدعة..... اور..... الاستواء غیر مجهول، والکیف غیر معقول، والإیمان بہ واجب..... امام مالک اور ان کے استاذ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن وغیرہ کی طرف یہ مقولہ منسوب ہے (۱۱)۔

درحقیقت یہ مسلک بھی "مسلک تفویض" ہے، لیکن دوسرے مرحلے میں، پہلے مسلک کے قائلین ان صفات کے بارے میں شروع ہی سے تفویض کی بات کرتے ہیں کہ اس کے حقیقی یا مجازی معنی ہمیں معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں، دوسرے مسلک کے قائلین کہتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی میں ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے، اس کی کنہ اور حیثیت کیا ہوگی، وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے (۱۲)۔

(۱۰) دیکھئے، تحفة الأحوذی، أبواب صفة الجنة، باب ماجاء فی خلود أهل الجنة: ۳/۳۳۷

(۱۱) دیکھئے، مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، کتاب الأسماء والصفات: ۵/۲۳

(۱۲) تفصیل کے لئے دیکھئے، مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، کتاب الأسماء والصفات: ۵/۴۷-۵۵

قال ابن عبد البر فی التمهید: ۷/۱۴۵، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة؛ لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك.

نیز دیکھئے، دارالعلوم دیوبند..... مدرسة فكرية، باب التوحيد: ۵۴۵، (مقالة سماحة العلامة مولانا

محمد تقی انعمانی حفظہ اللہ ورعاه)

۴ تیسرا مسلک: اہل سنت والجماعت کا تیسرا مسلک یہ ہے کہ ان صفات و نصوص کے ایسے مجازی معنی بیان کئے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوں اور لفظ کے اندر، اس معنی کے مراد لینے کی گنجائش ہو، مثلاً یہ سے قدرت، وجہ سے ذات اور استواء سے استیلاء مراد لیا جاسکتا ہے، اس مسلک کو ”مسلک تاویل“ کہتے ہیں اور اکثر متاخرین اہل سنت نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے، البتہ جو مجازی معنی مراد لئے جاتے ہیں وہ یقینی اور قطعی نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ ان پر جزم کا عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ وہ ظن اور احتمال کے درجے میں ہوتے ہیں، یعنی یہ کی تاویل وہ قدرت سے کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایک تاویل اور احتمالی تفسیر کے درجے میں ہے، یہ سے یقینی اور حتمی طور پر نصوص کے اندر قدرت ہی مراد ہے، اس کا عقیدہ وہ نہیں رکھتے (۱۳) اچنانچہ علامہ ابن الہمام اپنی مشہور کتاب ”المسایرة في العقائد المنجية في الآخرة“ میں لکھتے ہیں:

”أنه تعالى استوى على العرش: مع الحكم بأنه ليس كاستواء  
الأجسام على الأجسام من التمكن والتماسة، والمحاذاة، بل بمعنى يليق به  
هو سبحانه أعلم به، وحاصله وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي  
التشبيه، فأما كون المراد أنه استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة، إذ لا  
دليل على إرادته عيناً، فالواجب عيناً ما ذكرنا، وإذا خيف على العامة عدم  
فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا باتصال ونحوه من لوازم  
الجسمية وإن لا يتفوه؛ فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء، فإنه قد ثبت  
إطلاقه وإرادته لغة..... وعلى نحو ما ذكرنا كل ما ورد مما ظاهره الجسمية  
في الشاهد كالإصبع، والقدم، واليد؛ فإن اليد وكذا الإصبع وغيره صفة له  
تعالى لا بمعنى الجارحة، بل على وجه يليق به وهو سبحانه أعلم به، وقد  
توؤل اليد والإصبع بالقدرة، والقهر لما ذكرنا من صرف فهم العامة عن  
الجسمية وهو ممكن أن يراد، ولا يجوز بإرادته خصوصاً على قول أصحابنا

إنها من المتشابهات وحکم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذا الدار وإلا لكان قد علم“ (۱۴)۔

یعنی ”ہم استواء علی العرش پر ایمان لاتے ہیں، اس بات کے حکم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا استواء، جسموں کے استواء کی طرح نہیں ہے کہ کسی مکان میں بیٹھنے، چھونے یا مقابل ہونے کے معنی رکھتا ہو، بلکہ ایک ایسے معنی کے اعتبار سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو، جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، حاصل اس کا یہ ہے کہ استواء علی العرش پر ایمان لانانفی تشبیہ کے ساتھ واجب ہے، ہاں اس سے استیلاء بھی مراد لے سکتے ہیں لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور چونکہ عام لوگوں کے بارے میں اندیشہ تھا کہ وہ استواء سے کہیں وہ معنی مراد نہ لے لیں جو جسم کے لوازم میں سے ہے، اس لئے ان کی فکر و سوچ کو جسمیت سے پھیرنے کے لئے استواء کی تفسیر استیلاء سے کر دی جاتی ہے کیونکہ لغت کے اعتبار سے استواء علی العرش کے معنی استیلاء کے آتے ہیں..... یہی مسلک ان تمام نصوص اور الفاظ کے بارے میں اختیار کیا جائے گا جو ظاہراً جسم کے لئے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اصبح، قدم اور ید ہیں، چنانچہ ید، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن جارحہ کے معنی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کے شایان شان جو معنی ہیں، وہی مراد ہوں گے، ید اور اصبح کی تاویل ”قدرت“ اور ”قہر“ سے بھی کی گئی ہے یہ امکانی معنی تو ہو سکتے ہیں لیکن یقینی اور حتمی معنی نہیں، خاص کر ہمارے اصحاب (یعنی اشاعرہ اور ماترید یہ) کے نزدیک یہ تشابہات میں سے ہیں اور تشابہات کا حکم یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کی مراد کی یقینی طور پر معرفت کی امید نہیں کی جاسکتی، ورنہ اس کے معنی سب کو معلوم ہوتے۔“

بہر حال یہ تینوں مسلک اہل السنّت والجماعت کے ہیں:

..... یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نصوص اور اوصاف اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں۔

..... یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ انسانوں اور مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان الفاظ کے جو

معانی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ معانی مراد نہیں۔

..... یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم، لوازم جسم اور مخلوق کے ساتھ ہر قسم کی مشابہت سے

بالکل پاک اور منزہ ہیں ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (☆ ۱۵)۔

مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے دوسرے مسلک کو اکثر علماء کا اور تیسرے مسلک کو اکثر متاخرین

متکلمین کا مذہب قرار دیا، چنانچہ مولانا اپنے ایک فتویٰ لکھتے ہیں:

”اس باب میں علماء کے چند مسلک ہیں، ایک مسلک تاویل کہ استواء بمعنی

استیلاء وید بمعنی قدرت ووجہ بمعنی ذات ہے، علیٰ ہذا القیاس اور یہی مختار اکثر متاخرین

متکلمین کا ہے۔ دوسرا مذہب: تشابہ فی المعنی و فی الکلیفہ۔ تیسرا مسلک: معلوم المعنی تشابہتہ

الکلیفہ اور حق ان میں مسلک ثالث ہے اور یہی مذہب صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین و محدثین

وفقہاء و اصولیین محققین ہے“ (۱۵)۔

## رانج اور محتاط مسلک

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر علماء نے پہلا مسلک اختیار کیا ہے جو ”مسلک تفویض“ سے مشہور ہے اور

وہی مسلک سب سے زیادہ اہل علم اور مذہب محتاط ہے:

☆..... چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ ”سنن الترمذی“ میں فرماتے ہیں:

”قد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا

ما يذكر فيه أمر الروية أن الناس يرون ربهم، وذكر القدم، وما أشبه هذه الأشياء،

والمذہب عند أهل العلم من الأئمة مثل سفیان الثوري ومالك بن أنس، وابن

المبارك، وابن عيينة، ووكيع وغيرهم أنهم رويوا هذه الأشياء ثم قالوا: تُروى هذه

الأحاديث، ونؤمنُ بها. ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن

تروى هذه الأشياء كما جاءت، ويُؤمنُ بها، ولا تُفسَّر، ولا تُتوهم، ولا يقال:

کیف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه، وذهبوا إليه“ (۱۶).

یعنی روایت باری تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی کئی روایات آئی ہیں کہ (آخرت میں) لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے، اسی طرح قدم وغیرہ الفاظ بھی آئے ہیں، اس سلسلے میں سفیان ثوری، امام مالک بن انس، سفیان بن عیینہ اور کعب وغیرہ حضرات ائمہ اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ ان احادیث کی روایت کی جائے، ان پر ایمان لایا جائے اور کیفیت کے بارے میں نہ پوچھا جائے کہ اس کی صورت و کیفیت کیا ہوگی؟ حضرات محدثین نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے کہ یہ احادیث جس طرح آئی ہیں، اسی طرح ان پر ایمان لایا جائے، ان کی نہ تفسیر کی جائے نہ ان کے موہم تجسیم ظاہری معنی مراد لئے جائیں اور نہ یہ کہا جائے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، اہل علم کا یہی مسلک ہے۔

☆..... حضرت سفیان بن عیینہ اور امام محمد سے منقول ہے:

”ما وصف الله تبارك تعالیٰ بنفسه في كتابه، فقراء ته تفسیره، لیس

لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية“ (۱۷).

یعنی اللہ تعالیٰ نے (اس طرح کے الفاظ کے ساتھ) اپنے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان کو پڑھنا ہی بس ان کی تفسیر ہے، کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ ان کی عربی یا فارسی میں تفسیر کرے۔

☆..... حضرت کعب بن الجراح فرماتے ہیں:

”أدرکت إسماعیل بن أبی خالد، وسفیان، ومسعر ایحدثون بهذه

الأحادیث ولا یفسرون شیئاً“ (۱۸).

یعنی میں نے اسماعیل بن ابی خالد، سفیان ثوری اور مسعر کو دیکھا کہ وہ ان

(۱۶) سنن الترمذی، أبواب صفة الجنة، باب ماجاء في خلود أهل الجنة، رقم الحدیث: ۲۵۵۷

(۱۷) کتاب الأسماء والصفات للبيهقي: ۳۱۴

(۱۸) التمهيد لابن عبد البر: ۱۴۹/۷

احادیث کو بیان کرتے تھے لیکن کسی چیز کی تفسیر نہیں کرتے تھے۔

☆..... اس مسلک کے بارے میں علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”هذا هو المذهب المعتمد،

وبہ يقول السلف الصالح“ (۱۹)۔ یعنی یہی مذہب قابل اعتماد ہے اور سلف صالحین اسی کے قائل ہیں!

☆..... اور علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں:

”وأكثر السلف يمتنعون من تاويل مثل هذا، ويؤمرونه كما جاء وينبغي

أن يراعى في مثل هذا الإمرار؛ اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق،

ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه“ (۲۰)۔

یعنی حضرات سلف میں سے اکثر اس طرح کی صفات میں تاویل سے گریز کرتے

تھے اور جیسے یہ وارد ہیں، اسی طرح انہیں گزار لیتے تھے، اس عقیدے کی رعایت کے ساتھ

کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، مخلوق کی صفات سے مشابہت نہیں رکھتے، امرار یعنی گزارنے کا

مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کا عقیدہ رکھتے ہوئے ان کی مراد کے بارے میں لاعلم ہونا۔

## چند اہم باتیں

اہل حق کے ان تین مسلکوں کو سمجھنے کے بعد، اب چند باتیں صفات متشابہات کے بارے میں ذہن نشین

کر لیں:

☆..... ان تین مذاہب میں سے کسی بھی مسلک کو بالکل غلط اور باطل نہیں کہا جاسکتا، قرآن وحدیث

کے اندر ہر ایک مسلک کے لئے تعبیر کی بہر حال گنجائش ہے، البتہ پہلا مسلک اسلام اور محتاط ہے اور وہی مسلک

جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا ہے جیسا کہ واضح کر دیا گیا ہے۔

☆..... عالم اسلام میں، ایک طویل عرصے سے، اس مسئلے میں مناظرے اور مباحثے ہوتے رہے اور

بسا اوقات طرفین سے غلو اور تجاوز بھی ہوتا رہا ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے حالانکہ ذکر کردہ متفق علیہ امور

(۱۹) فتح الباری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: ولتصنع علی عینی: ۴۷۸/۱۳

(۲۰) فتح الباری: ۶/۴۰، کتاب الجہاد، باب الکافر یقتل المسلم، رقم الحدیث: ۲۸۲۶



کے بعد یہ اختلاف کوئی زیادہ وزنی حیثیت نہیں رکھتا اور تقریباً تعبیر کا اختلاف رہ جاتا ہے لیکن مناظرانہ رنجشوں نے اسے ایک ہوا بنا دیا ہے اور طرفین کے بعض حضرات کی طرف سے غلو ہوتا رہا ہے.....

چنانچہ اکثر متاخرین متکلمین اہل سنت نے ”مسک تاویل“ اختیار کیا ہے کہ کہیں عوام ان صفات کو عام حقیقی معنوں میں لے کر مجسمہ کا مسک اختیار نہ کر لیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اس مسک کے بعض غالی حضرات، حق صرف اسی مسک کو سمجھتے ہیں، بلکہ متقدمین کے مسک تفویض کو بھی مسک تاویل میں ڈھالنے کی سعی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا مسک ”تاویل اجمالی“ پر مشتمل ہے..... حالانکہ متقدمین مطلقاً تاویل نہیں کرتے، نہ اجمالی، نہ تفصیلی، بلکہ تفویض اختیار کرتے ہیں۔

### سلفی حضرات کا تشدد

☆..... دوسری طرف سلفی حضرات اور غیر مقلدین تاویل کرنے والوں کو حق پر نہیں سمجھتے اور انہیں معطلہ قرار دے کر، ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے مقالوں اور مضامین کا ایک انبار لگا دیا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ تعبیری اختلاف کا یہ اجتہادی مسئلہ، عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ ہے، فتح الباری کا جو نیا نسخہ آیا ہے، اس میں حافظ ابن حجر نے صفات متشابہات میں جہاں جہاں علماء اور ائمہ کے تاویلی اقوال نقل کئے ہیں، ایک سلفی اہل قلم زہیر شاولیش صاحب، ان مقامات پر بڑے اہتمام کے ساتھ حاشیہ لگا دیتے ہیں کہ یہ تاویل درست نہیں اور اپنا مسک ذکر کر دیتے ہیں، مثلاً حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں کتاب الرقاق میں ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مطلب، اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ کرنا ہے اور سخط اللہ کا مطلب ارادہ شر ہے، بعض علماء نے اللہ کی رضا اور سخط کا یہ مطلب بیان کیا ہے، اس پر یہ سلفی لکھتے ہیں:

”الواجب إثبات هاتين الصفتين: الرضاء، والسخط كباقي الصفات

على الحقيقة اللائقة بالله عزوجل من غير تكيف ولا تمثيل، ولا تحريف ولا

تعطيل، هذا الواجب في باب الأسماء والصفات جميعاً كما قال سبحانه

تعالى ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ وسد باب التأويل الذي هو في

الحقیقة نفی و تعطیل“ (۲۱)۔

تاویل کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ درحقیقت، اللہ تعالیٰ کی ثابت صفات کی نفی ہے اور صفات کو معطل کرنا ہے، یہ تشدد، غلو اور خلاف حقیقت بات ہے، اہل سنت والجماعت کے متاخرین متکلمین نے جو مسلک تاویل اختیار کیا ہے، وہ حضرات صفات کی نفی ہرگز نہیں کرتے بلکہ ان کے جو محتمل مجازی معانی ہو سکتے ہیں، ان میں ایک معنی ظنی تفسیر اور مراد کے طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ اس صفت کے یہ معنی مراد لئے جا سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا.....

ہاں معتزلہ اور جہمیہ تاویلی معنی پر جزم کرتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اعتراض ہوتا ہے کہ جس طرح گروہ اشاعرہ، ماتریدیہ تاویلات کرتے ہیں، معتزلہ اور جہمیہ بھی تاویلات کرتے ہیں، اُن میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کی تاویلات میں فرق یہ ہے کہ اشاعرہ، ماتریدیہ تاویلات پر جزم نہیں کرتے، برخلاف معتزلہ وغیرہ کے کہ وہ تاویلات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہاں یہی معنی مراد ہیں“ (۲۲)۔

حضرات صحابہ اور جلیل القدر تابعین سے مختلف آیات و نصوص کے بارے میں تاویل منقول ہے۔ جس کی تفصیل آگے کتاب التوحید میں آرہی ہے، اس لئے یہ کہنا کہ مسلک تاویل، مسلک تعطیل ہے، درست نہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ”دفع شبه التشبيه“ کے نام سے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، جس میں ان لوگوں پر تنقید کی گئی ہے جو تاویل کا مطلق انکار کرتے ہیں، اسی صاحب نے آگے کتاب التوحید میں تفویض اور تاویل دونوں مسکلوں کو باطل قرار دیا (۲۳) ظاہر ہے، یہ غلو، افراط اور حد سے تجاوز ہے۔

(۲۱) فتح الباری، کتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب: ۴۹۱/۱۱،

(۲۲) معارف مدنیہ: ۸۴۷

(۲۳) چنانچہ شاویش صاحب لکھتے ہیں:

”.....وطريقي التفويض والتأويل في باب الصفات مسلکان باطلان، أما أهل السنة والجماعة فيقابلون نصوص الأسماء والصفات بالإيمان بها، والتسليم والإثبات والتنزيه على الكمال الاثني به“ (فتح الباری، کتاب التوحید، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا شخص أغیر من اللہ: ۴۹۳/۱۳)

☆..... اور آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اوپر جو تین مسلک بیان ہوئے ہیں، وہ تینوں صحیح ہیں، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم اور ان کی اتباع میں عرب کے سلفی اور ہندوستان کے غیر مقلدین نے دوسرا مسلک اختیار کیا ہے، لیکن بسا اوقات وہ تفصیل میں جاتے ہوئے ایسی عبارتیں اور الفاظ لے آتے ہیں، جن سے تجسیم اور تشبیہ کی بو آتی ہے (۲۵)۔

صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ چونکہ نازک اور حساس ہے، اس لئے کوئی ایسا لفظ، ایسا کلمہ اور عبارت نہیں استعمال کرنی چاہیے جو موہم، تجسیم ہو، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”..... آج کل بعض لوگ جن پر ظاہریت غالب ہے جب متشابہات کی تفسیر کرتے ہیں تو درجہ اجمال میں تو مسلک سلف پر رہتے ہیں، مگر چار غلطیاں کرتے ہیں:

① ایک یہ کہ تفسیر ظنی کی قطعیت کے مدعی ہو جاتے ہیں۔

② دوسری غلطی یہ ہے کہ جب تفصیل کرتے ہیں تو عنوانات موہمہ تکلیف و تجسیم اختیار کرتے ہیں۔

③ تیسری غلطی یہ کہ مسلک تاویل کو علی الاطلاق باطل کہہ کر ہزاروں اہل حق کی تحصیل کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل حق کے پاس ان کے مسلک کی صحت کے لئے احادیث بھی بناء ہیں اور قواعد شرعیہ بھی.....

④ چوتھی غلطی یہ کہ تفسیر بالاستقرار کو تو سلف کے مسلک پر سمجھتے ہیں اور دوسری تفاسیر لغویہ کو تاویل خلف سمجھتے ہیں، حالانکہ سب کا مساوی ہونا اور ظاہر ہو چکا.....“ (۲۶)۔

علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم اس مسئلہ میں متشدد تھے، لیکن سلفی حضرات اور غیر مقلدین صرف اپنے مسلک کو حق سمجھتے ہیں اور اسی کو اہل سنت کا مسلک قرار دیتے ہیں، بقیہ حضرات کو وہ گمراہ اور باطل پر سمجھتے ہیں..... جمہور اہل سنت جن میں حضرات صحابہ، تابعین اور جلیل القدر ائمہ کرام داخل ہیں، کو گمراہ سمجھنا، خود بڑی گمراہی ہے!

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

۵۳- باب : فی الحوض .

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : «أَنَا أَعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ» / الكوثر: ۱/ .

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)

[ر : ۴۰۷۵]

حوض کا مفہوم.....حوض کے بارے میں چند باتیں ذہن نشین کر لیں:

① حوض عربی زبان میں تقریباً اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں اردو میں مستعمل ہے، حوض سے مراد ”حوض کوثر“ ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو میدان حشر میں پانی پلائیں گے، یہ درحقیقت میلوں پھیلا ہوا وسیع و عریض تالاب ہے، جس میں جنت کی نہر کوثر سے صاف و شیریں اور خوش ذائقہ پانی ہوگا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، جیسا کہ آگے احادیث باب میں آ رہا ہے۔

حوض کوثر کا ثبوت

② معتزلہ وغیرہ حوض کا انکار کرتے ہیں، لیکن احادیث کے اندر اس کا ثبوت تقریباً تو اتر معنوی تک پہنچا ہوا ہے، قاضی عیاض پچیس صحابہ سے حوض کی روایات نقل کی ہیں (۱)، امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر تین کا اضافہ کیا (۲) اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پچاس سے زیادہ صحابہ سے حوض کوثر کی روایات نقل فرمائی ہیں اور لکھا کہ بعض علماء کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے یہ تعداد بڑھا کر: سی تک پہنچائی ہے (۳)۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کے لئے بھی حدیث میں ”حوض“ کا ذکر ملتا

(۱) فتح الباری: ۱۱/۵۷۰، وشرح مسلم للنووی، باب اثبات الحوض: ۵/۵۳

(۲) شرح مسلم للنووی، کتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ۵/۵۳

(۳) فتح الباری: ۱۱/۵۷۰

ہے، چنانچہ سنن ترمذی میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے ”إن لكل نبي حوضاً.....“ یعنی ہر نبی کا حوض ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ اس حدیث کے موصول اور مرسل ہونے میں اختلاف ہے اور اس کا مرسل طریق زیادہ صحیح ہے (۴)۔

ابن ابی الدنیا نے حضرت حسن بصری سے صحیح سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے، اس میں ہے:

”إن لكل نبي حوضاً، وهو قائم على حوضه، بيده عصا، يدعو من

عرف من أمته، ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاً، وإني لأرجو أن أكون

أكثرهم تبعاً“۔ یعنی بے شک ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، وہ اس حوض کے پاس کھڑا ہوگا،

ہاتھ میں عصا ہوگی، اپنے امتیوں میں سے جنہیں پہچانے گا، انہی بلائے گا اور حضرات انبیاء

اپنے امتیوں کی کثرت پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور مجھے امید ہے میری امت کی

تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔

البتہ یہ روایت بھی مرسل ہے (۵)۔

لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوض کوثر سب سے ممتاز اور الگ ہوگا اور اس میں نہر جنت سے

پانی آئے گا۔

حوض، صراط سے پہلے ہوگا یا بعد میں

۳ تیسری بحث یہ ہے کہ حوض کوثر سے پانی پلانے کا یہ سلسلہ کب ہوگا، پل صراط کے بعد یا اس سے

پہلے؟

☆..... کئی علماء کا خیال ہے کہ یہ صراط سے پہلے ہوگا، لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کو میدان حشر میں

پہنچا لگی ہوگی اور ابھی صراط کا مرحلہ نہیں آیا ہوگا، اس وقت یہ حوض ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان

حشر ہی میں صراط سے پہلے پہلے لوگوں کو اس کا خوش ذائقہ پانی پلائیں گے۔

(۴) سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب ماجاء في صفة الحوض: ۶۲۸/۴، رقم الحدیث: ۲۴۴۳

(۵) إرشاد الساري: ۵۷۸/۱۳

علامہ قرطبی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ کا رجحان اسی طرف ہے اور مشہور بھی یہی ہے (۸)۔  
 ☆..... لیکن دوسرے کئی علماء فرماتے ہیں کہ یہ صراط کے بعد ہوگا، امام بخاری رحمہ اللہ کی صنیع سے  
 بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”باب الصراط.....“ کے بعد ”باب فی الحوض“ قائم  
 کیا (۹)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، جسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ  
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لئے قیامت میں سفارش کریں گے، حضور  
 اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حامی بھری، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ حضور  
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سب سے پہلے مجھے صراط پر تلاش کریں، میں نے کہا، وہاں بلاقات نہ ہوئی  
 تو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان کے پاس، میں نے کہا، وہاں نہ ملے تو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
 وسلم نے فرمایا، حوض کے پاس..... (۱۰)۔

اس حدیث میں صراحت ہے کہ حوض کے زمانے میں پل صراط موجود ہوگا!  
 بعض حضرات نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو حوض ہوں گے، ایک میدان حشر میں  
 اور قبل الصراط اور دوسرا جنت کے اندر اور دونوں کا نام حوض کوثر ہے!  
 علامہ عینی رحمہ اللہ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا رجحان اسی طرف ہے (۱۱)۔

## ایک اشکال اور اس کا جواب

حوض قبل الصراط پر اشکال کیا گیا کہ میدان حشر اور جنت کے درمیان جہنم ہوگا جس پر پل صراط بچھایا  
 جائے گا اور حوض کا پانی جنت کی نہر کوثر سے آئے گا، اگر حوض کو صراط سے پہلے تقسیم کیا جائے تو جنت اور حوض کے

(۸) فتح الباری: ۱۱/۵۶۸

(۹) إرشاد الساری: ۱۳/۵۷۷، وفتح الباری: ۱۱/۵۶۷

(۱۰) سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب ماجاء فی شان الصراط: ۴/۶۲۱، رقم الحدیث: ۲۴۳۳

(۱۱) عمدة القاری: ۲۳/۲۰۹

درمیان جہنم ہوگا، جنت کی نہر سے پانی، حوض میں کیسے آسکے گا؟ (۱۲)

لیکن اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ آخرت کے امور کو نہ دنیا پر قیاس کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان تمام مناظر کی صحیح اور حقیقی تصویر دنیا میں ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لئے یہ کوئی بعید نہیں کہ جہنم حائل ہونے کے باوجود نہر جنت سے حوض کوثر میں پانی آ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ان گنت ہیں!

## ترجمہ الباب کی وضاحت

② امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر تقریباً انیس احادیث ذکر فرمائی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا ذکر ہے، ترجمہ الباب کے اندر سورہ کوثر کی پہلی آیت ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.....﴾ ذکر فرمائی، اس کی تفسیر کتاب التفسیر میں گزر چکی ہے، کوثر سے خیر کثیر بھی مراد لی گئی ہے اور ”حوض کوثر“ سے بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے (۱۳)، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الحوض میں آیت ذکر کر کے، اس دوسری تفسیر کی طرف اشارہ فرمایا۔

ترجمہ الباب میں عبد اللہ بن زید کی جو تعلیق ذکر فرمائی، اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی میں باب غزوة حنین کے تحت موصولاً نقل کیا ہے۔

باب کی کئی روایات میں آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر ایک جماعت آئے گی، حضور ان لوگوں کو پہنچان لیں گے اور انہیں حوض سے پلانا چاہیں گے کہ درمیان میں رکاوٹ آ جائے گی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے صحابہ اور میرے امتی ہیں، آپ سے کہا جائے گا کہ انہوں نے

(۱۲) قال القسطلاني: "وأما قول صاحب التذكرة: والصحيح أن له صلى الله عليه وسلم حوضين: أحدهما في الموقف قبل الصراط، والآخر داخل الجنة، وكلاهما يسمى كوثراً متعقب بأن الكوثر نهر داخل الجنة وماؤه يُصبُّ في الحوض، ويطلق على الحوض كوثراً، لكونه يمد منه، وفي حديث أبي ذر عند مسلم: أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، وقد سبق أن الصراط جسر جهنم، وأنه بين الجنة والموقف، فلو كان الحوض دونه لحالت الناز بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر في الحوض والله أعلم. (إرشاد الساري:

(۵۷۸/۱۳)

(۱۳) كشف الباري، كتاب التفسير: ۷۶۰

آپ کے بعد اپنا دین بدل دیا تھا۔

اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ بعضوں نے کہا آپ کے زمانے کے منافقین مراد ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے والے لوگ مراد ہیں جن سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا (۱۴)۔

۶۲۰۵ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : (أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ) .

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا۔

فَرَطٌ : اس شخص کو کہتے ہیں جو پانی اور مناسب پڑاؤ کی جگہ تلاش کرنے کے لئے قافلہ سے آگے

جاتا ہے۔

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَلِيرْفَعَنَّ رِجَالَ مِنْكُمْ ثُمَّ لِيَخْتَلِجَنَّ دُونِي ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ؟ فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ) .

تَابِعَهُ عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ .

وَقَالَ حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . [۶۶۴۲]

(۱۴) فتح الباری: ۱۱/۴۶۹، وعمدة القاری: ۲۳/۱۶۵

۶۲۰۵ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته ، رقم : ۲۲۹۷ .

(فرطکم) هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحيض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء.

(ليرفعن) يظهرهم اللہ تعالیٰ لی حتی اراهم . (ليختلجن) يعدل بهم عن الحوض ويجذبون من عندي .

(دوني) قبل أن يصلوا إلي . (ما أحدثوا) من بدعة وفتنة ومعصية .



حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تم سے پہلے ہی موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب! یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔

يُخْتَلَجْنَ: جمع مذکر مجہول کا صیغہ ہے اور آخر میں نون ثقیلہ ہے یعنی پھر مجھ سے کھینچ دیئے جائیں گے، الگ کر دیئے جائیں گے! يقال: اختلجه منه: إذا نزع منه أو جذبه: کھینچنا، ہٹانا۔  
تابع عاصم: أمش کی متابعت عاصم نے کی، حارث بن ابی اسامہ نے اسے موصولاً نقل کیا ہے (۱۵) اور حصین بن عبدالرحمن واسطی نے یہ روایت ابووائل کے واسطے سے حضرت حذیفہ سے نقل کی ہے اور مسلم نے حصین کی روایت موصولاً نقل کی ہے (۱۶)۔

۶۲۰۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرَبَاءَ وَأَذْرَحَ).

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے حوض ہے، (اتنے ہی فاصلہ پر جتنا) جرباء اور ازرح کے درمیان ہے۔

جرباء: شام کی ایک بستی کا نام ہے۔

(۱۵) عمدة القاري: ۲۲/۲۱۱، وإرشاد الساري: ۱۳/۵۷۹

(۱۶) عمدة القاري: ۲۳/۲۱۱، وإرشاد الساري: ۱۳/۵۸۰

۶۲۰۶: أخرجه مسلم في الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، رقم: ۲۲۹۹.  
(جرباء وأذرح) موضعان، وقيل: هما قربتان بالشام. والمراد: ضرب المثل لبعدهما أقطار الحوض وسعته، فكان ﷺ يشبه ذلك بالبلاد التي بنى بعضها عن بعض، ولا يراد بذلك حقيقة المسافة بين هذه البلاد.

أذْرُح : أذْرُح بھی شام کی ایک بستی کا نام ہے، دونوں کے درمیان تین دن کی مسافت ہے (۱۷)۔

۶۲۰۷ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الْكَوْثَرُ : الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أُعْطَاهُ اللَّهُ آيَاهُ . قَالَ أَبُو بَشِيرٍ : قُلْتُ لِسَعِيدٍ : إِنَّ أَنَسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : النَّهْرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أُعْطَاهُ اللَّهُ آيَاهُ . [ ر : ۴۶۸۲ ]

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”الکوثر“ سے مراد بہت زیادہ بھلائی (خیر کثیر) ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی ہے، ابو بشر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ”کوثر“ جنت میں ایک حوض ہے تو انہوں نے کہا کہ جو نہر جنت میں ہے وہ بھی اس خیر (بھلائی) کا ایک حصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی ہے۔

۶۲۰۸ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُيَيْكَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، مَأْوَةٌ أَيْضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَكِيْزَانُهُ كُنُجُومُ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَطْمَأُ أَبَدًا) .

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض ایک مہینے کی مسافت پر پھیلا ہوا ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا، پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔

(۱۷) عمدة القاري: ۲۱۲/۲۳، وإرشاد الساري: ۵۸۰/۱۳

۶۲۰۸ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته ، رقم ۲۲۹۲ .  
(مسيرة) أي طول حافته تحتاج إلى السير هذه المدة . (كيزانه) جمع كوز ، والتشبيه بالنجوم من حيث الكثرة والضياء . (بظماً) يعطش .

کیزان: کوز کی جمع ہے: گلاس، کوزہ۔

۶۲۰۹ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو وَهَبٍ ، عَنْ يُونُسَ : قَالَ أَبُو شِهَابٍ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِقِ كَعَدَدِ نَجْمِ السَّمَاءِ) .

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلہ اور یمن کے شہر صنعاء کے درمیان کی مسافت ہے اور وہاں اتنی بڑی تعداد میں پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے۔

أباريق: إبريق کی جمع ہے، چاندی کا پیالہ، برتن۔

۶۲۱۰ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ ، إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ ، حَافَتَاهُ قِيَابُ الدَّرِّ الْمُجَوَّفِ ، قُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذَا الْكُوْثُرُ ، الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ ، فَإِذَا طَيْبُهُ ، أَوْ طَيْبُهُ ، مِسْكٌ أَذْفَرُ) . شَكَّ هُدْبَةُ . [ر : ۴۶۸۰]

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے، میں نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا

۶۲۰۹ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته ، رقم : ۲۳۰۳ .

(قدر حوضي) طول شاطئه . (أيلة) مدينة كانت عامرة ، وهي بطرف البحر الأحمر من ناحية الشام . (صنعاء) البلد المعروف في اليمن . (الأباريق) جمع إبريق .

کوڑھے، جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے، میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی یا اس کی خوشبو  
مشک جیسی تھی، ہدیہ کو شک تھا (کہ مٹی کہا تھا یا خوشبو)

حافتاہ: حافتاہ سے کنارہ مراد ہے۔ قباب: قُبَّة کی جمع ہے: گنبد۔

الذَّرُّ الْمُجَوَّفُ: ایسا موتی جو اندر سے خالی ہو! أذفر: تیز خوشبودار۔

ابن فارس نے فرمایا، ذفر بوکی تیزی کو کہتے ہیں (۱۸)۔

۶۲۱۱ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ،  
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضِ ، حَتَّى عَرَقْتَهُمْ أَخْتَلِجُوا دُونِي ،  
فَأَقُولُ : أَصْبِحَايَ ؟ فَيَقُولُ : لَا تَدْرِي مَا أُحَدِّثُوا بَعْدَكَ) .

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے  
فرمایا، میرے ساتھی حوض پر میرے سامنے لائے جائیں گے یہاں تک کہ جب میں انہیں  
پہچان لوں گا، پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیئے جائیں گے، میں اس پر کہوں گا کہ یہ تو  
میرے صحابہ تھے، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا  
نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔

۶۲۱۲ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ،  
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ ،  
وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا ، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ) .

(۱۸) عمدة القاري: ۲۳/۲۱۶

۶۲۱۱ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته ، رقم : ۲۳۰۴ .  
(أصحابي) أي من كان بصاحبي . (أختلجوا) جذبوا وأبعثوا . (ما أهدثوا) من معصية توجب حرمانهم  
الشراب من الحوض .

۶۲۱۲ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته ، رقم : ۲۲۹۰ ، ۲۲۹۱ .

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو شخص بھی میری طرف سے گزرے گا، وہ اس کا پانی پئے گا، اور جو اس کا پانی پئے گا وہ پھر کبھی پیسا نہیں ہوگا، اور وہاں ایسے لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے، لیکن پھر میرے اور ان کے سامنے حجاب آجائے گا۔

قَالَ أَبُو حَازِمٍ : فَسَمِعَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عِيَّاشٍ فَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلٍ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا : (فَأَقُولُ : إِنَّهُمْ مِنِّي ، فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُمَا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ : سُخْفًا سُخْفًا لِمَنْ غَيْرِ بَعْدِي) . [۶۶۴۳]

یہ تعلق نہیں، بلکہ ما قبل کے ساتھ متصل ہے..... ابو حازم (سلمہ بن دینار) فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے نعمان بن ابی عیاش نے سنی اور کہا کہ کیا آپ نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سنا تھا، میں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اسی طرح سنی تھی، اور وہ اس حدیث میں اضافہ کرتے تھے (یعنی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ) میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، اس پر میں کہوں گا کہ دور ہو وہ شخص، دور ہو جس نے میرے بعد تبدیلی کر لی تھی۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : «سُخْفًا» / الْمَلِكُ : ۱۱ / : بُعْدًا ، يُقَالُ : «سَحِيقٍ» / الْحَجَّ : ۳۱ / : بَعِيدٌ ، سَحْفَهُ وَأَسْحَفَهُ أَبْعَدَهُ .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سُخْفًا کے معنی دوری کے ہیں، یہ لفظ سورۃ الملک آیت نمبر ۱۱ میں ہے، ﴿فَسُخْفًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ اور سَحِيقٍ کے معنی بعید کے ہیں، یہ سورۃ حج آیت نمبر ۳۱

میں ہے: ﴿و تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ سحقه وَأَسْحَقَهُ مجرد اور باب افعال دونوں سے اس کے معنی دور کرنے کے آتے ہیں! ابن ابی حاتم نے اس تعلق کو موصولاً نقل کیا ہے (۱۹)۔ یہاں حدیث میں چونکہ سحفاً کا لفظ آیا تھا، اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تشریح یہاں نقل فرمائی۔

۶۲۱۴/۶۲۱۳ : وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبِ بْنِ سَعِيدِ الْحِطِّيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (بَرِدٌ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي ، فَيُجْلَوْنَ عَنِ الْحَوْضِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ؟ فَيَقُولُ : إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحَدْتُمْوَا بَعْدَكَ ، إِيَّاهُمْ أَرْتَدُّوَا عَلَيَّ أَذْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى) .

حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر وہ حوض سے دور کر دیئے جائیں گے، میں عرض کروں گا، اے میرے رب! یہ تو میرے صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، یہ لوگ اٹنے قدموں واپس لوٹ گئے تھے۔

احمد بن شیبہ کی یہ تعلق ابو عوانہ نے موصولاً نقل کی ہے (۲۰)۔

(۶۲۱۴) : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : (بَرِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضِ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي ، فَيُجْلَوْنَ عَنْهُ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ؟ فَيَقُولُ : إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحَدْتُمْوَا بَعْدَكَ ، إِيَّاهُمْ أَرْتَدُّوَا عَلَيَّ أَذْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى) .

(۱۹) فتح الباری: ۵۷۶/۱۱، وعمدة القاری: ۲۳/۲۱۷، وإرشاد الساری: ۱۳/۵۸۰

(۲۰) فتح الباری: ۵۷۶/۱۱، وعمدة القاری: ۲۳/۲۱۷، وإرشاد الساری: ۱۳/۵۸۰

حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے نقل کر کے فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض پر میرے صحابہ کی ایک جماعت لائی جائے گی، پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا، میں عرض کروں گا، اے میرے رب! یہ تو میرے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئی چیزیں ایجاد کرنی تھیں، یہ اٹنے پاؤں (اسلام سے) واپس لوٹ گئے تھے۔

قہقری: ایزھیوں کے بل ناچنا!

وَقَالَ شُعَيْبٌ : عَنِ الزُّهْرِيِّ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : (فَيُجَلِّونَ) .  
وَقَالَ عَقِيلٌ : (فَيُحَلِّوْنَ) .

شعیب نے زہری سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں فَيُجَلِّوْنَ کے الفاظ ہیں اور اسی طرح عقیل ابن خالد کی روایت میں فَيُحَلِّوْنَ کے الفاظ ہیں۔

يُحَلِّوْنَ: تَخْلِفَةٌ سے ہے، اس کے معنی منع کرنے اور ہٹانے کے ہیں۔ کہتے ہیں خَلَاهُ عَنِ الْمَاءِ: اس کو پانی سے منع کر دیا۔ اور يُجَلِّوْنَ مجہول کا صیغہ ہے، جلاء کے معنی ہیں: دور کرنا، يُجَلِّوْنَ، وہ دور کر دیئے جائیں گے (۲۱)۔

شعیب کی اس تعلق کو امام ذہبی نے موصولاً نقل کیا ہے (۲۲)۔

وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

زبیدی، زبیدی کی طرف منسوب ہے جو ایک قبیلہ ہے اور اس سے مراد محمد بن الولید بن عامر ہیں، ابورافع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا نام اسلم ہے، عبید اللہ ان کے بیٹے ہیں۔ اس سند میں

تین تابعی ہیں: امام زہری، ان کے شیخ محمد بن علی اور ان کے شیخ عبید اللہ، تینوں تابعی ہیں (۲۳)۔ دارقطنی رحمہ اللہ نے اس تعلق کو موصولاً نقل کیا ہے (۲۳)۔

۶۲۱۵ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي هِلَالٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ ، حَتَّى إِذَا عَرَقْتَهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ ، فَقَالَ : هَلُمَّ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ ، قُلْتُ : وَمَا شَأْنُهُمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ أَرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْفَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ ، حَتَّى إِذَا عَرَقْتَهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ ، فَقَالَ : هَلُمَّ ، قُلْتُ أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ ، قُلْتُ : مَا شَأْنُهُمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ أَرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْفَهْقَرَى ، فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعْمِ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں (حوض پر) کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت سامنے آئے گی اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا اور کہے گا کہ ادھر آؤ اور میں کہوں گا کہ کہاں؟ وہ کہے گا، آگ کی طرف، میں پوچھوں گا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد لٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے، پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو پھر ایک شخص میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ، میں پوچھوں گا کہ کدھر؟ وہ کہے گا کہ جہنم کی طرف، بخدا! میں پوچھوں گا کہ ان کے احوال کیا ہیں؟ وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد لٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے ایک معمولی تعداد کے سوا باقی نجات پا سکیں گے۔

(۲۳) حمدۃ القاری: ۲۳/۲۱۹، وفتح الباری: ۱۱/۵۷۷، وإرشاد الساری: ۱۳/۵۸۶

(۲۴) حمدۃ القاری: ۲۳/۲۱۹، وفتح الباری: ۱۱/۵۷۷، وإرشاد الساری: ۱۳/۵۸۶



فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ

یعنی میرا خیال نہیں کہ وہ چھوٹ جائیں گے، مگر بے کار چھوڑے ہوئے اونٹ کی طرح بہت کم! ہَمَل: اس جانور اور اونٹ وغیرہ کو کہتے ہیں جسے بے کار چھوڑ دیا جائے اور اس کی کوئی نگرانی اور دیکھ بھال نہ کی جائے، جہاں جانا چاہا جائے، جہاں چرنا چاہے چرے، ایسا جانور ہلاک اور ضائع ہو جاتا ہے، عموماً ایسے جانور کم ہوتے ہیں، اس لئے یہاں اس سے قلت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جہنم سے بچنے والے بہت کم ہوں گے، علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”أى لا يخلص منهم من النار إلا قليل“ (۲۵)۔

### ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت

اس حدیث میں حوض کوثر کا ذکر نہیں، البتہ مرتدین کا ذکر ہے اور پہلی جو حدیثیں گزری ہیں، ان میں حوض اور مرتدین دونوں کا ذکر ہے، اس لئے براہ راست تو ترجمہ الباب کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں لیکن حوض والی حدیثوں کے ساتھ اس کی مطابقت ہے، تو ان کی مناسبت سے حوض کے ساتھ بھی اس کی مطابقت ہو جاتی ہے (۲۶)۔

خرج رجل: اس سے مراد فرشتہ ہے جو انسان کی صورت میں ظاہر ہوگا (۲۷)۔

۶۲۱۶ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي ) . [ ر : ۱۱۳۸ ]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور میرا منبر

(۲۵) مذکورہ تفصیل کے لئے دیکھئے: عمدة القاري: ۲۱۹/۲۳

(۲۶) عمدة القاري: ۲۱۹/۲۳

(۲۷) عمدة القاري: ۲۱۹/۲۳، وفتح الباري: ۵۷۸/۱۱

میرے حوض پر ہے۔

منبری: منبر سے مراد یا تو دنیا والا منبر ہے جو مسجد نبوی میں نصب ہے اور یا آخرت کا منبر مراد ہے جو حوض کوثر کے پاس نصب کیا جائے گا (۲۸)۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد نبوی میں آپ کے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے، اس کو "روضۃ الجنۃ" کہتے ہیں۔ یعنی جنت کا باغ! اس کو یا تو اس لئے جنت کا باغ کہتے ہیں کہ بعینہ یہی حصہ جنت کی طرف منتقل ہو جائے گا اور یا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادت آدمی کو جنت کی طرف منتقل کر دے گی (۲۹)۔

۶۲۱۷ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ) .

حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں حوض پر تم سے پہلے سے موجود ہوں گا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ عبدان ہیں، عبدان لقب ہے اور ان کا نام عبد اللہ ابن عثمان ہے۔ پاپے والد سے نقل کر رہے ہیں، ان کے والد کا نام عثمان ابن جبلیہ ہے (۳۰)۔

۶۲۱۸ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُبَيْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ عَلَى الْمَنْبَرِ ، فَقَالَ : (إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا) . [ ر : ۱۲۷۹ ]

(۲۸) عمدة القاري: ۲۳/۲۲۰

(۲۹) عمدة القاري: ۲۳/۲۲۰

(۳۰) عمدة القاري: ۲۳/۲۲۰

۶۲۱۷ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا ﷺ وصفانه ، رقم : ۲۲۸۹ .

حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور شہدائے احد کے لئے اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے آگے جاؤں گا اور تم پر گواہ رہوں گا اور میں واللہ! اپنے حوض کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا (فرمایا کہ) زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ! تمہارے بارے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔

سند کے اندر یزید سے یزید بن ابی حبیب مراد ہیں، جن کی کنیت ابورجاء ہے، ابوجیب سوید کی کنیت ہے اور ابوالخیر کا نام مرشد بن عبداللہ ہے۔

مَرْتَدٌ: میم کے فتح، راء کے سکون اور ثاء کے فتح کے ساتھ ہے۔

۶۲۱۹ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ : أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ : ( كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ ) .

وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَارِثَةَ : سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَوْلَهُ : ( حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ ) .

فَقَالَ لَهُ الْمُسَوِّرِدُ : أَلَمْ تَسْمَعْهُ ؟ قَالَ : الْأَوَانِي ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ الْمُسَوِّرِدُ : ( تَرَى فِيهِ الْآيَةَ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ ) .

۶۲۱۹ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته ، رقم : ۲۲۹۸ . ( كما بين .. ما بين ) المراد بيان سعته وطول أبعاده ، كما مر في الحديث [۶۲۰۶] . ( الأواني ) جمع آنية ، والآنية جمع إناء ، وهو الوعاء ، والمراد : الكؤوس التي يشرب بها من الحوض . ( مثل الكواكب ) النجوم في السماء ، كثرة وضياء .

حضرت حارث بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حوض کا ذکر کیا اور فرمایا کہ (وہ اتنا بڑا ہوگا) جتنی مدینہ اور صنعاء کے درمیان مسافت ہے۔

اور ابن ابی عدی نے شعبہ کے واسطے سے حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے یہ اضافہ نقل کیا، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد سنا کہ آپ کا حوض اتنا لمبا ہوگا جتنی صنعاء اور مدینہ کے درمیان مسافت ہے۔ اس پر ان سے مستور نے کہا کہ کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوض کے برتنوں کے متعلق نہیں سنا؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ مستور نے کہا کہ اس میں برتن اس طرح نظر آئیں گے جس طرح آسمان میں ستارے (بکثرت اور چمک دار) نظر آتے ہیں۔

وزاد ابن ابی عدی.....

ابن ابی عدی کا نام محمد بن ابراہیم ہے، ابو عدی ان کے دادا ہیں، علامہ عینی فرماتے ہیں:  
 ”ولا يعرف اسمه؛ وهو بصرى ثقة؛ كثير الحديث“، یعنی ابو عدی کا نام معلوم نہیں لیکن وہ کثیر الحدیث ثقہ محدث ہیں (۳۱)۔  
 ابن ابی عدی کا یہ اضافہ امام مسلم رحمہ اللہ نے موصولاً نقل کیا ہے (۳۲)۔

مستور دا بن شداد

یہاں حدیث کے اندر مستور کا ذکر ہے، (..... مستور دروزن مستعمل ..... ) یہ صحابی ہیں اور اس کے والد بھی صحابی تھے، کوفہ میں رہتے تھے اور فتح مصر کے وقت حاضر تھے۔ ان کی وفات ۴۵ھ میں ہوئی ہے۔ بخاری

(۳۱) عمدة القاري: ۲۳/۲۲۱

(۳۲) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم: ۶۰/۱۵، فتح الباري:

۵۷۹/۱۱، وعمدة القاري: ۲۳/۲۲۲

میں صرف ان کی یہی ایک روایت ہے اور ان کی یہ حدیث مرفوع ہے اگرچہ انہوں نے اس کی تصریح نہیں کی (۳۳)۔

۶۲۲۰ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ ، وَسَبُّوْهُ نَاسٌ دُوْنِي ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي ، فَيُقَالُ : هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بِعَدْلِكَ ، وَاللَّهِ مَا يَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَيَّ أَعْقَابِهِمْ) . فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَيَّ أَعْقَابِنَا ، أَوْ نَفْتَنَ عَنْ دِينِنَا . [۶۶۴۱]

«أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ» / المؤمنون: ۶۶ / : تَرْجِعُونَ عَلَيَّ الْعَقَبِ .

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر موجود رہوں گا اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون کون میرے پاس آتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا، میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب! یہ تو میرے ہی آدمی ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں، مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم بھی ہے! انہوں نے تمہارے بعد کیا کام کئے تھے؟ ..... واللہ یہ مسلسل الٹے پاؤں لوٹنے لگے تھے۔

ابن ابی ملیکہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ! ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ الٹے پاؤں لوٹ جائیں، یا اپنے دین کے بارے میں فتنہ میں ڈال دیئے جائیں۔

أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ : تَرْجِعُونَ عَلَيَّ الْعَقَبِ

یہ سورۃ المؤمنون میں واقع ہے: ﴿وقد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم﴾

(۳۳) فتح الباری: ۱۱/۵۷۹، وعمدة القاری: ۲۳/۲۲۲

(۶۲۲۰) أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الفتن، باب ماجاء في قول الله تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذي

ظلموا منكم خاصة﴾ رقم الحديث: ۷۰۴۸، وأخرجه مسلم في الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله

عليه وسلم وصفاته، رقم: ۵۹۲۸: ۵۵/۱۵

تکصون یعنی میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں، تو تم ایڑھیوں کے بل لٹے بھاگتے تھے۔  
یعنی قیامت کے دن اللہ جل شانہ کفار سے فرمائیں گے کہ اب کیوں شور مچاتے ہو، وہ وتتا یاد کرو  
جب اللہ کے پیغمبر آیات پڑھ کر سنا تے تھے تو تم لٹے پاؤں بھاگتے تھے، سنا بھی گوارا نہ تھا، تمہاری شیخی اور تکبر  
اجازت نہیں دیتا تھا کہ حق کو قبول کرو اور پیغمبروں کی بات پر کان دھرو۔

حدیث کے اندر چونکہ ”یرجعون علی أعقابہم“ کے الفاظ آئے ہیں، اس مناسبت سے امام بخاری  
رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے یہ الفاظ اور ان کی تشریح نقل فرمائی، یہ ابو عبیدہ کی تفسیر سے لی گئی  
ہے (۳۳)۔

وهذا آخر ما أردنا إيراده من شرح أحاديث كتاب الاستذنان، وكتاب الدعوات  
وكتاب الرقاق من صحيح البخاري رحمه الله تعالى للشيخ المحدث سليم الله خان  
حفظه الله ورعاه متعنا الله بطول حياته وقد وقع الفراغ من تسويده، وإعادة النظر  
فيه، ثم تصحيح ملازم الطبع بيوم الخميس ۶/ صفر المظفر ۱۴۲۹ھ، الموافق ۱۴/  
فروری ۲۰۰۸م، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على النبي الأمي،  
وآله وصحبه وتابعيهم وسلم عليه وعليهم مادامت الأرض والسموات، رتبه وراجع  
نصوصه وعلق عليه ابن الحسن العباسي عضو قسم التحقيق والتصنيف والأستاذ  
بالجامعة الفاروقية، وفقه الله تعالى لإتمام باقى الكتب، كما يحبه ويرضاه وهو على  
كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويليہ إن شاء الله شرح كتاب  
القدر.





## المصادر والمراجع

(كشف الباري المجلد السادس لصحيح البخاري المجلد الثاني)

﴿ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري / محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله تعالى،

متوفى ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢ء، ايچ ايم سعيد كراچي .

﴿ أمانى الأحبار شرح معانى الآثار / مولانا يوسف كاندهلوى رحمه الله، ادارة تاليفات

اشرفيه لاهور .

﴿ أسماء الدارقطنى / حافظ أبو الحسن على بن عمر دارقطنى رحمه الله، متوفى

١٣٨٥هـ .

﴿ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف / علاؤ الدين على بن سليمان مرداوى،

دار إحياء التراث العربى بيروت .

﴿ احسن الفتاوى / مولانا رشيد احمد لدهيانوى، ايچ ايم سعيد كمپنى كراچي

﴿ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان / أبو حاتم محمد بن حبان بستى رحمه الله

تعالى، متوفى ٣٥٤هـ، مؤسسة الرسالة بيروت .

﴿ أحكام القرآن / أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص - رحمه الله -، متوفى

٥٢٧هـ، دار الكتب العلمية بيروت .

﴿ أحكام القرآن / أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المتوفى ٥٤٣هـ / دار المعرفة

بيروت



﴿ إمداد الفتاوى / حضرت مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله، متوفى ١٣٦٢هـ،  
مكتبه دارالعلوم كراچي. ﴾

﴿ الإكمال / الامير الحافظ ابن ماكولا رحمه الله اُمتوفى ٤٧٥هـ، محمد أمين دبح،  
بيروت. ﴾

﴿ إمداد الباري / حضرت مولانا عبدالجبار أعظمي، مكتبه حرم، مراد آباد. ﴾

﴿ إحياء علوم الدين مع إتحاف السادة المتقين / إمام محمد بن محمد الغزالي رحمه  
الله، المتوفى ٥٠٥هـ، دار إحياء التراث العربي بيروت. ﴾

﴿ الأدب المفرد مع شرح فضل الله الصمد / أمير المؤمنين في الحديث محمد بن  
إسمعيل البخاري، المتوفى ٢٥٦هـ، مكتبة الإيمان المدينة المنورة. ﴾

﴿ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري / أبو العباس شهاب الدين أحمد  
القسطلاني - رحمه الله -، متوفى ٩٢٣هـ، المطبعة الكبرى الأميرية مصر / دار الكتب العلمية  
بيروت. ﴾

﴿ الاستذكار / ابن عبدالبر - رحمه الله -، المتوفى ٦٦٣هـ، دار إحياء التراث العربي  
بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ. ﴾

﴿ الاستيعاب في أسماء الأصحاب بهامش الإصابة / أبو عمر يوسف بن عبدالله بن  
محمد بن عبدالبر - رحمه الله -، متوفى ٤٦٣هـ، دار الفكر بيروت. ﴾

﴿ أسد الغابة في معرفة الصحابة / عز الدين أبو الحسين علي بن محمد الجزري  
المعروف بابن الأثير - رحمه الله -، المتوفى ٦٣٠هـ، دار الكتب العامة بيروت. ﴾

﴿ الإصابة في تمييز الصحابة / شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي انعمتلاني  
المعروف بابن حجر - رحمه الله -، متوفى ٨٠٢هـ، دار الفكر بيروت. ﴾

﴿ أنوار الباري / مولانا سيد أحمد رضا بجنوري رحمه الله، عالي، مدينة بريس بجنور.

﴿ أعلام الحديث / أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي - رحمه الله -، متوفى ۳۸۸هـ،

مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة.

﴿ إعلاء السنن / ظفر أحمد عثماني - رحمه الله -، متوفى ۱۳۹۴هـ، إدارة القرآن

كراچی

﴿ الأنساب / أبو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني - رحمه الله -، متوفى

۵۶۲هـ، دارالجنان بيروت.

﴿ أوجز المسالك إلى مؤطا مالك / محمد زكريا الكاندهلوي - رحمه الله -، متوفى

۱۴۰۲هـ، إدارة تاليفات أشرفيه ملتان / دارانقلم، دمشق.

﴿ إيضاح البخاري / مولانا سيد فخر الدين احمد، مكتبة مجلس قاسم المعارف

ديوبند.

﴿ البحر الرائق / علامه زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم رحمه الله، المتوفى ۹۶۹هـ يا

۹۷۰هـ، مكتبة رشيديه كوثه.

﴿ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني - رحمه

الله -، متوفى ۵۸۷هـ، ايچ، ايم سعيد كراچی

﴿ بداية المجتهد / أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، متوفى ۶۹۵هـ - مصر

طبع خاص.

﴿ البداية والنهاية / عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير - رحمه

الله -، متوفى ۸۸۴هـ، مكتبة المعارف بيروت.

﴿ بذل المجهود في حل أبي داود / خليل أحمد السهارنفوري - رحمه الله -، متوفى

۱۳۴۶هـ، مطبعة ندوة العلماء لكهنؤ ۱۳۹۳هـ / مركز الشيخ أبي الحسن الندوي، مظفر فور،

الهند، الطبعة الأولى ۱۴۲۷هـ.

﴿ البناية شرح الهداية / بدر الدين عيني محمود ابن أحمد المتوفى ٥٨٥٥هـ، مكتبه رشيديه كوئته. ﴾

﴿ البدر الساري إلى فيض الباري / مولانا بدر عالم ميرثهي، متوفى ١٣٨٥هـ، خضراة بكتوبو دهلي، مطبوعه: ١٩٨٠ء. ﴾

﴿ بستان المحدثين / حضرت شاه عبدالعزيز صاحب، متوفى ١٢٣٩هـ، ايچ ايم سعيد كمنپي كراچي. ﴾

﴿ بيان القرآن / حكيم الامت مولانا اشرف علي تهانوي، شيخ غلام علي سنز، لاهور. ﴾

﴿ تعليقات الرفع والتكميل / شيخ عبدالفتاح أبوغده، متوفى ١٤١٧هـ، مكتب المطبوعات الاسلاميه حلب. ﴾

﴿ تعليقات فتح الباري زهير شوايش / دار السلام رياض، ٢٠٠٠م. ﴾

﴿ ترجمان السنه / مولانا بدر عالم ميرثهي، ادارة اسلاميات لاهور. ﴾

﴿ تاج العروس من جواهر القاموس / أبو الفيض سيد محمد بن محمد المعروف بالمرضى الزبيدي - رحمه الله -، متوفى ١٢٠٥هـ، دار مكتبة الحياة، بيروت. ﴾

﴿ تاريخ بغداد / أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي - رحمه الله -، متوفى ٤٦٣هـ، دار الكتاب العربي بيروت. ﴾

﴿ التاريخ الكبير / محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله -، متوفى ٢٥٦هـ، دار الكتب العلمية بيروت. ﴾

﴿ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق / فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، متوفى ٧٤٣هـ، دار الكتب العلمية بيروت. ﴾

﴿ تحفة الأحوذى / الشيخ عبدالرحمن المبار كفوري رحمه الله، المتوفى ١٣٢٠هـ، ﴾

نشر السنة ملتان.

﴿ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة المرفوعة / أبو الحسن علي بن

محمد ابن عراق كناني، دارالكتب، بيروت.

﴿ تذهيب التهذيب / حافظ شمس الدين الذهبي المتوفى ٨٧٤٨هـ، بيروت لبنان.

﴿ تحفة الباري بشرح صحيح البخاري / أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى

٩٢٦هـ، دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.

﴿ تعقليات علي لامع الدراري / محمد زكريا الكاندهلوي - رحمه الله -، متوفى

١٤٠٢هـ.

﴿ جامع البيان / محمد بن جرير الطبري - رحمه الله -، متوفى ٣١٠هـ، دارالمعرفة،

بيروت.

﴿ تفسير عثمانى / شبير أحمد العثماني - رحمه الله -، تاج كمبني.

﴿ تفسير القرآن العظيم / أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير

الدمشقي - رحمه الله -، متوفى ٧٧٤هـ، دار إحياء الكتب العربية.

﴿ التفسير الكبير / فخر الرازي - رحمه الله - مركز النشر، مركز العلمية الإسلامي.

﴿ التفسير المظهرى / ثناء الله پاني پتي - رحمه الله -، دارالكتب العلمية بيروت.

﴿ تذكرة الخليل / مولانا عاشق الهى ميرتهى - رحمه الله -، متوفى ١٣٦٠هـ، ادارة

اسلاميات لاهور

﴿ تاريخ طبرى / ابو جعفر محمد بن جرير الطبري، متوفى ٣١٠هـ، مؤسسة الرسالة

بيروت.

﴿ تنوير الأبصار / للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد الغري الحنفي

المتوفى ١٠٠٤هـ، مكتبه رشيديه كوئله.

- ﴿ تقريب التهذيب / ابن حجر عسقلاني - رحمه الله -، متوفى ٨٥١هـ، دار الرشيد حلب.
- ﴿ نكلمة فتح الملهم / محمد تقى العثماني - حفظه الله، مكتبة دارالعلوم كراتشي / دار القلم دمشق.
- ﴿ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير / حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى ٨٥٢هـ، دار نشر الكتب الإسلامية لاهور.
- ﴿ تلخيص المستدرک (المطبوع بذييل المستدرک) / حافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي رحمه الله، المتوفى ٧٤٨هـ، دار الفكر بيروت.
- ﴿ التمهيد لما في المؤطا من المعاني والأسانيد / أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد عبدالبر مالكي - رحمه الله -، متوفى ٤٦٣هـ، المكتبة التجارية مكة المكرمة.
- ﴿ تهذيب الأسماء واللغات / محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - رحمه الله -، متوفى ٦٧٦هـ، إدارة الطباعة المنيرية.
- ﴿ تهذيب التهذيب / ابن حجر عسقلاني - رحمه الله -، متوفى ٨٥٢هـ، دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد دكن.
- ﴿ تهذيب الكمال / جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن مزى - رحمه الله -، متوفى ٦٤٢هـ، مؤسسة الرسالة.
- ﴿ تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي / حافظ جلال الدين عبدالرحمن سيوطي رحمه الله، المتوفى ٩١١هـ، المكتبة العلمية مدينه منوره.
- ﴿ تذكرة الحفاظ / حافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله، المتوفى ٧٤٨هـ، دائرة المعارف العثمانية، الهند.
- ﴿ الترغيب والترهيب / إمام عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري رحمه الله، المتوفى ٦٥٦هـ، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثالثة، ١٣٨٨هـ، ١٩٦٨م.

- ﴿ تعليقات على تهذيب الكمال / دكتور بشار عواد معروف حفظه الله تعالى، مؤسسة الرسالة طبع أول ١٤١٣هـ. ﴾
- ﴿ تغليق التعليق / حافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر رحمه الله، المتوفى ٨٥٢هـ، المكتب الإسلامي ودار عمار. ﴾
- ﴿ الثقات لابن حبان / أبو حاتم محمد بن حبان البستي - رحمه الله -، متوفى ٣٥٤هـ، دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد ١٣٩٣هـ. ﴾
- ﴿ جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام / علامه ابن فيم، دار الكتب العلمية بيروت. ﴾
- ﴿ الجامع لأحكام القرآن / أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - رحمه الله -، متوفى ٦٧١هـ، دار الفكر بيروت. ﴾
- ﴿ جامع الترمذي / أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - رحمه الله -، متوفى ٢٧٩هـ، سعيد كراچی / دار إحياء التراث العربي بيروت. ﴾
- ﴿ الجرح والتعديل / عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي - رحمه الله -، المتوفى ٣٢٧هـ، دار الكتب العلمية بيروت. ﴾
- ﴿ الجمع بين الرجال الصحيحين / أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني، المتوفى ٥٠٧هـ، دار الكتب العلمية بيروت. ﴾
- ﴿ الجوهرة النيرة / الشيخ العلامة أبوبكر بن علي بن محمد الحداد، المتوفى ٨٠٠هـ، مكتبه حقانيه ملتان. ﴾
- ﴿ جامع الأصول / مبارك بن أحمد ابن أثير الجزري، متوفى ٦٠٦هـ، دار الفكر بيروت. ﴾
- ﴿ حاشية السندي على البخاري / أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي - رحمه الله -، متوفى ١٣٨هـ، دار المعرفة بيروت. ﴾

- ﴿ حاشية البخاري / أحمد علي سهارنغوري، متوفى ١٢٩٧هـ، قديمي كتب خانه كراچي. ﴾
- ﴿ حلية الأولياء / حافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد أصبهاني رحمه الله، المتوفى ٥٤٣٠هـ، دار الفكر بيروت. ﴾
- ﴿ خلاصة الخزرجي / صفى الدين الخزرجي - رحمه الله -، متوفى ٩٢٣هـ، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ﴾
- ﴿ الدر المختار / علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي - رحمه الله -، متوفى ١٠٨٨هـ، مكتبة عارفين، كراتشي. ﴾
- ﴿ الدر المنثور في التفسير بالمأثور / حافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي رحمه الله، المتوفى ٩١١هـ، مؤسسة الرسالة. ﴾
- ﴿ دار العلوم ديوبند..... مدرسه فكرية / مولانا عبيد الله الأسعدى، مجلس نشرات اسلام، كراچي ﴾
- ﴿ دلائل النبوة / أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي - رحمه الله -، المتوفى ٤٥٨هـ، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى. ﴾
- ﴿ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل / مولانا عبدالحى لكهنوى، متوفى: ١٣٠٤هـ، مكتب المطبوعات الاسلاميه حلب، ١٤٠٧هـ ﴾
- ﴿ رحمة القدوس ترجمة بهجة النفوس / مولانا ظفر أحمد عثمانى، ادارة اسلاميات لاهور. ﴾
- ﴿ ردالمحتار على الدر المختار / محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الشامي - رحمه الله -، متوفى ١٢٥٢هـ، مكتبة رشيديه كوئته / دار الثقافة والتراث، دمشق، سورية / دار المعرفة بيروت. ﴾

﴿ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / أبو الفضل شهاب الدين سيد محمود آلوسي بغدادى - رحمه الله -، متوفى ١٢٧٠هـ، مكتبه إمداديه ملتان.

﴿ روائع البيان فى تفسير آيات الأحكام / للشيخ محمد على الصابونى، مكتبة الغزالي، دمشق.

﴿ زاد المعاد فى هدى خير العباد / أبو عبدالله محمد بن أبى بكر، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عبدالقادر الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة، بيروت.

﴿ سنن ابن ماجه / أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه - رحمه الله -، متوفى ٢٧٣هـ، قديمى كراچى / دار الكتاب المصرى قاهره، دار الكتب العلميه بيروت، بتحقيق لمحمود محمد محمود حسن نصار.

﴿ سنن أبى داود / أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني - رحمه الله -، متوفى ٢٧٥هـ، سعيد كراچى / دار إحياء السنة النبوية.

﴿ سنن الدارقطني / أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني - رحمه الله -، متوفى ٣٧٥هـ، دار نشر الكتب العلميه، بيروت.

﴿ سنن الدارمي / أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي - رحمه الله -، متوفى ٢٥٥هـ، قديمى

﴿ السنن الصغرى للنسائي / أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي - رحمه الله -، متوفى ٣٠٣هـ، نشر السنة ملتان / قديمى كراتشي.

﴿ السنن الكبرى للبيهقي / أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - رحمه الله -، متوفى ٤٥٧هـ، نشر السنة ملتان

﴿ سير أعلام النبلاء / أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - رحمه الله -، متوفى ٧٤٧هـ، مؤسسة الرسالة.



﴿ سيرة النبي / مولانا شبلی نعمانی، مولانا سید سلیمان ندوی، دارالاشاعت

کراچی.

﴿ الأشباه والنظائر / ابن نجيم الحنفي - رحمه الله -، إدارة القرآن کراتشي.

﴿ شرح سنن الترمذی لابن العربي المالکي، المتوفى ۵۴۳، طبعة الصاوی ۱۹۳۴.

﴿ شرح المقاصد / الإمام مسعود بن عمر: سعد الدين التفتازاني، المتوفى: ۵۷۹۳،

دارالکتب العلمية بیروت ۲۰۰۱.

﴿ شرح نخبة الفكر / ابن حجر عسقلانی، قديمی کتب خانہ کراچی.

﴿ شرح ابن بطلال / أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، المعروف بابن

بطلال - رحمه الله -، متوفى ۴۴۹ھ، مكتبة الرشد، الرياض.

﴿ شرح الأبي علي مسلم (إكمال إكمال المعلم) / أبو عبد الله محمد بن خلفه الأبي

المالکي رحمه الله، المتوفى ۸۲۷ھ، دار إحياء التراث العربي بیروت.

﴿ شرح الكرماني / شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني - رحمه الله -،

متوفى ۷۸۶ھ، دار إحياء التراث العربي بیروت.

﴿ شرح مشكل الآثار / أبو جعفر أحمد بن محمد سلامة الطحاوي، المتوفى ۳۱۱ھ،

مؤسسة الرسالة بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۷ھ.

﴿ شرح معاني الآثار / إمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله،

المتوفى ۳۲۱ھ، مير محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی.

﴿ شرح النووي على صحيح مسلم / أبوزكريا يحيى بن شرف النووي - رحمه الله -،

المتوفى ۶۷۶ھ، قديمی کراتشي / دار المعرفة بیروت.

﴿ شذرات الذهب في أخبار من ذهب / علامه عبدالحی بن أحمد بن محمد بن العماد

المعري الحنبلي رحمه الله، متوفى ۱۰۸۹ھ، دارالآفاق الجديدة، بیروت.

﴿ شعب الإيم ن / إمام حافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله، المتوفى ٥٤٥٨هـ، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٠هـ.

﴿ الشمائل المحمدية للترمذي / إمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله، المتوفى ٢٧٩هـ، فاروقى كتب خانة ملتان.

﴿ الصحيح للبخاري / أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله -، المتوفى ٢٥٢هـ، قديمى / دار السلام رياض / دار ابن كثير، بيروت.

﴿ الصحيح لمسلم / مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - رحمه الله -، متوفى ٢٦١هـ، قديمى / دار السلام / دار المعرفة.

﴿ الطبقات الكبرى / أبو محمد بن سعد - رحمه الله -، متوفى ٢٣٠هـ، دار صادر بيروت.

﴿ طبقات الشافعية الكبرى / علامه تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين سبكي رحمه الله، المتوفى ٧٧١هـ، دار المعرفة بيروت.

﴿ ظفر الأمانى / علامه عبد الحى لكهنوي رحمه الله، المتوفى ١٣٠٤هـ، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب الطبعة الثالثة ١٤١٦هـ.

﴿ عوارف المعارف / عمر بن محمد سهوردي، المتوفى ٦٣٢هـ، مكتبة مكيه، مكة مكرمه ١٤٢٢هـ.

﴿ إعراب القرآن وبيانه / محي الدين الدرويش، دار اليمامة بيروت ٢٠٠٣هـ.

﴿ علوم القرآن / مولانا شمس الحق افغانى، اردو بازار لاهور.

﴿ غنية الطالبين / امام عبدالقادر جيلانى، ايج ايم سعيد كراچى.

﴿ العناية / علامه أكمل الدين محمد بن محمود البابر تي، متوفى ٧٨٦هـ، مكتبة رشيديه

كوئته.

﴿ عمدة القاري / بدر الدين أبو محمد بن محمود أحمد العيني - رحمه الله -، متوفى

٥٨٥٥هـ، إدارة الطباعة المنيرية/ دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.

﴿ عون المعبود شرح سنن أبي داود/ شمس الحق عظيم آبادي، دارالفكر بيروت.

﴿ فتاوى حقانيه/ مفتيان جامعه دارالعلوم حقانيه اكوڑه خٹك، مؤتمر المصنفين، اكوڑه

خٹك.

﴿ الفتاوى التارخانية/ عالم بن علاء الأنصاري الأندريتي الدهلوي-رحمه الله-

المتوفى ٧٨٦هـ، قديمى كتب خانه.

﴿ فتح الباري/ أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني-رحمه الله-، متوفى

٨٥٢هـ، دارالفكر بيروت/ قديمى كراتشي/ دارالسلام.

﴿ فتح القدير/ كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن

الهام-رحمه الله-، متوفى ٨٦١هـ، مكتبه رشيديه/ شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

مصر.

﴿ فيض الباري/ أنور شاه كشميرى-رحمه الله-، متوفى ١٤٥٢هـ، ربانى بك ڈپو

دهلى.

﴿ العدة شرح العمدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله- / بهاء الدين

عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي/ مكتبة الرياض الحديثه بالرياض.

﴿ فتاوى رحيميه/ حضرت مولانا مفتى عبدالرحيم صاحب مدظله، دارالاشاعت

كراچى.

﴿ فتاوى محموديه/ حضرت مولانا مفتى محمود الحسن صاحب رحمه الله، مظهرى

كتب خانه كراچى.

﴿ فضل الله الصمد فى توضيح الأدب المفرد/ فضل الله جيلاني، صدف پبلشرز

كراچى.

- ﴿ الفقه الإسلامي وأدلته/ علامه وهبه زحيلي، مكتبه حقانيه پشاور.
- ﴿ فتاوى عالمگيريه/ جماعة من العلماء. نوراني كتب خانه پشاور.
- ﴿ الفائق/ علامه جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المتوفى ٥٣٨هـ،  
دار المعرفة بيروت.
- ﴿ القاموس الوحيد/ وحيد الزمان بن مسيح الزمان قاسمي كيرانوي-رحمه الله-،  
متوفى ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥ء، إدارة إسلاميات لاهور.
- ﴿ القاموس الجديد/ مولانا وحيد الزمان قاسمي رحمه الله، ادارة اسلامى لاهور.
- ﴿ الكاشف/ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي-رحمه الله-،  
متوفى ٧٤٧هـ، شركة دار القبلة/ مؤسسة علوم القرآن.
- ﴿ الكاشف عن حقائق السنن (شرح الطيبي)/ شرف الدين حسين بن محمد بن  
عبد الله الطيبي-رحمه الله-، متوفى ٧٤٣هـ، إدارة القرآن كراچی.
- ﴿ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة/ علامه جلال الدين سيوطي، المتوفى  
٥٩١١.
- ﴿ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام/ علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري،  
المتوفى: ٧٣٠، دار الكتب العلمية بيروت.
- ﴿ كتاب الزهد/ الإمام أحمد بن حنبل، دار الكتاب العربي، ١٩٩٤ء.
- ﴿ كتاب الزهد/ الإمام عبد الله بن المبارك، المتوفى ١٨١ء، دار الكتب العلمية،  
١٤٢٥.
- ﴿ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف/ الحافظ ابن حجر العسقلاني،  
دار الكتب العلمية بيروت.
- ﴿ كتاب الضعفاء الكبير/ أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد العقيلي

المكي - رحمه الله -، متوفى ٥٣٢٢هـ، دار الكتب.

﴿ كنز العمال / علامه علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي - رحمه الله -،

متوفى ٥٩٧٥هـ، مكتبة التراث الإسلامي، حلب.

﴿ الكوكب الدرّي / رشيد أحمد گنگوهي - رحمه الله -، متوفى ١٣٢٣هـ، إدارة القرآن

کراچی.

﴿ الكامل في التاريخ / علامه أبو الحسن عز الدين على بن محمد ابن الأثير الجزري،

المتوفى ٥٦٣٠هـ، دار الكتاب العربي بيروت.

﴿ الكامل في ضعفاء الرجال / أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني رحمه الله،

المتوفى ٥٣٦٥هـ، دار الفكر بيروت.

﴿ كفايت المفتي / حضرت مولانا مفتي كفايت الله صاحب، دار الاشاعت،

کراچی.

﴿ القول البديع / في الصلاة على خير الأنام / علامه ابن قيم، دار الكتب العلمية

بيروت.

﴿ لامع الدراري / رشيد أحمد گنگوهي - رحمه الله -، متوفى ١٣٢٣هـ، مكتبة إمداديه

مكة المكرمة.

﴿ لسان العرب / أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي

المصري - رحمه الله -، متوفى ٧١١هـ، نشر ادب الجوزة، قم، ايران

﴿ المؤطا / مالك بن أنس - رحمه الله -، متوفى ١٧٩هـ، دار إحياء التراث العربي

بيروت.

﴿ المؤطا / إمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، المتوفى ١٨٣هـ، نور محمد

أصح المطابع، آرام باغ کراچی.

- ﴿ المتواري على تراجم أبواب البخاري / ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف، باين المنير الإسكندراني - رحمه الله -، متوفى ٦٨٣هـ: مظهري كتب خانه كراچی.
- ﴿ مجمع بحار الأنوار / علامه محمد طاهر بطني - رحمه الله -، متوفى ٩٨٢هـ، دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد.
- ﴿ مجمع الزوائد / نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - رحمه الله -، متوفى ٨٠٧هـ، دار الفكر.
- ﴿ المجموع شرح المهدب / محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، متوفى ٦٧٦هـ، شركة من علماء الأزهر / دار الفكر بيروت.
- ﴿ مجموعة الفتاوى / أبو الحسنات عبد الحي الكهنوي، متوفى ١٣٠٤هـ، ايچ ايم سعيد كراچی.
- ﴿ المعرفة والريخ / الشيخ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، المتوفى ٢٧٧هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ﴿ المحلى / أبو محمد علي أحمد بن سعيد بن حزم، متوفى ٤٥٦هـ، المكتب التجاري بيروت / دار الكتب العلمية بيروت.
- ﴿ مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر بن عبد التادر الرازي، متوفى ٦٦٦هـ، دار المعارف
- ﴿ مختصر القدوري / أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي رحمه الله، المتوفى ٤٢٨هـ، ايچ ايم سعيد كراچی.
- ﴿ المدونة الكبرى / مالك بن أنس، متوفى ١٧٩هـ، دار صادر، بيروت / مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة الرياض.
- ﴿ مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح / نور الدين علي بن سلطان القاري، متوفى

۱۴۰۱ھ، إمدادیه ملتان / مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ.

﴿ المستدرک علی الصحیحین / أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري،

متوفى ۴۰۵ھ، دارالفکر.

﴿ مسند أحمد / أحمد بن حنبل، متوفى ۲۴۱ھ، المکتب الإسلامي، دارصادر

بيروت.

﴿ مسند أبي داود الطيالسي / حافظ سليمان بن داود بن الجارود المعروف بأبي داود

الطيالسي رحمه الله، المتوفى ۲۰۴ھ، دارالمعرفة بيروت.

﴿ مصباح اللغات / أبو الفضل عبدالحفيظ البلباوي، متوفى ۱۳۹۱ھ، مکتبه برهان،

دهلي.

﴿ المصنف لابن أبي شيبة / عبدالله بن محمد بن أبي شيبة المعروف بأبي بكر بن أبي

شيبه، متوفى ۲۳۵ھ، دارالكتب العلمية بيروت / دارقرطبة، بيروت.

﴿ المصنف لعبد الرزاق / عبدالرزاق بن همام صنعاني، متوفى ۲۱۱ھ، مجلس علمي

كراتشي.

﴿ مظاهر حق (جديد) / نواب محمد قطب الدين خان دهلوي، دارالاشاعت

كراچی.

﴿ معالم السنن / الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، متوفى ۳۸۸ھ، مطبعة

أنصار السنة المحمدية.

﴿ معارف القرآن / حضرت مولانا مفتي محمد شفيع صاحب رحمه الله، متوفى

۱۹۷۶ھ، ادارة المعارف كراچی.

﴿ المعجم الكبير / سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، متوفى ۳۶۰ھ، دارالفکر.

﴿ مقدمه صحيح مسلم / مولانا شبير أحمد العثماني، ادارة شركة علميه، ديوبند.

- ﴿ مقدمة كتاب الزهد لابن المبارك / مولانا حبيب الرحمن اعظمي، دارالكتب العلمية بيروت. ﴾
- ﴿ معرفة علوم الحديث / إمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيسابوري رحمه الله، المتوفى ٤٠٥هـ، دارالفكر بيروت. ﴾
- ﴿ المغني / موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة، متوفى ٦٢٠هـ، دارالفكر. ﴾
- ﴿ مكمل إكمال الإكمال / أبو عبدالله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي، متوفى ٨٩٥هـ، دارالكتب العلمية بيروت. ﴾
- ﴿ الموضوعات / للإمام أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي، المتوفى ٥٩٧هـ، قرآن محل اردو بازار كراچی. ﴾
- ﴿ ميزان الاعتدال في نقد الرجال / شمس الدين محمد أحمد بن عثمان الذهبي، متوفى ٨٤٨هـ، دارإحياء التراث العربية، مصر. ﴾
- ﴿ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم / الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، المتوفى ٦٥٦هـ، دارابن كثير، دمشق، بيروت. ﴾
- ﴿ معارف الحديث / مولانا محمد منظور نعماني، دارالاشاعت كراچی. ﴾
- ﴿ معارف مدني / مولانا عبدالشكور ترمذی، ادارة تالیفات اشرفیه لاهور. ﴾
- ﴿ مجموع فتاوى / تقي الدين أحمد بن عبدالحليم، ابن تيمية، المتوفى: ٧٢٨هـ، دارالكتب العلمية بيروت، ١٤٢٦. ﴾
- ﴿ المسامرة شرح المسامرة / محمد بن محمد، المتوفى ٩٠٥هـ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٠٢. ﴾
- ﴿ المسامرة في العقائد المنجية في الآخرة / محمد بن عبدالواحد: ابن الهمام، المتوفى



٨٦١، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٠١


﴿ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية / جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، المتوفى ٧٦٢هـ، مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ. ﴾

﴿ النهاية في غريب الحديث والأثر / مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، متوفى ٦٠١هـ، دار إحياء التراث العربي بيروت / دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ. ﴾

﴿ وفيات الأعيان / شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بابن خلكان، متوفى ٦٨١هـ، دار صادر بيروت. ﴾

﴿ الهداية / ابن القيم أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، متوفى ٥٩٣هـ، مكتبه شركت علميه ملتان / إدارة القرآن كراتشي. ﴾

﴿ هدى الساري (مقدمه فتح الباري) / ابن حجر عسقلاني، متوفى ٥٩٣هـ، دار الفكر، بيروت. ﴾



## کشف الباری

### صحیح بخاری کی اردو میں ایک عظیم الشان شرح

احقر کو بفضلہ تعالیٰ اپنے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب (أطال الله بقاءه بالعافية) سے تلمذ کا شرف پچھلے 43 سال سے حاصل ہے، ان میں سے ابتدائی تین سال تو باقاعدہ اور باضابطہ تلمذ کا موقع ملا، جس میں احقر نے درس نظامی کی متعدد اہم ترین کتابیں حضرت سے پڑھیں، جن میں ہدایہ آخرین، میبذی اور دورہ حدیث کے سال جامع ترمذی شامل ہیں، پھر اس کے بعد بھی الحمد للہ استفادہ کا سلسلہ کسی نہ کسی جہت سے قائم رہا۔ حضرت کا دلنشین انداز تدریس ہم سب ساتھیوں کے درمیان یساں طور پر مقبول اور محبوب تھا اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ مشکل سے مشکل مباحث حضرت کی سلیجی ہوئی تقریر کے ذریعے پانی ہو جاتے تھے، خاص طور سے جامع ترمذی کے درس میں یہ بات نمایاں طور پر نظر آئی کہ شروح حدیث کے وہ مباحث جو مختلف کتابوں میں غیر مرتب انداز میں پھیلے ہوئے ہوتے، وہ حضرت کے درس میں نہایت انضاط کے ساتھ اس طرح مرتب ہو جاتے کہ ان کا سمجھنا اور یاد رکھنا ہم جیسے طالب علموں کے لیے نہایت آسان ہوتا اور اس طرح حضرت نے ایک کتاب اور اس کے موضوعات ہی نہیں پڑھائے، بلکہ اس بات کی تعلیم بھی دی کہ بکھرے ہوئے مباحث کو کس طرح سمیٹا جائے اور انہیں فہم سے قریب کرنے کے لیے کیا انداز اختیار کیا جائے۔ حضرت کے اس انداز تدریس کا یہ احسان میرے علاوہ ان تمام طلبہ کے لیے ناقابل فراموش ہے جنہیں حضرت سے پڑھنے کے بعد کسی علمی خدمت کا موقع ملا۔

حضرت نے اپنے علمی مقام اور اپنے وسیع افادات کو ہمیشہ اپنی اس متواضع، سادہ اور بے تکلف زندگی کے پردے میں چھپائے رکھا جس کا مشاہدہ ہر شخص آج بھی ان سے ملاقات کر کے کر سکتا ہے۔

لیکن پچھلے دنوں حضرت کے بعض تلامذہ نے آپ کی تقریر بخاری کو ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے مرتب کر کے شائع کرنے کا ارادہ کیا اور اب بفضلہ تعالیٰ اس کی پانچ ضخیم جلدیں ”کشف الباری“ کے نام سے منظر عام پر آچکی ہیں۔

جب پہلی بار ”کشف الباری“ کا ایک نسخہ میرے سامنے آیا تو حضرت سے پڑھنے کے زمانے کی جو خوشگوار یادیں ذہن پر مرثم تھیں، انہوں نے طبعی طور پر کتاب کی طرف اشتیاق پیدا کیا۔ لیکن آج کل مجھ کا کارہ کو گونا گوں مصروفیات اور اسفار کے جس غیر متناہی سلسلے نے جکڑا ہوا ہے اس میں مجھے اپنے آپ سے یہ امید نہ تھی کہ میں ان ضخیم جلدوں سے پورا پورا

استفادہ کرسکوں گا، یوں بھی اردو زبان میں اکابر سے لے کر اصغر تک بہت سے حضرات اساتذہ کی تقاریر بخاری معروف و متداول ہیں اور ان سب کو بیک وقت مطالعے میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔

لیکن جب میں نے ”کشف الباری“ کی پہلی جلد سرسری مطالعے کی نیت سے اٹھائی تو اس نے مجھے خود مستقل طور پر اپنا قاری بنالیا۔ اپنے درس بخاری کے دوران جب میں ”فتح الباری، عمدۃ القاری، شرح ابن بطلال، فیض الباری، لامع الدراری اور فضل الباری کا مطالعہ کرنے کے بعد ”کشف الباری“ کا مطالعہ کرتا تو ظاہر ہوتا کہ اس کتاب میں مذکورہ تمام کتابوں کے اہم مباحث و نشین تفہیم کے ساتھ اس طرح یک جا ہو گئے ہیں جیسے ان کتابوں کا لب لباب اس میں سمٹ آیا ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل اور مباحث اس پر مستزاد ہیں۔ اس طرح مجھے بفضلہ تعالیٰ ”کشف الباری“ کی ابتدائی دو جلدوں کا تقریباً بالاستیعاب مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوا اور کتاب المغازی والی جلد کے بیشتر حصے سے استفادہ نصیب ہوا اور اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس وقت صحیح بخاری کی جتنی تقاریر اردو میں دستیاب ہیں ان میں یہ تقریر اپنی نافعیت اور جامعیت کے لحاظ سے سب پر فائق ہے۔ اور یہ صرف طلبہ ہی کے لیے نہیں، بلکہ صحیح بخاری کے اساتذہ کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ مباحث کے انتخاب، تطویل اور اختصار میں ہر پڑھانے والے کا مذاق جدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں صحیح بخاری کے طالب علم اور استاذ کے لیے تقریباً تمام ضروری مسائل کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ پہلی دو جلدیں تقریباً 14 سو صفحات پر مشتمل ہیں۔ اور ان میں صرف کتاب الایمان مکمل ہوئی ہے۔ جب کہ شروع میں علم حدیث اور صحیح بخاری کے بارے میں نہایت مفید مقدمہ بھی شامل ہے دوسری دو جلدیں کتاب المغازی اور کتاب التفسیر پر مشتمل ہیں۔ اور ان کی ضخامت بھی قریب قریب اتنی ہی ہے۔

اس تقریر کی ترتیب اور تدوین میں مولانا نور البشر اور مولانا ابن الحسن عباسی صاحبان (فاضلین دارالعلوم کراچی) نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں، وفقہما اللہ تعالیٰ لامثال أمثالہ، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائیں اور تقریر کے باقی ماندہ حصے بھی اسی معیار کے ساتھ مرتب ہو کر شائع ہوں۔ انشاء اللہ یہ کتاب اپنی تکمیل کے بعد اردو میں صحیح بخاری کی جامع ترین شرح ثابت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ حضرت صاحب تقریر کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تادیر بعافیت تامہ قائم رکھیں، ہمیں اور پوری امت کو ان کے فیوض سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔

احقر اس لائق نہیں تھا کہ حضرت والا کی تقریر کے بارے میں کچھ لکھتا، لیکن تعمیل حکم میں یہ چند بے ربط اور بے ساختہ تاثرات

قلمبند ہو گئے۔ حضرت صاحب تقریر اور اس عظیم الشان کتاب کا مرتبہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔